

الأصلية  
في  
مميز الصحابة  
أردو

تأليف: علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی جلالہ علیہ  
مترجم: مولانا محمد عامر شہزاد علوی

مکتبہ رحمانیہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## معزز قارئین توجہ فرمائیں!

کتاب وسنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب .....

← عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

← مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد آپ لوڈ (Upload)

کی جاتی ہیں۔

← دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹرانک ذرائع سے محض مندرجات نشر و اشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

### ☆ تنبیہ ☆

← کسی بھی کتاب کو تجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔

← ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اخلاقی، قانونی و شرعی جرم ہے۔


﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں﴾

← نشر و اشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

[kitabosunnat@gmail.com](mailto:kitabosunnat@gmail.com)

[www.KitaboSunnat.com](http://www.KitaboSunnat.com)











الْأَصْلَابُ

فِي  
الْفَرَاقِ وَالْمَجْعَةِ  
وَالْمَوَاقِفِ

مَتَبَيَّنَاتُ الصَّحَابِ  
(أُرُو)

(صحابہ کرامؓ کی زندگی کا انسائیکلو پیڈیا)



www.KitaboSunnat.com

# الاصحاب فی متین الصحابہ (اردو)

(صحابہ کرام علیہم السلام کا انسائیکلو پیڈیا)

جلد ۱

مترجم

مولانا محمد عامر شہزاد علوی

تالیف

حافظ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ

مکتبہ احسان

اقراسنٹر عرفی سٹریٹ، اردو بازار لاہور







# مکتبہ رحمانیہ

اقرا سنٹر عرفی سٹریٹ، آڈو بازار لاہور

جملہ حقوق ملکیت بحق ناشر محفوظ ہیں

الْاِصْلَاحُ فِي قِيَمَاتِ الصَّالِحِينَ (جلد ۱)

حافظ علامہ ابن حجر عسقلانی راضیہ

مولانا محمد عامر شہزاد علوی

مکتبہ رحمانیہ

اقرا سنٹر عرفی سٹریٹ، آڈو بازار لاہور

نصر جاوید پرنٹرز

نام کتاب

تالیف

مسترجم

ناشر

مطبع

## ضروری وضاحت

ایک مسلمان جان بوجھ کر قرآن مجید، احادیث رسول ﷺ اور دیگر دینی کتابوں میں غلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا بھول کر ہونے والی غلطیوں کی تصحیح و اصلاح کے لیے بھی ہمارے ادارہ میں مستقل شعبہ قائم ہے اور کسی بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تصحیح پر سب سے زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم چونکہ یہ سب کام انسانوں کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لیے پھر بھی غلطی کے رہ جانے کا امکان ہے۔ لہذا قارئین کرام سے گزارش ہے کہ اگر ایسی کوئی غلطی نظر آئے تو ادارہ کو مطلع فرمادیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح ہو سکے۔ نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون صدقہ جاریہ ہوگا۔ (ادارہ)



## نہایت شریف

### حرف الف

- ۱۰۶۶۰ ..... أثيلة بنت راشد الهذليہ  
 ۱۰۶۶۱ ..... أثيلة الخزاعية  
 ۱۰۶۶۲ ..... أثيمة المخزومية  
 ۱۰۶۶۳ ..... إرام بنت الجُموح الأنصارية  
 ۱۰۶۶۴ ..... إدام بنت قُرط  
 ۱۰۶۶۵ ..... أُرده بنت الحارث  
 ۱۰۶۶۶ ..... أرنب بنت عفيف  
 ۱۰۶۶۷ ..... أرنب المدنية المغنية  
 ۱۰۶۶۸ ..... أروى بنت أنيس  
 ۱۰۶۶۹ ..... أروى بنت الحارث  
 ۱۰۶۷۰ ..... أروى بنت ربيعة  
 ۱۰۶۷۱ ..... أروى بنت أبي العاص  
 ۱۰۶۷۲ ..... أروى بنت عبدالمطلب  
 ۱۰۶۷۳ ..... أروى بنت عُميس  
 ۱۰۶۷۴ ..... أروى بنت كَرِيز  
 ۱۰۶۷۵ ..... أروى بنت المقوم  
 ۱۰۶۷۶ ..... أُرده بنت الحارث  
 ۱۰۶۷۷ ..... إزْمه  
 ۱۰۶۷۸ ..... أسماء بنت أنس  
 ۱۰۶۷۹ ..... أسماء بنت أبي بكر الصديق  
 ۱۰۶۸۰ ..... أسماء بنت الحارث  
 ۱۰۶۸۱ ..... أسماء بنت سعيد  
 ۱۰۶۸۲ ..... أسماء بنت سلامه

- القسم الاول از حرف الف ..... ۳۹  
 ۱۰۶۵۰ ..... آسية بنت الحارث السعديہ  
 ۱۰۶۵۱ ..... آسية بنت الفَرَج الجرهمية  
 ۱۰۶۵۲ ..... آمنه بنت الأرقم  
 ۱۰۶۵۳ ..... آمنه بنت حرملة  
 ۱۰۶۵۴ ..... آمنه بنت أبي الحکم  
 ۱۰۶۵۵ ..... آمنه بنت خَلَف الأسلمية  
 ۱۰۶۵۶ ..... آمنه بنت أبي الفيار  
 ۱۰۶۵۷ ..... آمنه بنت قيس  
 ۱۰۶۵۸ ..... آمنه بنت سعد  
 ۱۰۶۵۹ ..... آمنه بنت أبي سفيان  
 ۱۰۶۶۰ ..... آمنه بنت أبي الصلت الغفارية  
 ۱۰۶۶۱ ..... آمنه بنت عَفَّان  
 ۱۰۶۶۲ ..... آمنه بنت عمرو  
 ۱۰۶۶۳ ..... آمنه بنت غفار  
 ۱۰۶۶۴ ..... آمنه بنت قُرط  
 ۱۰۶۶۵ ..... آمنه بنت محصن  
 ۱۰۶۶۶ ..... آمنه بنت نعيم النعام  
 ۱۰۶۶۷ ..... آمنه أوعاتكه  
 ۱۰۶۶۸ ..... أبرهه الحبشيه  
 ۱۰۶۶۹ ..... أثيلة بنت الحارث

- ۱۰۸۲۰ ..... امامہ بنت عبدالمطلب ..... ۶۲
- ۱۰۸۲۱ ..... امامہ بنت عثمان ..... ۶۳
- ۱۰۸۲۲ ..... امامہ بنت عصام ..... //
- ۱۰۸۲۳ ..... امامہ بنت قرط ..... //
- ۱۰۸۲۴ ..... امامہ بنت قریبہ ..... //
- ۱۰۸۲۵ ..... امامہ بنت محرث ..... //
- ۱۰۸۲۶ ..... امامہ المریدیہ ..... //
- ۱۰۸۲۷ ..... امامہ غیر منسوبہ ..... ۶۴
- ۱۰۸۲۸ ..... امامہ ..... //
- ۱۰۸۲۹ ..... امة الله بنت عبدشمس ..... //
- ۱۰۸۳۰ ..... امة بنت ابی الحکم ..... //
- ۱۰۸۳۱ ..... امة بنت خالد ..... //
- ۱۰۸۳۲ ..... امة بنت خلیلہ ..... ۶۵
- ۱۰۸۳۳ ..... امة بنت سعید ..... //
- ۱۰۸۳۴ ..... امة بنت ابی الصلت ..... //
- ۱۰۸۳۵ ..... امة بنت نعیم النحام ..... //
- ۱۰۸۳۶ ..... امة الفارسیة ..... //
- ۱۰۸۳۷ ..... امیمہ بنت بجار ..... //
- ۱۰۸۳۸ ..... امیمہ بنت بشر ..... ۶۶
- ۱۰۸۳۹ ..... امیمہ بنت بشیر ..... //
- ۱۰۸۴۰ ..... امیمہ بنت الحارث ..... //
- ۱۰۸۴۱ ..... امیمہ بنت أبی حشمہ ..... //
- ۱۰۸۴۲ ..... امیمہ بنت خلف ..... ۶۷
- ۱۰۸۴۳ ..... امیمہ بنت الخطاب ..... //
- ۱۰۸۴۴ ..... امیمہ بنت أبی الخیار ..... //
- ۱۰۸۴۵ ..... امیمہ بنت ربیعہ ..... //
- ۱۰۸۴۶ ..... امیمہ بنت رقیقہ ..... //

- ۱۰۶۹۲ ..... أسماء بنت سُمی ..... //
- ۱۰۶۹۳ ..... أسماء بنت شَکَل ..... ۴۹
- ۱۰۶۹۴ ..... أسماء بنت عبد الله بن عثمان ..... //
- ۱۰۶۹۵ ..... أسماء بنت عبد الله بن مسافع ..... ۵۱
- ۱۰۶۹۶ ..... أسماء بنت عدی ..... //
- ۱۰۶۹۷ ..... أسماء بنت عمرو بن عدی ..... //
- ۱۰۶۹۸ ..... أسماء بنت عمرو بن مخربہ ..... //
- ۱۰۸۰ ..... أسماء بنت عمیس ..... //
- ۱۰۸۰ ..... أسماء بنت قرط ..... ۵۲
- ۱۰۸۰ ..... أسماء بنت کعب ..... ۵۳
- ۱۰۸۰ ..... أسماء بنت مُحَرِّز ..... //
- ۱۰۸۰ ..... أسماء بنت مخربہ ..... //
- ۱۰۸۰ ..... أسماء بنت مرثد ..... ۵۴
- ۱۰۸۰ ..... أسماء بنت النعمان ..... ۵۵
- ۱۰۸۰ ..... أسماء بنت یزید ..... ۵۸
- ۱۰۸۰ ..... أسماء انصاریہ ..... //
- ۱۰۸۰ ..... اسیرة ..... //
- ۱۰۸۱ ..... اسیرہ بنت عمرو الجمعیہ ..... ۵۹
- ۱۰۸۱ ..... امامہ بنت بشر ..... //
- ۱۰۸۱ ..... امامہ بنت حارث ..... //
- ۱۰۸۱ ..... امامہ بنت حمزہ ..... //
- ۱۰۸۱ ..... امامہ بنت خدیج الانصاری ..... ۶۰
- ۱۰۸۱ ..... امامہ بنت ربیعہ ..... //
- ۱۰۸۱ ..... امامہ بنت سفیان ..... //
- ۱۰۸۱ ..... امامہ بنت سماک ..... //
- ۱۰۸۱ ..... امامہ بنت الصامت الأنصاریہ ..... //
- ۱۰۸۱ ..... امامہ بنت أبی العاص ..... //



- ۱۰۸۴۶ امیمہ بنت رقیقہ ..... ۶۹
- ۱۰۸۴۷ امیمہ بنت سفیان ..... //
- ۱۰۸۴۸ امیمہ بنت ابی سفیان ..... //
- ۱۰۸۵۱ امیمہ بنت صبیح ..... //
- ۱۰۸۵۲ امیمہ بنت عبد اللہ ..... ۷۰
- ۱۰۸۵۳ امیمہ بنت عبد اللہ ..... //
- ۱۰۸۵۴ امیمہ بنت عبد المطلب ..... //
- ۱۰۸۵۵ امیمہ بنت عبد المطلب ..... //
- ۱۰۸۵۶ امیمہ بنت عدی ..... //
- ۱۰۸۵۷ امیمہ بنت عقبہ ..... ۷۱
- ۱۰۸۵۸ امیمہ بنت عمرو ..... //
- ۱۰۸۵۹ امیمہ بنت قیس ..... //
- ۱۰۸۶۰ امیمہ بنت قیس ..... ۷۲
- ۱۰۸۶۱ امیمہ بنت النجار الأنصاریہ ..... //
- ۱۰۸۶۲ امیمہ بنت النعمان ..... //
- ۱۰۸۶۳ امیمہ بنت النعمان ..... //
- ۱۰۸۶۴ امیمہ بنت ابی الہیثم ..... ۷۳
- ۱۰۸۶۵ امیمہ (مولاة رسول اللہ ﷺ) ..... //
- ۱۰۸۶۶ امیمہ ..... //
- ۱۰۸۶۷ امیمہ ..... //
- ۱۰۸۶۸ امیمہ ..... ۷۴
- ۱۰۸۶۹ امیمہ ..... //
- ۱۰۸۷۰ امیمہ بنت قیس الخزرجیہ ..... //
- ۱۰۸۷۱ امیمہ بنت ابو الصلت الغفاریہ ..... //
- ۱۰۸۷۲ امیمہ بنت ابی قیس الغفاریہ ..... //
- ۱۰۸۷۳ أنیسہ بنت ثعلبہ ..... ۷۵
- ۱۰۸۷۴ أنیسہ بنت ابی حارثہ ..... //

- ۱۰۸۷۵ أنیسہ بنت خُبیب ..... //
- ۱۰۸۷۶ أنیسہ بنت رافع ..... ۷۶
- ۱۰۸۷۷ أنیسہ بنت رهم ..... //
- ۱۰۸۷۸ أنیسہ بنت ساعدہ ..... //
- ۱۰۸۷۹ أنیسہ بنت ابی طلحہ ..... //
- ۱۰۸۸۰ أنیسہ بنت عبد اللہ ..... //
- ۱۰۸۸۱ أنیسہ بنت عدی الأنصاریہ ..... //
- ۱۰۸۸۲ أنیسہ بنت عدی ..... ۷۷
- ۱۰۸۸۳ أنیسہ بنت عروہ ..... //
- ۱۰۸۸۴ أنیسہ بنت عمرو بن عنمہ ..... //
- ۱۰۸۸۵ أنیسہ بنت عمرو ..... //
- ۱۰۸۸۶ أنیسہ بنت عنمہ ..... ۷۸
- ۱۰۸۸۷ أنیسہ بنت قیس الخزرجیہ ..... //
- ۱۰۸۸۸ أنیسہ بنت معاذ ..... //
- ۱۰۸۸۹ أنیسہ بنت هلال ..... //
- القسم الثاني از حرف الف ..... //
- ۱۰۸۹۰ آمنہ بنت العباس ..... //
- ۱۰۸۹۱ اسماء بنت زید ..... //
- ۱۰۸۹۲ أمة الله بنت أبی بکرہ الثقفی ..... ۷۹
- ۱۰۸۹۳ أمة الله بنت حمزہ ..... //
- القسم الثالث از حرف الف ..... //
- ۱۰۸۹۴ أمامہ بنت الأشجع العبدي ..... //
- ۱۰۸۹۵ أمامہ بنت الحطيئة الشاعر ..... //
- ۱۰۸۹۶ أنيسة النخعيہ ..... ۸۰
- القسم الرابع از حرف الف ..... //
- ۱۰۸۹۷ آمنہ بنت قیس ..... //
- ۱۰۸۹۸ أسماء بنت الصلت ..... //

- ۱۰۹۲۳ بریده بنت بشر ..... //
- ۱۰۹۲۴ بریرہ ..... //
- ۸۸ ۱۰۹۲۵ بریرہ ..... //
- ۱۰۹۲۶ بریرہ بنت ابی حارثہ ..... //
- ۱۰۹۲۷ بریرہ بنت ابی خارجہ ..... //
- ۸۹ ۱۰۹۲۸ بسرہ بنت صفوان ..... //
- ۱۰۹۲۹ بسرہ بنت غزوان ..... //
- ۱۰۹۳۰ بشرہ ..... //
- ۹۰ ۱۰۹۳۱ بشیرہ ..... //
- ۱۰۹۳۲ بشیرہ بنت ثابت ..... //
- ۱۰۹۳۳ بشیرہ بنت النعمان ..... //
- ۱۰۹۳۴ البقوم ..... //
- ۱۰۹۳۵ بقرہ ..... //
- ۹۱ ۱۰۹۳۶ بقیلہ ..... //
- ۱۰۹۳۷ بهیسہ بنت عامر ..... //
- ۱۰۹۳۸ بهیسہ الفزاریہ ..... //
- ۱۰۹۳۹ بھئے ..... //
- ۹۲ ۱۰۹۴۰ بھیه بنت عبداللہ ..... //
- ۱۰۹۴۱ البیضاء الفھریہ ..... //
- القسم الثانی از حرفِ باء ..... //
- ۱۰۹۴۲ برکۃ بنت النبی ﷺ ..... //
- القسم الثالث از حرفِ باء ..... //
- ۱۰۹۴۳ برزہ بنت رافع ..... //
- ۹۳ ۱۰۹۴۴ القسم الرابع از حرفِ باء ..... //
- ۱۰۹۴۵ بُئینہ ..... //
- ۱۰۹۴۶ بُحَیْدہ ..... //
- ۹۴ ۱۰۹۴۷ بدیلہ بنت مسلم ..... //

- ۱۰۸۹ أسماء ..... //
- ۱۰۹۰ أسماء بنت یزید الأنصاریہ ..... //
- ۸۱ ۱۰۹۰۱ امامہ بنت الحارث ..... //
- ۱۰۹۰۲ امامہ بنت ابی الحکم الغفاریہ ..... //
- ۸۲ ۱۰۹۰۳ أمیمہ بنت خلف الخزاعیہ ..... //
- ۱۰۹۰۴ أنیسہ بنت کعب ..... //

### حرف الباء

- ۸۳ قسم الاول از حرفِ باء ..... //
- ۱۰۹۰۵ بادیه بنت غیلان ..... //
- ۱۰۹۰۶ بئینہ بنت النعمان ..... //
- ۱۰۹۰۷ بحینہ ..... //
- ۸۴ ۱۰۹۰۸ برزہ بنت الحارث الھلالیہ ..... //
- ۱۰۹۰۹ برزہ بنت مسعود ..... //
- ۱۰۹۱۰ البرصاء ..... //
- ۱۰۹۱۱ البرصاء ..... //
- ۱۰۹۱۲ برکۃ ..... //
- ۱۰۹۱۳ برکۃ الحبشیہ ..... //
- ۸۵ ۱۰۹۱۴ برکۃ بنت یسار ..... //
- ۱۰۹۱۵ برۃ بن ابی تجرۃ ..... //
- ۸۶ ۱۰۹۱۶ برہ بنت الحارث الھلالیہ ..... //
- ۱۰۹۱۷ برّہ بنت الحارث المصطلقہ ..... //
- ۱۰۹۱۸ برّہ بنت سفیان السلمیہ ..... //
- ۱۰۹۱۹ برّہ بنت ابی سلمہ ..... //
- ۱۰۹۲۰ برّہ بنت عامر ..... //
- ۸۷ ۱۰۹۲۱ برّہ (بے نسبت) ..... //
- ۱۰۹۲۲ برّوَع بنت وامشق الرؤاسیہ ..... //

۱۰۹۴۶ ..... بركة بنت النبي ﷺ ..... ۹۳

## حرف التاء

القسم الأول از حرف تاء ..... ۹۵

۱۰۹۴۸ ..... تماضر بنت الأصغر ..... //

۱۰۹۴۹ ..... تماضر بنت عمرو ..... ۹۶

۱۰۹۵۰ ..... تماضر العبّاديه الشيبه ..... //

۱۰۹۵۱ ..... تميمه بنت أبي سفيان ..... //

۱۰۹۵۲ ..... تميمه بنت وهب ..... ۹۷

۱۰۹۵۳ ..... تَهْنَاء ..... //

۱۰۹۵۴ ..... التوامه ..... //

۱۰۹۵۵ ..... تويله ..... ۹۸

## حرف الشاء

القسم الأول از حرف ثاء ..... ۹۹

۱۰۹۵۶ ..... ثبيته ..... //

۱۰۹۵۷ ..... ثبيته بنت سليط ..... //

۱۰۹۵۸ ..... ثبيته بنت النعمان ..... //

۱۰۹۵۹ ..... ثبيته بنت النعمان الأنصاريه ..... //

۱۰۹۶۰ ..... ثبيته بن يُعار ..... //

۱۰۹۶۱ ..... ثويبه ..... ۱۰۰

القسم الثاني از حرف تاء ..... ۱۰۱

۱۰۹۶۲ ..... ثبيته بنت الضحاک ..... //

## حرف جيم

القسم الأول از حرف جيم ..... ۱۰۲

۱۰۹۶۳ ..... جفّامه ..... //

۱۰۹۶۴ ..... جدامه بنت جندل ..... //

۱۰۹۶۵ ..... جدامه بنت الحارث ..... //

۱۰۹۶۶ ..... جدامه بنت وهب الأسديه ..... //

۱۰۹۶۷ ..... الجرباء بنت قيامه ..... ۱۰۳

۱۰۹۶۸ ..... جَعْدَه بنت عُبيد ..... //

۱۰۹۶۹ ..... جَعْدَه بنت عُبيد ..... //

۱۰۹۷۰ ..... جليله بنت عبد الجليل ..... ۱۰۴

۱۰۹۷۱ ..... جُمانه ..... //

۱۰۹۷۲ ..... جمرة بنت الحارث ..... //

۱۰۹۷۳ ..... جمرة بنت عبد الله ..... //

۱۰۹۷۴ ..... جمرة بنت قحافة الكنديه ..... ۱۰۵

۱۰۹۷۵ ..... جمرة بنت النعمان العدويه ..... //

۱۰۹۷۶ ..... جُمُل ..... ۱۰۶

۱۰۹۷۷ ..... جميل ..... //

۱۰۹۷۸ ..... جميله بنت أبي الخزرجيه ..... //

۱۰۹۷۹ ..... جميله بنت أوس المريه ..... ۱۰۸

۱۰۹۸۰ ..... جميله بنت ثابت بن أبي الاقلح ..... //

۱۰۹۸۱ ..... جميله بنت أبي جهل ..... ۱۰۹

۱۰۹۸۲ ..... جميله بنت زيد ..... ۱۱۰

۱۰۹۸۳ ..... جميله بنت سعد ..... //

۱۰۹۸۴ ..... جميله بنت سنان ..... //

۱۰۹۸۵ ..... جميله بنت صيفي ..... //

۱۰۹۸۶ ..... جميله بنت أبي صعصعه ..... //

۱۰۹۸۷ ..... جميله بنت عبد الله ..... ۱۱۱

۱۰۹۸۸ ..... جميله بنت عبد الله ..... ۱۱۲

۱۰۹۸۹ ..... جميله بنت عبد العزيز ..... //

۱۰۹۹۰ ..... جميله بنت عمر ..... //



- ۱۰۹۹۱ جمیلہ بنت عمرو ..... //
- ۱۰۹۹۲ جمیلہ ..... //
- ۱۰۹۹۳ جمیلہ بنت یسار ..... //
- ۱۰۹۹۴ جمیمہ ..... //
- ۱۰۹۹۵ جمیمہ بنت صفی ..... ۱۱۳
- ۱۰۹۹۶ جمیمہ ..... //
- ۱۰۹۹۷ جہدمہ ..... //
- ۱۰۹۹۸ جویریہ بنت ابی جہل ..... //
- ۱۰۹۹۹ جویریہ بنت الحارث ..... ۱۱۴
- ۱۱۰۰۰ جویریہ ..... ۱۱۵
- ۱۱۰۰۱ جویریہ بنت المجمل ..... //
- القسم الثانی از حرف جیم ..... ۱۱۶
- ۱۱۰۰۲ جمانہ بنت الحسن بن جہ ..... //
- ۱۱۰۰۳ جمیلہ بنت عمرو ..... //
- ۱۱۰۰۴ جویریہ بنت ابی سفیان ..... //
- القسم الثالث از حرف جیم ..... ۱۱۷
- ۱۱۰۰۵ جسرہ بنت دجاجہ ..... //
- ۱۱۰۰۶ جمرہ ..... //
- القسم الرابع از حرف جیم ..... //
- ۱۱۰۰۷ جاریہ بنت عمرو ..... //
- ۱۱۰۰۸ جمیلہ بنت المصفح ..... ۱۱۸
- ۱۱۰۰۹ جمیلہ بنت عبدالعزی ..... //
- ۱۱۰۱۰ جویریہ بنت الحارث ..... //
- حرف حاء بے نقط
- لقسم الاول از حرف حاء ..... ۱۲۰
- ۱۱۰۱۱ حبانہ ..... //
- ۱۱۰۱۲ حبہ ..... ۱۲۰
- ۱۱۰۱۳ حبہ ..... //
- ۱۱۰۱۴ حبہ ..... //
- ۱۱۰۱۵ حبیبہ بنت ابی امامہ ..... //
- ۱۱۰۱۶ حبیبہ بنت ابی تجرأ العبدیہ ..... ۱۲۱
- ۱۱۰۱۷ حبیبہ بنت جحش ..... //
- ۱۱۰۱۸ حبیبہ بنت ام حبیبہ ..... ۱۲۲
- ۱۱۰۱۹ حبیبہ بنت الحصین ..... //
- ۱۱۰۲۰ حبیبہ بنت خارجہ ..... //
- ۱۱۰۲۱ حبیبہ بنت زید ..... //
- ۱۱۰۲۲ حبیبہ بنت ابی سفیان ..... //
- ۱۱۰۲۳ حبیبہ بنت سهل ..... ۱۲۳
- ۱۱۰۲۴ حبیبہ بنت سهل ..... ۱۲۴
- ۱۱۰۲۵ حبیبہ بنت شریق ..... //
- ۱۱۰۲۶ حبیبہ بنت شریک ..... ۱۲۵
- ۱۱۰۲۷ حبیبہ بنت الضحاک ..... //
- ۱۱۰۲۸ حبیبہ بنت ابی عامر الراهب ..... //
- ۱۱۰۲۹ حبیبہ بنت عبداللہ ..... //
- ۱۱۰۳۰ حبیبہ بنت عمرو ..... //
- ۱۱۰۳۱ حبیبہ بنت قیس ..... ۱۲۶
- ۱۱۰۳۲ حبیبہ بنت مسعود ..... //
- ۱۱۰۳۳ حبیبہ بنت معتب ..... //
- ۱۱۰۳۴ حبیبہ بنت ملیل ..... //
- ۱۱۰۳۵ حبیبہ بنت نبیہ ..... //
- ۱۱۰۳۶ حذافہ بنت الحارث السعدیہ ..... //
- ۱۱۰۳۷ حرملہ بنت عبد ..... //
- ۱۱۰۳۸ حرملہ ..... ۱۲۷

۱۲۸ ..... الحولاء ۱۱۰۶۶

// ..... الحُوَيْصَلَة بنت قطبہ ۱۱۰۶۷

// ..... القسم الثاني از حرف حاء

// ..... القسم الثالث از حرف حاء

// ..... حية ۱۱۰۶۸

// ..... القسم الرابع از حرف حاء

// ..... حُثَيْبَة ۱۱۰۶۹

۱۳۹ ..... حليہ الأنصاريہ ۱۱۰۷۰

// ..... حمّنه بنت أبي سلمه ۱۱۰۷۱

// ..... حمّنه ۱۱۰۷۲

// ..... حواء ۱۱۰۷۳

### حرف خاء

۱۳۰ ..... القسم الأول از حرف خاء

// ..... خالدہ بن الأسود ۱۱۰۷۴

۱۴۱ ..... خالدہ بنت انس الأنصاريہ ۱۱۰۷۵

// ..... خالدہ ۱۱۰۷۶

۱۴۲ ..... خالدہ بنت عبدالعزى ۱۱۰۷۷

// ..... خالدہ بنت أبي لهب ۱۱۰۷۸

// ..... خالدہ بنت عمرو ۱۱۰۷۹

// ..... خدامہ بنت جندل ۱۱۰۸۰

// ..... خدامہ بنت وهب الاسديہ ۱۱۰۸۱

// ..... خديجہ بنت الحصين ۱۱۰۸۲

// ..... خديجہ بنت خويلد ۱۱۰۸۳

۱۴۷ ..... خديجہ بنت الزبير ۱۱۰۸۴

// ..... خديجہ بنت عبيدہ ۱۱۰۸۵

// ..... خرقاء ۱۱۰۸۶

۱۴۷ ..... حزمہ ۱۱۰۶۷

// ..... حسانہ المزنيہ ۱۱۰۶۸

// ..... حسنه ۱۱۰۶۹

۱۴۸ ..... حسّانہ ۱۱۰۷۰

// ..... حفصہ بنت حاطب ۱۱۰۷۱

// ..... حفصہ بنت عمر ۱۱۰۷۲

۱۳۰ ..... حفصہ ۱۱۰۷۳

// ..... حُكَيْمَة ۱۱۰۷۴

// ..... حلیمہ السعدية ۱۱۰۷۵

۱۴۱ ..... حلیمہ بنت عروة ۱۱۰۷۶

// ..... حمامة ۱۱۰۷۷

// ..... حمامة المغنية ۱۱۰۷۸

// ..... حمّنة بنت جحش الأسديہ ۱۱۰۷۹

۱۴۲ ..... حمّنة بنت أبي سفيان ۱۱۰۸۰

// ..... حميدة ۱۱۰۸۱

۱۴۳ ..... حُمَيْمَة ۱۱۰۸۲

// ..... حُمَيْمَة بنت الحمام ۱۱۰۸۳

// ..... حُمَيْنَة ۱۱۰۸۴

// ..... حمينة بنت عبدالعزى ۱۱۰۸۵

// ..... الخنفاء بنت ابو جهل ۱۱۰۸۶

// ..... حواء بنت رافع ۱۱۰۸۷

۱۴۴ ..... حواء بنت يزيد ۱۱۰۸۸

// ..... حواء بنت يزيد ۱۱۰۸۹

// ..... حواء ۱۱۰۹۰

۱۴۶ ..... الحولاء بنت ثُوَيْبَة ۱۱۰۹۱

۱۴۷ ..... الحولاء العطارة ۱۱۰۹۲

// ..... الحولاء أخرى ۱۱۰۹۳

- ۱۱۸۷ خرقاء ..... ۱۲۸
- ۱۱۸۸ خرقاء امرأة من الجن (ایک جنی خاتون) .... //
- ۱۱۸۹ خروثیق ..... ۱۳۹
- ۱۱۹۰ خروق ..... //
- ۱۱۹۱ خزیمہ بنت جهم ..... //
- ۱۱۹۲ حضرة ..... //
- ۱۱۹۳ خلدہ بنت حارث ..... ۱۵۰
- ۱۱۹۴ خلیدہ بنت ثابت ..... //
- ۱۱۹۵ خلیدہ بنت الحباب ..... //
- ۱۱۹۶ خلیدہ بنت قعب الضبیہ ..... //
- ۱۱۹۷ خلیسہ بنت قیس ..... //
- ۱۱۹۸ خلیسہ ..... //
- ۱۱۹۹ خلیسہ ..... ۱۵۱
- ۱۲۰۰ خنّاس ..... //
- ۱۲۰۱ خنساء بنت خذام ..... //
- ۱۲۰۲ خنساء بنت رثاب ..... ۱۵۲
- ۱۲۰۳ خنساء بنت عمرو ..... //
- ۱۲۰۴ خولہ بنت الأسود الخزاعیہ ..... ۱۵۵
- ۱۲۰۵ خولہ بنت إياس ..... //
- ۱۲۰۶ خولہ بنت ثابت ..... //
- ۱۲۰۷ خولہ بنت ثامر ..... //
- ۱۲۰۸ خولہ بنت ثعلبہ ..... ۱۵۶
- ۱۲۰۹ خولہ بنت مالک ..... //
- ۱۲۱۰ خولہ بنت حکیم ..... ۱۵۸
- ۱۲۱۱ خولہ بنت حکیم الأنصاریہ ..... ۱۵۹
- ۱۲۱۲ خولہ بنت خولی ..... //
- ۱۲۱۳ خولہ بنت دلیج ..... ۱۶۰
- ۱۱۱۳ خولہ بنت خویلد ..... //
- ۱۱۱۵ خولہ بنت الصامت ..... //
- ۱۱۱۶ خولہ بنت عاصم ..... //
- ۱۱۱۷ خولہ بنت عبد الله الأنصاریہ ..... //
- ۱۱۱۸ خولہ بنت عبید ..... //
- ۱۱۱۹ خولہ بنت عقیبہ ..... ۱۶۱
- ۱۱۲۰ خولہ بنت عمرو ..... //
- ۱۱۲۱ خولہ بنت القعقاع ..... //
- ۱۱۲۲ خولہ بنت قیس ..... //
- ۱۱۲۳ خولہ بنت قیس ..... //
- ۱۱۲۴ خولہ بنت قیس ..... ۱۶۲
- ۱۱۲۵ خولہ بنت مالک ..... //
- ۱۱۲۶ خولہ بنت المنذر ..... //
- ۱۱۲۷ خولہ بنت الہذیل ..... //
- ۱۱۲۸ خولہ بنت یسار ..... ۱۶۳
- ۱۱۲۹ خولہ بنت الیمان ..... //
- ۱۱۳۰ خولہ ..... ۱۶۴
- ۱۱۳۱ خولہ (بہ نسبت) ..... //
- ۱۱۳۲ خولہ بنت الأسود ..... //
- ۱۱۳۳ خیرہ بنت أبی أمیہ ..... ۱۶۵
- ۱۱۳۴ خیرہ بنت ابی حدر ..... //
- ۱۱۳۵ خیرہ بنت قیس الفهریہ ..... ۱۶۶
- ۱۱۳۶ خیرہ ..... //
- القسم الثاني از حرف خاء ..... //
- ۱۱۳۷ خدیجہ بنت الزبیر ..... //
- القسم الثالث از حرف خاء ..... ۱۶۷
- ۱۱۳۸ خولہ الحنفیہ ..... //



۱۱۱۳ خوله بنت الهذیل .....  
 القسم الرابع از حرف خاء .....  
 ۱۱۱۴ خوله بنت عمرو .....

حرفِ وال

۱۶۸ ..... القسم الأول از حرفِ دال  
 // ..... دُبیه ..... ۱۱۱۳۱  
 // ..... دِجاجة بنت اسماء ..... ۱۱۱۳۲  
 // ..... دُرّه بنت اُبی سفیان ..... ۱۱۱۳۳  
 // ..... دُرّه بنت اُبی سلمه ..... ۱۱۱۳۴  
 ۱۶۹ ..... دُرّه بنت اُبی لهب ..... ۱۱۱۳۵  
 ۱۷۰ ..... رعد بنت عامر ..... ۱۱۱۳۶  
 // ..... القسم الثاني از حرفِ دال  
 // ..... القسم الرابع از حرفِ دال  
 // ..... دَقْرَة ..... ۱۱۱۳۷

حرفِ ذال

القسم الأول از حرف ذال ..... ۱۷۲  
 ذرة، غير منسوبة ..... ۱۱۳۸  
 القسم الثاني از حرف ذال ..... //

حرفِ راء

القسم الأول از حرف راء ..... ۱۲۳

۱۱۳۹ رابعه بنت ثابت ..... //

۱۱۵۰ رابعه بنت حارث ..... //

۱۱۵۱ رابعه بنت حسان ..... //

۱۱۵۲ رابعه بنت سفیان ..... //

- ریحانہ بنت معدی کرب الزبیدیہ ..... ۱۱۲۰۵ //
- ریحانہ آخری ..... ۱۱۲۰۶ //
- القسم الرابع از حرفِ راء ..... ۱۹۳ //
- رمیثہ بنت حکیم ..... ۱۱۲۰۷ //

### حرفِ زاء

- القسم الاول از حرفِ زاء ..... ۱۹۳ //
- زائده ..... ۱۱۲۰۸ //
- زجاء ..... ۱۱۲۰۹ //
- زینہ ..... ۱۱۲۱۰ //
- زغیہ ..... ۱۱۲۱۱ //
- زغیہ بنت زرارہ الأنصاریہ ..... ۱۱۲۱۲ //
- زَیْبِرہ ..... ۱۱۲۱۳ //

### زینب نامی خواتین کا ذکر

- زینب بنت سید ولد آدم ..... ۱۹۶ ۱۱۲۱۴ //
- زینب بنت اصرم ..... ۱۹۷ ۱۱۲۱۵ //
- زینب بنت ابی امامہ ..... ۱۱۲۱۶ //
- زینب بنت ثابت ..... ۱۱۲۱۷ //
- زینب بنت جحش الاسدیہ ..... ۱۱۲۱۸ //
- زینب بنت جحش ..... ۲۰۰ ۱۱۲۱۹ //
- زینب بنت حارث ..... ۱۱۲۲۰ //
- زینب بنت الحارث ..... ۱۱۲۲۱ //
- زینب بنت ابی حازم ..... ۱۱۲۲۲ //
- زینب بنت الحباب ..... ۱۱۲۲۳ //
- زینب بنت حمید ..... ۲۰۱ ۱۱۲۲۴ //
- زینب بنت حنظلہ ..... ۱۱۲۲۵ //
- زینب بنت خباب ..... ۱۱۲۲۶ //

- رملہ بنت الحارث ..... ۱۱۱۸۰ //
- رملہ بنت الخطاب ..... ۱۸۳ ۱۱۱۸۱ //
- رملہ بن ابی سفیان ..... ۱۱۱۸۲ //
- رملہ بنت شبیہ ..... ۱۸۶ ۱۱۱۸۳ //
- رملہ بنت عبد اللہ ..... ۱۸۷ ۱۱۱۸۴ //
- رملہ بنت ابی عوف ..... ۱۱۱۸۵ //
- رملہ بنت الرقیعہ ..... ۱۱۱۸۶ //
- رُمیثہ ..... ۱۱۱۸۷ //
- رمیثہ الأنصاریہ ..... ۱۸۸ ۱۱۱۸۸ //
- الرُمیصاء ..... ۱۱۱۸۹ //
- الر میصاء آخری ..... ۱۱۱۹۰ //
- رمضہ ..... ۱۸۹ ۱۱۱۹۱ //
- روضہ آخری ..... ۱۱۱۹۲ //
- روضہ آخری ..... ۱۱۱۹۳ //
- ریحانہ بنت شمعون ..... ۱۹۰ ۱۱۱۹۴ //
- رَیْطہ بنت أمیہ ..... ۱۹۱ ۱۱۱۹۵ //
- رَیْطہ بنت الحارث التیمیہ ..... ۱۱۱۹۶ //
- رَیْطہ بنت حبان ..... ۱۱۱۹۷ //
- رَیْطہ بنت ابی رُھم القرشیہ التیمیہ ..... ۱۱۱۹۸ //
- رَیْطہ بنت سفیان ..... ۱۱۱۹۹ //
- رَیْطہ بنت ابی طالب ..... ۱۹۲ ۱۱۲۰۰ //
- رَیْطہ بنت عبد اللہ ..... ۱۱۲۰۱ //
- رَیْطہ بنت عبد اللہ ..... ۱۱۲۰۲ //
- رَیْطہ بنت منبہ ..... ۱۱۲۰۳ //
- القسم الثاني از حرفِ راء ..... //
- رَیْطہ بنت ابی جندب ..... ۱۱۲۰۴ //
- القسم الثالث از حرفِ راء ..... //

- ۱۱۲۵۳ زینب بنت خزیمہ ..... ۲۰۲
- ۱۱۲۵۴ زینب بنت خُناَس ..... //
- ۱۱۲۵۵ زینب بنت الحارث ..... ۲۰۳
- ۱۱۲۵۶ زینب بنت ابی رافع ..... //
- ۱۱۲۵۷ زینب بنت زید ..... //
- ۱۱۲۵۸ زینب بنت ابی سفیان ..... //
- ۱۱۲۵۹ زینب بنت ابی سلمہ ..... ۲۰۴
- ۱۱۲۶۰ زینب بنت سويد ..... ۲۰۵
- ۱۱۲۶۱ زینب بنت سهل ..... //
- ۱۱۲۶۲ زینب بنت صفی ..... //
- ۱۱۲۶۳ زینب بنت عامر ..... //
- ۱۱۲۶۴ زینب بنت عبداللہ ..... //
- ۱۱۲۶۵ زینب بنت عبداللہ ..... //
- ۱۱۲۶۶ زینب بنت عثمان ..... ۲۰۶
- ۱۱۲۶۷ زینب بنت العوام ..... //
- ۱۱۲۶۸ زینب بنت قیس ..... //
- ۱۱۲۶۹ زینب بنت قیس ..... ۲۰۷
- ۱۱۲۷۰ زینب بنت کعب ..... //
- ۱۱۲۷۱ زینب بنت کلثوم الحمیریہ ..... //
- ۱۱۲۷۲ زینب بنت مالک ..... //
- ۱۱۲۷۳ زینب بنت مصعب ..... //
- ۱۱۲۷۴ زینب بنت مظعون ..... ۲۰۸
- ۱۱۲۷۵ زینب بنت معاویہ ..... //
- ۱۱۲۷۶ زینب الأنصاریہ ..... ۲۰۹
- ۱۱۲۷۷ زینب الاسدیہ ..... //
- ۱۱۲۷۸ زینب الانصاریہ (بر نسبت) ..... //
- ۱۱۲۷۹ زینب التیمیہ ..... ۲۱۰
- ۱۱۲۸۰ زینب الطائیہ ..... //
- ۱۱۲۵۳ زینب (بر نسبت) ..... //
- ۱۱۲۵۴ القسم الثانی از حرف زاء ..... ۲۱۱
- ۱۱۲۵۵ زینب بنت الحارث ..... //
- ۱۱۲۵۶ زینب بنت ابی رافع ..... //
- ۱۱۲۵۷ زینب بنت زبیر ..... //
- ۱۱۲۵۸ زینب بنت علی بن ابی طالب ..... //
- ۱۱۲۵۹ زینب بنت عمر بن الخطاب القرشیہ ..... ۲۱۲
- ۱۱۲۶۰ القسم الثالث از حرف زاء ..... //
- ۱۱۲۶۱ زرعه بنت محرش ..... //
- ۱۱۲۶۲ زینب بنت جابر الأحمسیہ ..... //
- ۱۱۲۶۳ زینب بنت ابی حازم ..... ۲۱۵
- ۱۱۲۶۴ القسم الرابع از حرف زاء ..... //
- ۱۱۲۶۵ زینب الأحمسیہ ..... //
- ۱۱۲۶۶ زینب بنت نبیط ..... //
- حرف سین**
- ۱۱۲۶۷ القسم الاول از حرف سین ..... ۲۱۶
- ۱۱۲۶۸ سارہ ..... //
- ۱۱۲۶۹ ساریہ الجُمحیہ ..... //
- ۱۱۲۷۰ سائبہ ..... //
- ۱۱۲۷۱ سبا بنت سفیان ..... //
- ۱۱۲۷۲ سُبَیْہ بنت الحارث الأسلمیہ ..... //
- ۱۱۲۷۳ سُبَیْہ بنت حبیب الضبیحہ ..... ۲۱۷
- ۱۱۲۷۴ سُبَیْہ بنت ابی لہب ..... ۲۱۸
- ۱۱۲۷۵ سبیحہ الأسلمیہ ..... //
- ۱۱۲۷۶ سُبَیْہ القرشیہ ..... //
- ۱۱۲۷۷ سخبہ ..... ۲۱۹



- ۱۱۳۰۲ سلامہ بنت مسعود ..... //
- ۱۱۳۰۳ سلامہ بنت معقل ..... //
- ۲۲۸ ۱۱۳۰۴ سلامہ بنت وہب ..... //
- ۱۱۳۰۵ سلامہ الضبیہ ..... //
- ۱۱۳۰۶ سلمی بنت أسلم ..... //
- ۱۱۳۰۷ سلمی بنت حمزہ ..... //
- ۲۲۹ ۱۱۳۰۸ سلمی بنت حفصہ ..... //
- ۱۱۳۰۹ سلمی بنت ابی ذؤیب ..... //
- ۱۱۳۱۰ سلمی بنت ابی رُہم ..... //
- ۱۱۳۱۱ سلمی بنت زید ..... //
- ۲۳۰ ۱۱۳۱۲ سلمی بنت صخر التمیمیہ ..... //
- ۱۱۳۱۳ سلمی بنت عمرو ..... //
- ۱۱۳۱۴ سلمی بنت عُمیس الخثعمیہ ..... //
- ۲۳۱ ۱۱۳۱۵ سلمی بنت قیس ..... //
- ۱۱۳۱۶ سلمی بنت مالک ..... //
- ۱۱۳۱۷ سلمی بنت محرز ..... //
- ۲۳۲ ۱۱۳۱۸ سلمی بنت نصر المحاربیہ ..... //
- ۱۱۳۱۹ سلمی بنت یعار ..... //
- ۱۱۳۲۰ سلمی الأنصاریہ ..... //
- ۱۱۳۲۱ سلمی الأودیہ ..... //
- ۱۱۳۲۲ سلمی أم رافع ..... //
- ۲۳۳ ۱۱۳۲۳ سلمی ..... //
- ۱۱۳۲۴ سلمی ..... //
- ۱۱۳۲۵ سلمی ..... //
- ۲۳۴ ۱۱۳۲۶ سلمی ..... //
- ۱۱۳۲۷ سلمی ..... //
- ۱۱۳۲۸ سمراء بنت قیس الأنصاریہ ..... //
- ۱۱۲۶۵ سُخطی بنت أسود ..... //
- ۱۱۲۶۶ سُخطی بنت قیس ..... //
- ۱۱۲۶۷ سخیلہ ..... //
- ۱۱۲۶۸ سدرہ ..... //
- ۲۲۰ ۱۱۲۶۹ سدوس بنت بطنہ ..... //
- ۱۱۲۷۰ سدوس بنت خالد ..... //
- ۱۱۲۷۱ سدیہ الأنصاریہ ..... //
- ۲۲۱ ۱۱۲۷۲ سراً ..... //
- ۱۱۲۷۳ سعاد بنت رافع ..... //
- ۱۱۲۷۴ سعاد بنت سلمہ ..... //
- ۱۱۲۷۵ سعدی بنت أوس الخطمیہ ..... //
- ۱۱۲۷۶ سعدی بنت عمر المریہ ..... //
- ۲۲۲ ۱۱۲۷۷ سعدی بنت کرز ..... //
- ۲۲۳ ۱۱۲۷۸ سعدی ..... //
- ۲۲۴ ۱۱۲۷۹ سعیدہ بنت بشر ..... //
- ۱۱۲۸۰ سعیدہ بنت رفاعہ ..... //
- ۱۱۲۸۱ سعیدہ بنت عبد عمرو ..... //
- ۱۱۲۸۲ سعیدہ ..... //
- ۱۱۲۸۳ سَعیرہ ..... //
- ۲۲۵ ۱۱۲۸۴ سقانہ بنت حاتم الطائی ..... //
- ۲۲۶ ۱۱۲۸۵ سکینہ بنت ابی وقاص الزہری ..... //
- ۱۱۲۸۶ سکینہ ..... //
- ۱۱۲۸۷ سلاف الأنصاریہ ..... //
- ۱۱۲۸۸ سلافہ بنت البراء ..... //
- ۱۱۲۸۹ سلافہ بنت سعد الأنصاریہ ..... //
- ۲۲۷ ۱۱۳۰۰ سلامہ بنت الحرّ الفزازیہ ..... //
- ۱۱۳۰۱ سلامہ بنت سعید ..... //

- ۱۱۳۲۹ سمراء بنت نهيك ..... //
- ۱۱۳۳۰ سمیراء بنت قیس ..... //
- ۱۱۳۳۱ سمیرہ القرشیہ ..... //
- ۱۱۳۳۲ سمیکہ بنت جبار ..... ۲۳۵ //
- ۱۱۳۳۳ سمیہ بنت خُباط ..... //
- ۱۱۳۳۴ سمیہ والدہ زیاد ..... ۲۳۶ //
- ۱۱۳۳۵ سنا ..... //
- ۱۱۳۳۶ سنا بنت سفیان الکلابیہ ..... //
- ۱۱۳۳۷ سنا بنت مخنف ..... //
- ۱۱۳۳۸ سنبلہ بنت ماعز ..... ۲۳۷ //
- ۱۱۳۳۹ سندوس ..... //
- ۱۱۳۴۰ سنیة بنت حارث ..... //
- ۱۱۳۴۱ سُنینہ ..... //
- ۱۱۳۴۲ سهله بنت سعد الساعديہ ..... //
- ۱۱۳۴۳ سهله بنت سهيل ..... ۲۳۸ //
- ۱۱۳۴۴ سهله بنت عاصم ..... ۲۳۹ //
- ۱۱۳۴۵ سُهیمہ بنت أسلم ..... //
- ۱۱۳۴۶ سهیمہ بنت عمیر المزنیہ ..... //
- ۱۱۳۴۷ سهیمہ بنت عمیر الأنصاریہ ..... //
- ۱۱۳۴۸ سُهیمہ بنت مسعود ..... ۲۴۰ //
- ۱۱۳۴۹ سهیمہ ..... //
- ۱۱۳۵۰ سواده ..... //
- ۱۱۳۵۱ سواده ..... //
- ۱۱۳۵۲ سودا (بے نسبت) ..... ۲۴۱ //
- ۱۱۳۵۳ سودہ بنت حارثہ ..... //
- ۱۱۳۵۴ سودہ بنت زمعہ ..... //
- ۱۱۳۵۵ سودہ بنت أبی حبیث الجهنیہ ..... ۲۴۳ //
- ۱۱۳۵۶ سودہ القرشیہ ..... //
- ۱۱۳۵۷ سیرین ..... //
- ۱۱۳۵۸ سجاح بنت الحارث تمیمیہ ..... //
- ۱۱۳۵۹ سعدہ بنت قمامہ ..... //
- ۱۱۳۶۰ سلمیٰ بنت جابر الأحمسیہ ..... //
- ۱۱۳۶۱ سلمیٰ بنت مالک ..... / //
- ۱۱۳۶۲ سمیہ ..... //
- ۱۱۳۶۳ سلامہ بنت سعد ..... //
- ۱۱۳۶۴ سلمیٰ، غیر منسوبہ ..... //
- ۱۱۳۶۵ سودہ ..... //

### حرف شین مجمر

- ۱۱۳۶۶ القسم الاول از حرف شین ..... ۲۴۶ //
- ۱۱۳۶۷ شراف ..... //
- ۱۱۳۶۸ شرفة الدار بنت الحارث ..... //
- ۱۱۳۶۹ شُریرہ ..... //
- ۱۱۳۷۰ الشَّفاء ..... ۲۴۷ //
- ۱۱۳۷۱ الشفاء بنت عبد الله ..... //
- ۱۱۳۷۲ الشفاء بنت عوف ..... ۲۴۹ //
- ۱۱۳۷۳ الشفاء بنت عوف ..... //
- ۱۱۳۷۴ شقیقہ بنت مالک ..... //
- ۱۱۳۷۵ الشَّماء ..... ۲۵۰ //
- ۱۱۳۷۶ الشَّمس بنت أبی عامر ..... //
- ۱۱۳۷۷ الشَّمس بنت عمرو ..... //

- ۱۱۳۰۰ صَفِيَّة بنت الزبير ..... //
- ۱۱۳۰۱ صَفِيَّة بنت شيبة ..... //
- ۱۱۳۰۲ صَفِيَّة بنت عبدالمطلب ..... //
- ۲۶۱ صَفِيَّة بنت عبيدة ..... //
- ۱۱۳۰۳ صَفِيَّة بنت عبيد ..... //
- ۱۱۳۰۴ صَفِيَّة بنت عبيد ..... //
- ۱۱۳۰۵ صَفِيَّة بنت عبيد ..... //
- ۱۱۳۰۶ صَفِيَّة بنت عطية ..... //
- ۱۱۳۰۷ صَفِيَّة بنت عمر ..... //
- ۱۱۳۰۸ صَفِيَّة بنت عمرو ..... //
- ۱۱۳۰۹ صَفِيَّة بنت مَحْمِيَّة ..... //
- ۱۱۳۱۰ صَفِيَّة ..... //
- ۲۶۳ صَفِيَّة ..... //
- ۱۱۳۱۱ صَفِيَّة أُخْرَى ..... //
- ۱۱۳۱۲ صَفِيَّة ..... //
- ۱۱۳۱۳ صَفِيَّة ..... //
- ۱۱۳۱۴ الصَّامَاء بنت بُسْر المازنية ..... //
- ۲۶۳ الصَّمِيَّة ..... //
- القسم الثاني از حرفِ صاد ..... //
- ۱۱۳۱۶ صَفِيَّة بنت أَبِي عبيد الثقفي ..... //
- القسم الثالث از حرفِ صاد ..... //
- ۱۱۳۱۷ الصَّهَاء بنت ربيعة ..... //
- القسم الرابع از حرفِ صاد ..... //
- ۱۱۳۱۸ صَفِيَّة (بے نسبت) ..... //
- ۱۱۳۱۹ صَفِيَّة (بے نسبت) ..... //

### حرفِ ضاد مجمعه

- القسم الاول از حرفِ ضاد ..... //
- ۱۱۳۲۰ ضبَاعَة بنت الزبير ..... //

- ۱۱۳۴۷ الشَّمُوس بنت مالك ..... //
- ۱۱۳۴۸ الشَّمُوس بنت النعمان ..... //
- ۱۱۳۴۹ الشَّمُوس الأنصارية ..... ۲۵۱
- ۱۱۳۸۰ شَمِيلَة بنت الحارث ..... //
- ۱۱۳۸۱ الشيماء بنت الحارث ..... //
- القسم الرابع از حرفِ شين ..... ۲۵۳
- ۱۱۳۸۲ شُخْبِرَة ..... //
- ۱۱۳۸۳ الشفاء بنت عبد الرحمن الأنصارية ..... //
- ۱۱۳۸۴ شُقَيْرَة الأسدية ..... //
- ۱۱۳۸۵ شُمَيَّة ..... //
- ۱۱۳۸۶ شهيدة ..... //

### حرفِ صاد مجمعه

- القسم الاول از حرفِ صاد ..... ۲۵۴
- ۱۱۳۸۷ صَخْرَة بنت أَبِي جهل ..... ۲۵۴
- ۱۱۳۸۸ اصْعَبَة بنت جَبَل ..... //
- ۱۱۳۸۹ الصَّعْبَة بنت الحضرمي ..... //
- ۱۱۳۹۰ الصَّعْبَة بنت رافع ..... ۲۵۵
- ۱۱۳۹۱ الصَّعْبَة بنت سهل ..... //
- ۱۱۳۹۲ صَفِيَّة بنت بُجَيْر الهذلي ..... //
- ۱۱۳۹۳ صَفِيَّة بنت صَفِيح ..... //
- ۱۱۳۹۴ صَفِيَّة بنت بشامه ..... //
- ۱۱۳۹۵ صَفِيَّة بنت ثابت ..... //
- ۱۱۳۹۶ صَفِيَّة بنت الحارث ..... //
- ۲۵۶ صَفِيَّة بنت الحارث ..... //
- ۱۱۳۹۸ صَفِيَّة بنت حَيٍّ ..... //
- ۱۱۳۹۹ صَفِيَّة بنت الخطاب ..... ۲۵۹

۱۱۳۳۹ عُمیاء بنت أشرس تمیمه .....

### حرف عین

القسم الاول از حرف عین ..... ۲۷۵

۱۱۳۴۰ عاتکه بنت أبی ازیهر .....

۱۱۳۴۱ عاتکه بنت أسید .....

۱۱۳۴۲ عاتکه بنت خالد الخزاعیه .....

۱۱۳۴۳ عاتکه بنت زید .....

۱۱۳۴۴ عاتکه بنت أبوسفیان .....

۱۱۳۴۵ عاتکه بنت أبی الصلت الفقیه .....

۱۱۳۴۶ عاتکه بنت عبدالمطلب .....

۱۱۳۴۷ عاتکه بنت عوف .....

۱۱۳۴۸ عاتکه بنت نعیم الأنصاریه .....

۱۱۳۴۹ عاتکه بنت الولید .....

۱۱۳۵۰ عاصیه .....

۱۱۳۵۱ العالیه بنت ظیان .....

۱۱۳۵۲ عائشه بنت أبی بکر الصدیق .....

۱۱۳۵۳ عائشه بنت جریر .....

۱۱۳۵۴ عائشه بنت سعد .....

۱۱۳۵۵ عائشه بنت ابی سفیان .....

۱۱۳۵۶ عائشه بنت شیه .....

۱۱۳۵۷ عائشه بنت عبدالرحمن .....

۱۱۳۵۸ عائشه بنت عمیر .....

۱۱۳۵۹ عائشه بنت قدامه .....

۱۱۳۶۰ عائشه بنت معاویه .....

۱۱۳۶۱ عباده بنت أبی نائله .....

۱۱۳۶۲ عتبہ بنت زرارہ .....

۱۱۳۴۱ ضباعه بنت عامر .....

۱۱۳۴۲ ضباعه بنت عمرو .....

۱۱۳۴۳ ضبیعه بنت حدیم السهمیه .....

۱۱۳۴۴ ضمره زوج أبی قیس بن الأسلت .....

۱۱۳۴۵ الضمره بنت أبی قیس .....

القسم الرابع از حرف ضاد .....

۱۱۳۴۶ ضباعه بنت الحارث .....

۱۱۳۴۷ الضحاک بنت مسعود .....

### حرف طاء

القسم الاول از حرف طاء .....

۱۱۳۴۸ الطاهره بنت خویلد .....

۱۱۳۴۹ طُوتیه .....

۱۱۳۵۰ طُعیمه .....

۱۱۳۵۱ طکیه .....

۱۱۳۵۲ طکیه بنت النعمان .....

القسم الثاني از حرف طاء .....

القسم الثالث از حرف طاء .....

۱۱۳۵۳ طلیحه بنت عبدالله .....

۱۱۳۵۴ طُفیه .....

۱۱۳۵۵ طعیمه بنت جر .....

### حرف ظاء

القسم الاول از حرف ظاء .....

۱۱۳۶۱ ظکیه بنت البراء بن معرور .....

۱۱۳۶۲ ظیه بنت النعمان .....

۱۱۳۶۳ ظیه بنت وهب .....



- ۱۱۳۹۰ عمرة بنت حرام ..... ۲۹۲ //
- ۱۱۳۹۱ عمرة بنت حزم الأنصاريه ..... //
- ۱۱۳۹۲ عمرة بنت الربيع ..... //
- ۱۱۳۹۳ عمره بنت رُوَاحه الأنصاريه ..... //
- ۱۱۳۹۴ عمرة بنت سعد ..... ۲۹۳ //
- ۱۱۳۹۵ عمرة بنت سعد ..... //
- ۱۱۳۹۶ عمره بنت السعدى ..... //
- ۱۱۳۹۷ عمرة بنت عُويم ..... //
- ۱۱۳۹۸ عمرة بنت قيس ..... //
- ۱۱۳۹۹ عمرة بنت مرثد ..... ۲۹۴ //
- ۱۱۵۰۰ عمرة بنت مسعود ..... //
- ۱۱۵۰۱ عمرة بنت مسعود ..... //
- ۱۱۵۰۲ عمرة بنت مسعود ..... //
- ۱۱۵۰۳ عمرة بنت مسعود بن قيس ..... /
- ۱۱۵۰۴ عمرة بنت مسعود الصغرى ..... //
- ۱۱۵۰۵ عمرة بنت مسعود ..... ۲۹۵ //
- ۱۱۵۰۶ عمرة بنت مسعود ..... //
- ۱۱۵۰۷ عمره بنت مسعود ..... //
- ۱۱۵۰۸ عمره بنت معاويه الكنديه ..... //
- ۱۱۵۰۹ عمره بنت هَزَال ..... //
- ۱۱۵۱۰ عمرة بنت يزيد الكلابية ..... //
- ۱۱۵۱۱ عمرة بنت يزيد بن الجَوْن ..... ۲۹۶ //
- ۱۱۵۱۲ عمرة بنت يزيد بن السكن ..... //
- ۱۱۵۱۳ عمره بنت يسار ..... //
- ۱۱۵۱۴ عمرة بنت يُعار ..... //
- ۱۱۵۱۵ عمرة الأشهلية ..... //
- ۱۱۵۱۶ عُميره ..... ۲۹۷ //
- ۱۱۳۹۴ عجله بنت عجلان الليثيه ..... //
- ۱۱۳۹۵ العَجْمَاءُ الأنصاريه ..... //
- ۱۱۳۹۶ عديه بنت سعد ..... //
- ۱۱۳۹۷ عزه بنت الحارث الهلاليه ..... //
- ۱۱۳۹۸ عزه بنت خابل ..... //
- ۱۱۳۹۹ عزه بنت أبى سفيان ..... ۲۸۷ //
- ۱۱۳۹۹ عزه بنت أبى لهب ..... //
- ۱۱۳۹۰ عزه الأشجعيه ..... //
- ۱۱۳۹۱ عزيزه بنت أبى تجراه ..... ۲۸۸ //
- ۱۱۳۹۲ عصماء بنت الحارث الهلاليه ..... //
- ۱۱۳۹۳ عَصْمَه بنت حَبَان ..... //
- ۱۱۳۹۴ عَصِيْمَه ..... //
- ۱۱۳۹۵ عفراء بنت السكن ..... //
- ۱۱۳۹۶ عفراء بنت عبيد ..... //
- ۱۱۳۹۷ عَقْرَب بنت السكن ..... ۲۸۹ //
- ۱۱۳۹۸ عَقْرَب بنت سلامه ..... //
- ۱۱۳۹۹ عَقْرَب بنت معاذ ..... //
- ۱۱۳۸۰ عَقِيلَه بنت عَتِيك ..... //
- ۱۱۳۸۱ عَكْنَاء ..... ۲۹۰ //
- ۱۱۳۸۲ عُلَيَّه ..... //
- ۱۱۳۸۳ عماره بنت حباشه ..... ۲۹۱ //
- ۱۱۳۸۴ عماره بنت حمزه ..... //
- ۱۱۳۸۵ عماره بنت أبى أيوب ..... //
- ۱۱۳۸۶ عَمْرَه بنت البرصاء ..... //
- ۱۱۳۸۷ عُمَرَة بنت الحارث ..... //
- ۱۱۳۸۸ عَمْرَه بنت الحارث ..... //
- ۱۱۳۸۹ عَمْرَه بنت حارثه ..... //

- ۱۱۵۳۵ عُنُقُودَة ..... //
- ۱۱۵۳۶ العُوراء بنت ابی جَهْل ..... ۳۰۲ //
- ۱۱۵۳۷ عُوَیْش ..... //
- ۱۱۵۳۸ عُوَیْمَرَة بنت عُوَیْم ..... ۳۰۳ //
- ۱۱۵۳۹ عِیْسَاء بنت الحارث الانصاریة ..... //
- القسم الثاني از حرف عین ..... //
- ۱۱۵۴۰ عائشه بنت سعد ..... //
- القسم الثالث از حرف عین ..... //
- ۱۱۵۴۱ عَمْرَة بنت دُرَید ..... //
- القسم الرابع از حرف عین ..... //
- ۱۱۵۴۲ عائشه بنت عَجْرَة ..... //

### حرف غین

- القسم الأول از حرف غین ..... ۳۰۳ //
- ۱۱۵۴۳ غائِثَة ..... //
- ۱۱۵۴۴ غَزِيلَة ..... //
- ۱۱۵۴۵ غَفِيرَة ..... //
- ۱۱۵۴۶ غَفِيرَة ..... //
- ۱۱۵۴۷ غَفِيلَة ..... //
- ۱۱۵۴۸ الغَمِیْصَاء بنت مِلْحان الانصاریة ..... ۳۰۵ //
- ۱۱۵۴۹ الغَمِیْصَاء ..... //
- ۱۱۵۵۰ غَنِيَّة بنت ابی اِهاب ..... //

### حرف الفاء

- القسم الأول از حرف الفاء ..... ۳۰۶ //
- ۱۱۵۶۱ فاخته بنت الأسود ..... //
- ۱۱۵۶۲ فاخته بنت خارجة ..... //

- ۱۱۵۱۶ عَمِيرَة بنت جُبیر ..... ۲۹۷ //
- ۱۱۵۱۸ عميرة بنت الحارث ..... //
- ۱۱۵۱۹ عَمِيرَة بنت أبی الحکم ..... //
- ۱۱۵۲۰ عميره بنت خُمَاشَة ..... //
- ۱۱۵۲۱ عميره بنت أبی خَيْثَمَة ..... ۲۹۸ //
- ۱۱۵۲۲ عميره بنت الربيع ..... //
- ۱۱۵۲۳ عميرة بنت سعد ..... //
- ۱۱۵۲۵ عميره بنت السعدی ..... //
- ۱۱۵۲۶ عميرة بنت سهل ..... //
- ۱۱۵۲۷ عميرة بنت سُهَيْل ..... //
- ۱۱۵۲۸ عميرة بنت طُهَیْر ..... ۲۹۹ //
- ۱۱۵۲۹ عميرة بنت عبد سعد ..... //
- ۱۱۵۳۰ عميرة بنت عُبَید ..... //
- ۱۱۵۳۱ عميرة بنت عَقْبَة ..... //
- ۱۱۵۳۲ عميرة بنت عمير ..... //
- ۱۱۵۳۳ عميرة بنت قُرْط ..... //
- ۱۱۵۳۴ عميرة بنت قيس ..... //
- ۱۱۵۳۵ عميرة بنت قيس ..... ۳۰۰ //
- ۱۱۵۳۶ عميرة بنت كلثوم ..... //
- ۱۱۵۳۷ عميرة بنت محمد ..... //
- ۱۱۵۳۸ عميرة بنت مَرْثَد ..... //
- ۱۱۵۳۹ عميرة بنت مسعود الانصاریة ..... //
- ۱۱۵۴۰ عميرة بنت مُعَاذ الانصاریة ..... ۳۰۱ //
- ۱۱۵۴۱ عميرة بنت مُعَوِّذ ..... //
- ۱۱۵۴۲ عميرة بنت یزید ..... //
- ۱۱۵۴۳ عِنْبَة (بے نسب) ..... //
- ۱۱۵۴۴ عَنقُودَة ..... //

- ۱۱۵۹۰ فاطمة بنت شيبه ..... //
- ۳۲۱ ۱۱۵۹۱ فاطمة بنت صفوان ..... //
- ۱۱۵۹۲ فاطمة بنت الضحاک ..... //
- ۳۲۳ ۱۱۵۹۳ فاطمة بنت ابی طالب ..... //
- ۱۱۵۹۴ فاطمة بنت عامر ..... //
- ۱۱۵۹۵ فاطمة بنت عبدالله ..... //
- ۳۲۴ ۱۱۵۹۶ فاطمة بنت عتبة ..... //
- ۱۱۵۹۷ فاطمة بنت علقمه ..... //
- ۳۲۵ ۱۱۵۹۸ فاطمة بنت عمرو بن حرام ..... //
- ۱۱۵۹۹ فاطمة بنت عمرو بن حزم ..... //
- ۱۱۶۰۰ فاطمة بنت قيس بن خالد ..... //
- ۳۲۶ ۱۱۶۰۱ فاطمة بنت قيس ..... //
- ۱۱۶۰۲ فاطمة بنت المجمل ..... //
- ۱۱۶۰۳ فاطمة بنت منقذ ..... //
- ۱۱۶۰۴ فاطمة بنت الوليد ..... //
- ۱۱۶۰۵ فاطمة بنت الوليد ..... //
- ۳۲۷ ۱۱۶۰۶ فاطمة بنت الوليد ..... //
- ۱۱۶۰۷ فاطمة بنت يعار ..... //
- ۱۱۶۰۸ فاطمة بنت الیمان العسبه ..... //
- ۳۲۸ ۱۱۶۰۹ فَرَتْنَى ..... //
- ۱۱۶۱۰ الفرعة بنت مالک الخُدَریة ..... //
- ۱۱۶۱۱ فروه بنت الحارث العتواریه ..... //
- ۱۱۶۱۲ فُریعه بنت أبی امامه ..... //
- ۱۱۶۱۳ فُریعه بنت الحِباب ..... //
- ۱۱۶۱۴ فُریعه بنت خالد ..... //
- ۳۲۹ ۱۱۶۱۵ فُریعه بنت زرارہ ..... //
- ۱۱۶۱۶ فُریعه بنت عمرو ..... //
- ۱۱۵۹۳ فاختة بنت أبی رُحیحة ..... //
- ۱۱۵۹۴ فاختة بنت ابی طالب ..... //
- ۱۱۵۹۵ فاختة بنت قُرْطَة ..... //
- ۳۰۷ ۱۱۵۹۶ فاختة بنت عمرو الزهریة ..... //
- ۱۱۵۹۷ فاختة بنت غَزْوان ..... //
- ۱۱۵۹۸ فاختة بنت الولید ..... //
- ۱۱۵۹۹ فارعة بنت ابی امامة ..... //
- ۳۰۸ ۱۱۶۰۰ فارعة بنت ثابت ..... //
- ۱۱۶۰۱ فارعة بنت زُرارة ..... //
- ۳۰۹ ۱۱۶۰۲ فارعة بنت ابی سفیان ..... //
- ۱۱۶۰۳ الفارعة بنت ابی الصلت ..... //
- ۳۱۱ ۱۱۶۰۴ فارعة بنت عبدالرحمن الخَنْعَمِیة ..... //
- ۱۱۶۰۵ فارعة بنت عُتْبة ..... //
- ۱۱۶۰۶ فارعة بنت مالک ..... //
- ۱۱۶۰۷ فارعة الجنية ..... //
- ۱۱۶۰۸ فاضلة ..... //
- ۳۱۲ ۱۱۶۰۹ فاطمة الزهراء ..... //
- ۱۱۶۱۰ فاطمة بنت أسد ..... //
- ۳۱۸ ۱۱۶۱۱ فاطمة بنت ابی الاسد ..... //
- ۱۱۶۱۲ فاطمة بنت جُنید ..... //
- ۱۱۶۱۳ فاطمة بنت الحارث ..... //
- ۳۱۹ ۱۱۶۱۴ فاطمة بنت ابی حُبیش ..... //
- ۱۱۶۱۵ فاطمة بنت حمزة ..... //
- ۱۱۶۱۶ فاطمة بنت الخطاب ..... //
- ۳۲۰ ۱۱۶۱۷ فاطمة بنت سودة ..... //
- ۱۱۶۱۸ فاطمة بنت شریح الکلابیة ..... //
- ۱۱۶۱۹ فاطمة بنت شریک ..... //

- ۱۱۶۱۶ // فُرَيْعَه بنت عمرو .....  
 ۱۱۶۱۸ // فُرَيْعَه بنت قيس الأنصاريه .....  
 ۱۱۶۱۹ // فُرَيْعَه بنت مالك بن الدُخْشُم .....  
 ۱۱۶۲۰ // فُرَيْعَه بنت مالك .....  
 ۱۱۶۲۱ // فُرَيْعَه بنت مُعَوِّذ .....  
 ۱۱۶۲۲ // فُرَيْعَه بنت وَهَب الزُّهْرِيه .....  
 ۱۱۶۲۳ // فُسْحُم .....  
 ۱۱۶۲۴ // فِصَّة النوبية .....  
 ۱۱۶۲۵ // فُكَيْهَه بنت السكن الأنصاريه .....  
 ۱۱۶۲۶ // فُكَيْهَه بنت عبيد .....  
 ۱۱۶۲۷ // فُكَيْهَه بنت المطلب .....  
 ۱۱۶۲۸ // فُكَيْهَه بنت يزيد .....  
 ۱۱۶۲۹ // فُكَيْهَه بنت ينسار .....  
 القسم الثاني از حرف فاء .....  
 ۱۱۶۳۰ // فاطمه بنت الوليد .....  
 القسم الثالث از حرف فاء .....  
 القسم الرابع از حرف فاء .....  
 ۱۱۶۳۱ // قُرُوءَة ، ظُهر النبي ﷺ .....  
 ۱۱۶۳۲ // قُرَيْعَه أم إبراهيم .....  
 ۱۱۶۳۸ // قُتَيْلَه بنت النضر .....  
 ۱۱۶۳۹ // قُرْصافه بنت الحارث .....  
 ۱۱۶۴۰ // قُرَّة العين بنت عُبَادَه .....  
 ۱۱۶۴۱ // قُرَيْبَه .....  
 ۱۱۶۴۲ // قريه بنت زيد .....  
 ۱۱۶۴۳ // قريه بنت أبي سفيان .....  
 ۱۱۶۴۴ // قريه بنت أبي قُحافه .....  
 ۱۱۶۴۵ // قريه بنت الحارث العُتارِيه .....  
 ۱۱۶۴۶ // قِسْرَه بنت رُوَاس الكنديه .....  
 ۱۱۶۴۷ // القُصُوء .....  
 ۱۱۶۴۸ // قُفَيْرَه .....  
 ۱۱۶۴۹ // قِهْطَم بنت عَلَقْمَه .....  
 ۱۱۶۵۰ // قَيْلَه بنت مَخْرَمَه التميميه .....  
 ۱۱۶۵۱ // قَيْلَه الأنمارِيه .....  
 ۱۱۶۵۲ // قَيْلَه الخزاعِيه .....  
 القسم الثاني از حرف قاف .....  
 القسم الثالث از حرف قاف .....  
 ۱۱۶۵۳ // قَيْلَه بنت قيس .....  
 القسم الرابع از حرف قاف .....  
 ۱۱۶۵۴ // قريه بنت الحارث العُتارِيه .....

### حرف كاف

- القسم الاول از حرف كاف .....  
 ۱۱۶۵۵ // كبشه بنت أبي أمامه .....  
 ۱۱۶۵۶ // كبشه بنت أوس .....  
 ۱۱۶۵۷ // كبشه بنت ثابت .....  
 ۱۱۶۵۸ // كبشه بنت ثابت .....  
 القسم الاول از حرف قاف .....  
 ۱۱۶۳۳ // قَيْسَه بنت صَفِيٍّ .....  
 ۱۱۶۳۴ // قُتْلَه .....  
 ۱۱۶۳۵ // قُتَيْلَه بنت صَفِيٍّ الجهنِيه .....  
 ۱۱۶۳۶ // قُتَيْلَه بنت العِرْبَاض .....  
 ۱۱۶۳۷ // قُتَيْلَه بنت عمرو .....

11759 کبشہ بنت ثابت ..... //

۱۱۹۶۰ کبشہ بنت حاطب ..... ۳۲۵

۱۱۶۹) کبشہ بنت رافع ..... //

11992 كېشہ بنت عمرو ..... //

11443 كېشہ بنت الفاكہ ..... //

۱۱۶۶۴ کبشه بنت فروه ..... ۳۴۶

کبشہ بنت کعب ..... //

حرف لام

کبشہ بنت معدیکرب ..... //

کبشه بنت معن ..... //

۱۱۶۶۰ کبشه بنت واقده ..... ۳۴۷

گَیْرہ ..... // ۱۱۶۶۱

11762 كُبَيْشَة بِنْتُ مَالِك ..... //

کبشه بنت معن ..... ۳۳۸

کثیرہ ۱۱۶۴ //

11765 كحيله //

11629 كم به بنت أبر حَذَرْدُ الأسلمه .....

11944 کیمہ بنت کلثوم الحمیرہ //

4-35 1186A

11749

333 1145

“.....”

١١٠

.....

.....

..... كود ام ساره

11 ..... کُویسه ۱۱۶۸۵



۱۱۶۳۱ لیلی بنت حکیم ..... //

## حرف میم

القسم الاول از حرف میم ..... ۳۶۴

۱۱۶۳۲ الماردة ..... //

۱۱۶۳۳ ماریة القبطیة ..... //

۱۱۶۳۴ ماریة ..... ۳۶۵

۱۱۶۳۵ ماریة ..... //

۱۱۶۳۶ ماریہ ..... ۳۶۶

۱۱۶۳۷ مُحِبَّة بنت الربیع ..... ۳۶۷

۱۱۶۳۸ مُحِبَّة ..... //

۱۱۶۳۹ مُحِیَّة بنت خالد ..... ۳۶۸

۱۱۶۴۰ مُحِیَّة بنت أبی نائلہ ..... //

۱۱۶۴۱ مُرَضِیہ ..... //

۱۱۶۴۲ مریم بنت یاس الأنصاریہ ..... ۳۶۹

۱۱۶۴۳ مَرِیم بنت أبی سفیان الأنصاریہ ..... //

۱۱۶۴۴ مریم بنت عثمان الأنصاریہ ..... //

۱۱۶۴۵ مریم المغالیہ ..... //

۱۱۶۴۶ مسره ..... ۳۷۰

۱۱۶۴۷ مُسَكَّة ..... //

۱۱۶۴۸ مُطِیعہ بنت النعمان ..... //

۱۱۶۴۹ مُعَاذہ بنت عبد اللہ ..... //

۱۱۶۵۰ مُعَاذہ ..... //

۱۱۶۵۱ مُعَاذہ ..... //

۱۱۶۵۲ مُعَاذہ ..... //

۱۱۶۵۳ مُعَاذہ الغفاریہ ..... ۳۷۲

۱۱۶۵۴ مُلِیکہ بنت أبی امیہ ..... //

۱۱۶۰۶ لیلی بنت رافع ..... ۳۵۷

۱۱۶۰۸ لیلی بنت ربیع ..... //

۱۱۶۰۹ لیلی بنت رثاب ..... //

۱۱۶۱۰ لیلی بنت أبی سفیان ..... //

۱۱۶۱۱ لیلی بنت سماک ..... ۳۵۸

۱۱۶۱۲ لیلی بنت سماک ..... //

۱۱۶۱۳ لیلی بنت طباعة ..... //

۱۱۶۱۴ لیلی بنت عباده الأنصاریہ ..... //

۱۱۶۱۵ لیلی بنت عبد اللہ العدویہ ..... //

۱۱۶۱۶ لیلی بنت عطارد ..... //

۱۱۶۱۷ لیلی بنت قانف الثقفیہ ..... //

۱۱۶۱۸ لیلی بنت النَّضْر العدویہ ..... ۳۵۹

۱۱۶۱۹ لیلی بنت نھیک ..... //

۱۱۶۲۰ لیلی بنت یسار ..... //

۱۱۶۲۱ لیلی السدوسیہ ..... //

۱۱۶۲۲ لیلی بنت یعار ..... //

۱۱۶۲۳ لیلی الغفاریہ ..... //

۱۱۶۲۴ لیلی ..... ۳۶۰

۱۱۶۲۵ لیلی ..... ۳۶۱

۱۱۶۲۶ لیلی ..... //

۱۱۶۲۷ لینه ..... //

۱۱۶۲۸ لینه ..... //

القسم الثاني از حرف لام ..... //

القسم الثالث از حرف لام ..... ۳۶۲

۱۱۶۲۹ لیلی بنت الجودی ..... //

۱۱۶۳۰ لیلی بنت حابس التمیمیہ ..... ۳۶۳

القسم الرابع از حرف لام ..... //

- ۱۱۶۸۲ // میمونہ بنت گرّدم الفقیہ  
 ۳۸۳ القسم الثاني از حرف ميم  
 ۱۱۶۸۳ // میمونہ بنت الوليد  
 ۱۱۶۸۴ // مريم بنت ایاس  
 القسم الثالث از حرف ميم  
 ۱۱۶۸۵ // مرجانہ  
 ۱۱۶۸۶ // ملیکہ بنت خارجہ  
 ۳۸۴ // ملیکہ  
 ۱۱۶۸۸ // مہد بنت حُمران  
 ۱۱۶۸۹ // مّیہ بنت مُحرز  
 ۳۸۵ القسم الرابع از حرف ميم  
 ۱۱۶۹۰ // مزیدہ العصریہ  
 ۱۱۶۹۱ // میمونہ بنت سعد

## حرف نون

- القسم الاول از حرف نون  
 ۳۸۶ // نائلہ بنت الربیع  
 ۱۱۶۹۲ // نائلہ بنت سعد  
 ۱۱۶۹۳ // نائلہ بنت سلامہ  
 ۱۱۶۹۴ // نائلہ بنت عبید  
 ۱۱۶۹۵ // نَبْعَةُ الحِشْبِيَّةِ  
 ۳۸۷ // نُبَيْتہ  
 ۱۱۶۹۶ // نُتَيْلہ  
 ۳۸۸ // نُدْبہ  
 ۱۱۶۹۹ // نُسِيہ بنت ثابت  
 ۱۱۸۰۰ // نُسِيہ  
 ۱۱۸۰۱ // نُسِيہ بنت رافع  
 ۱۱۸۰۲

- ۱۱۶۵۵ // ملیکہ بنت ثابت  
 ۱۱۶۵۶ // ملیکہ بنت خارجہ  
 ۱۱۶۵۷ // ملیکہ بنت خارجہ  
 ۱۱۶۵۸ // ملیکہ بنت داؤد  
 ۱۱۶۵۹ // ملیکہ بنت سَہل  
 ۳۸۳ // ملیکہ بنت عبد اللہ  
 ۱۱۶۶۰ // ملیکہ بنت عبد اللہ  
 ۱۱۶۶۱ // ملیکہ بنت عمرو الأنصاريہ  
 ۱۱۶۶۲ // ملیکہ بنت عمرو  
 ۱۱۶۶۳ // ملیکہ بنت عويمر الہذليہ  
 ۳۸۴ // ملیکہ بنت کعب الکنانيہ  
 ۱۱۶۶۵ // ملیکہ  
 ۱۱۶۶۶ // ملیکہ الأنصاريہ  
 ۱۱۶۶۷ // ملیکہ  
 ۳۸۵ // ملیکہ  
 ۱۱۶۶۸ // ملیکہ الہلالیہ  
 ۱۱۶۶۹ // مَنْدُوس بنت خلاد  
 ۱۱۶۷۰ // مَنْدُوس بنت عبادہ  
 ۱۱۶۷۱ // مَنْدُوس بنت عمرو  
 ۱۱۶۷۲ // مَنْدُوس بنت قطبہ  
 ۳۸۶ // مَوْہبہ  
 ۱۱۶۷۳ // میمونہ بنت الحارث  
 ۱۱۶۷۴ // میمونہ بنت سعد  
 ۳۸۷ // میمونہ (خادم النبي ﷺ)  
 ۳۸۱ // میمونہ (غير منسوبہ)  
 ۱۱۶۷۸ // میمونہ بنت صَیْح  
 ۱۱۶۷۹ // میمونہ بنت عبد اللہ  
 ۳۸۲ // میمونہ بنت أبي عسيب

- ۱۱۸۴۲ نسیمہ ..... //
- ۱۱۸۴۳ نسیمہ بنت ابی طلحہ ..... //
- ۱۱۸۴۵ نسیمہ ..... ۳۸۹
- ۱۱۸۴۶ نسیمہ بنت نيار ..... ۳۹۰
- ۱۱۸۴۷ نسیمہ بنت نيار ..... //
- ۱۱۸۴۸ نُسَیْکَہ ..... //
- ۱۱۸۴۹ نعامہ ..... //
- ۱۱۸۵۰ نَعْم ..... //
- ۱۱۸۵۱ نَعْمَتی بنت جعفر بن ابی طالب ..... ۳۹۱
- ۱۱۸۵۲ نَفِیْسَہ بنت أمیہ ..... //
- ۱۱۸۵۳ نفیسہ بنت ثعلبہ ..... //
- ۱۱۸۵۴ نفیسہ بنت عمرو ..... ۳۹۲
- ۱۱۸۵۵ نفیسہ جاریہ زینب بنت جحش ..... //
- ۱۱۸۵۶ نَهْیَہ (ام ولد عمر) ..... //
- ۱۱۸۵۷ النّوَّار بنت حارث بن قیس ..... //
- ۱۱۸۵۸ النّوَّار بنت قیس بن حارث ..... //
- ۱۱۸۵۹ النّوَّار بنت قیس ..... //
- ۱۱۸۶۰ النّوَّار بنت مالک ..... //
- ۱۱۸۶۱ نوبہ خادم النبی ﷺ ..... ۳۹۳
- ۱۱۸۶۲ نُوَیْلَہ بنت أسلم ..... //
- القسم الرابع از حرف نون ..... //
- ۱۱۸۶۳ نُبِیْشَہ بنت کعب ..... //
- حرف الهاء
- القسم الاول از حرف الهاء ..... ۳۹۴
- ۱۱۸۶۴ ہالہ بنت خُوَیْلَد ..... //
- ۱۱۸۶۵ ہالہ بنت عوف الزہریہ ..... //
- ۱۱۸۶۶ ہُجَیْمَہ ..... //
- ۱۱۸۶۷ ہُرَیْرَہ بنت زَمْعَہ القرشیہ ..... //
- ۱۱۸۶۸ ہُزَیْلَہ بنت ثابت ..... ۳۹۵
- ۱۱۸۶۹ ہُزَیْلَہ بنت الحارث ..... //
- ۱۱۸۷۰ ہُزَیْلَہ بنت سعید ..... //
- ۱۱۸۷۱ ہُزَیْلَہ بنت عتبہ ..... ۳۹۶
- ۱۱۸۷۲ ہُزَیْلَہ بنت مسعود ..... //
- ۱۱۸۷۳ هُمَیْمَہ بنت خلف ..... //
- ۱۱۸۷۴ هند بنت ابی بن خلف ..... //
- ۱۱۸۷۵ هند بنت أاثانہ ..... //
- ۱۱۸۷۶ هند بنت اسد ..... ۳۹۷
- ۱۱۸۷۷ هند بنت أوس ..... //
- ۱۱۸۷۸ هند بنت أوس ..... //
- ۱۱۸۷۹ هند بنت البراء بن معرور ..... //
- ۱۱۸۸۰ هند بنت حارث ..... //
- ۱۱۸۸۱ هند بنت أبی أمیہ ..... //
- ۱۱۸۸۲ هند بنت الحصین ..... ۳۹۹
- ۱۱۸۸۳ هند بنت الحکم ..... //
- ۱۱۸۸۴ هند بنت ربیعہ ..... ۴۰۰
- ۱۱۸۸۵ هند بنت زیاد ..... //
- ۱۱۸۸۶ هند بنت أبی سفیان ..... //
- ۱۱۸۸۷ هند بن أبی سفیان ..... //
- ۱۱۸۸۸ هند بنت سِمْاک ..... //
- ۱۱۸۸۹ هند بنت سهل الجہنیہ ..... ۴۰۱
- ۱۱۸۹۰ هند بنت سهل ..... //
- ۱۱۸۹۱ هند بنت أبی طالب ..... //
- ۱۱۸۹۲ هند بنت عتبہ ..... //

۱۱۸۵۳ هند بنت عقیق ..... ۴۰۲

۱۱۸۵۴ هند بنت عقبه ..... ۴۰۳

١١٨٥٥ هند بنت عمرو بن الجموح ..... //

11856 هند بنت عمرو ..... //

۱۱۸۵۶) هند بنت محمود ..... //

۱۱۸۵۹ هند پست منہ ..... ۴۲

ہند بنت ھبیرہ ..... // ۱۱۸۶۱

ہند بنت یزید ..... //

١١٨٦٥ هند الحُصْنِيَّة ..... ٢٠٥

القسم الثاني از حرف الهاء..... //

11868 هند بنت زیاد ..... //

11869 هند الخولانيه //

القسم الرابع از حرف الهاء..... //

11842 هند بنت حارث ..... //

## حرف واو

11843. وَدَّة بنت عقیه ..... //

11868 یسیرہ ..... //

[illegible]

## حرف الف

11881 أم أزهر العائشيه ..... //

١١٨٨٢ ..... ام الأسود ..... ٢١٠

١١٨٨٥ أم إياس بنت ثابت ..... ٢١١

11886 أم أنس بنت البراء ..... //

١١٨٨٩ ام انس بن عمرو ..... ٢١٢

11891 أم أوس البهزيه ..... //

١١٨٩٢ أم إياس بنت أنس ..... ٣١٣

- ۱۱۹۱۶ // ام ثابت بنت سهل بن عتيك .....  
 ۱۱۹۱۷ // ام ثابت بنت قيس ..... ۳۲۲  
 ۱۱۹۱۸ // ام ثابت بنت مسعود .....  
 ۱۱۹۱۹ // ام ثعبه بنت ثابت .....  
 ۱۱۹۲۰ // ام ثعلبه بنت زيد .....

### حرف جيم

- ۱۱۹۲۱ // ام جعدہ ..... ۳۲۳  
 ۱۱۹۲۲ // ام الجلاس التميمية .....  
 ۱۱۹۲۳ // ام الخلدنج .....  
 ۱۱۹۲۴ // ام جميل بنت اوس المرثيه .....  
 ۱۱۹۲۵ // ام جميل بنت الجلاس .....  
 ۱۱۹۲۶ // ام جميل بنت الحباب .....  
 ۱۱۹۲۷ // ام جميل بنت ابي اخزم ..... ۳۲۴  
 ۱۱۹۲۸ // ام جميل بنت الخطاب القرشيہ .....  
 ۱۱۹۲۹ // ام جميل بنت عبد الله .....  
 ۱۱۹۳۰ // ام جميل بنت قطبه .....  
 ۱۱۹۳۱ // ام جميل بنت المجمل .....  
 ۱۱۹۳۲ // ام جندب ..... ۳۲۵  
 ۱۱۹۳۳ // ام جندب الازديه .....  
 ۱۱۹۳۴ // ام جندب بنت مسعود .....  
 ۱۱۹۳۵ // ام جندره ..... ۳۲۶  
 ۱۱۹۳۶ // ام جميل اللؤسيہ .....  
 ۱۱۹۳۷ // ام جندب الازديه .....

### حرف حاء بے نقطى

- ۱۱۹۳۸ // ام الحارث بنت ثابت ..... ۳۲۷  
 ۱۱۹۳۹ // ام الحارث بن الحارث .....

- ۱۱۹۴۰ // ام اياس بنت ابي الجسر .....  
 ۱۱۹۴۱ // ام ايمن (مولاة النبي ﷺ) .....  
 ۱۱۹۴۲ // ام ايمن ..... ۳۱۶  
 ۱۱۹۴۳ // ام ايوب بنت قيس .....  
 ۱۱۹۴۴ // ام ايوب بنت قيس .....  
 ۱۱۹۴۵ // ام ايوب بنت مسعود ..... ۳۱۷  
 ۱۱۹۴۶ // ام ابان بنت جندب .....

### حرف الباء

- ۱۱۹۴۷ // ام بُجيد الأنصاريہ ..... ۳۱۸  
 ۱۱۹۴۸ // ام بُرده بنت المنذر .....  
 ۱۱۹۴۹ // ام بُرده انصاريہ المازنيه .....  
 ۱۱۹۵۰ // ام بشر .....  
 ۱۱۹۵۱ // ام بشر ..... ۳۱۹  
 ۱۱۹۵۲ // ام بشر .....  
 ۱۱۹۵۳ // ام بشر بنت البراء .....  
 ۱۱۹۵۴ // ام بلال .....  
 ۱۱۹۵۵ // ام بلال بنت هلال السلميه .....  
 ۱۱۹۵۶ // ام بيان بنت زيد ..... ۳۲۰  
 ۱۱۹۵۷ // ام التبين بنت عُيينه .....

### حرف الثاء

- ۱۱۹۵۸ // ام ثابت بنت ثابت بن سنان ..... ۳۲۱  
 ۱۱۹۵۹ // ام ثابت بنت ثعلبه .....  
 ۱۱۹۶۰ // ام ثابت بنت جبر .....  
 ۱۱۹۶۱ // ام ثابت بنت حارثہ .....  
 ۱۱۹۶۲ // ام ثابت بنت سنان .....



- ۱۱۹۳۰ ..... أم الحارث بنت الحارث ..... //
- ۱۱۹۳۱ ..... أم الحارث بنت عياش ..... //
- ۱۱۹۳۲ ..... أم الحارث بنت مالك ..... ۳۲۸
- ۱۱۹۳۳ ..... أم الحارث بنت النعمان ..... //
- ۱۱۹۳۴ ..... أم الحارث، جدة عماره ..... //
- ۱۱۹۳۵ ..... أم حارثه ..... //
- ۱۱۹۳۶ ..... أم حارثه ..... //
- ۱۱۹۳۷ ..... أم الحُباب بنت حُباب ..... //
- ۱۱۹۳۸ ..... أم حِبان ..... //
- ۱۱۹۳۹ ..... أم حبيب بنت ثمامه ..... //
- ۱۱۹۴۰ ..... أم حبيب بنت سعيد ..... ۳۲۹
- ۱۱۹۴۱ ..... أم حبيب بنت العاص ..... //
- ۱۱۹۴۲ ..... أم حبيب، أو أم حبيبه ..... //
- ۱۱۹۴۳ ..... أم حبيب بنت غانم ..... //
- ۱۱۹۴۴ ..... أم حبيب بنت العوام ..... ۳۳۰
- ۱۱۹۴۵ ..... أم حبيب بنت مُعْتَب ..... //
- ۱۱۹۴۶ ..... أم حبيب بنت نباله أسديه ..... //
- ۱۱۹۴۷ ..... أم حبيب ..... //
- ۱۱۹۴۸ ..... أم حبيه ..... //
- ۱۱۹۴۹ ..... أم حبيه بنت أبى سفيان ..... //
- ۱۱۹۵۰ ..... أم حبيه بنت نباله أسديه ..... //
- ۱۱۹۵۱ ..... أم حبيه ..... ۳۳۱
- ۱۱۹۵۲ ..... أم الحجاج ..... //
- ۱۱۹۵۳ ..... أم حرام بنت ملحان ..... //
- ۱۱۹۵۴ ..... أم حرملة بنت عبد الأسود ..... ۳۳۲
- ۱۱۹۵۵ ..... أم الحسن بنت خالد ..... //
- ۱۱۹۵۶ ..... أم الحُصَيْن الأحْمَسِيه ..... //
- ۱۱۹۵۷ ..... أم حفيظ ..... ۳۳۳
- ۱۱۹۵۸ ..... أم الحكم بنت الزبير ..... //
- ۱۱۹۵۹ ..... أم الحكم بنت أبى سفيان ..... ۳۳۴
- ۱۱۹۶۰ ..... أم الحكم بنت عبدالرحمن ..... //
- ۱۱۹۶۱ ..... أم الحكم بنت عقبه ..... //
- ۱۱۹۶۲ ..... أم الحكم الضَمِيرِيه ..... //
- ۱۱۹۶۳ ..... أم الحكم الغفاريه ..... //
- ۱۱۹۶۴ ..... أم حكيم بنت أبى أميه ..... //
- ۱۱۹۶۵ ..... أم حكيم بنت أبى جهل ..... ۳۳۵
- ۱۱۹۶۶ ..... أم حكيم بنت الحارث ..... //
- ۱۱۹۶۷ ..... أم حكيم بنت حرام ..... ۳۳۶
- ۱۱۹۶۸ ..... أم حكيم بنت الزبير ..... //
- ۱۱۹۶۹ ..... أم حكيم بنت طارق الكنانيه ..... ۳۳۷
- ۱۱۹۷۰ ..... أم حكيم بنت عبدالرحمن ..... //
- ۱۱۹۷۱ ..... أم حكيم بنت عقبه ..... //
- ۱۱۹۷۲ ..... أم حكيم بنت عقبه ..... //
- ۱۱۹۷۳ ..... أم حكيم بنت النضر ..... //
- ۱۱۹۷۴ ..... أم حكيم بنت وداع ..... //
- ۱۱۹۷۵ ..... أم حميد ..... ۳۳۸
- ۱۱۹۷۶ ..... أم حميد ..... //
- ۱۱۹۷۷ ..... أم حنظله ..... //
- ۱۱۹۷۸ ..... أم حبيب بنت العباس ..... ۳۳۹
- ۱۱۹۷۹ ..... أم حكيم بنت قارظ ..... //
- ۱۱۹۸۰ ..... أم حبيب بنت عامر ..... //
- ۱۱۹۸۱ ..... أم حرزہ ..... //
- ۱۱۹۸۲ ..... أم الحكم الضميريه ..... ۳۴۰

- ۱۲۰۱۶ ..... أم رَزَن بنت سواد  
 ۱۲۰۱۷ ..... أم رِعله  
 ۱۲۰۱۸ ..... أم رُمثه  
 ۱۲۰۱۹ ..... أم رُومان

### حرف ز

- ۱۲۰۲۰ ..... أم زینب بنت ثعلبه  
 ۱۲۰۲۱ ..... أم الزبیر  
 ۱۲۰۲۲ ..... أم زُکَر الحبشیه  
 ۱۲۰۲۳ ..... أم زُکَر  
 ۱۲۰۲۴ ..... أم زیاد الأشجعیه  
 ۱۲۰۲۵ ..... أم زید بنت حَرَام  
 ۱۲۰۲۶ ..... أم زید بنت السکن  
 ۱۲۰۲۷ ..... أم زید بنت عمرو  
 ۱۲۰۲۸ ..... أم زید بنت قیس  
 ۱۲۰۲۹ ..... أم زید (غیر منسوبه)  
 ۱۲۰۳۰ ..... أم زینب بنت نُیَیط  
 ۱۲۰۳۱ ..... أم زینب التمیمیه

### حرف سین

- ۱۲۰۳۲ ..... أم سَارَه کَنُود  
 ۱۲۰۳۳ ..... أم سالم الأشجعیه  
 ۱۲۰۳۴ ..... أم سالم  
 ۱۲۰۳۵ ..... أم السائب الأنصاریه  
 ۱۲۰۳۶ ..... أم السائب الغفاریه  
 ۱۲۰۳۷ ..... أم السائب التَّخِیهِ  
 ۱۲۰۳۸ ..... أم سِباع

### حرف خاء

- ۱۱۹۹۳ ..... أم خارجہ بنت النضر  
 ۱۱۹۹۴ ..... أم خارجہ  
 ۱۱۹۹۵ ..... أم خالد بنت الأسود  
 ۱۱۹۹۶ ..... أم خالد بنت خالد  
 ۱۱۹۹۷ ..... أم خالد بنت خالد  
 ۱۱۹۹۸ ..... أم خالد بنت یعیش  
 ۱۱۹۹۹ ..... أم خُزیمه  
 ۱۲۰۰۰ ..... أم خَلَاد الأنصاریه  
 ۱۲۰۰۱ ..... أم خُناس  
 ۱۲۰۰۲ ..... أم الخیر بنت صخر

### حرف دال

- ۱۲۰۰۳ ..... أم الدحداح  
 ۱۲۰۰۴ ..... أم الدرداء الکبری  
 ۱۲۰۰۵ ..... أم ذر  
 ۱۲۰۰۶ ..... أم ذره  
 ۱۲۰۰۷ ..... أم رافع بنت اسلم  
 ۱۲۰۰۸ ..... أم رافع بنت عامر  
 ۱۲۰۰۹ ..... أم رافع بنت عبدالله  
 ۱۲۰۱۰ ..... أم رافع بنت عثمان الزُرْقِیهِ  
 ۱۲۰۱۱ ..... أم رافع  
 ۱۲۰۱۲ ..... أم رَبِعه  
 ۱۲۰۱۳ ..... أم الربیع بنت أسلم  
 ۱۲۰۱۴ ..... أم الربیع بنت البراء  
 ۱۲۰۱۵ ..... أم الربیع بنت عُبَید

- ۳۶۷ ..... ۱۲۰۶۷) ام سُلیم بنت عمرو ..... ۳۵۹ ..... ۱۲۰۳۹) ام سَبْرہ .....  
 // ..... ۱۲۰۶۸) ام سلیم بنت قیس ..... // ..... ۱۲۰۳۱) ام سعد بنت زید .....  
 // ..... ۱۲۰۶۹) ام سلیم بنت مِلْحَان ..... // ..... ۱۲۰۳۲) ام سعد بنت سعد .....  
 ۳۶۸ ..... ۱۲۰۷۰) ام سلیمان بنت ابی حکیم ..... ۳۶۰ ..... ۱۲۰۳۳) ام أسعد .....  
 ۳۶۹ ..... ۱۲۰۷۱) ام سَمَاک بنت ثابت ..... // ..... ۱۲۰۳۴) ام سعد بنت عقبہ .....  
 // ..... ۱۲۰۷۲) ام سَمَاک بنت سهل ..... // ..... ۱۲۰۳۵) ام سعد بنت قیس .....  
 // ..... ۱۲۰۷۳) ام سَمَاک بنت فضالہ ..... ۳۶۱ ..... ۱۲۰۳۶) ام سعد .....  
 // ..... ۱۲۰۷۴) ام سَمْرَہ ..... // ..... ۱۲۰۳۷) ام سعد بنت مسعود .....  
 // ..... ۱۲۰۷۵) ام سنان الأسلمیہ ..... // ..... ۱۲۰۳۸) ام سعد بنت ثابت .....  
 ۳۷۰ ..... ۱۲۰۷۶) ام سنان الأنصاریہ ..... // ..... ۱۲۰۳۹) ام سعید بنت ابی جہل .....  
 // ..... ۱۲۰۷۷) ام سُبُلہ الأسلمیہ ..... ۳۶۲ ..... ۱۲۰۴۰) ام سعید بنت سهل .....  
 ۳۷۱ ..... ۱۲۰۷۸) ام سهل بنت ابی حشمہ ..... // ..... ۱۲۰۴۱) ام سعید بنت صخر .....  
 // ..... ۱۲۰۷۹) ام سهل بنت رومی ..... // ..... ۱۲۰۴۲) ام سعید بنت عبد اللہ بن ابی .....  
 ۳۷۲ ..... ۱۲۰۸۰) ام سهل بنت سهل ..... // ..... ۱۲۰۴۳) ام سعید بنت مرہ .....  
 // ..... ۱۲۰۸۱) ام سهل بنت عمرو ..... // ..... ۱۲۰۴۴) ام سعید .....  
 // ..... ۱۲۰۸۲) ام سهل بنت مسعود ..... // ..... ۱۲۰۴۵) ام سفیان بنت الضحاک .....  
 // ..... ۱۲۰۸۳) ام سهل بنت نعمان أنصاریہ ..... ۳۶۳ ..... ۱۲۰۴۶) ام سفیان بنت الضحاک السلمیہ .....  
 // ..... ۱۲۰۸۴) ام سَهْلہ الأنصاریہ ..... // ..... ۱۲۰۴۷) ام سلمہ بنت ابی امیہ .....  
 // ..... ۱۲۰۸۵) ام سیف ..... ۳۶۵ ..... ۱۲۰۴۸) ام سلمہ بنت ابی حکیم .....  
 // ..... ۱۲۰۸۶) ام سلمہ بنت رافع .....  
 // ..... ۱۲۰۸۷) ام سلمہ بنت مَحْمِیَہ .....  
 ۳۶۶ ..... ۱۲۰۴۹) ام سلمہ بنت مسعود .....  
 // ..... ۱۲۰۵۰) ام سلمہ بنت یزید .....  
 // ..... ۱۲۰۵۱) ام سَلِیْط .....  
 // ..... ۱۲۰۵۲) ام سلیم بنت حکیم .....  
 // ..... ۱۲۰۵۳) ام سلیم بنت خالد .....  
 // ..... ۱۲۰۵۴) ام سلیم بنت سُحَیم الغفاریہ

## حرف شین مجمر

- ۳۷۳ ..... ۱۲۰۸۶) ام شُبَاک .....  
 // ..... ۱۲۰۸۷) ام شیبب زوجہ ضحاک .....  
 // ..... ۱۲۰۸۸) ام شَرْحِیل بنت قُروہ .....  
 // ..... ۱۲۰۸۹) ام الشَّرید .....  
 // ..... ۱۲۰۹۰) ام شریک بنت أنس .....  
 // ..... ۱۲۰۹۱) ام شریک بنت جابر الغفاریہ

- ۱۲۱۱۳ ..... أم طلیق زوجہ ابو طلیق //
- ۱۲۱۱۴ ..... أم طلق //

### حرف عین

- ۲۸۳ ..... أم عاصم السوداء ۱۲۱۱۵
- ۱۲۱۱۶ ..... أم عامر بنت سعید //
- ۱۲۱۱۷ ..... أم عامر بنت سلیم //
- ۱۲۱۱۸ ..... أم عامر بنت سُوید //
- ۱۲۱۱۹ ..... أم عامر بنت ابو قحافہ //
- ۱۲۱۲۰ ..... أم عامر بنت کعب أنصاریہ //
- ۲۸۴ ..... أم عامر بنت یزید ۱۲۱۲۱
- ۱۲۱۲۲ ..... أم عامر بنت یزید //
- ۱۲۱۲۳ ..... أم عامر اشہلیہ //
- ۲۸۵ ..... أم عامر الفہریہ ۱۲۱۲۴
- ۱۲۱۲۵ ..... أم عامر //
- ۱۲۱۲۶ ..... أم عبد اللہ بن أسلم //
- ۱۲۱۲۷ ..... أم عبد اللہ بنت أوس أنصاریہ //
- ۲۸۶ ..... أم عبد اللہ بنت أبی خیشمہ ۱۲۱۲۸
- ۱۲۱۲۹ ..... أم عبد اللہ بنت حنظلہ //
- ۱۲۱۳۰ ..... أم عبد اللہ بنت ابی دومی //
- ۱۲۱۳۱ ..... أم عبد اللہ بنت سلمہ //
- ۱۲۱۳۲ ..... أم عبد اللہ بنت سواد //
- ۱۲۱۳۳ ..... أم عبد اللہ بنت عازب أنصاریہ //
- ۱۲۱۳۴ ..... أم عبد اللہ بنت عدی //
- ۱۲۱۳۵ ..... أم عبد اللہ بنت معاذ //
- ۱۲۱۳۶ ..... أم عبد اللہ بنت ملحان //
- ۱۲۱۳۷ ..... أم عبد اللہ بنت نبیہ //

- ۲۷۴ ..... أم شریک بنت خالد ۱۲۰۹۱
- ۱۲۰۹۲ ..... أم شریک أنصاریہ //
- ۱۲۰۹۳ ..... أم شریک الدوسیہ //
- ۲۷۵ ..... أم شریک قرشیہ عامریہ ۱۲۰۹۵
- ۲۷۷ ..... أم شہاب الغنویہ ۱۲۰۹۶
- ۲۷۸ ..... أم شیبہ الأزیدیہ ۱۲۰۹۷
- ۱۲۰۹۸ ..... أم شدرة بنت صَعَصَعہ //
- ۱۲۰۹۹ ..... أم شُر حیل ۱۲۰۹۹
- ۱۲۱۰۰ ..... أم شبات ۱۲۱۰۰

### حرف صاد مہملہ

- ۲۷۹ ..... أم صبیح ۱۲۱۰۱
- ۱۲۱۰۲ ..... أم صبیہ الجہنیہ //
- ۱۲۱۰۳ ..... أم صخر بنت شریک //
- ۱۲۱۰۴ ..... أم الصہاء //
- ۱۲۱۰۵ ..... أم صہب //
- ۱۲۱۰۶ ..... أم صابر بنت نعیم //

### حرف ضاد معجمہ

- ۲۸۰ ..... أم الضحاک بنت مسعود الأنصاریہ ۱۲۱۰۷
- ۱۲۱۰۸ ..... أم ضہیرہ //

### حرف طاء

- ۲۸۱ ..... أم طارق ۱۲۱۰۹
- ۱۲۱۱۰ ..... أم طارق //
- ۱۲۱۱۱ ..... أم طالب بنت أبو طالب ۱۲۱۱۱
- ۲۸۲ ..... أم طفیل زوجہ أبی بن کعب ۱۲۱۱۲

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



## حرف کاف

- ۵۱۱ ..... ام کبشہ قضاعیہ (۱۲۲۱۱)
- // ..... ام کثیر بنت زید انصاریہ (۱۲۲۱۲)
- // ..... ام کُجَہ أنصاریہ (۱۲۲۱۳)
- ۵۱۳ ..... ام کرام سلمیہ (۱۲۲۱۴)
- // ..... ام کرز خزاعیہ (۱۲۲۱۵)
- ۵۱۴ ..... ام کعب انصاریہ (۱۲۲۱۶)
- // ..... ام کعب (۱۲۲۱۷)
- ۵۱۵ ..... ام کلثوم بنت سید البشر (۱۲۲۱۸)
- ۵۱۶ ..... ام کلثوم بنت زمعه قرشیہ (۱۲۲۱۹)
- // ..... ام کلثوم بنت ابوسلمہ (۱۲۲۲۰)
- ۵۱۷ ..... ام کلثوم بنت سہیل (۱۲۲۲۱)
- // ..... ام کلثوم بنت عتبہ (۱۲۲۲۲)
- // ..... ام کلثوم بنت عقبہ (۱۲۲۲۳)
- ۵۱۸ ..... ام کلثوم (بے نسبت) (۱۲۲۲۴)
- // ..... ام کلثوم (بے نسبت) (۱۲۲۲۵)
- // ..... ام کلثوم بنت عمرو (۱۲۲۲۶)
- // ..... ام کلثوم (بے نسبت) (۱۲۲۲۷)
- ۵۱۹ ..... ام کلثوم (بے نسبت) (۱۲۲۲۸)
- // ..... ام کلثوم بنت علی (۱۲۲۲۹)
- ۵۲۰ ..... ام کلثوم بنت عباس (۱۲۲۳۰)
- ۵۲۱ ..... ام کلثوم بنت ابوبکر صدیق تیمیمہ (۱۲۲۳۱)

## حرف لام

- ۵۲۲ ..... ام لیلیٰ بنت رواحہ انصاریہ (۱۲۲۳۲)

## حرف غین

- ۵۰۳ ..... ام غادیہ (۱۲۱۹۰)
- // ..... ام غطیف ہذلیہ (۱۲۱۹۱)
- // ..... ام غیلان دوسیہ (۱۲۱۹۲)

## حرف الفاء

- ۵۰۴ ..... ام فروہ بنت ابوقحافلہ تیمیمہ (۱۲۱۹۳)
- ۵۰۵ ..... ام فروہ انصاریہ (۱۲۱۹۴)
- // ..... ام فزار (۱۲۱۹۵)
- // ..... ام فضل (۱۲۱۹۶)
- ۵۰۶ ..... ام فضل بنت حمزہ (۱۲۱۹۷)
- // ..... ام فضل بنت عباس (۱۲۱۹۸)
- // ..... ام فروہ (۱۲۱۹۹)

## حرف الفاء

- ۵۰۸ ..... ام قاسم بنت ذی الجناحین (۱۲۲۰۰)
- // ..... ام قرہ (۱۲۲۰۱)
- ۵۰۹ ..... ام قہظم (۱۲۲۰۲)
- // ..... ام قیس بنت عبید (۱۲۲۰۳)
- // ..... ام قیس بنت قیس (۱۲۲۰۴)
- // ..... ام قیس بنت محصن (۱۲۲۰۵)
- ۵۱۰ ..... ام قیس (۱۲۲۰۶)
- // ..... ام قیس (بے نسبت) (۱۲۲۰۷)
- // ..... ام قیس ہذلیہ (۱۲۲۰۸)
- // ..... ام قرظہ (۱۲۲۰۹)
- // ..... ام قرنح (۱۲۲۱۰)

### حرف میم

- ۵۳۱ ..... ام معبد زوجہ کعب (۱۲۲۵۸)  
 // ..... ام معبد (بے نسبت) (۱۲۲۵۹)  
 // ..... ام معبد (۱۲۲۶۰)  
 // ..... ام معقل اسدیہ (۱۲۲۶۱)  
 ۵۳۲ ..... ام مغيث (۱۲۲۶۲)  
 ۵۳۳ ..... ام مغیرہ بنت نوفل (۱۲۲۶۳)  
 // ..... ام مکتوم (۱۲۲۶۴)  
 // ..... ام منذر بنت قیس (۱۲۲۶۵)  
 ۵۳۴ ..... ام منظور بنت محمد (۱۲۲۶۶)  
 // ..... ام منظور بنت محمود (۱۲۲۶۷)  
 // ..... ام منیع، شبات کی والدہ (۱۲۲۶۸)  
 // ..... ام منہال (۱۲۲۶۹)  
 // ..... ام مهاجر رومیہ (۱۲۲۷۰)  
 ۵۳۵ ..... ام موسیٰ لخمیہ (۱۲۲۷۱)  
 // ..... ام محمد بن حاطب (۱۲۲۷۲)  
 // ..... ام معبد (۱۲۲۷۳)  
 // ..... ام معتب (۱۲۲۷۴)

### حرف نون

- ۵۳۶ ..... ام نیط (۱۲۲۷۵)  
 // ..... ام نصر محاریبہ (۱۲۲۷۶)  
 ۵۳۷ ..... ام نعمان بنت رواحہ (۱۲۲۷۷)  
 // ..... ام نہشل بنت عبیدہ (۱۲۲۷۸)  
 // ..... ام نیار بنت زید (۱۲۲۷۹)

### حرف الہاء

- ۵۳۸ ..... ام ہاشم (۱۲۲۸۰)

- ۵۳۳ ..... ام مالک بنت ابی (۱۲۲۳۳)  
 // ..... ام مالک انصاریہ (۱۲۲۳۴)  
 // ..... ام مالک انصاریہ (۱۲۲۳۵)  
 ۵۳۴ ..... ام مالک البہزیہ (۱۲۲۳۶)  
 // ..... ام مالک (۱۲۲۳۷)  
 // ..... ام مبشر بنت براء (۱۲۲۳۸)  
 ۵۳۵ ..... ام مبشر انصاریہ (۱۲۲۳۹)  
 ۵۳۶ ..... ام محجن (۱۲۲۴۰)  
 // ..... ام محمد انصاریہ (۱۲۲۴۱)  
 // ..... ام محمد (۱۲۲۴۲)  
 // ..... ام محمد (۱۲۲۴۳)  
 // ..... ام مرثد اسلمیہ (۱۲۲۴۴)  
 // ..... ام مسطح قرشیہ تیمیہ (۱۲۲۴۵)  
 ۵۳۷ ..... ام مسعود انصاریہ (۱۲۲۴۶)  
 // ..... ام مسلم أشجعیہ (۱۲۲۴۷)  
 // ..... ام مسلم (۱۲۲۴۸)  
 ۵۳۸ ..... ام مسیب انصاریہ (۱۲۲۴۹)  
 // ..... ام مطاع اسلمیہ (۱۲۲۵۰)  
 // ..... ام معاذ (بے نسبت) (۱۲۲۵۱)  
 // ..... ام معاذ انصاریہ (۱۲۲۵۲)  
 // ..... ام معاذ انصاریہ (۱۲۲۵۳)  
 ۵۳۹ ..... ام معاذ بنت عبد اللہ (۱۲۲۵۴)  
 // ..... ام معبد خزاعیہ (۱۲۲۵۵)  
 ۵۳۰ ..... ام معبد بنت عبد اللہ (۱۲۲۵۶)  
 // ..... ام معبد (قرظہ کی مولاۃ ہیں) (۱۲۲۵۷)

۱۲۲۹۲ // ام وھب بنت ابو امیہ .....

### حرف یاء

۵۳۳ ..... ام یحییٰ ۱۲۲۹۳

// ..... ام یحییٰ بنت ابو اھاب ۱۲۲۹۴

// ..... ام یحییٰ بنت یعلیٰ ۱۲۲۹۵

// ..... ام یحییٰ ۱۲۲۹۶

۵۳۳ ..... ام یزید ۱۲۲۹۷

// ..... اہم یقظہ بنت علقمہ ۱۲۲۹۸

// ..... ام یوسف ۱۲۲۹۹

// ..... ام یحییٰ ۱۲۳۰۰

۱۲۲۸۱ // ام ہانی بنت ابو طالب .....

۵۳۹ ..... ام ہانی انصاریہ ۱۲۲۸۲

۵۴۰ ..... ام ابو ہریرہ ۱۲۲۸۳

// ..... ام ہشام بنت حارثہ ۱۲۲۸۵

// ..... ام ابو ہشیم بن تیہان انصاری ۱۲۲۸۶

// ..... ام ہلال بنت ہلال ۱۲۲۸۷

### حرف واؤ

۵۴۱ ..... ام وائل بنت معمر جمحیہ ۱۲۲۸۸

// ..... ام ورقہ بنت حمزہ ۱۲۲۸۹

// ..... ام ورقہ بنت عبد اللہ ۱۲۲۹۰

۵۴۲ ..... ام الولید بنت عمر بن خطاب ۱۲۲۹۱



## حرف الف

### القسم الاول از حرف الف

#### ۱۰۷۵۰ آسبہ بنت الحارث السعدیہ

نبی کریم ﷺ کی رضاعی بہن، ابوسعید خدریؓ نے شرف المصطفیٰ میں ان کا ذکر کیا ہے۔

#### ۱۰۷۵۱ آسبہ بنت الفرّج الجرہمیہ

ابن مندہ نے ان کا ذکر کیا ہے، اور ایوب بن محمد الوزان کی سند سے یعلیٰ بن الأشدق کے حوالے سے نقل کر کے فرمایا: 'سبہ بنت الفرّج جو جُرہم قبیلہ کی خاتون تھی جن کا گھر مکہ میں حجون کے مقام پر تھا۔ نبی کریم ﷺ کے پاس آئیں۔ عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اور میں زنا کر بیٹھی ہوں، مجھے پاک کیجئے! آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تم نے بچہ جن لیا ہے؟ انہوں نے رض کی: نہیں! آپ ﷺ نے فرمایا: تمہارے بچے کی ولادت میں کتنی مدت رہ گئی ہے؟ انہوں نے کہا: ایک مہینہ۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جب تک تو بچہ نہ جن لے میں تمہیں پاک کرنے والا نہیں۔ وہ کہتی ہیں: میں نے بچہ جن لیا اور اس کو لے کر آپ ﷺ کے پاس آئی، اور آپ ﷺ کو ساری بات بتائی.....' پھر راوی نے طویل حدیث ذکر کی، اسی طرح اصل نسخے میں ہے۔ اور ابن مندہ نے اسے نقل نہیں کیا۔

#### ۱۰۷۵۲ آمنہ بنت الأرقم

ابو السائب الخرمی نے اپنی دادی آمنہ بنت الأرقم کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے انہیں عقیق کی وادی میں ایک کنواں عطا کیا، اسے بزر آمنہ کہا جاتا تھا اور ان کے لیے اس میں برکت کی دعا کی، اور وہ مہاجر صحابیات میں سے تھیں۔ ابن مدباغ نے استیعاب پر اضافہ کر کے ان کا ذکر کیا ہے۔

#### ۱۰۷۵۳ آمنہ بنت حرملة

ولید بن ولید بن المغیرہ کی والدہ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا نام عاتکہ ہے۔ ان کے بیٹے کے حالات میں کسی ایسی شے کا ذکر ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں شرف صحابیت حاصل ہے۔

۱۰۷۵۰ آسبہ الغابۃ (ت: ۶۶۸۲) تجرید اسماء الصحابة (۲/۲۴۲) ۱۰۷۵۱ آسبہ الغابۃ (ت: ۶۶۸۲) تجرید اسماء الصحابة (۲/۲۴۲) ۱۰۷۵۲ آسبہ الغابۃ (ت: ۶۶۸۲) تجرید اسماء الصحابة (۲/۲۴۲) ۱۰۷۵۳ آسبہ الغابۃ (ت: ۶۶۸۲) تجرید اسماء الصحابة (۲/۲۴۲)

### ۱۰۷۵۳ آمنہ بنت ابی الحکم

یا بنت الحکم الغفاریہ، دوسری قسم میں ان کے حالات آئیں گے۔

### ۱۰۷۵۵ آمنہ بنت خلف الأسلمیہ

ابوموسیٰ نے ان کا ذیل میں ذکر کیا ہے۔ دو غیر معتبر سندوں سے مبارک بن فضالہ کے واسطے سے حسن سے نقل کیا کہ آمنہ بنت خلف الأسلمیہ سے جب گناہ سرزد ہوا تو نبی کریم ﷺ کے پاس آئیں اور کہا، یا رسول اللہ ﷺ! میں شادی شدہ عورت ہوں اور میرا خاندان موجود نہیں، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے مجھے پاک کیجئے!.... پھر راوی نے طویل قصہ ذکر کیا۔ آپ ﷺ نے ان کے لیے سنگساری کے وقت بہت زیادہ دعا کی جو تقریباً دو درقوں میں ہے۔ \* اصل میں اسی طرح ہے۔

### ۱۰۷۵۶ آمنہ بنت ابی الغیار

مطبع بن الاسود کی زوجہ اور عبداللہ بن مطیع کی والدہ ہیں، بعض کا قول ہے کہ ان کا نام امیمہ ہے (دویموں کے ساتھ تصغیر ہے)۔

### ۱۰۷۵۷ آمنہ بنت قیس

بن عبداللہ بن رباع بن یمر، وہ ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش الأسدیہ کی چچا زاد بہن ہیں از بنی غنم بن دودان۔ ابن اسحاق \* نے ذکر کیا ہے کہ وہ اور ان کے والد ام حبیبہ بنت ابی سفیان کے ساتھ حبشہ میں تھے۔ اور ان کے والد کے ساتھ ان کی بیوی بڑکتہ بنت یسار تھیں اور وہ دونوں عبداللہ بن جحش کی دایاں تھیں۔ ابن اسحاق نے السیرۃ النبویۃ میں ان کا ذکر کیا ہے۔ اور مستغفری نے ابن اسحاق کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ ابوموسیٰ نے اس کا استدراک کیا ہے۔ ابن سعد \* نے کہا کہ وہ اسلام کے ابتدائی دور میں مکہ میں ایمان لائیں اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ مدینہ ہجرت کی۔

### ۱۰۷۵۸ آمنہ بنت سعد

بن وہب، البوسفیان کی زوجہ ہیں، ابو عمر \* نے ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۰۷۵۹ آمنہ بنت ابی سفیان

بن حرب بن امیہ، ابن اسحاق نے غزوہ طائف میں ان کا ذکر کیا ہے۔ اور وہ امیمہ تصغیر کے ساتھ ہے، ان کا ذکر آ رہا ہے۔

### ۱۰۷۶۰ آمنہ بنت ابی الصلت الغفاریہ

یا بنت الصلت۔ دوسری قسم میں ان کے حالات آئیں گے۔

\* أسد الغابۃ (ت: ۶۶۸۴) تجرید أسماء الصحابة (۲/۲۴۲) \* مستدرک (الحديث: ۵/۲۹۲)

\* أسد الغابۃ (ت: ۶۶۹۹) \* السیرۃ النبویۃ (۴/۶) \* الطبقات الکبریٰ (۸/۱۷۷)

\* أسد الغابۃ (ت: ۶۶۸۶) تجرید أسماء الصحابة (۲/۲۴۲) \* الاستیعاب (۴/۱۷۹۰)



## ۱۰۷۶۱ آمَنہ بنت عَمَّان \*

بن اَبی العاص بن اُمیہ بن عبد اللہ شمس الامویہ۔ امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں۔ ابو موسیٰ نے بیان کیا ہے کہ فتح مکہ کے دن اسلام لائیں، اور سعد جو بنی مخزوم کے حلیف تھے، کی بیوی تھیں۔ اور ان خواتین میں سے تھیں جنہوں نے ہند زوجہ ابوسفیان کے ساتھ اس بات پر بیعت کی تھی کہ وہ اللہ کے ساتھ نہ کسی کو شریک ٹھہرائیں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ زنا کریں گی، ابن اسحاق نے یہ معاذی میں ذکر کیا ہے۔ اور ابن کلبی نے ذکر کیا ہے کہ وہ جاہلیت میں ماما تھیں اور انہوں نے حکم بن کیسان جو بنی مخزوم کے آزاد کردہ غلام تھے، سے نکاح کیا، اس بارے میں حکم ابن کیسان کے حالات میں جو سند پہلے گزر چکی ہے وہ ابو موسیٰ کے قول سے زیادہ قوی ہے کہ وہ سعد کے پاس تھیں۔

## ۱۰۷۶۲ آمَنہ بنت عمرو \*

بن حرب بن اُمیہ الامویہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی چچا زاد بہن تھیں۔ ان سے ابو حذیفہ بن عتبہ نے نکاح کیا جس سے عاصم پیدا ہوئے، ابن سعد نے ان (عاصم) کا ذکر کیا ہے۔

## ۱۰۷۶۳ آمَنہ بنت غفار \*

ذہبی \* نے مہمات النووی میں لکھا ہے کہ یہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی وہ زوجہ تھیں جنہیں انہوں نے طلاق دی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے رجوع کرنے کا حکم دیا تھا۔

میں کہتا ہوں: ابن لہیعہ نے عبد الرحمن الاسمرج کے حوالے سے ان کا نام آمَنہ بنت عَمَّان بتایا ہے۔ اور کہا ہے کہ وہ خاتون جنہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی کریم ﷺ کے زمانے میں طلاق دی تھی، آمَنہ بنت عَمَّان تھیں، اس کا ذکر ابن سعد نے حسن بن موسیٰ سے اور انہوں نے ابن لہیعہ کے حوالے سے کیا ہے۔ اور ہم نے اسے قتیبہ کی جمع کردہ احادیث میں سے روایت کیا ہے۔ یہ روایت سعید العیاری کی سند سے ہے جو انہوں نے قتیبہ سے اور انہوں نے ابن لہیعہ سے نقل کی ہے۔ اور قتیبہ کی روایت میں بنت غفار (غین کا زیر اور فاء کی تخفیف اور راء کے ساتھ ہے) اور طبقات کے نسخے میں عین کا زیر اور فاء کی تشدید اور الف نون کے ساتھ ہے۔

## ۱۰۷۶۴ آمَنہ بنت قُرط \*

بن خنساء بن سنان الانصاریہ۔ ان کا نسب ان کی بہن اُمامہ کے حالات میں آئے گا۔ ابن سعد \* نے کہا کہ ان دونوں کی والدہ ماریہ بنت الحِمْیر بن کعب بن سواد ہیں، ان آمَنہ نے اُوس بن المعلیٰ بن لوزان سے نکاح کیا، جن سے ابوسعید پیدا ہوئے، بعد میں آمَنہ ایمان لائیں اور بیعت کی۔

\* اُسد الغابۃ (ت: ۶۶۸۸) تجرید اسماء الصحابة (۲/۲۴۳) \* تجرید اسماء الصحابة (۲/۲۴۳)

\* التجرید (۱۸۰) \* تجرید اسماء الصحابة (۲/۲۴۳) \* الطبقات الکبریٰ (۸/۲۹۶)

### ۱۰۷۶۵ آمنہ بنت محسن

سہیل نے ذکر کیا ہے کہ یہ ام قیس بنت محسن کا نام ہے جو عکاشہ بن محسن الأسدی کی بہن ہیں۔

### ۱۰۷۶۶ آمنہ بنت نعیم النعام

ان کا ذکر ان کی والدہ کے حالات میں آئے گا۔

### ۱۰۷۶۷ آمنہ یا عاتکہ

ولید بن مغیرہ کی والدہ ہیں۔ ان کے حالات میں کوئی ایسی بات ہے جو ان کے اسلام لانے پر دلالت کرتی ہے۔

### ۱۰۷۶۸ ابرہہ الحبشہ

نجاشی کے خدام میں سے تھیں۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ جب نجاشی نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو وہ ان کے پاس تھیں۔ ابن سعد نے ان کا قصہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے حالات میں ذکر کیا ہے۔ بحوالہ عبداللہ بن عمرو بن زہیر، اور انہوں نے اسماعیل بن عمرو بن سعید اور انہوں نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔

### ۱۰۷۶۹ ائیلہ بنت الحارث

بن ثعلبہ بن حرام بن صحر بن امیہ بن حرام بن ثابت بن النجار الانصاری، انہیں شرف صحابیت حاصل ہے۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ وہ بیعت کرنے والی صحابیات رضی اللہ عنہن میں سے تھیں، اور فرمایا کہ ان کی والدہ فاطمہ بنت زید مناة بن عمرو بن مازن الغسانیہ ہیں۔

### ۱۰۷۷۰ ائیلہ بنت راشد الہذلیہ

ان کا ذکر عامر بن مرثد کے حالات میں گزر چکا ہے۔

### ۱۰۷۷۱ ائیلہ الخزاعیہ

ایوب بن عبداللہ بن زہیر الأسدی کی دادی ہیں۔ فاکہی نے کتاب مکہ میں ابن جریج کے حوالہ سے اور انہوں نے ابن ابی حنین سے حدیث نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمرو کو خط لکھا کہ اگر میرا یہ خط تمہارے پاس رات کو پہنچے تو صبح ہونے سے پہلے اور اگر دن کے وقت پہنچے تو شام ہونے سے پہلے میرے پاس آ کر مجھ کو روانہ کر دینا۔ راوی کا بیان ہے کہ سہیل رضی اللہ عنہ نے ائیلہ الخزاعی کی مدد حاصل کی یہاں تک کہ دونوں نے دو توشہ دان بنادے اور بنا کے

❖ الاستیعاب (ت: ۳۲۶۸) تجرید (أسماء الصحابة (۲/۲۴۳) ❖ أسد الغابة (ت: ۶۶۹۰) تجرید (أسماء الصحابة (۲/۲۴۳)

❖ الطبقات الكبرى (۳۰۵/۸) ❖ أسد الغابة (ت: ۶۶۹۱) تجرید (أسماء الصحابة (۲/۲۴۳)

❖ جلد اول ترجمہ ۳۸ میں یہی قصہ اور یہی شخصیت مردوں میں مذکور ہے اور یہاں ان کا تذکرہ عورتوں میں ہو رہا ہے۔

ارغ ہو گئے۔ پھر سہیل نے ان دونوں کو آب زم زم سے بھر دیا اور اونٹ پر لا کر روانہ کر دیا۔ عمر بن شبہ نے اسی طرح نقل کیا ہے۔

### ۱۰۷۷۲ اثیمہ المخزومیہ

غطف کی دادی ہیں۔ ابن عبدالبر نے ان کا ذکر کیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ وہی اُروی ہیں جن کا ذکر آ رہا ہے۔

### ۱۰۷۷۳ ارام بنت الجموح الأنصاریہ

عمرو بن الجموح رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں جو خزرج کے سردار ہیں، ابن سعدؒ نے ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۰۷۷۴ ارام بنت قُرقط

بن خُصاء الأنصاریہ، بیعت کرنے والی خواتین میں سے ہیں۔ ابن سعدؒ نے ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۰۷۷۵ ارده بنت الحارث

بن کلدہ ثقفی، عتبہ بن غزوہ کی زوجہ ہیں۔ بلاذری وغیرہ نے ان کا ذکر کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ عتبہ کے ساتھ بصرہ میں تھیں وہ اس کے گورز تھے۔ ان کی وجہ سے ابو بکرہ اور ان کے ماں شریک بھائی نافع اور زیاد آئے۔

### ۱۰۷۷۶ ارنب بنت عقیف

بن ابی العاص بن عبدالغفس، ان کی والدہ نابغہ ہیں، جو عمرو بن العاص کی والدہ ہیں، یوں عمرو بن العاص کے ماں شریک بھائی ہیں۔ زبیر بن بکار نے ان کا ذکر کیا ہے۔ پھر طبری نے ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۰۷۷۷ ارنب المدنیۃ المغنیۃ

ہم نے اسے محالی کے امالی میں سے جز ثالث میں ابن جریر کے سلسلہ سے اصہبانین کی روایت سے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابوالاصح نے خبر دی کہ انہیں جلیلہ مغنیہ نے بتلایا کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے غنا کے بارے میں سوال کیا، انہوں نے فرمایا کہ انصار کے کسی گھرانے نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کسی گھرانے سے نکاح کیا تو انہوں نے ان کی طرف قباء میں ہدیہ بھیجا، ان سے نبی کریم ﷺ نے فرمایا: کیا تم نے دہن کی طرف ہدیہ بھیجا ہے۔ انہوں نے فرمایا: جی ہاں۔ آپ ﷺ نے پوچھا: کیا تم نے اس کے ساتھ سر لگانے والی کو بھیجا ہے؟ انصار سر لگانے کو پسند کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس کے پاس ارنب کو تلاش کر کے بھیجو۔ یہ خاتون شادی بیاہ پر گیت گایا کرتی تھیں۔

### ۱۰۷۷۸ اروی بنت انیس

ابن مندہ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ جامع ترمذی میں وضو کے باب میں ان کا ذکر ہے۔ اسی طرح التحریدؒ میں بھی ہے۔

❖ الاستیعاب (ت: ۳۲۶۸) تجرید أسماء الصحابة (۲/۲۴۳) ❖ الطبقات الكبرى (۸/۲۸۹)

❖ تجرید أسماء الصحابة (۲/۲۴۳) ❖ الطبقات الكبرى (۸/۲۹۴)

❖ أسد الغابة (ت: ۶۶۹۶) تجرید أسماء الصحابة (۲/۲۴۳) ❖ التجرید (۱۸۰)

ابن مندہ نے صرف ان کا ذکر کیا ہے، ان کے والد کا نام نہیں لکھا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث برہ جس میں مَس ذکر کے بعد وضو کا ذکر ہے کے بعد ان کا ذکر ہے۔ انہوں نے راویوں کی ایک جماعت کا ذکر کیا ہے جس میں اُروی بھی ہیں، ابن سکن اور دارقطنی نے علل میں نقل کیا ہے۔ بسلسلہ عثمان بن الیمان کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہشام بن زیاد سے سنا اُن کی کنیت ابوالمقدام ہے انہوں نے ہشام بن عروہ سے انہوں نے اپنے والد اسی طرح انہوں نے اُروی بنت اُنیس سے نقل کیا ہے۔ اور وضو کے باب میں مَس ذکر کے بارے میں مرفوع حدیث ذکر کی ہے۔

ابن سکن نے فرمایا کہ یہ ثابت نہیں، اور اس بارے میں ہشام بن عروہ کے علاوہ کسی نے حدیث نقل نہیں کی، اسی طرح اُبی المقدام سے بھی روایت ہے۔ وہ بصری راوی ہیں جو ضعیف ہیں۔ ابن مندہ نے کہا ہے کہ ابوالمقدام سے اس سند کے ساتھ روایت کی گئی، لیکن کہا کہ اس میں ”عن ابی اُروی“ کے الفاظ ہیں اور یہی صحیح ہے۔

### ۱۰۷۷۹) اُروی بنت الحارث

بن عبدالمطلب الہاشمیہ۔ وہ مطلب بن اُبی وِذَاعہ السہمی کی والدہ ہیں۔ ابن سعد نے صحابیان میں نبی کریم ﷺ کی چچا زاد بہنوں کے باب میں ان کا ذکر کیا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ ان کی والدہ غزیہ بنت قیس بن طریف ہیں جو بنو حارث بن فہر بن مالک سے ہیں۔ اور کہا کہ ابووداعہ سے ان کی اولاد یہ ہے: مطلب، ابوسفیان، ام جمیل، ام حکیم، ربیعہ۔

### ۱۰۷۸۰) اُروی بنت ربیعہ

بن حارث بن عبدالمطلب الہاشمی، دارقطنی نے ان کا کتاب الاخوہ میں ذکر کیا ہے۔ اور لکھا ہے کہ ان سے حبان بن مُقَدَّم انصاری نے نکاح کیا، جس سے اولاد بھی ہوئی، اور کہا گیا ہے کہ ان کا نام ہند ہے۔ یہاں تک عبارت ختم ہوئی۔ ابن مندہ نے کہا کہ اُروی ان کی حدیث عطف بن خالد سے روایت کی گئی ہے۔ انہوں نے اپنی والدہ سے اور انہوں نے اپنی والدہ جو کہ اُروی ہیں سے نقل کیا ہے۔

عبدالقدوس بن ابراہیم نے عطف سے انہوں نے اپنی والدہ سے اور انہوں نے اپنی والدہ اُمیمہ سے جو عطف کی نانی ہیں روایت کیا ہے کہ وہ نبی کریم ﷺ کے پاس آئیں اور وہ بچی تھیں۔

### ۱۰۷۸۱) اُروی بنت اُبی العاص

بن اُمیہ بن عبدالمطلب الامویہ، حکم کی بہن ہیں جو مروان کے والد ہیں، وہ عثمان بن عفان کی پھوپھی ہیں۔ مستغفری نے ان کا ذکر کیا ہے، اور سلسلہ بن فضل کے سلسلے سے کہ انہوں نے محمد بن اسحاق سے روایت کی اپنی سند کو چلایا ہے کہ انہوں نے ان کا ان صحابیات میں ذکر کیا ہے جنہوں نے فتح کے دن رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

۱) اُسد الغابۃ (ت: ۶۶۹۲) تجرید اُسماء الصحابة (۲/۲۴۳) \* الاستیعاب (۴/۱۷۷۸)

۲) اُسد الغابۃ (ت: ۶۶۹۳) تجرید اُسماء الصحابة (۲/۲۴۳)

## ۱۰۷۸۲ اروی بنت عبدالمطلب \*

بن ہاشم الهاشمیہ، رسول اللہ ﷺ کی پھوپھی ہیں۔ ابو عمر نے لکھا ہے کہ عمیر بن وہب بن عبد بن قصی کی زوجہ تھی۔ جن سے طلیب پیدا ہوئے، اس کے بعد کلدہ بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصی کی زوجیت میں آئیں جن سے اُردی پیدا ہوئیں۔ ابو عمر \* نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے محمد بن اسحاق سے سنا، نبی کریم ﷺ کی پھوپھیوں میں سے صرف حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ان لائیں ان کا قصہ حضرت اُردی رضی اللہ عنہا کے بعد آ رہا ہے۔ عقیلی نے صحابہ رضی اللہ عنہم میں واقدی کی سند سے ان کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے موسیٰ بن محمد بن ابراہیم بن الحارث التیمی سے اور انہوں نے اپنے والد سے نقل کیا ہے کہ جب طلیب بن عمر ایمان لائے تو اپنی مدہ اُردی بنت عبدالمطلب کے پاس آئے اور کہا میں اسلام لایا ہوں اور محمد ﷺ سے بیعت کر چکا ہوں۔ پھر قصہ ذکر کیا، اس میں ہے: آپ کو اسلام لانے سے کس چیز نے روکا ہے؟ آپ کے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ایمان لا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا: میں ہوں گی میرے دونوں بھائی ایمان لانے کے بعد کیا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا: میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ پ ﷺ کے پاس جائیں انہیں سلام کریں اور ان کی تصدیق کریں۔ انہوں نے کہا: میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد وہ نبی کریم ﷺ کی زبانی مدد کرتی تھیں اور اپنے بیٹے کو آپ ﷺ کی مدد کرنے اور ناکے لائے ہوئے دین کو قائم کرنے پر ابھارتی تھیں۔

ابن سعد رضی اللہ عنہ \* نے لکھا ہے کہ وہ ایمان لائیں اور مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ انہوں نے واقدی رضی اللہ عنہ کی سند سے بُرہ ت اُبی تجراۃ کے حوالے سے لکھا ہے وہ فرماتی ہیں: ابو جہل اور اس کے ساتھی نبی کریم ﷺ کے سامنے آئے اور آپ ﷺ کو ایذا دیا۔ حضرت طلیب بن عمر رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کو مارا اور اسے زخمی کر دیا۔ انہیں ابو جہل کے ساتھیوں نے پکڑ لیا، چنانچہ ابولہب انہیں مڑانے لگے۔ جب حضرت اُردی رضی اللہ عنہا کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے فرمایا: تمام دنوں میں سے اس کا اچھا دن وہ ہے جب اس نے اپنے ماموں زاد کی مدد کی، ابولہب سے کہا گیا کہ اُردی بے دین ہو گئی ہے۔ وہ ان کے پاس آئے اور ڈانٹنے لگے۔ انہوں نے کہا: اپنے بھتیجے کے لیے آڑ بن جاؤ، اگر وہ تم پر غالب آ گیا تو تم نیک لوگوں میں سے ہو گے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو تم اپنے بھتیجے کے رے میں عذر پیش کر چکے ہو گے۔ ابولہب نے کہا: ہمارے پاس سارے عرب کی طاقت ہے، وہ نیا دین لے کر آیا ہے۔ ابن سعد نے کہا، \* کہا جاتا ہے کہ اُردی نے یہ اشعار کہے: ص

ان طلیبا نصر ابن خالہ و اساء فی ذی دمہ و مالہ  
”طلیب نے اپنے ماموں زاد کی مدد کی، خون اور مال والے کے بارے میں تسلی دی۔“

مدین سعد نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اُردی نے مندرجہ ذیل اشعار میں نبی ﷺ کا مرثیہ کہا ہے:

الا یا رسول اللہ کنت رجاءنا و کنت بنا برا و لم تلک جافیا  
کاں علی قلبی لذكر محمد و ما جمعت بعد النبی المجاویا

\* أسد الغابة (ت: ۶۶۹۴) الاستیعاب (ت: ۳۲۶۹) تجرید اسماء الصحابة (۲/۲۴۳)

\* الاستیعاب (۴/۱۷۷۹) \* الطبقات الکبریٰ (۸/۲۸) \* الطبقات الکبریٰ (۸/۲۹)

”اللہ کے رسول ﷺ آپ ہماری امید گاہ تھے، اور آپ نے ہم سے ہمیشہ اچھا سلوک کیا ہے، کبھی بدسلوکی نہیں کی۔ گویا میرے دل پر محمد ﷺ کے ذکر اور آپ ﷺ کے بعد جمع ہونے والے حالات نے غموں کے ڈیرے ڈال لیے ہیں۔“

### ۱۰۷۸۳) اُروی بنت عُمیس

ابن اثیر نے اُروی بنت کریم کے حالات کے آخر میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۰۷۸۴) اُروی بنت کریم

بن ربیعہ بن حبیب بن عبد شمس العشمیہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں۔ ان کی والدہ کا نام بیضاء بنت عبدالمطلب ہے جو نبی کریم ﷺ کی پھوپھی تھیں، ابن ابی عاصم نے وحدان میں ان کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے اور حاکم نے جس سند سے ذکر کیا ہے اس میں ضعف ہے جو زہری، عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ فرمایا: ام عثمان، ام طلحہ، ام عمار، ام ابی بکر، ام زبیر اور ام عبد الرحمن بن عوف ایمان لائیں اور ابن مندہ نے لکھا ہے کہ وہ عثمان بن عفان کی خالفت میں فوت ہوئیں، ان کی کوئی حدیث معروف نہیں۔

ابن سعد \* نے کہا: ان سے عفان بن ابی العاص نے نکاح کیا ان سے عثمان اور آمنہ پیدا ہوئے پھر ان سے عقبہ بن ابی معیط نے نکاح کیا۔ ان سے ولید، عمار، خالد، ام کلثوم، ام حکیم اور ہند پیدا ہوئے۔ حضرت اُروی رضی اللہ عنہا نے ام کلثوم کے بعد اسلام قبول کیا اور ہجرت کی، اور نبی کریم ﷺ سے بیعت کے بعد مدینے میں ہی رہیں، یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی۔ \*

میں نے بخیری رضی اللہ عنہ کے قلم سے لکھا ہوا پڑھا کہ ام عثمان رضی اللہ عنہا نے وفات پائی، اس وقت ان کی عمر نوے برس تھی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کی چار پائی اٹھائی اور نماز جنازہ پڑھی۔

ابن سعد رضی اللہ عنہ نے واقدی رضی اللہ عنہ کی سند سے جس میں انہوں نے حضرت عبد اللہ بن حنظلہ بن ابراہم سے نقل کیا ہے، روایت کیا ہے: جس دن ام عثمان فوت ہوئیں میں موجود تھا، ان کے بیٹے نے انہیں بقیع میں دفن کیا اور وہیں لوٹ آئے، لوگ نماز پڑھ چکے تھے، انہوں نے تنہا نماز ادا کی، اور میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، میں نے سنا وہ کہہ رہے تھے: اے اللہ! میری ماں پر رحم فرما، اے اللہ! میری ماں کی مغفرت فرما، یہ ان کی خلافت کا دور تھا اور عیسیٰ بن طلحہ کی سند سے ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دار غطیش سے دو بانسوں کے درمیان اپنی والدہ کی چار پائی اٹھائی یہاں تک کہ اسے جنازہ گاہ میں رکھ دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے انہیں دیکھا کہ وہ انہیں دفن کرنے کے بعد ان کی قبر پر کھڑے دعا کر رہے تھے۔

\* اسد الغابۃ (ت: ۶۶۹۵) تجرید أسماء الصحابة (۲/۲۴۴)

\* الطلقات الکبریٰ (۸/۱۶۶)



### ۱۰۷۸۵) اُروی بنت المقوم

بن عبدالمطلب البہاشیہ، رسول اللہ ﷺ کی چچا زاد تھیں، ان کے شوہر ابوسفیان بن حارث ہیں جو ان کے چچا زاد تھے۔  
بیر رضی اللہ عنہ نے ان کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ ابوسفیان سے ان کی بیٹیاں ہوئیں۔ اور ابن سعد رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے: ان سے  
بوسروح حارث بن یحمر بن حبان بن عمیر نے نکاح کیا جو بنو سعد بن مکر بن ہوازن سے تھے۔ وہ عباس بن عبدالمطلب کے حلیف  
تھے۔ ان سے عبد اللہ بن ابی مسروح پیدا ہوئے۔

### ۱۰۷۸۶) اُزدہ بنت الحارث

بن کلدہ ثقفیہ، عتبہ بن غزوہ ان کی زوجہ ہیں جو بصرہ کے امیر تھے۔ جب وہ بصرہ اور اس کے شہر آئے تو وہ ان کے ساتھ  
تھیں۔ ان کے سبب ان کے ماں شریک بھائی ابوبکرہ، نافع، زیاد بن عبید جنہیں اس کے بعد زیاد بن ابی سفیان کہا جاتا تھا بھی بصرہ  
آگئے۔ ان سب کی والدہ سمیہ تھیں جو حارث بن کلدہ کی باندی تھی، بلاذری نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اور ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ  
حجۃ الوداع کے موقع پر قریش اور ثقیف میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو ایمان نہ لایا ہو اور اس موقع پر حاضر نہ ہو۔

### ۱۰۷۸۷) اُزمہ

ہمزہ کے زیر اور ”ز“ کے سکون کے ساتھ ہے۔ ہروی رضی اللہ عنہ کی کتاب العربیین جسے کسی نے جمع کیا ہے کے ذیل میں  
بوموی المدینی رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا ہے ”اشتدیدی اُزمہ تنفر جی“ اس مثل سے عربوں کی مراد یہ ہے کہ ایک عورت جس کا نام اُزمہ تھا  
سے درد زہ ہوا اس کے بارے میں یہ مثل کہی گئی یعنی اے اُزمہ صبر کرو یہاں تک کہ عنقریب تم وضع حمل سے فارغ ہو جاؤ تو تمہاری  
تکلیف دور ہو جائے گی۔ اسے میں نے اُسد الغابہ کے حاشیے سے مغلطائی کی تحریر سے نقل کیا ہے۔ اور ذیل سے اس کی مراجعت کی  
ہے۔ میں نے اس میں کوئی تصریح نہیں دیکھی جو ان کے صحابیہ ہونے پر دلالت کرتی ہو، انہوں نے اس کے بعد لکھا ہے: بعض جہاں  
نے اس کا ذکر کیا ہے اور یہ باطل ہے۔ اور بعض نے اس میں اضافہ کیا ہے کہ اس سے یہ بات نبی کریم ﷺ نے فرمائی تھی۔

### ۱۰۷۸۸) اُسماء بنت انس

بن مدرک الخثعمیہ، خالد بن ولید کی زوجہ ہیں، اور ان کی اولاد مہاجر عبد اللہ، عبد الرحمن کی والدہ ہیں، ان کا ذکر ان کے  
الد انس بن مدرک کے حالات میں گزر چکا ہے۔

### ۱۰۷۸۹) اُسماء بنت ابی بکر الصدیق

ان کا ذکر اُسماء بنت عبد اللہ بن عثمان کے حالات میں آئے گا۔

۱ تجرید اُسماء الصحابة (۲/۲۴۴)

۲ الطبقات الکبریٰ (۸/۳۳)

۳ اُسد الغابہ (ت: ۶۶۹۸) تجرید اُسماء الصحابة (۲/۲۴۴)

### ۱۰۷۹۰) أسماء بنت الحارث

خطاب بن حارث جمحی کی زوجہ ہیں، ابن اسحاق <sup>ؒ</sup> نے اہل مکہ میں سے ایمان لانے والوں میں ان کا ذکر کیا ہے اور جب ان کا ذکر کیا تو فرمایا: خطاب اور ان کی زوجہ اسماء بنت حارث۔ ابو نعیم نے ابراہیم بن یوسف کی سند سے بحوالہ زیاد البکائی جو ان سے مروی ہے اس کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۰۷۹۱) أسماء بنت سعید

بن زید بن عمرو بن نفیل القرشیہ العدویہ۔ انہیں اور ان کے والد کو شرف صحابیت حاصل ہے۔ دارقطنی <sup>ؒ</sup> نے علل میں ان کی حدیث حفص بن غیاث، ابی حرمہ، اور ان کے والد کی روایت سے نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رباع بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ مجھ سے میری دادی نے حدیث بیان کی کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا وہ فرما رہے تھے ”اس شخص کی نماز نہیں جس کا وضو نہیں....“۔ (الحدیث) اسے بیہقی <sup>ؒ</sup> نے نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ ان کی دادی اسماء بنت سعید بن زید ہیں۔

### ۱۰۷۹۲) أسماء بنت سلامہ

کہا جاتا ہے کہ یہ سلمہ بن مخرہ ہیں (ایک نقطے کے ساتھ) بن جندل بن امیر بن نہشل بن دارم التمیمیہ الدارمیہ۔ ابن اسحاق <sup>ؒ</sup> نے ان کا مکہ میں ایمان لانے والوں میں ذکر کیا اور فرمایا عیاش بن ابی ربیعہ بن المغیرہ المخزومی اور ان کی بیوی اسماء بنت سلامہ۔ ابو عمر <sup>ؒ</sup> نے فرمایا: اسماء بنت سلمہ بن مخرہ مہاجرات میں سے تھیں۔ انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ ہجرت کی، ان سے عبد اللہ بن عیاش بن ابی ربیعہ پیدا ہوئے پھر انہوں نے مدینہ ہجرت کی ان کی کنیت ام الجلاس ہے۔ نبی کریم ﷺ سے روایت کی، ان سے ان کے بیٹے عبد اللہ بن عیاش بن ابی ربیعہ، میں نے کہا: ابن مندہ نے ان کے حالات ان کی پھوپھی اسماء بنت مخرہ سے غلط کر دیئے ہیں۔ ان کی پھوپھی کے حالات میں ان شاء اللہ میں اسے ذکر کروں گا۔

### ۱۰۷۹۳) أسماء بنت سُمّی

مسدّد نے اپنی مسند میں ان کا ذکر کیا ہے، فرمایا: ہم سے یحییٰ القطان نے بحوالہ ابی مسکین نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے ابو جحلم سے سنا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اسماء بنت سُمّی کو اختیار دیا گیا یعنی تیرے شوہر کے بارے میں جسے تو اختیار کرے، انہوں نے عرض کیا، میں فلاں کو اختیار کرتی ہوں، وہ وفات پا گئے وہ سب میں سے اچھے اخلاق والے تھے۔ ان کے دو شوہر قتل ہوئے، یہ حسن اسناد، مرسل ہے۔ اس خبر کو نبی کریم ﷺ کی صحابہ رضی اللہ عنہم سے بیان کردہ حدیث کے ساتھ ملایا جائے گا۔ اور مشہور یہ ہے کہ یہ تمیم داری کے خصائص میں سے ہے، ان کے علاوہ ایک جماعت کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔

أسد الغابة (ت: ۶۶۹۹) تجرید أسماء الصحابة (۲/۲۴۴) السیر والمغازی (۱۴۷)

دارقطنی فی سننہ (الحدیث: ۷۳/۱) بیہقی فی السنن (ت: ۶۷۰۱) تجرید أسماء الصحابة (۲/۲۴۴)

السيرة النبوية (۲۰۵/۱) الاستيعاب (۴/۱۷۸۳)

### ۱۰۷۹۴ اسماء بنت شُکَل

شین کے ساتھ، دو حروف پر زبر اور آخر میں لام آئے گا۔ صحیح مسلم، کتاب الحيض میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سند سے ان کا ذکر ہے۔ فرماتی ہیں: اسماء بنت شُکَل نبی کریم ﷺ کے پاس آئیں اور پوچھا، اے اللہ کے رسول! جب ہم میں سے کوئی حیض سے پاک ہو تو کیسے غسل کرے۔ (الحدیث) ابو موسیٰ نے ذیل میں ان کا ذکر مستغفری کی سند سے کیا ہے۔ ان کی روایت ابی بکر بن ابی شیبہ سے مروی ہے۔ جو اس روایت میں امام مسلم رحمہ اللہ کے استاد ہیں۔ ابوعلی جیانی نے الاستیعاب کے حاشیہ میں لکھا ہے: ابو عمر نے جن صحابیات کا ذکر کیا ہے، معلوم نہیں یہ ان میں سے ایک ہیں یا بعض راویوں نے شُکَل کے بارے غلطی کی ہے۔ حالانکہ وہ اسماء بنت یزید بن لکسن ہیں جن کا ذکر آ رہا ہے۔ ان کے والد کا ذکر چھوٹ گیا ہے۔ اور ان کے دادا کے نام میں لفظی غلطی ہے۔ ان کی نسبت ان کے دادا کی طرف ہے۔ خطیب ابوبکر الحافظ نے اس کی طرف سبقت کی ہے۔

اس کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ انصار میں سے کسی کا نام شُکَل نہیں، صحیح بخاری کے اس قصہ سے ثابت ہے کہ وہ صحابیہ جنہوں نے سوال کیا تھا انصار یہ تھیں، ابوالفتح بن سید الناس نے اس کی پیروی کی ہے۔ اس میں تامل ہے۔

### ۱۰۷۹۵ اسماء بنت عبد اللہ بن عثمان

التیمیہ، عبد اللہ بن زبیر بن عوام التیمیہ کی والدہ ہیں۔ اور وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، ان کی والدہ قُتْلَمَہ یا قُتْلَمَہ بنت عبد العزی ہیں۔ قریشی ہیں، بنی عامر بن لوی سے ہیں۔ مکہ میں ابتدائی دور میں ایمان لائیں۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سترہ افراد کے بعد ایمان لائیں، ان سے زبیر بن عوام نے نکاح کیا۔ انہوں نے ہجرت کی اور وہ حاملہ تھیں، جہاں قُبَاء کے مقام پر ان کے ہاں عبد اللہ کی ولادت ہوئی۔ اپنے بیٹے کی خلافت تک بقید حیات رہیں جب انہیں شہید کر دیا گیا تو تھوڑے عرصے بعد وفات پا گئیں، ان کا لقب ذات الطاقین تھا۔

ابو عمر رحمہ اللہ نے فرمایا: ان کا یہ نام رسول اللہ ﷺ نے رکھا تھا، کیونکہ جب آپ ﷺ نے ہجرت کا قصد کیا تو انہوں نے آپ ﷺ کے لیے توشہ دان تیار کیا تھا، جب اسے باندھنے کی ضرورت پڑی تو انہوں نے اپنا دوپٹہ پھاڑا، اس کے آدھے حصے سے توشہ دان باندھا اور باقی آدھے کو کمر بند بنالیا۔ فرمایا: اسی طرح ابن اسحاق رحمہ اللہ وغیرہ نے ذکر کیا ہے۔

میں نے کہا: اصل قصہ صحیح مسلم میں نبی کریم ﷺ تک مرفوع روایت کی تصریح کے بغیر ہے اور ابو عمر نے ابو نوفل بن ابی عقرب کی سند سے یہ روایت مسند نقل کی ہے کہ انہوں نے حجاج سے کہا تھا کہ میرے پاس ایک کمر بند تھا جس سے میں نبی کریم ﷺ کے کھانے کو چوٹیوں سے بچانے کے لیے ڈھانپا کرتی تھی، اور دوسرا کمر بند جو ہر عورت کے لیے ضروری ہے۔ ابن سعد رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہم سے ابواسامہ نے ہشام بن عروہ سے انہوں نے اپنے والد اور فاطمہ بنت منذر سے

۱۰۷۹۴ (ت: ۶۷۰۲) الاستیعاب (ت: ۳۲۷۲) تجرید اسماء الصحابة (۲/۲۴۴)

۱۰۷۹۵ مسلم (الحدیث: ۷۵۰) صحیح بخاری (الحدیث: ۲۹۷۹) مسند احمد (الحدیث: ۳۶۶/۶)

معجم الكبير (الحدیث: ۲۰۹/۲۴) الطبقات الكبير (۸/۱۸۲)

## الْاِثْنَيْنِ فِي تَبْيِيحِ الصَّحَابَةِ عَلَيْهِ السَّلَامُ (جلد ۵۰)

اور انہوں نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے حدیث بیان کی، فرماتی ہیں جب رسول اللہ ﷺ نے ہجرت کا قصد فرمایا تو میں نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر نبی کریم ﷺ کے لیے توشہ دان تیار کیا، ہمیں توشہ دان اور مشکیزہ باندھنے کے لیے کوئی شے نہ ملی تو میں نے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا: ”میرے پاس اپنے کمر بند کے علاوہ کوئی شے نہیں“۔ فرمایا: ”اسے پھاڑ کر دو حصے کر لو، ان میں سے ایک سے توشہ دان اور دوسرے سے مشکیزہ باندھ دو“۔ اس کی سند صحیح ہے۔

اور اسی سند کے ساتھ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں، فرماتی ہیں: مجھ سے زبیر رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا، ان کے پاس کوئی مال اور غلام نہ تھا، اور سوائے گھوڑے کے کوئی شے نہ تھی۔ فرماتی ہیں: میں گھوڑے کو چارہ ڈالتی تھی، اس کی دیکھ بھال اور سانس کرتی تھی، اور ان کے اونٹ کے لیے گھٹلیاں کوٹتی تھی، اور میں گھٹلیاں زبیر رضی اللہ عنہ کی زمین سے لاتی تھی..... (الحدیث) اور اس حدیث میں یہ بھی ہے: یہاں تک کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے میرے پاس خادمہ بھیجی تو مجھے گھوڑے کی سانس سے نجات مل گئی۔

راوی کا بیان ہے: زبیر بن بکار نے اس قصے میں فرمایا، نبی کریم ﷺ نے ان سے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ تمہیں اس کمر بند کے بدلے جنت کے دو کمر بند عطا فرمائے“۔ اس لیے انہیں ذات الطاقین کہا جاتا ہے۔

حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے کئی احادیث نبی کریم ﷺ سے روایت کی ہیں جو صحیحین اور سنن میں ہیں۔ ان سے ان کے بیٹوں عبداللہ اور عروہ نے روایت کی اور پوتوں عباد بن عبداللہ، عبداللہ بن عروہ، فاطمہ بنت المہذرب بن زبیر، عباد بن حمزہ بن عبداللہ بن زبیر اور آزاد کردہ غلام عبداللہ بن کیسان، ابن عباس، صفیہ بنت شیبہ، ابن ابی ملیکہ اور وہب بن کیسان وغیرہ نے روایت کی ہے۔ ابن اسکن رضی اللہ عنہ نے ابی الحیاء یحییٰ بن یعلیٰ التیمی کی سند سے اور انہوں نے اپنے والد سے نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں: میں ابن زبیر کے قتل کے بعد مکہ میں داخل ہوا، میں نے انہیں سولی پر لٹکا ہوا دیکھا، میں نے ان کی والدہ اسماء کو دیکھا کہ بے حد عمر رسیدہ، دراز قد اور نابینا ہیں۔ حجاج کے پاس آ کر کہنے لگی: کیا اس سوار (مراد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ) کے اترنے کا وقت نہیں ہوا۔ تو وہ (حجاج) کہنے لگا: یہ منافق تھا۔ اس پر انہوں نے فرمایا: اللہ کی قسم! وہ منافق نہ تھا وہ روزہ دار اور شب دار تھا۔ حجاج کہنے لگا: جائیں! بڑھاپے کی وجہ سے آپ ہمیں یہی باتیں کر رہی ہیں۔ انہوں نے فرمایا: اللہ کی قسم! میں تو نہیں بہکی، میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا: ”ثقیف سے شریعت کی تکذیب کرنے والا اور خون ریز ظاہر ہوگا“۔ سو کذاب تو ہم نے دیکھ لیا ہے رہا خون ریز تو وہ توہمی ہو۔ حجاج نے کہا: اس قبیلہ سے منافق پیدا ہوں گے۔

ابن سعد نے ایک حسن سند سے بحوالہ ابن ابی ملیکہ روایت کی ہے کہ جب ان کے سر میں درد ہوتا تو سر پر ہاتھ رکھ کر فرماتیں: میری خطا کی وجہ سے ہوا اور اللہ تعالیٰ تو اس سے زیادہ معاف کر دیتا ہے۔ ہشام بن عروہ اپنے والد کے حوالہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی عمر سو سال ہو گئی پھر بھی ان کا دانت تک نہ گرا، اور نہ عقل میں فتور آیا۔ ابو نعیم اصبہانی کا قول ہے: وہ ہجرت سے ستائیس (۲۷) سال پہلے پیدا ہوئیں اور ۲۳ھ کے ابتدائی دور تک زندہ رہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اپنے بیٹے (کی شہادت) کے بعد بیس (۲۰) دن زندہ رہیں، بعض نے کچھ اور کہا ہے۔

اس کا حوالہ پہلے گزر چکا ہے۔

### ۱۰۷۹۶ اسماء بنت عبد اللہ بن مسافع

بن ربیعہ، قیس بن مخرہ کی والدہ ہیں، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے شعر میں ان کا ذکر ہے۔

### ۱۰۷۹۷ اسماء بنت عدی

بن عمرو، ان کا ذکر بعد والی صحابیہ کے حالات میں آ رہا ہے۔

### ۱۰۷۹۸ اسماء بنت عمرو بن عدی

بن تابی بن سواد بن غنم بن کعب بن سلمہ الانصاریہ السلمیہ۔ معاذ بن جبل کی والدہ ہیں، ان کی کنیت اُم شیخ ہے۔ ابن اسحاق \* نے صحیح سند کے ساتھ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ وہ اور نسبیہ بنت کعب ان ستر لوگوں کے ساتھ تھیں جو عقبہ میں حاضر تھے اور تجرید میں فرمایا \* اور کہا گیا ہے کہ وہ اسماء بنت عدی بن عمرو ہیں۔

### ۱۰۷۹۹ اسماء بنت عمرو بن مخرہ

اسماء بنت مخرہ کے حالات میں ان کا ذکر آئے گا۔

### ۱۰۸۰۰ اسماء بنت عمیس \*

بن معد (بروزن سعد) اس کے شروع میں میم ہے۔ ابن حبیب نے اسے قلمبند کیا ہے اور استیعاب میں عین کے فتح کے ساتھ معد ہے۔ جس کا تعاقب کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے ابن الحارث بن تیم بن کعب بن مالک بن ثحافہ بن عامر بن ربیعہ بن غانم بن معاویہ بن زید الخثعمیہ، اور کہا گیا ہے: عَمِیس ابن نعمان بن کعب اور باقی اسی طرح ہے۔

میمونہ بنت حارث کی ماں شریک بہن ہیں، جو نبی کریم ﷺ کی زوجہ ہیں اور کئی صحابیات کی باپ شریک یا ماں شریک یا حقیقی بہن ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ ان کی تعداد نو ہے اور بعض نے کہا کہ ماں شریک دس، حقیقی بہنیں چھ ہیں، جن میں سے ایک خولہ بنت عوف بن زہیر ہیں، اور ابو عمر کی کتاب میں خولہ کی جگہ ہند لکھا ہے۔ ابو عمر کہتے ہیں کہ وہ ان مہاجر خواتین میں سے ہیں جنہوں نے اپنے خاوند ابوطالب کے ہمراہ حبشہ ہجرت کی، وہاں ان کی اولاد ہوئی۔ جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو بعد میں سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان سے شادی کر لی جس سے ان کے ہاں محمد \* پیدا ہوئے پھر ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شادی کی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں عون کی ولادت ہوئی، ابو عمر کہتے ہیں کہ اس روایت میں ابن کلبی تنہا ہیں، جو اس طرح کہا ہے۔

ابن سعد رضی اللہ عنہ \* نے بحوالہ واقدی ذکر کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاں اُن سے عون اور یحییٰ پیدا ہوئے اور ابن سعد ہی نے بحوالہ واقدی، وہ محمد بن صالح سے وہ یزید بن رومان سے نقل کرتے ہیں کہ دار ارقم میں داخل ہونے سے پہلے اسماء مسلمان

\* أسد الغابة (ت: ۶۷۰۵) الاستیعاب (ت: ۳۲۷۴) تجرید اسماء الصحابة (۲/۲۴۴)

\* السيرة النبوية (۲/۶۳) \* تجرید (۱۸۰) \* أسد الغابة (ت: ۶۷۰۶) تجرید اسماء الصحابة (۲/۲۴۴)

\* جامع المسانید والسنن (۱۵/۲۴۸) \* الطبقات الكبرى (۸/۲۰۵)

ہو گئی تھیں۔ پھر بیعت کر کے جعفر کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئیں جہاں عبداللہ، محمد اور عون پیدا ہوئے۔ جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان سے شادی کر لی۔ ابن وہب رحمہ اللہ نے بحوالہ عمرو بن الحارث، سعد بن ابی ہلال سے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے جنگ حنین کے دن اسماء بنت عمیس کی سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے شادی کرائی، اس بات کو عمر بن خطاب نے کتاب مکہ میں نقل کیا ہے۔ اور یہ اچھی سند والی مرسل روایت ہے۔ حضرت اسماء نبی علیہ السلام سے روایت کرتی ہیں اور ان سے ان کے بیٹے عبداللہ بن جعفر، پوتے قاسم بن محمد بن ابوبکر اور عبداللہ بن عباس جو ان کے بھانجے اور لبابہ بنت حارث کے بیٹے ہیں، اور ان کی دوسری بہن کے بیٹے عبداللہ بن شداد بن الہاد اور ان کی پوتی ام عون بنت محمد بن جعفر بن ابی طالب، اور ان کے علاوہ سعید بن المسیب اور عروہ بن زبیر اور دوسرے لوگوں نے روایت کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے خواب کی تعبیر پوچھتے تھے، جس کے متعلق ان سے اور ان کے علاوہ لوگوں سے کئی چیزیں منقول ہیں۔

بخاری کے باب هجرة الحبشة میں ابی بردہ بن ابی موسیٰ کی سند سے لکھا ہے وہ اپنے والد اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے نقل کرتے ہیں۔ پھر ایک حدیث ذکر کی اور اسماء رضی اللہ عنہا سے مراد یہی ہیں جن کے حالات بیان ہو رہے ہیں، کہا جاتا ہے کہ انہیں جب مصر میں اپنے بیٹے محمد کے قتل ہونے کی اطلاع ملی تو گھر کی مسجد میں نماز پڑھنے کھڑی ہو گئیں، اپنا غصہ پی لیا، یہاں تک کہ ان کے پستانوں سے خون بہنے لگا اور صحیح روایت میں ابوبردہ بحوالہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ان سے فرمایا: تمہارے لیے دو ہجرتیں اور لوگوں کے لیے ایک ہجرت ہے۔

ابن سعد رحمہ اللہ نے اس روایت کو شععی کی مراسیل سے نقل کیا ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! کچھ لوگ ہم پر فخر کرتے ہوئے یہ جتلاتے ہیں کہ ہم پہلے پہل ہجرت کرنے والوں میں سے نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیوں نہیں! تمہارے لیے دو ہجرتوں کا ثواب ہے۔ پھر کئی طرق سے یہ بات ذکر کی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس بات کی وصیت کی کہ (وفات کے وقت) ان کی بیوی اسماء بنت عمیس انہیں غسل دے۔

شععی رحمہ اللہ سے ابن السکن نے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے، فرمایا: اسماء بنت عمیس سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا تو ان کے دونوں بیٹوں محمد بن جعفر اور محمد بن ابوبکر نے آپس میں ایک دوسرے پر فخر کیا، ان میں سے ہر ایک نے کہا میں تم سے زیادہ عزت والا ہوں اور میرا باپ تیرے والد سے زیادہ بہتر ہے۔ تو ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ انہوں نے کہا: میں نے جعفر سے زیادہ اچھا جوان نہیں دیکھا اور ابوبکر بوزھوں میں سب سے بہتر تھے، ان سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تو ہمارے لیے کیا باقی رہا؟

### ۱۰۸۰۱ اسماء بنت قرطہ

بن خنساء بن سنان النصار، فضل بن نعمان کی زوجہ ہیں۔ ابن سعد رحمہ اللہ نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔



### ۱۰۸۰۲ اسماء بنت کعب

ان کا ذکر اسماء بنت نعمان کے حالات میں ہے۔

### ۱۰۸۰۳ اسماء بنت مُحرز

بن عامر بن مالک بن عدی بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار، ابن سعد رضی اللہ عنہ نے ان کا ذکر کیا ہے اور فرمایا ان کی والدہ اُمّ سہل بنت اُبی خارجہ ہیں، ان سے ابو بکر بن عبید نے نکاح کیا جس سے بشیر اور جعد پیدا ہوئے، ابن ماکولا رضی اللہ عنہ نے تحریر میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۰۸۰۴ اسماء بنت مغربہ

ان کا نسب اسماء بنت سلامہ بن مغربہ کے ترجمہ میں گزر چکا ہے۔ بلا ذری رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ معمر بن شعی کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ ہشام بن مغیرہ نجران آئے، وہاں اسماء بنت مغربہ کو دیکھا۔ بعض نے کہا: بنت عمرو بن مُخَوَّبہ بن جندل بن ابیر بن نَہشل بن دارم، یہ انہیں بھلی لگیں اور نکاح کر کے مکہ لے آئے، ان سے ابو جہل اور حارث پیدا ہوئے۔ جب وہ فوت ہوئے تو ان سے عبداللہ بن ابی ربیعہ بن المغیرہ نے شادی کی، جس سے عیاش پیدا ہوئے جو کہ ابو جہل اور حارث کے ماں شریک بھائی تھے۔

ابن سعد رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے، ان سے عبداللہ اور ام جحیر بھی پیدا ہوئے، اور محمد بن سعد نے کہا کہ وہ حالت کفر میں فوت ہوئیں، یہ ان کے بیٹے عیاش کی مدینہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اور بعض نے کہا کہ وہ اسلام لائیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت پائی اور یہ زیادہ صحیح ہے۔

پھر واقدی رضی اللہ عنہ کی سند سے ایک روایت بیان کی جو انہوں نے عبدالحمید بن جعفر، ابو عبیدہ بن محمد بن عمار کے حوالے سے نقل کی کہ انہوں نے ربیع بنت مُعَوِذ سے سنا، فرماتی ہیں: میں انصار کی عورتوں کے ساتھ اسماء بنت مغربہ کے پاس آئی، وہ ابو جہل کی ماں ہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی بات ہے۔ ان کا بیٹا عیاش بن عبداللہ بن ابوربیعہ ان کے پاس یمن سے عطر بھیجا کرتا تھا۔ وہ یہ عطر ہدیہ دینے والی عورتوں کے ہاتھ پہنچتی تھیں، اس نے مجھ سے کہا: تو اپنے سردار کے قاتل کی بیٹی ہے۔ میں نے کہا: نہیں! میں غلام کے قاتل کی بیٹی ہوں۔ کہنے لگیں: مجھ پر حرام ہے کہ میں تمہیں عطر پہنوں۔ میں نے کہا: مجھ پر حرام ہے کہ میں اس میں سے کچھ خریدوں، میں نے تمہارے عطر سے زیادہ بدبودار شے نہیں دیکھی۔ اور ایک روایت میں ہے: اللہ کی قسم! یہ خوشبودار عطر نہیں ہے۔ اللہ کی قسم! میں نے اس سے اچھا عطر نہیں سونگھا، لیکن میں نے غصے کی وجہ سے یہ کہہ دیا۔

میں نے کہا: یہ وہ اشعار کہنے والی ہیں جنہوں نے ننگے طواف کیا تھا۔

”آج سارا یا کچھ بدن ظاہر ہو جائے گا، تو جو اس سے ظاہر ہوگا میں اسے حلال نہیں کروں گی، بہت سے عقل و

تحریر اسماء الصحابة (۲۵۵/۲) الطبقات الکبریٰ (۳۰۹/۸) الاکال (۲۴۳/۲)

أسد الغابة (ت: ۶۷۰۷) تحریر اسماء الصحابة (۲۴۵/۲)

دانش والے اور دیکھنے والے کو گمراہ کر دے گی، جس کی میں وجہ بیان کر رہی ہوں۔“

بعض نے کہا کہ یہ آیت ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ یعنی ہر عبادت کے وقت اپنی زینت کو اختیار کرو اس کے بارے میں نازل ہوئی اور صحیح مسلم میں ہے۔ ابو عمرؒ نے فرمایا: ان کی بھتیجی کے حالات میں اسماء بنت سلامہ ہیں۔ وہ ام عبداللہ بن عیاش بن ابی ربیعہ ہیں۔ ام عیاش ان کا نام ہے، اسی طرح اسماء بنت مخربہ بھی ہیں، جو ابو جہل اور حارث بن ہشام کی ماں ہیں۔ یہی اسماء بنت مخربہ اور ام الجلاس ہیں، عبداللہ اور عیاش کی والدہ ہیں جو ابو ربیعہ کے بیٹے ہیں۔

ان سے عبداللہ بن عیاش اور ربیع بنت معوذ نے روایت کیا ہے، اور اسحاق بن محمد القروی کے سلسلے سے سند بیان کی ہے جو انہوں نے عبدالرحمن بن ابوزناد سے، انہوں نے عبدالرحمن بن حارث سے، انہوں نے اپنے بھائی عبداللہ بن حارث سے، جنہوں نے عبداللہ بن عیاش بن ابوربیعہ سے سنا، فرماتی ہیں: نبی کریم ﷺ ابو ربیعہ کے کسی گھر میں عیادت کرنے یا کسی اور وجہ سے تشریف لائے تو حضرت اسماء التیمیہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، ان کی کنیت ام الجلاس تھی، اور یہ ام عیاش بن ابی ربیعہ ہیں۔ یا رسول اللہ ﷺ مجھے وصیت کیجئے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اے ام الجلاس! اپنے بھائی کے ساتھ وہ معاملہ کرو جو تم پسند کرتی ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کرے، اور اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرو جو تم چاہتی ہو کہ وہ تمہارے لیے پسند کرے۔ پھر نبی کریم ﷺ عیاش کے بچوں میں سے ایک بچے کے پاس تشریف لائے، ام الجلاس نے نبی کریم ﷺ سے اس کی بیماری کا ذکر کیا، نبی کریم ﷺ اس پر جھاڑ پھونک کرنے لگے، بچہ بھی ایسا کرنے لگا، بعض گھر والوں نے بچے کو روکا تو نبی کریم ﷺ نے انہیں روکا۔

میں کہتا ہوں کہ ربیع بنت معوذ اور عبداللہ بن عیاش دونوں کے قصوں میں گٹھڑ کر دیا ہے۔ ربیع کا قصہ تو اس اسماء بنت مخربہ کے ساتھ پیش آیا ہے جن کے صحابیہ ہونے میں اختلاف ہے۔ اور عبداللہ بن عیاش کا قصہ جو اس حدیث میں ہے وہ ان کی والدہ ہیں، جن کے صحابیہ ہونے پر اتفاق ہے۔ جبکہ زبیر بن بکار نے دونوں عورتوں میں فرق کیا ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے حارث بن ہشام کا ذکر کیا تو کہا وہ عمرو یعنی ابو جہل کے حقیقی بھائی ہیں۔ دونوں کی والدہ اسماء بنت مخربہ ہیں۔ ان دونوں کے ماں شریک بھائی عبداللہ بن عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عیاش بن عبداللہ بن ابی ربیعہ ہیں۔ پھر ان کی ہجرت، ماں کی قسم اور ان کے مکہ لوٹنے کا ذکر کیا اور جب عبداللہ بن عیاش بن ابی ربیعہ اور ان کی والدہ اسماء بنت سلامہ بن مخربہ کا ذکر کیا تو کہا۔

میں کہتا ہوں جس قصے میں ان کی طرف اشارہ ہے۔ اس کا ابن اسحاق رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا ہے۔

### ۱۰۸۵ اسماء بنت مرثد

بنی حارثہ سے ہیں۔ ابو عمرؒ نے ان کا ذکر کیا ہے، ان سے حدیث صحیح نہیں، حرام بن عثمان ان سے روایت کرنے میں منفرد ہیں، وہ سب کے نزدیک ضعیف ہیں۔ اسماعیل بن اسحاق قاضی نے احکام میں ان سے متصل روایت بیان کی ہے، روایت در اور دی کی سند سے اور ابن مندہ نے ابراہیم بن طہمان کے سلسلے سے بیان کی ہے۔ دونوں نے حرام بن عثمان اور عبدالرحمن،

سورة الاعراف الآية (۳۱) الاستيعاب (۱۷۸۳/۴)

أسد الغابة (ت: ۶۷۰۸) الاستيعاب (ت: ۳۲۷۶) تجريد أسماء الصحابة (۲/۲۴۵)

الاستيعاب (۱۷۸۵/۴)

محمد سے جو جابر کے بیٹے ہیں، اور ابوعبید بن عبد اللہ سے اور انہوں نے جابر بن عبد اللہ سے روایت کی ہے کہ اسماء بنت مرثد بنو حارثہ کی بہن ہیں۔ نبی کریم ﷺ کے پاس آئیں اور عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ! مجھے طہر کے تین چار دن بعد پھر حیض آ جاتا ہے۔ کیا مجھ پر نماز حرام ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم (حیض کا خون) دیکھو تو تین دن رات ٹھہر جاؤ، پھر پاک ہو کر نماز پڑھو۔“

میں کہتا ہوں: ابن سعد رحمہ اللہ نے ”الطبقات“ میں اسماء بنت مرثدہ (ہاء زیادہ کیا ہے) بن جبیر بن مالک بن خویث بن خارجہ اور فرمایا: ان کی والدہ سلامہ بنت مسعود ہیں، اور لکھا ہے کہ ان سے ضحاک بن خلیفہ نے شادی کی، جس سے ثابت، ابوبکر، ابوجسن، عمر، ثمود، بکرہ، حمادہ اور صفیہ پیدا ہوئے۔ محمد بن سلمہ نے ثمود سے شادی کی۔

راوی نے کہا کہ اسماء اسلام لائیں اور بیعت کی۔

میں کہتا ہوں کہ یوں لگتا ہے کہ یہ وہی ہیں جن کا حدیث جابر میں ذکر ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے علاوہ ہوں۔

### اسماء بنت النعمان (۱۰۸۰۶)

بن حارث بن شراحیل، بعض نے کہا ہے کہ بنت نعمان بن الاسود بن حارث بن شراحیل الکندیہ، ابوعمر نے لکھا ہے: اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ان سے نکاح کیا تھا۔ لوگوں نے ان کے فراق کے قصے میں اختلاف کیا ہے، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ قتادہ رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ اسماء بنت نعمان ہیں۔ بنو حارث سے ان کا تعلق ہے۔ نبی کریم ﷺ کے پاس بھیجی گئیں تو آپ ﷺ نے انہیں بلایا، وہ کہنے لگیں: آپ ہی آ جائیں اور آنے سے انکار کر دیا۔

قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: انہوں نے نبی ﷺ سے کہہ دیا تھا میں آپ ﷺ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، تو آپ ﷺ نے فرمایا: تو نے اس کی پناہ لی جس کی پناہ لی جاتی ہے۔ یہ بات جھوٹ ہے۔ یہ بات جس عورت نے کی تھی وہ اور ہے جس کا تعلق بنی سلیم سے تھا۔ ابوعبیدہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں نے آپ ﷺ سے اللہ کی پناہ مانگی تھی، ابوعبیدہ کے علاوہ کسی نے کہا ہے کہ پناہ طلب کرنے والی عورت کا تعلق بنو عمنر سے تھا جو ذات الشقوق کے قیدیوں میں سے خوبصورت عورت تھی، تو آپ ﷺ کی ازواج کو خدشہ ہوا کہ کہیں یہ ہمارے مقابلے میں آپ ﷺ پر اپنے حسن کا جادو نہ چلا دے۔

عبداللہ بن محمد بن عقیل کہتے ہیں: کندیہ وہ بد بخت عورت ہے جس نے آپ ﷺ سے جدائی کا مطالبہ کیا تھا اور کہا تھا کہ اسے اس کی قوم کی طرف واپس کر دیا جائے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے ایسا ہی کیا اور ابواسید رضی اللہ عنہ کے ہمراہ اسے واپس بھیج دیا۔

دیگر حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اسماء بنت نعمان کندیہ خوبصورت عورت تھی، آپ ﷺ کی ازواج کو اندیشہ ہوا کہ آپ ﷺ پر ہمارے مقابلے میں اس کا حسن کہیں چھانہ جائے، تو ان سب نے اس سے کہا: آپ ﷺ یہ پسند کرتے ہیں کہ جب وہ تمہارے قریب آئیں تو تم کہہ دینا میں آپ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ بعد میں وہ اپنے آپ کو بد بخت کہتی

جامع المسانید والسنن (۲۶۵/۱۵)

الطبقات الکبریٰ (۲۴۵/۸)

أسد الغابۃ (ت: ۶۷۰۹) الاستیعاب (ت: ۳۲۷۷) تجرید أسماء الصحابة (۲۴۵/۲)

الاستیعاب (۱۷۸۵/۴)

تھی۔ اور جرجانی نے اضافہ کیا ہے کہ اس کے بعد وہ مہاجر بن ابوامیہ خزومی کے نکاح میں آئیں پھر قیس بن مکشوح المرادی سے شادی ہوئی۔

ابوعمر \* نے لکھا ہے: بعض نے ان کا نام امیہ بنت نعمان اور بعض نے امامہ بتایا ہے۔ جبکہ زیادہ اختلاف واضطراب کند یہ اور ان کے ساتھ کی ان عورتوں میں ہے جن سے آپ ﷺ نے صحبت نہیں کی۔

میں کہتا ہوں: محمد بن حبیب نے ان عورتوں کے فضائل میں جن سے آپ ﷺ نے صحبت نہیں کی جو قول پہلے مذکور ہو چکا اسی جیسا قول ذکر کیا ہے، اور کہا ہے کہ وہ عورتوں میں سے حسین و جمیل تھیں۔ پھر عورتوں کا ان کے ساتھ اور ان کی جدائی کا قصہ ذکر کیا اور یہ کہ مہاجر نے اور پھر قیس بن مکشوح نے ان سے شادی کی تھی۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو نیہ بھی کندہ کی ایک عورت ہے جسے ابواسید الساعدی لائے۔ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما اس کی دیکھ بھال پر مقرر ہوئیں۔ ان میں سے ایک اس سے کہنے لگی: آپ ﷺ کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ جب کوئی عورت آپ ﷺ کے پاس (بیوی بن کر) آئے اور یوں کہے: میں آپ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، پھر سارا قصہ ذکر کیا۔

میں کہتا ہوں: صحیح بخاری \* میں اوزاعی کی سند سے جو نیہ کے بارے میں ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے زہری رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، نبی کریم ﷺ کی کس زوجہ نے آپ سے پناہ چاہی تھی۔ فرمایا: مجھے عروہ رضی اللہ عنہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے بتایا فرماتی ہیں کہ جون قبیلہ کی عورت نبی کریم ﷺ کے نکاح میں آئی جب آپ ﷺ اس کے قریب ہوئے تو کہنے لگی: میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، آپ ﷺ نے فرمایا: تم نے بڑی ذات کی پناہ مانگی ہے، اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ۔

اور حمزہ بن ابی اسید کی سند سے بحوالہ ابواسید نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ باہر نکلے، چلتے چلتے ”شوط“ نامی ایک باغ میں پہنچے، آپ ﷺ نے فرمایا: یہاں بیٹھ جاؤ۔ آپ ﷺ اندر داخل ہوئے، جو نیہ کو لایا جا چکا تھا۔ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں ٹھہری ہوئی تھیں، ان کے ساتھ ان کی سواری تھی۔ جب آپ ﷺ اس کے پاس گئے، اس سے فرمایا: اپنی جان میرے سپرد کر دو، وہ کہنے لگی: بھلا کوئی ملکہ کسی غلام کو اپنی جان کا ہبہ کر سکتی ہے؟ آپ ﷺ نے اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اس پر ہاتھ رکھنا چاہا تو جھٹ سے بولی: آپ سے اللہ کی پناہ، آپ ﷺ نے (ہاتھ کھینچ کر) فرمایا: جس کی پناہ لی جاتی ہے، تو نے اس کی پناہ مانگی۔ پھر راوی نے وہ حدیث نقل کی۔

ابن سعد \* نے کئی طرق سے جو سارے کے سارے واقعی رضی اللہ عنہ سے منقول ہیں نقل کیا ہے کہ جو نیہ نے نبی ﷺ سے پناہ مانگی تھی، پھر اس میں اختلاف ہے کہ آیا وہ نعمان کی بیٹی تھی یا بہن؟ عبد اللہ بن جعفر خزومی کے حوالے سے اس کا نام امیہ بتایا ہے۔ ابن سعد رضی اللہ عنہ ہی نے ہشام بن محمد جو ابن کلبی ہے، کے واسطے سے ابن الغلیل رضی اللہ عنہ جن کی روایت امام بخاری رضی اللہ عنہ \* نے نقل کی ہے، نقل کیا ہے، اور اس میں یہ اضافہ ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حفصہ رضی اللہ عنہا نے یا حضرت حفصہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا: تم اس کا بناؤ سگھار کرو، میں اس

\* استیعاب (۱۷۸۷/۴) بخاری (الحديث: ۵۲۵۴)

\* الطبقات الكبرى (۱۰۴/۶) بخاری (الحديث: ۵۲۵۵)

کی تکمیل کرتی ہوں۔ جب دونوں یہ کام کر چکیں تو ان میں سے ایک نے اسے کہا: انہیں عورت کی یہ بات پسند ہوتی ہے جب وہ ان کے پاس آئے کہ وہ کہہ دے آپ سے اللہ کی پناہ۔ چنانچہ جب وہ اندر بھیجی گئیں، دروازہ بند کر کے پردے لٹکا دیئے گئے، آپ ﷺ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے کہا: اللہ کی پناہ، آپ ﷺ نے اپنی آستین کو چہرہ پر ڈال کر تین بار فرمایا: تو نے اس کی پناہ مانگی جس کی پناہ مانگی جاتی ہے، پھر میرے پاس آ کر فرمایا: ابواسید! اسے دو کہانی جوڑوں کے ساتھ اس کے گھر پہنچا دو، بعد میں وہ کہتی رہتی تھیں: مجھے بد بخت کہو۔

اور عمر بن الحکم کی سند سے بحوالہ ابواسید اس قصے میں ہے، میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! میں آپ کے گھر والوں کو لے آیا، چنانچہ آپ باہر نکل کر چلنے لگے میں بھی آپ ﷺ کے ساتھ تھا، اور بیٹھ کر اسے چومنا چاہا، اور آپ ﷺ کی یہ عادت مبارکہ تھا کہ جب اپنی ازواج میں سے کسی کے ساتھ تنہا ہوتے تو ایسا کرتے، تو وہ جھٹ سے بولی: آپ سے اللہ بچائے۔ (الحدیث) اس میں موسیٰ بن عبیدہ ضعیف راوی ہے۔

عباس بن سہل کی سند سے بحوالہ ابواسید منقول ہے، فرمایا: جب میں اسے لے کر اس کی قوم کے سامنے ہوا تو چیخ کر کہنے لگے: تو بے برکت ہے۔ تو نے عرب میں ہماری کافی شہرت کرائی تھی، اب تمہیں کیا مصیبت پہنچی؟ وہ کہنے لگی: میں فریب خوردہ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے ابواسید سے کہا: اب میں کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا: اپنے گھر میں ٹھہری رہو اور سوائے محرم رشتہ داروں کے سب سے پردہ کرو، یوں کہ کسی کو تمہارے بارے کوئی خواہش نہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں فوت ہو گئیں۔

ابن کلبی رضی اللہ عنہ سے بحوالہ ان کے والد، وہ ابوصالح سے، وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اسماء بنت نعمان سے شادی کی، اور وہ اس دور کی سب سے خوبصورت عورت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگیں: آپ ﷺ نے کسی انوکھی چیز پر ہاتھ جادھرا ہے، ایسا نہ ہو وہ آپ ﷺ کو ہم سے لاپرواہ کر دے۔ آپ ﷺ نے انہیں نکاح کا پیغام اس وقت دیا تھا جب ان کے والد کندہ کے وفد میں آپ ﷺ کے پاس آئے تھے۔ آپ ﷺ کی ازواج نے جب انہیں دیکھا تو انہیں اس پر رشک ہوا اور ان سے کہہ دیا: اگر تم ان کے پاس کوئی مقام چاہتی ہو تو اس طرح کرنا.... پھر سارا واقعہ ذکر کیا۔

اسی سند سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ فرمایا: بعد میں اسماء بنت نعمان سے مہاجر بن ابی امیہ نے نکاح کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو سزا دینا چاہی تو وہ بولیں: اللہ کی قسم! پردہ مجھ پر مسلط نہیں کر دیا گیا اور نہ مجھے ام المومنین کہا گیا۔ تو آپ ﷺ نے یہ ارادہ ترک کر دیا۔ واپسی کے وقت سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ مجھے یہ اطلاع ملی کہ عکرمہ بن ابی جہل نے زمانہ ارتداد میں ان سے شادی کر لی تھی، لیکن اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ اور سعید بن عبدالرحمن بن ابزی کی سند سے منقول ہے کہ سوائے بھنیہ کے کسی نے پناہ نہیں مانگی۔ ادھر ابن سعد رضی اللہ عنہ نے واپسی کے حوالے سے اپنی سند کے ذریعے جونیہ کا لمبا قصہ ذکر کیا ہے۔ (ہمارے ہاں) نعمان بن ابی الحکم کے سوانح میں وہ قصہ پہلے ذکر ہو چکا ہے جس کے آخر میں ہے کہ یہ واقعہ نو (۹) ہجری ربیع الاول میں پیش آیا۔

## ۱۰۸۰۷ اسماء بنت یزید \*

بن اسکن بن رافع بن امری القیس بن زید بن عبداللہ بن اسلم بن حارث الانصاریہ اوسہ پھر اشہلیہ۔ ابوعلی بن سکین نے لکھا ہے: یہ معاذ بن جبل کی چچا زاد ہیں، ان کی کنیت ام سلمہ تھی، اور انہیں خطیبہ النساء (عورتوں کی خطیب) کہا جاتا تھا۔

انہوں نے نبی کریم ﷺ سے کئی احادیث روایت کی ہیں۔ حسن سند سے ابوداؤد نے ان سے روایت کی ہے۔ فرماتی ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ سے فرماتے ہوئے سنا: ”اپنی اولاد کو اے عورتو! خفیہ قتل مت کرو، اس لیے کہ دھوکے کا قتل شہسوار کو پالیتا ہے اور اسے گھوڑے سے گرا دیتا ہے۔“

محمود بن عمرو انصاری جو ان کے بھانجے ہیں، انہوں نے ان سے روایت کی ہے۔ اور مہاجر بن ابی مسلم جو ان کے غلام ہیں، اور شہر بن حوشب نے بھی ان سے احادیث نقل کی ہیں۔ ابن سکین رضی اللہ عنہ نے فرمایا: وہ ان سے سب سے زیادہ روایت کرنے والے ہیں۔ ان کی کئی احادیث احمد رضی اللہ عنہ کی مسند میں ہیں۔ اور ابن سعد نے لکھا ہے کہ انہوں نے دوسری صحابیات کے ساتھ نبی کریم ﷺ سے بیعت کی اور اس روایت میں یہ الفاظ ہیں: ”میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔“

ترمذی رضی اللہ عنہ نے یزید بن عبداللہ اشجینی کی سند نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ میں نے شہر بن حوشب سے فرماتے ہوئے سنا کہ ہم سے ام سلمہ الانصاریہ رضی اللہ عنہا نے روایت کی، فرماتی ہیں کہ آپ ﷺ سے بیعت کرنے والی خواتین میں سے ایک صحابیہ نے آپ ﷺ سے پوچھا: کیا ہمارے لیے آپ ﷺ کی نافرمانی کا کوئی عذر باقی بچتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں۔ اسی مفہوم کی حدیث ہے۔

عبد بن حمید کہتے ہیں: ام سلمہ انصاریہ رضی اللہ عنہا وہی اسماء بنت یزید بن سکین ہیں جو جنگ یرموک میں شریک تھیں اس دن انہوں نے خیمے کے کھونٹے سے نو (۹) رومی قتل کر دیے تھے۔ اس کے بعد بھی کافی عرصہ زندہ رہیں۔

## ۱۰۸۰۸ اسماء انصاریہ

مسعود بن حکم کی والدہ۔ ابن سکین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کا نام اسماء ہے۔ ابن سکین کے علاوہ علماء کہتے ہیں کہ ان کا نام حبیبہ بنت شریق کنیتوں میں آ رہا ہے۔

## ۱۰۸۰۹ اسیرہ \*

(تغیر سے) انصاریہ۔ بعض سیرہ کہتے ہیں۔ ابو عمر نے ان کا مختلف ذکر کیا ہے۔ حرف ”یاء“ میں دوبارہ ان کا ذکر کیا ہے۔ ابن اثیر اور ذہبی رضی اللہ عنہ نے اس پر تنبیہ نہیں کی کہ دونوں ایک عورت کے نام ہیں۔

\* اسد الغابۃ (ت: ۶۶۰) تجرید اسماء الصحابة (۲/۲۴۵) مسند احمد (الحديث: ۶/۶۶۱)

\* اسد الغابۃ (ت: ۶۷۱۲) تجرید (۲/۲۴۵) الاستیعاب (۴/۱۷۸۸)



## ۱۰۸۱۰ اسیرہ بنت عمرو الجمحیہ

ام سعد، ابن سکین رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا ہے، کتنوں میں آ رہا ہے۔

## ۱۰۸۱۱ امامہ بنت بشر

بن قش انصاریہ، عباد بن بشر کی بہن ہیں۔ اسلام لائیں اور بیعت کی، یہ ابن سعد رضی اللہ عنہ کا بحوالہ واقدی رضی اللہ عنہ قول ہے۔ فرماتے ہیں: ان کی والدہ فاطمہ بنت بشر بن عدی خزرجیہ ہیں، ان کے خاوند محمود بن مسلمہ ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ علی نا اسد بن عبیدہ بن سعید کی والدہ ہیں۔

## ۱۰۸۱۲ امامہ بنت حارث

بن عوف، بعض نے کہا ہے کہ وہ برصا ہیں جو شیب بن برصاء کی والدہ ہیں اور بعض نے کہا ہے کہ ان کا نام قرصافہ ہے۔

## ۱۰۸۱۳ امامہ بنت حمزہ

بن عبدالمطلب ہاشمیہ، ابو جعفر بن حبیب نے کتاب النحر میں لکھا ہے: جب رسول اللہ ﷺ عمرہ سے واپس آئے تو اپنے ساتھ امامہ بنت حمزہ بن عبدالمطلب کو بھی لے لیا، جب مذکورہ امامہ آگئیں تو اپنے والد کی قبر کے بارے میں پوچھنے لگیں، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی تو کہا:

”وہ ایک بہادر، شریف النسل سردار کے بارے میں پوچھتی ہے جو جنگ کے موقع پر صبح کے وقت حملہ کرنے والا جرأت مند انسان تھا۔ میں نے اس سے کہا: اے امامہ! شہادت راحت اور رب غفور کی رضا مندی ہے، اسے مخلوق کے پروردگار عرش والے نے ایسی جنت کی طرف بلایا ہے جس میں رضا مندی اور خوشی ہے۔“

ایسا ہی ابن کلبی رضی اللہ عنہ نے ان کا نام امامہ لیا ہے۔ جبکہ واقدی رضی اللہ عنہ نے عمارہ بتایا ہے۔

صحیحین میں برام کی حدیث سے ان کا ذکر ثابت ہے۔ چنانچہ عمرۃ القضاء کے قصے میں ذکر کرتے ہیں۔ جب یہ لوگ نکلے تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی ”اے میرے چچا زاد“ پکارتی ہوئی ان کے پیچھے ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا: اپنے والد کے چچا کی بیٹی کو لے لو، پھر ان کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، جعفر بن ابی طالب اور زید بن حارثہ کا نزاع ہوا۔ (الحدیث)

اس میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے: (یا رسول اللہ ﷺ) میرے پاس اس کی خالہ ہے، اور نبی علیہ السلام کا ارشاد: خالہ ماں کے درجے میں ہے: اور ان کی والدہ کا نام سلمیٰ بنت عمیس تھا، اور ان کی بہن اسماء بنت عمیس جعفر بن ابی طالب کی اہلیہ تھیں۔

اور ابن سکین رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ ابواسحاق رضی اللہ عنہ کی سند سے نقل کیا ہے۔ انہوں نے ہمیرہ بن مریم اور ہانی بن ہانی سے اور ان سب نے علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے عمرۃ القضاء کا قصہ ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں: دختر حمزہ رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے چل

اسد الغابہ (ت: ۶۷۱۳) تجرید (۲/۲۴۶) الطبقات الکبریٰ (۸/۲۳۶)

اسد الغابہ (ت: ۶۷۱۵) تجرید (۲/۲۴۶) الطبقات الکبریٰ (۸/۱۵۸)

پڑیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: اپنے والد کے چچا کی بیٹی سنبھال لو۔ (الحدیث)

خطیب رضی اللہ عنہ نے بھی ”مہمبات“ میں ذکر کیا ہے کہ ان کا نام امامہ تھا، البتہ یہ اضافہ کیا ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے سلمہ بن ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ان کی شادی کر دی تو فرمایا: کیا میں نے سلمہ کو بدلہ دے دیا؟ جس کی وجہ یہ ہے کہ سلمہ ہی نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی شادی رسول اللہ ﷺ سے کی تھی۔

ذیل میں ابوموسیٰ نے صرف خطیب کی طرف سے اسے نقل کیا ہے۔ سلمہ کے سوانح میں سلمہ سے ان کی شادی کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ لیکن اس روایت میں ان کا نام نہیں لیا گیا۔ ابن السکن نے روایت کیا ہے کہ بقول بعض ان کا نام فاطمہ ہے۔

### ۱۰۸۱۳ امامہ بنت خدیج الانصاری

رافع بن خدیج کی ہمشرہ، اسلام لانے کے بعد بیعت رسول ﷺ سے سرفراز ہوئیں اور اسید بن ظہیر سے شادی ہوئی جن سے ثابت، محمد، ام کلثوم اور ام الحسن پیدا ہوئیں۔ ابن سعد \* نے ان کا ذکر کیا کہ ان کی والدہ حلیمہ بنت عروہ بن مسعود بن عامر بیاضیہ ہیں۔

### ۱۰۸۱۵ امامہ بنت ربیعہ بن حارث بن عبدالمطلب بن ہاشم، امیہ میں تذکرہ ہوگا۔

### ۱۰۸۱۶ امامہ بنت سفیان امیہ میں ذکر ہوگا۔

### ۱۰۸۱۷ امامہ بنت سماک \*

بن عتیک الاوسیہ الاشہلیہ، حارث بن اوس بن معاذ کی والدہ محترمہ، ابن الاثیر نے بحوالہ ابن حبیب اپنے استدراک میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ ابن سعد رضی اللہ عنہ \* لکھتے ہیں: ام حارث وہ ہیں جن کی بہن ہند بنت سماک ہیں۔ رہی امامہ تو وہ شریک بن انس بن رافع بن امری القیس کی اہلیہ ہیں جن کے ہاں عبداللہ، ام صخر، ام سلیمان اور حبیبہ پیدا ہوئے۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ اسلام لائیں اور بیعت کی۔

### ۱۰۸۱۸ امامہ بنت الصامت الانصاریہ \*

عبادہ بن صامت کی بہن ہیں۔ اسلام لائیں اور بیعت کی، یہ محمد بن سعد \* کا قول ہے۔

### ۱۰۸۱۹ امامہ بنت ابی العاص \*

بن ربیع بن عبد العزیٰ بن عبد شمس بن عبد مناف العجمیہ۔ رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی بیٹی ہیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کتاب النسب میں لکھا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا حضرت ابوالعاص کی زوجیت میں تھیں، جن سے امامہ اور علی

\* الطبقات الكبرى (۲۳۹/۸) أسد الغابة (ت: ۶۷۱۶) تجرید اسماء الصحابة (۲۴۶/۲)

\* الطبقات الكبرى (۲۳۷/۸) تجرید اسماء الصحابة (۲۴۶/۲)

\* الطبقات الكبرى (۲۷۵/۸) أسد الغابة (ت: ۶۷۱۷) تجرید (۲۴۶/۲)

وئے۔ صحیحین کی حدیث ابوقادہ میں ان کا ذکر ثابت ہے۔ آپ ﷺ حضرت امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہا کو اپنے کندھے پر اٹھا، جب سجدہ کرتے تو انہیں اتار دیتے اور جب قیام کرتے تو انہیں اٹھا لیتے۔ بخاری، مسلم دونوں نے اسے مالک کی روایت سے لیا ہے۔ جو انہوں نے عامر بن عبد اللہ بن زبیر سے لی ہے۔

ابن سعد رحمہ اللہ نے اسے لیث کی روایت سے نقل کیا ہے، انہوں نے سعید المقبری اور انہوں نے عمرو بن سلیم سے نقل کیا۔ انہوں نے ابوقادہ سے فرماتے ہوئے سنا، ہم رسول اللہ ﷺ کے دروازے پر تھے۔ جب آپ ﷺ امامہ بنت ابوالعاص بن اکوٹھاٹے ہوئے باہر تشریف لائے، اور ان کی والدہ رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا تھیں۔ حضرت امامہ اس چھوٹی بچی تھیں۔ آپ ﷺ نے نماز ادا فرمائی اور وہ آپ ﷺ کے کندھے پر ہوتیں جب آپ ﷺ قیام فرماتے، آپ ﷺ اٹھا کر نماز ادا فرماتے۔

حماد بن سلمہ کی سند سے روایت ہے، انہوں نے علی بن زید سے، انہوں نے ام محمد اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا کہ رسول اللہ ﷺ کو ہدیہ دیا گیا جس میں سفید اور سیاہ مہروں کا ہار بھی تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں اسے اپنے گھر میں سے سب سے محبوب کو دوں گا۔“ عورتیں کہنے لگیں: آپ اسے ابوقادہ کی بیٹی کو دیں گے۔ رسول اللہ ﷺ نے امامہ زینب کو بلایا اور ان کے گلے میں ڈال دیا۔

ابن سعد نے اسے حماد بن زید کی روایت سے نقل کیا ہے۔ انہوں نے علی بن زید سے مرسل روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں اس روایت میں ہے: تم میں سے جو زیادہ رشتہ دار ہے، یہ ہار میں سے دوں گا۔ اسی روایت میں ہے، پھر آپ ﷺ نے ناص کی بیٹی جو حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے تھی اسے بلایا اور اپنے ہاتھ سے وہ ہار ان کے گلے میں باندھا، البتہ یہ اضافہ کیا ہے ان کی پر آنکھ کا میل تھا آپ ﷺ نے اسے اپنے ہاتھ سے صاف کر دیا۔

امام احمد رحمہ اللہ نے ابن اسحاق کے طریق سے بحوالہ یحییٰ بن عباد بن عبد اللہ بن زبیر، ان کے والد، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کیا ہے کہ نجاشی نے نبی کریم ﷺ کی طرف زیور ہدیہ بھیجا، اس میں سونے کی انگوٹھی تھی، اس کا نگینہ حبشہ کا تھا۔ آپ ﷺ نے وہ امامہ کو عطا کی۔ ابو عمر فرماتے ہیں: ان سے علی بن ابی اوطالب نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بعد نکاح کیا، اس کے بعد زبیر بن عوام شادی کرائی، ان کے والد نے ان کے متعلق زبیر کو نکاح کی وصیت کی تھی، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور امامہ ان سے زنا امید ہو گئیں تو ام ابیہشم نخعی نے کہا:

”میری مینڈھیاں سفید اور میرے گھٹنے امامہ نے اس وقت ناکارہ کر دیئے جب (اپنے) جوڑے سے جدا ہوئی۔ وہ اپنی ضرورت کے لیے اس کے ارد گرد چکر لگاتی ہے اور جب زنا امید ہوئی تو آواز بلند کر دی۔“

فرمایا: جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مغیرہ بن نوفل بن الحارث کو حکم دیا تھا کہ وہ امامہ بنت ابی العاص سے نکاح کر لیں، پھر سے مغیرہ نے نکاح کر لیا، جس سے یحییٰ پیدا ہوئے، اسی سے ان کی کنیت ہے، وہ مغیرہ کے پاس وفات پا گئیں، بعض نے کہا

ہے کہ ان کی حضرت علی وغیرہ سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔

زیر کہتے ہیں کہ نسب بنی النضر کی اولاد میں سے کوئی زندہ نہ رہا۔

عمر بن شہب فرماتے ہیں کہ ہم سے علی بن محمد النوفلی نے روایت کیا ہے، انہوں نے اپنے باپ سے اور انہوں نے اپنے گھر والوں سے روایت کیا ہے کہ حضرت علی بنی النضر کا جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہیں نے امامہ بنت العاص سے فرمایا: مجھے خوف ہے کہ تمہیں میری موت کے بعد یہ زور آور یعنی معاویہ نکاح کا پیغام دے گا، اگر تم نکاح کرنا چاہو میں اس بات پر راضی ہوں کہ مغیرہ بن نوفل سے نکاح کرو۔ جب ان کی عدت پوری ہو گئی تو معاویہ نے مروان کی طرف لکھا کہ وہ ان کی طرف سے انہیں (امامہ) نکاح کا پیغام دیں، اور ایک لاکھ دینار کی منگنی بھیجی۔ تو انہوں نے مغیرہ کی طرف پیغام بھیجا کہ اس نے مجھے منگنی بھیجی ہے۔ اگر تمہیں ہماری ضرورت ہو تو رُخ کرو۔ تو انہوں نے حسن بنی النضر کی طرف ان سے نکاح کا پیغام بھیجا۔ انہوں نے ان کا نکاح کر دیا۔

میں کہتا ہوں: نوفلی بہت ضعیف ہے۔ اس کی سند منقطع ہے، اور راوی اس میں مجہول ہے۔ لیکن ابو عمر فرماتے ہیں: بیہم، داؤد بن ابی ہند سے وہ شعی سے روایت کرتے ہیں، فرمایا: امامہ علی کی زوجیت میں تھیں، اور اسی مفہوم کی حدیث ذکر کی جو گزر چکی ہے۔ اور ابن سعد رحمہ اللہ نے واقدی سے اسی طرح حدیث روایت کی ہے۔ ابن سعد فرماتے ہیں: ہمیں ابن ابی فدیہ نے بحوالہ ابن ابی ذئب خبر دی ہے کہ امامہ بنت ابوالعاص نے مغیرہ بن نوفل سے کہا، معاویہ نے مجھے نکاح کا پیغام دیا ہے۔ انہوں نے کہا: کیا تم جگر کھانے والی کے بیٹے سے شادی کرو گی؟ اگر تم پیغام نکاح کو میرے لیے کر دو۔ کہنے لگی: جی ہاں! انہوں نے کہا میں نے تم سے نکاح کیا۔ ابن ابی ذئب کہتے ہیں: ان کا نکاح ہو گیا۔

دارقطنی رحمہ اللہ نے کتاب الاخوانہ میں لکھا ہے ان سے حضرت علی بنی النضر کے بعد مغیرہ بن نوفل نے نکاح کیا، بعض نے کہا ہے بلکہ ان سے بعد میں ابوالہیاج بن ایوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب نے نکاح کیا۔

### ۱۰۸۲۰ امامہ بنت عبدالمطلب ❀

ان کا ایک ضعیف حدیث میں ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح تجرید ❀ میں ہے۔ اور یہ امیہ ہیں جن کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اپنے والد کے دادا کی طرف منسوب ہیں، ان کا سلسلہ نسب یوں ہے: بنت ربیعہ بن حارث بن عبدالمطلب۔ ابن فہون لکھتے ہیں کہ ابو عمر نے عباد بن شیبان اسلام کے حالات میں ذکر کیا ہے کہ امامہ بنت عبدالمطلب ہیں۔

میں کہتا ہوں: ابن عبد البر کے الفاظ ہیں: عباد بن شیبان نے کہا ہے کہ میں نے امامہ بنت عبدالمطلب کے لیے نبی کریم ﷺ کی طرف پیغام نکاح بھیجا کہ آپ نے مجھ سے نکاح کر دیا، آپ ﷺ نے گواہ قائم نہیں کیے۔ بغوی نے اس کو لیا ہے، انہوں نے اس روایت کو حدیث عباد بن شیبان سے نقل کیا ہے۔ ابن فہون کہتے ہیں کہ ابو عمر نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ اگر یہ روایت صحیح ہے تو ابو عمر کا ان کے ذکر سے تغافل برتنا انتہائی تعجب خیز ہے۔

### ۱۰۸۲۱ امامہ بنت عثمان

بن خالد الانصاریہ زرقیہ، ابن سعد نے ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۰۸۲۲ امامہ بنت عصام

بن عامر انصاریہ البیاضیہ۔ ابن سعد رحمہ اللہ نے فرمایا: اسلام لائیں اور بیعت کی۔

### ۱۰۸۲۳ امامہ بنت قرط

بن خضاء بن سنان بن عبید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمہ انصاریہ السلمیہ۔ ابن سعد رحمہ اللہ نے فرمایا: وہ یزید بن نضلی کی زوجہ ہیں، ان کے قبیلے سے تھیں، اسلام لائیں اور بیعت کی۔

### ۱۰۸۲۴ امامہ بنت قریبہ

بن عجلان بن غنم بن عامر بن بیاضہ انصاریہ بیاضیہ۔ ابن اشیر نے ان کا ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ ابو عمر کی کتاب پر اپنے ستر دراک میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۰۸۲۵ امامہ بنت محرث

بن زید بن ثعلبہ بن عبید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمہ، ابن سعد رحمہ اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ اور کہا ہے کہ ان کی والدہ سلمی بنت ابی دحداح بن تمیم تھیں۔ ان سے ربیع بن طفیل بن مالک بن خضاء نے نکاح کیا۔ اس کے بعد ان سے ضحاک بن حارث بن ثعلبہ بن عبید نے نکاح کیا جو بنو سلمہ سے تھے، فرمایا: امامہ اسلام لائیں اور بیعت کی۔

### ۱۰۸۲۶ امامہ المریدیہ

ابن ہشام رحمہ اللہ نے زیادات السیرۃ النبویۃ میں ان کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے عتق کے قصہ میں شعر کہا تھا، عتق عین ہزبر ہے اور فاء پر تخفیف ہے۔ یہ منافق تھا، اور اس کا نفاق ظاہر ہو چکا تھا۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اس خبیث کے مقابلے میں میرا کون مدگار ہے؟ تو سالم بن عبید بن عمرو بن عوف سے تھے اور اسے قتل کر دیا، اس وقت امامہ مریدیہ نے یہ اشعار کہے:

”تم اللہ کے دین اور احمد (ﷺ) کی تکذیب کرتے ہو، جس نے تجھے جتنا اس کی زندگی کی قسم کیا ہی برا ہے جو جتنا جائے گا، تجھے آخری دور میں حنیف نے نیزہ مارا ابو عتق بڑھاپے کی عمر میں اسے برداشت کر،

- |                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| تجريد اسماء الصحابة (۲/۲۴۶)        | تجريد اسماء الصحابة (۲/۲۴۶)         |
| الطبقات الكبرى (۸/۲۸۳)             | تجريد اسماء الصحابة (۲/۲۴۶)         |
| الطبقات الكبرى (۸/۲۹۴)             | اسد الغابة (ت: ۶۷۱۹) تجريد (۲/۲۴۶)  |
| تجريد اسماء الصحابة (۲/۲۴۶)        | الطبقات الكبرى (۸/۲۹۵)              |
| اسد الغابة (ت: ۶۷۲۰) تجريد (۲/۲۴۶) | السيرة النبوية عن ابن اسحاق (۴/۲۱۴) |

ابن فحون نے اپنے استدراک میں ان کا ذکر کیا ہے۔

#### ۱۰۸۲۷ امامہ غیر منسوبہ

سنن سعید بن منصور کے آخر میں ان کی حدیث ہے۔ کتاب الکفی میں ابو جندل کے حالات میں ان کا ذکر ہے۔

#### ۱۰۸۲۸ امامہ \*

فرقد العجلی کی والدہ ہیں، وہ اپنے بیٹے فرقد کو نبی کریم ﷺ کے پاس لے گئیں، ان کی زلفیں تھیں، آپ ﷺ نے ان پر ہاتھ پھیرا اور ان کے لیے برکت کی دعا کی۔ ابو عمر \* نے ان کے والد کے حالات میں ان کا ذکر کیا ہے۔

#### ۱۰۸۲۹ امة الله بنت عبد شمس

بن عبد یلیل الملیحی، عبد اللہ بن ہاشم بن زہرہ قرشی تمیمی کی والدہ ہے۔ خلیفہ بن خیاط نے ذکر کیا ہے وہ اپنے بیٹے کو جو اس وقت چھوٹا تھا نبی کریم ﷺ کے پاس لے گئیں تاکہ وہ آپ ﷺ سے بیعت کرے، اصل قصہ حاکم کی کتاب مستدرک میں ہے۔ لیکن صحیح بخاری میں ہے کہ ان کا نام زینب بنت حمید ہے۔

#### ۱۰۸۳۰ امة بنت ابي الحكم

یا بنت حکم، دوسری قسم میں ان کا ذکر آئے گا۔

#### ۱۰۸۳۱ امة بنت خالد \*

بن سعید بن العاص بن امیہ بن عبد شمس، ان کی کنیت ام خالد ہے اور وہ اپنی کنیت سے مشہور ہیں۔ اپنے والد کے ساتھ حبشہ سے آئیں جنہوں نے اس کی طرف ہجرت کی تھی وہ ان کے ہاں امیہ سے پیدا ہوئیں۔ اور بعض نے کہا کہ ہمینہ بنت خلف خزاعیہ سے ہوئیں۔ ابن سعد نے کہا ہے کہ خالد بن سعید نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ ہمینہ بنت خلف تھیں، وہاں ان کے ہاں امہ بنت خالد ہوئیں، اور وہ دو کشتیوں کے ذریعہ واپس ہوئے۔ اس وقت امہ بالغ اور عقلمند ہو چکی تھیں۔ پھر ایک سند جس میں واقدی ان سے روایت کرتے ہیں نقل کی ہے، فرماتی ہیں: میں نے سنا کہ نجاشی دونوں کشتیوں والوں سے کہہ رہے تھے، رسول اللہ ﷺ کو میری طرف سے سلام دینا۔ امہ فرماتی ہیں میں ان لوگوں میں سے تھی جنہوں نے نجاشی کی طرف سے رسول اللہ ﷺ کو سلام دیا تھا۔

میں کہتا ہوں: ان کا یہ قول کہ وہ حبشہ میں بالغ ہو گئی تھی، صحیح کی روایت کے اس قول سے رد ہوگا کہ میرے پاس ام خالد کو لاؤ، چنانچہ مجھے اٹھا کر لایا گیا، تو آپ ﷺ نے مجھے چادر اوڑھا دی، پھر بھی انہوں نے نبی کریم ﷺ کی حدیث یاد رکھی ہے۔ ان سے سعید بن عمر اور اشدق بن سعید بن العاص اور وہ ان کے دادا کی پچازاد تھیں، اور موسیٰ اور ابراہیم جو عقبہ مدنیان کے بیٹے تھے، ان سب نے روایت کی ہے۔ ان سے زبیر بن عوام نے نکاح کیا وہ ان کے بیٹوں خالد اور عمرو کی ام ولد تھیں۔ ان کی حدیث صحیح

بخاری \* میں ہے کہ آپ ﷺ نے جب انہیں حلہ پہنایا تو فرمایا: سُنَّہِ سُنَّیَہ یعنی اچھا اور ان کے لیے فرمایا: پرانا کرو اور بوسیدہ کرو، یہاں تک کہ یاد کیا جائے، یعنی طویل زمانے تک یاد کیا جائے۔ صحیح بخاری کے باب الجہاد کے بعض طرق میں ہے، ابو عبد اللہ نے فرمایا: کوئی خاتون ان سے زیادہ زندہ نہ رہیں۔

#### ۱۰۸۳۲) اُمّۃ بنت خلیلہ

بن عدی بن عمرو بن مالک بن عجلان انصاریہ، ابن اشیر نے ان کا اسی طرح ذکر کیا ہے۔ اور ذہبی رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں ان کی خوشہ چینی کی ہے اور فرمایا کہ ان کے حالات نامعلوم ہیں۔

#### ۱۰۸۳۳) اُمّۃ بنت سعید

بن ابی سرح، عبد اللہ جو کہ امیر مصر تھے، ان کی بہن ہیں، عمر بن شبہ کی کتاب اخبار المدینہ میں ان کا ذکر ہے۔ یہ ان لوگوں میں سے تھیں جنہوں نے مدینہ میں حویلی بنائی تھی۔

#### ۱۰۸۳۴) اُمّۃ بنت ابی الصلت

او ابن ابی الصلت۔ دوسری قسم میں ان کا ذکر آئے گا۔

#### ۱۰۸۳۵) اُمّۃ بنت نعیم النحام

یہ وہ خاتون ہیں جن کے لیے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نعیم کی طرف پیغام بھیجا تھا، انہوں نے ان کا نکاح نعمان بن نھلہ سے کر دیا جو ان کی پرورش میں تھے، زبیر نے کتاب النسب میں ان کا نام بتایا ہے۔

#### ۱۰۸۳۶) اُمّۃ الفارسیۃ \*

ابن مندہ نے تاریخ اصہبان میں مبارک بن سعید ثوری، عبید مکتب کی سند سے روایت کیا ہے کہ سلمان فارسی نے فرمایا کہ جب میں مدینہ آیا تو ایک اصہبانی عورت کو دیکھا جو مجھ سے پہلے اسلام لا چکی تھی۔ میں نے اس سے رسول اللہ ﷺ کے بارے میں پوچھا۔ اس نے مجھے آپ ﷺ کا پتہ بتایا۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ اسے عبد اللہ بن عبد العزیز نے ابو طفیل سے انہوں نے اسی مفہوم کو سلمان سے روایت کیا۔ انہوں نے مدینہ کے بجائے مکہ لکھا ہے، اور عورت کا نام ذکر نہیں کیا۔ پہلی روایت اولیٰ ہے۔ ابو طفیل سے بھی اسی طرح روایت کیا گیا ہے کہ انہوں نے مدینہ بتایا۔

#### ۱۰۸۳۷) اُمیمہ بنت بجاد

بن عبد اللہ بن عمیر بن حارثہ بن سعد بن قیم بن مرة القرشیۃ التیمیۃ۔ بعض نے کہا: امیرہ بنت عبد اللہ بن

\* بخاری، کتاب اللباس، کتاب الادب (۵۸۲۳، ۵۹۹۳) \* تجرید (۱۸۱)

\* اسد الغابۃ (ت: ۲۷۲۶) تجرید (۲/۲۴۷)



نجاہ.... الخ۔ امیمہ بنت رقیقہ کے حالات میں ان کا ذکر آئے گا۔

### ۱۰۸۳۸ امیمہ بنت بشر

بنی عمرو بن عوف سے تھیں، حسان بن دحداح کی زوجہ تھیں، اس وقت وہ کافر تھے، تو وہ ان کو چھوڑ کر ہجرت کر گئیں، نبی کریم ﷺ نے ان کا نکاح ہبل بن حنیف سے کر دیا جس سے عبد اللہ پیدا ہوئے، انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی: ”اے ایمان والو! جب تمہارے پاس مومنات مہاجرات آئیں.....“ (الآیہ) ابن وہب نے ابن لہیعہ سے اور انہوں نے یزید بن ابی حبیب سے ذکر کیا ہے کہ انہیں یہ بات پہنچی ہے۔ ابن مندہ نے اسے مسند روایت کیا ہے اور ابن اشیر نے اسے بعید سمجھا ہے کہ بنو عمرو بن عوف اہل مدینہ میں سے تھے، اور یہ آیت مہاجرات کے بارے میں نازل ہوئی۔ شاید ان کے شوہر انصار میں سے نہیں تھے۔ پھر وہ مکہ منتقل ہو گئے، ان کا حکم مہاجرات کے حکم کی طرح ہے۔

### ۱۰۸۳۹ امیمہ بنت بشیر

بن سعد انصاریہ، خزرجیہ، نعمان بن بشیر کی سگی بہن ہیں، ابن سعد نے ان کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا: اسلام لائیں اور بیعت کی، انہیں ایبہ کہا جاتا تھا، اب اور شد سے۔

### ۱۰۸۴۰ امیمہ بنت الحارث

عبدالرحمن بن زبیر کی زوجہ تھیں، انہوں نے تین طلاقیں دیں، پھر ان سے رفاعہ نے نکاح کیا، پھر رفاعہ نے طلاق دی تو انہوں نے کہا: اے رسول اللہ ﷺ! رفاعہ نے مجھے طلاق دے دی ہے، کیا میں عبدالرحمن سے نکاح کر لوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا وہ تم سے ہم بستر ہوا ہے۔ کہنے لگیں: اس کا عضو کپڑے کے پلو کی طرح ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: یہاں تک کہ تم اس کا مزہ چکھ لو اور وہ تمہارا مزہ چکھ لے۔

ابن مندہ نے اسے محمد بن مردان السدی کی سند سے نقل کیا ہے، جس میں انہوں نے کلیبی، ابوصالح اور ابن عباس سے روایت کی ہے۔

میں کہتا ہوں: محمد بن مردان نے اس کو کذاب قرار دیا ہے اور اس کے شیخ نے اس کے کذب کا اعتراف کیا ہے۔ اصل قصہ صحیحین میں ہے لیکن اس کا سیاق اور ہے۔ ان میں خاتون کا نام نہیں ہے اور عنقریب آئے گا کہ ان کا نام سیمہ ہے اور بعض نے کہا: اس کے علاوہ ہیں۔

### ۱۰۸۴۱ امیمہ بنت ابی حثمہ

اور ان کا نام عبد اللہ بن ساعدہ بن عامر بن عدی بن جشم بن مجدہ بن حارثہ الساعدیہ ہے، جلیلہ اور عیسرہ کی بہن ہیں۔

اسد الغابۃ (ت: ۶۷۲۷) تجرید (۲/۲۴۷) سورة الممتحنة الآية (۱۰)

اسد الغابۃ (ت: ۶۷۲۸) تجرید (۲/۲۴۷) اسد الغابۃ (ت: ۶۷۲۹) تجرید (۲۴۷)

بخاری کتاب الطلاق (الحديث: ۵۶۶۵) ابوداؤد (الحديث: ۴۴۱۹) احمد (الحديث: ۲۱۷/۵) تجرید (۲/۲۴۷)

ابن سعد \* نے صحابیات رضی اللہ عنہن میں ان کا ذکر کیا ہے۔ اور فرمایا کہ ان کی والدہ حجتہ بنت عمیر بن عقبہ بن عمرو بن عدی بن زید بن جشم ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان سے ہلال بن حارث بن ربیعہ بن منقذ نے نکاح کیا، اس کے بعد ابوسندر بن حصین بن بجاد نے نکاح کیا، اسلام لائیں اور بیعت کی۔

### ۱۰۸۳۲) امیمہ بنت خلف \*

بن اسعد بن عامر بن سلیم خزامیہ، طلحة الطلحات جو مشہور فیاض ہیں، ان کی پھوپھی ہیں۔ خالد بن سعید بن العاص کی زوجہ تھیں۔ اسلام کے ابتدائی دور میں ایمان لائیں اور ان کے ساتھ حبشہ ہجرت کی، اور بعض نے کہا کہ ان کا نام امینہ، میم کے بجائے نون کے ساتھ ہے۔ بعض نے کہا: ہمینہ الف کے بجائے ہاء کے ساتھ ہے۔ جس سے اُم خالد پیدا ہوئیں جو خالد کی بیٹی تھیں، اس کا نام آمنہ رکھا جو اپنی کنیت \* کے ساتھ مشہور ہو گئیں۔

### ۱۰۸۳۳) امیمہ بنت الخطاب \*

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں، ان کا ذکر فاطمہ کے حالات میں آئے گا۔

### ۱۰۸۳۴) امیمہ بنت ابی الخیار \*

مطح بن اسود عدوی کی زوجہ ہیں، تجرید \* میں ان کا ذکر ہے۔

### ۱۰۸۳۵) امیمہ بنت ربیعہ \*

بن حارث بن عبدالمطلب، بعض نے کہا کہ ان کا نام امامہ ہے۔ گویا جس نے انہیں ان کا یہ نام تصغیر قرار دیا انہیں یہ لقب دے دیا۔ تجرید میں ہے انہیں شرف صحابیت \* حاصل ہے۔

### ۱۰۸۳۶) امیمہ بنت رقیقہ \*

دوقافون کے ساتھ، تصغیر ہے۔ وہ بنت بجاد ہیں جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ اور ان کی والدہ رقیقہ بنت خویلد بن اسد ہیں جو خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہن ہیں۔ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے روایت کی ہے اور ان سے محمد بن المنکدر نے اور ان کی بیٹی حکیمہ بنت رقیقہ نے روایت کی ہے۔ حکیمہ تصغیر کے ساتھ ہے۔ ابو عمر رضی اللہ عنہ \* فرماتے ہیں کہ وہ بیعت کرنے والی صحابیات میں شامل تھیں، اور فرمایا وہ فاطمہ الزہراء کی خالہ ہیں۔ ابن الاثیر \* نے درج کیا ہے کہ وہ انکی خالہ کی بیٹی ہیں، کیونکہ خویلد خدیجہ اور رقیقہ کے والد ہیں، امیمہ کے والد نہیں۔

\* الطبقات الکبریٰ (۲۴۱/۸) \* أسد الغابۃ (ت: ۶۷۳۰) تجرید (۲۴۷/۲)

\* ابن إسحاق فی السیر والمغازی (۱۴۴) \* تجرید اسماء الصحابة (۲۴۷/۲)

\* ذہبی فی التجرید (۱۸۱) \* تجرید (۲۴۷/۲) \* التجرید (۱۸۱)

\* أسد الغابۃ (ت: ۶۷۳۲) تجرید (۲۴۸/۲) \* الاستیعاب (۱۷۹۱/۴) \* أسد الغابۃ (۲۲۱/۵)

## الْاَضْبَالُ فِي تَسْوِئَةِ الصَّحَابَةِ (الْمُتَّعِينَ) (جلد ۱)

۲۸

میں کہتا ہوں: یہ اس شخص کے قول سے صحیح ہے جس نے کہا کہ یہ رقیقہ بنت خویلد بن اُسد بن عبد العزیٰ ہیں، ابن سعد \* نے کہا اور مصعب زبیری نے کہا کہ وہ رقیقہ بنت اسد بن عبد العزیٰ ہیں، اسی وجہ سے مستغفری نے کہا کہ وہ حضرت خدیجہ بنت النضر بنت خویلد کی پھوپھی ہیں۔

ان کی حدیث ترمذی \* وغیرہ میں ابن عیینہ کے طریق سے ہے جو انہوں نے محمد بن منکدر سے روایت کی کہ انہوں نے امیمہ بنت رقیقہ سے فرماتے ہوئے سنا: میں نے خواتین میں رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی آپ ﷺ نے ہم سے فرمایا: ”جتنی تم استطاعت اور طاقت رکھتی ہو“ ہم نے کہا: اللہ اور اس کا رسول ﷺ ہم پر ہماری جانوں سے زیادہ مہربان ہیں۔

مالک نے اسے ابن منکدر سے طویل نقل کیا ہے۔ ابن حبان نے اپنے طریق سے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور اس کے الفاظ یوں ہیں: میں رسول اللہ ﷺ کے پاس، خواتین کے ساتھ، بیعت کرنے کے لیے آئی۔ ہم نے کہا: ”اے اللہ کے رسول ﷺ! ہم آپ ﷺ سے اس بات پر بیعت کرتی ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گی، نہ چوری کریں گی، نہ زنا کریں گی، نہ اپنی اولادوں کو قتل کریں گی، نہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں پر بہتان گھڑیں گی، اور بھلائی کے کاموں میں آپ ﷺ کی نافرمانی نہ کریں گی۔“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جتنی تم استطاعت اور طاقت رکھو“ ہم نے کہا: اللہ اور اس کا رسول ﷺ ہم پر ہماری جانوں سے زیادہ مہربان ہیں، یا رسول اللہ! ہاتھ بڑھائیے ہم آپ سے بیعت کریں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، میری بات سوعورتوں کے لیے ایسی ہے جیسے ایک عورت کے لیے“۔ \* اسے دارقطنی \* نے دوسری سند سے نقل کیا ہے۔ بحوالہ ابن منکدر، ابن سعد \* نے فرمایا: امیمہ نے قبیلے سے باہر حبیب بن کعب بن غنیمہ ثقفی سے شادی کی، جس سے اولاد ہوئی، ابوالاحمد عسال فرماتے ہیں: مجھے معلوم نہیں کہ ان سے ابن منکدر کے علاوہ کسی نے روایت کی ہو۔ مصعب زبیری فرماتے ہیں کہ وہ محمد بن منکدر کی پھوپھی ہیں، گویا ان کی مراد یہ ہے کہ وہ ان کے خاندان سے ہیں۔ کہتے ہیں کہ معاویہ نے انہیں شام منتقل کیا اور ان کے لیے گھر بنایا، زبیر بن بکار نے بھی یہی کہا ہے۔ اور یہ اضافہ کیا ہے کہ ان کا دمشق میں گھر اور غلام تھے۔ پھر ثابت بن عبد اللہ بن زبیر کے طریق سے مسند نقل کیا ہے کہ رقیقہ کی بیٹی، معاویہ کے پاس اس وقت آئیں جب وہ مرض وفات میں تھے۔

### (۱۰۸۴۷) امیمہ بنت رقیقہ \*

بنت ابی صفی بن ہاشم بن عبد مناف۔ یہ خرمہ بن نوفل کی ماں شریک بہن ہیں اور ان کی والدہ رقیقہ ہیں، جنہوں نے خواب دیکھا جب عبدالمطلب نے پانی مانگا، ابو نعیم نے طبرانی \* کی پیروی کرتے ہوئے اس روایت اور جو اس سے پہلے ہے ان کے درمیان فرق کیا ہے۔ اور ان کے حالات میں حدیث ابن جریج نقل کی ہے جو حکیمہ بنت امیمہ سے بحوالہ ان کے والد امیمہ بنت رقیقہ روایت ہے۔ فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے لیے لکڑی کا ایک برتن (Pat) تھا جس میں پیشاب کرتے تھے۔ \* اور فرمایا کہ

\* الطبقات الکبریٰ (۱۸۹/۸) \* ترمذی (الحديث: ۱۵۹۷)

\* ترمذی (الحديث: ۱۵۹۷) نسائی (الحديث: ۴۲۰۱) ابن ماجہ (الحديث: ۲۸۷۴)

\* سنن دارقطنی الحديث (۱۴۷/۴) \* الطبقات الکبریٰ (۲۴۱/۸) \* اسد الغابہ (ت: ۶۷۳۳) تجرید (۲/۲۴۸)

\* المعجم الکبیر (۴۷۷/۲۴) \* ابوداؤد (الحديث: ۲۴)

حکیمہ کے والد حکیم ہیں، اور حکیمہ سے ابن جریج کے علاوہ کسی نے روایت نہیں کیا۔

میں کہتا ہوں: عنقریب آئے گا کہ ان کے والد انصاری ہیں، اس سے ان کے قول کی تائید ہوتی ہے جس نے ان میں فرق کیا ہے اور ابن سکین نے انہیں ایک قرار دیا ہے۔

### ۱۰۲۳۸ امیمہ بنت سفیان

بن وہب بن اشم، بنو حارث بن عبدمناة بن کنانہ کنانیہ سے ہیں۔ ابوسفیان حرب کی زوجہ ہیں۔ فتح کے بعد اسلام لائیں اور بیعت کی۔ ابن سعد \* نے اس کا ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ وہ ام عبداللہ ہیں، فرماتے ہیں: بعض نے کہا کہ ان کا اسلام فتح کے بعد ہے۔

### ۱۰۲۳۹ امیمہ بنت ابی سفیان

بن حرب بن امیہ، صفوان بن امیہ کی زوجہ ہیں، ان کا ذکر عاتکہ بنت ولید بن مغیرہ کے حالات میں آئے گا۔

### ۱۰۲۵۰ امیمہ بنت شراحیل

یہ نعمان بن شراحیل کی صاحبزادی ہیں، ان کا ذکر آگے آئے گا۔

### ۱۰۲۵۱ امیمہ بنت ضبیح

یا ضح (با کے ساتھ یا "ف" کے ساتھ) ابن حارث، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں، ان کے نام میں اختلاف ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ امیمہ کے بیٹے ہیں، طبرانی نے خواتین کے حالات میں لکھا ہے میمونہ بنت ضح والدہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ان کے اسلام لانے کا قصہ بھی بیان کیا ہے، لیکن اس روایت میں ان کا نام نہیں لیا۔ رہے ان کے والد محمد بن قتیہ، فرماتے ہیں اور سعید بن ضح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ماموں تھے، لوگوں میں مضبوط ترین آدمی تھے۔

ان کے اسمیہ نام رکھنے کی وجہ ہم نے اسحاق بن ابراہیم بن شاذان کے رسالہ میں روایت کی ہے اور ابو موسیٰ نے اسے ذیل میں اپنی سند سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: ہمیں سعد الصلت نے خبر دی، یحییٰ بن علاء نے حدیث بحوالہ ایوب، محمد بن سیرین بیان کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہیں عامل بنانے کے لیے بلایا، انہوں نے عامل بننے سے انکار کر دیا۔ تو انہوں نے فرمایا: کیا تم گورزی سے انکار کرتے ہو جبکہ ایسے شخص نے اس کا مطالبہ کیا ہے جو تم سے بہتر تھا، فرمایا: وہ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا: یوسف بن یعقوب رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یوسف نبی ہیں اور نبی کے بیٹے ہیں اور میں ابو ہریرہ، امیر کا بیٹا ہوں۔ میں تین اور دو سے ڈرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم نے پانچ کیوں نہیں کہا؟ فرمایا: میں بغیر علم کے کوئی بات کہنے سے ڈرتا ہوں یا ناحق فیصلہ کروں اور مجھے کوڑے لگائے جائیں۔ اور مجھے برا بھلا کہا جائے اور میرا مال چھین لیا جائے۔ میں کہتا ہوں: اس کی سند بہت ضعیف ہے، لیکن اسے عبدالرزاق نے معمر سے بحوالہ ایوب نقل کیا ہے، اس لیے قوی ہے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بحرین کا عامل بنایا ہے۔

رہا قصہ ام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کے اسلام لانے کا تو احمد نے اسے اپنی مسند میں بحوالہ عبدالرحمن اور وہ ابن مہدی ہیں، انہوں نے عکرمہ بن عمار سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ابو کثیر نے روایت کیا، اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے جو مومن بھی پیدا کیا ہے جو میرے بارے میں سنتا ہے، اور مجھے نہیں دیکھتا مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میں نے کہا: اے ابو ہریرہ! آپ کو اس کا علم کیسے ہوا؟ فرمایا: میری والدہ مشرکہ تھیں اور میں انہیں اسلام کی دعوت دیتا تھا، تو وہ انکار کر دیتی تھیں، میں نے انہیں ایک دن دعوت دی۔ اور مسلم <sup>۱۰۸۵۲</sup> نے یونس بن محمد کی سند سے بحوالہ عکرمہ بن عمار، ابو کثیر (جو یزید بن عبدالرحمن ہیں) روایت کیا ہے فرماتے ہیں: مجھ سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، فرمایا: میں اپنی والدہ کو اسلام کی طرف دعوت دیتا تھا اور وہ مشرکہ تھیں، میں نے انہیں ایک دن دعوت دی، انہوں نے مجھے رسول اللہ ﷺ کے متعلق ایسی بات کہی جسے میں ناپسند کرتا ہوں، پس میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور میں رو رہا تھا، میں نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! میں اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دیتا تھا، تو وہ انکار کر دیتی تھیں۔ میں نے آج انہیں دعوت دی تو انہوں نے آپ ﷺ کے بارے میں ایسی بات کہی جو میں ناپسند کرتا ہوں (یعنی برا بھلا کہا)۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ام ابو ہریرہ کو ہدایت دے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے اللہ! ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت دے۔“ میں رسول اللہ ﷺ کی دعا سے خوش ہو کر نکلا، جب میں نے دروازے سے اندر جانے کا ارادہ کیا تو وہ بند تھا۔ جب میری ماں نے میرے قدموں کی آواز سنی تو فرمایا: ابو ہریرہ! ٹھہرے رہو، اور میں نے پانی گرنے کی آواز سنی۔ فرمایا: انہوں نے کپڑے پہنے اور جلدی سے چادر لی، اور دروازہ کھولا اور کہا: اے ابو ہریرہ! میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں۔ فرماتے ہیں: میں رسول اللہ ﷺ کی طرف گیا اور آپ ﷺ کو خبر دی، آپ ﷺ نے اللہ کی حمد بیان کی، اور اچھے کلمات کہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حالات میں اس واقعہ کا کچھ حصہ گزر چکا ہے۔

### ۱۰۸۵۲) امیمہ بنت عبداللہ

بن ہشام بن عسیر بن الحارث بن خارجہ بن سعد بن تیم بن مرہ، یہ رقیقہ کی بیٹی ہیں، ان کے حالات گزر چکے ہیں۔ ابو علی بن سکین نے ان کا نسب بیان کیا ہے۔

### ۱۰۸۵۳) امیمہ بنت عبداللہ

بن ساعدہ، ان کا ذکر امیمہ بنت ابوشمہ کے حالات میں گزر چکا ہے۔

### ۱۰۸۵۴) امیمہ بنت عبدالمطلب

وہ بنت ربیعہ بن حارث بن عبدالمطلب ہیں، اپنے جد اعلیٰ کی طرف منسوب ہیں، ان کے حالات گزر چکے ہیں۔

### ۱۰۸۵۵) امیمہ بنت عبدالمطلب

بن ہاشم بن عبدمناف ہاشمیہ، رسول اللہ ﷺ کی پھوپھی ہیں۔ ان کے اسلام لانے میں اختلاف ہے۔ محمد بن اسحاق نے

اس کی نفی کی ہے۔ محمد بن سعد کے علاوہ ان کا کسی نے ذکر نہیں کیا، اور انہوں نے نبی ﷺ کے چچیری رشتوں کے باب میں طبقات النساء کے حصوں میں لکھا ہے۔ ان کی والدہ فاطمہ بنت عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم ہیں۔ جاہلیت میں جحیر بن عمرو بن عائد عمران بن مخزوم ہیں، جاہلیت میں جحیر بن رباع اسدی جو حرب بن اُمیہ کے حلیف تھے، ان سے عبداللہ اور عبید اللہ اور ابواحمد، زینب اور حمزہ پیدا ہوئے۔ خیبر کی کھجوروں میں سے چالیس و سق آپ ﷺ نے اُمیہ بنت عبدالمطلب کو کھانے کے لیے دیئے۔ میں کہتا ہوں: اس بناء پر وہ اس وقت موجود تھیں جب آپ ﷺ نے ان کی بیٹی زینب بنت جحش سے شادی کی۔

### ۱۰۸۵۶) اُمیہ بنت عدی

بن قیس بن حذافہ سہمی، ابی عقیق کی والدہ ہیں، جو محمد بن عبدالرحمن بن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، زبیر بن بکار کا قول ہے: عبدالرحمن بن ابوبکر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ کی حیات میں ہی ان سے شادی کی تھی، وہی (ابوعقیق) موسیٰ بن عقبہ کے قول کا قضیہ ہیں: کہ ابوعقیق محمد بن رحمن بن ابوبکر کو روایت کا شرف حاصل ہے، ان چاروں کو ایک سلسلے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمرے میں شمار کیا ہے، جنہوں نے نبی ﷺ کو دیکھا ہے اور وہ یہ ہیں: محمد بن عبدالرحمن بن ابوبکر بن ابوقحافہ، مردوں کے ناموں میں محمد نامی لوگوں کے سلسلے میں ابوعقیق کے سوانح میں اس کا کچھ بیان پہلے گزر چکا ہے۔

### ۱۰۸۵۷) اُمیہ بنت عقبہ

بن عمرو بن عدی بن زید بن حشم انصاریہ۔ ابن سعد \* نے بیعت کرنے والی خواتین میں ان کا ذکر کیا ہے۔ اور فرمایا کہ ان کی والدہ ام عمیر بنت عمرو حنظلہ ہیں، ان کا نکاح بہل بن عتیک سے ہوا۔

### ۱۰۸۵۸) اُمیہ بنت عمرو

بن بہل بن معبد بن مخزومہ انصاریہ اشہلیہ۔ ابن سعد \* نے فرمایا: اسلام لائیں اور بیعت کی جیسا کہ واقدی کی روایت میں ہے۔

### ۱۰۸۵۹) اُمیہ بنت قیس

بن ابوصلت غفاریہ، ابن سعد \* نے ان کا ذکر کیا ہے۔ اور فرمایا: ”اسلام لائیں اور ہجرت کے بعد بیعت کی، نبی کریم ﷺ کے ساتھ خیبر میں موجود تھیں، اور ان کی حیض کے بارے میں حدیث ذکر کی، عنقریب میں قسم رابع میں ذکر کروں گا کہ اس میں کیا اختلاف ہے۔

\* تجرید (۲/۲۴۸) \* الطبقات الکبریٰ (۸/۲۴۷)

\* اسد الغابۃ (ت: ۶۷۳۶) تجرید (۲/۲۴۸) \* الطبقات الکبریٰ (۸/۲۳۷)

\* اسد الغابۃ (ت: ۶۷۴۰) تجرید (۲/۲۴۸) \* الطبقات الکبریٰ (۸/۲۳۷)

### ۱۰۸۶۰ امیمہ بنت قیس

بن عبد اللہ اسدیہ۔ تجرید \* میں ان کا ذکر ہے۔ یہ وہی ہیں جو ام حبیبہ کے ساتھ حبشہ کی سرزمین میں تھیں، اور ان کے والدین ام حبیبہ کے رضاعی والدین ہیں، اور بنو اسد جاہلیت میں بنو امیہ کے حلیف تھے۔

### ۱۰۸۶۱ امیمہ بنت النجار الأنصاریہ

عقیلی نے ان کا ذکر صحابیات میں کیا ہے۔ اور ابن جریج کی سند سے نقل کیا ہے کہ حکیمہ بنت ابی حکیم اپنی والدہ امیمہ سے روایت کرتی ہیں کہ ازواج النبی ﷺ کی اوڑھنیاں تھیں جس میں دس اور زعفران لگی ہوئی تھیں، جن سے وہ احرام سے پہلے اپنے سر کا زیریں حصہ ڈھانپتی تھیں اور احرام کے بعد بھی اسی طرح کرتی تھیں۔

ابو عمر \* فرماتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ یہ حدیث امیمہ بنت رقیقہ کی ہے جو ککزی کے پیالے والی حدیث کی راویہ ہیں۔ میں کہتا ہوں: یہ گمان بعید ہے جبکہ ابن سعد \* نے ان کا ذکر ان عورتوں میں کیا ہے جنہوں نے ازواج النبی ﷺ سے روایت کی ہے اور ان عورتوں نے آپ ﷺ سے روایت نہیں کی۔ اور ابن جریج کے طریق سے اس حدیث کی سند بیان کی ہے۔

### ۱۰۸۶۲ امیمہ بنت النعمان

بن حارث کندیہ، ان صحابیات میں ان کا ذکر گزر چکا ہے جن کا نام اسماء ہے۔

### ۱۰۸۶۳ امیمہ بنت النعمان

بن شراحیل جونیہ۔ بخاری \* نے کتاب النکاح میں تعلقاً حمزہ بن ابواسید ساعدی کی سند سے نقل کیا ہے جس میں انہوں نے اپنے والد سے روایت کی ہے۔ اور عباس بن سہل بن سعد الساعدی کی سند سے بحوالہ ان کے والد نقل کیا ہے۔ دونوں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے امیمہ بنت نعمان بن شراحیل سے نکاح کیا، جب ان کے پاس آئے اور ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے ناپسند کیا۔ آپ ﷺ نے ابواسید کو حکم دیا کہ ان کا سامان تیار کریں، اور پہننے کے لیے کتان کے دو سفید کپڑے دے دو۔ اسے موصولاً دوسری روایت سے نقل کیا ہے۔ فرمایا: ہم سے عبد الرحمن بن غسیل انہوں نے حمزہ بن ابی اسید، انہوں نے ابواسید سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نکلے یہاں تک کہ ہم ایک باغ کی طرف چلے جسے الشوط کہا جاتا تھا، جونیہ کو لایا جا چکا تھا، امیمہ بنت نعمان بن شراحیل کے گھر میں، میں اُترا، اس کے ساتھ اس کی ماما تھی۔ جب نبی ﷺ اس کے پاس آئے تو اس سے فرمایا: ”مجھے اپنی جان بخش دو“۔ وہ کہنے لگی: ”بھلا ملکہ کسی بازاری کو اپنی جان بخشی ہے؟“ راوی فرماتے ہیں: آپ ﷺ نے اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنا ہاتھ اس پر رکھنا چاہا تو وہ بولی: ”تم سے اللہ کی پناہ!“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تو نے ایسی ذات کی پناہ

\* تجرید (۲۴۸/۲) \* تجرید (۱۸۱) \* تجرید (۲۴۸/۲) \* الاستیعاب (۱۷۹۱/۴)

\* الطبقات الكبرى (۳۵۴/۸) \* تجرید (۲۴۸/۲) \* اسد الغابۃ (ت: ۶۷۳۴) \* تجرید (۲۴۸/۲)

\* بخاری (الحديث: ۵۲۵۶)



مانگی ہے جو پناہ کی جگہ ہے۔ پھر آپ ﷺ باہر تشریف لائے اور فرمایا: ”ابو اُسید! اسے کتان کے سفید کپڑے پہناؤ اور اسے گھر والوں کے پاس چھوڑ آؤ۔“ \* بیہقی رحمہ اللہ نے اس صحیح حدیث کی وجہ سے یہ رائج قرار دیا ہے کہ پناہ طلب کرنے والی وہی تھیں۔ اسماء بنت نعمان بن حُون کے حالات میں اس سے ملتا جلتا قصہ گزر چکا ہے۔ واللہ اعلم!

### ۱۰۸۶۳ امیمہ بنت ابی الہیثم \*

بن تیمان انصاریہ، ان کے والد کا ذکر گزر چکا ہے۔ ابو جعفر بن حبیب نے ان کا ذکر انصار کی بیعت کرنے والی خواتین میں کیا ہے۔ ابن سعد \* کا قول ہے: ان کی والدہ ملیکہ بنت سہل ہیں، محمد بن عمر \* کی روایت ہے کہ وہ اسلام لائیں اور بیعت کی۔

### ۱۰۸۶۵ امیمہ (مولاۃ رسول اللہ ﷺ) \*

رسول اللہ ﷺ کی خدمت کرتی تھیں ان کی حدیث اہل شام کے پاس ہے۔ میں کہتا ہوں: محمد بن نصر نے تعظیم قدر الصلوٰۃ نامی کتاب میں اور ابو علی بن سکین اور حسن بن سفیان وغیرہ نے اپنی سند میں نقل کیا ہے۔ اور اس کی طرف ترمذی نے کتاب السیر میں ابو فروہ جو یزید بن یسار رھاوی ہیں کی سند سے اشارہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں مجھ سے ابو یحییٰ کلاعی نے اور وہ سلیم بن عامر ہیں انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے جُبیر بن نفیر سے، انہوں نے امیمہ خادمہ رسول اللہ ﷺ سے روایت کیا کہ وہ رسول اللہ ﷺ کو وضو کراتی تھیں، انہوں نے نبی کریم ﷺ کے ہاتھوں پر پانی ڈالا، اس وقت ایک شخص آیا اور کہا، یا رسول اللہ ﷺ! میں اپنے گھر والوں سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے وصیت کیجئے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو اگرچہ تمہارے ٹکڑے کر دیئے جائیں یا تمہیں جلادیا جائے....“ پھر پوری حدیث روایت کی۔ ابن سکین فرماتے ہیں کہ اسے سعید بن عبد العزیز نے بحوالہ مکحول، ام ایمن اسی طرح روایت کیا ہے۔ پھر ام ایمن کے حالات میں اس روایت کو مکمل طور پر سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اور فرمایا، وہ مرسل ہے کیونکہ مکحول نے ام ایمن کو نہیں پایا۔ میں کہتا ہوں: ہمیں یہ روایت مسند عبد بن حمید عالی سند سے ملی ہے۔

### ۱۰۸۶۶ امیمہ \*

عبداللہ بن ابی بن سلول کی باندی ہیں۔ صحیح مسلم میں ابوسفیان بحوالہ جابر کی سند سے ان کا ذکر کیا ہے کہ عبداللہ بن ابی کی ایک لونڈی مسیکہ اور دوسری امیمہ تھیں، وہ ان سے زنا کرنا چاہتا تھا۔ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے شکایت کی، پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، ”اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو۔ اس آیت تک بخشے والا، مہربان ہے۔“ \*

### ۱۰۸۶۷ امیمہ \*

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں، بعض نے کہا کہ ان کا نام میمونہ ہے۔ ابو موسیٰ نے یحییٰ بن العلاء کی سند سے بحوالہ ایوب،

\* احمد (الحديث: ۴۹۸/۳) (۳۹۹/۵) \* اسد الغابۃ (ت: ۶۷۳۸) تجرید (۲/۲۴۸)

\* الطبقات الکبریٰ (۲۳۸/۸) \* الاستیعاب (۱۷۹۷/۴)

\* اسد الغابۃ (ت: ۶۷۳۱) تجرید (۲/۲۴۷) \* اسد الغابۃ (ت: ۶۷۳۵) \* سورۃ نور (الآیۃ: ۳۳)

ابن سیرین، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انہیں گورنری کے لیے بلایا، انہوں نے گورنر بننے سے انکار کر دیا۔ تو انہوں نے کہا: کیا تم گورنری کو ناپسند کرتے ہو؟ اس کو تم سے بہتر شخص نے طلب کیا تھا۔ انہوں نے پوچھا: وہ کون تھے؟ فرمایا: یوسف بن یعقوب۔ فرمایا: ”یوسف علیہ السلام نبی ہیں نبی کے بیٹے ہیں اور میں ابو ہریرہ امیہ کا بیٹا“، پھر پورا قصہ ذکر کیا۔  
 مستدرک حاکم میں تفسیر یوسف میں اس کا ذکر ہے۔ اور ہم نے اسے جزء تاسع میں ابویعلیٰ بن صابونی کے فوائد سے روایت کیا ہے۔

### ۱۰۸۶۸ امیہ

میم کے بجائے نون کے ساتھ ہے، اور بعض نے کہا امیہ ہیں۔ ہمزہ کے بجائے ہاء کے ساتھ ہے۔ بنت خلف بن اسعد بن عامر بن بیاض بن سبیع خزاعیہ، طلحہ بن عبد اللہ بن خلف کی پھوپھی ہیں، جو طلحہ طلحات کے نام سے مشہور ہیں، ابن اسحاق رضی اللہ عنہ نے ان عورتوں میں ان کا ذکر کیا ہے جنہوں نے حبشہ کی طرف اپنے مسلمان خاندانوں کے ساتھ ہجرت کی۔ ان کے ساتھ ان کے خاوند خالد بن سعید بن العاص تھے، جن سے وہاں سعید اور ام خالد جن کا نام امہ بغیر اضافت کے ساتھ ہے، پیدا ہوئے۔

### ۱۰۸۶۹ امیہ

بعض نے کہا: ان کا نام امیہ، ہمزہ کے بجائے ہاء کے ساتھ ہے۔ ابوسفیان بن حرب امویہ کی صاحبزادی ہیں۔ حویطب بن عبد العزیٰ کی زوجہ ہیں پھر صفوان بن امیہ سے شادی ہوئی۔ ابن سعد نے ان کا ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ ان کی والدہ صفیہ بنت ابوالعاص بن امیہ ہیں، فرمایا: سبیلی نے ذکر کیا ہے کہ امیہ، امیہ کے علاوہ ہیں، اور پہلی سے عروہ بن مسعود کے ہاں اولاد ہوئی، اور بعض نے کہا: ان کا نام میمونہ ہے۔ ان کے بطن سے صفوان کا عبد الرحمن بیٹا پیدا ہوا۔

### ۱۰۸۷۰ امیہ بنت قیس الخزرجیہ

ابوموسیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح تجرید میں بھی ذکر ہے۔ ابوموسیٰ کی کتاب میں میں نے ان کا ذکر نہیں پایا۔ انہوں نے آمنہ بنت قیس بن ابوالصلت الغفاریہ کا عنوان قائم کیا ہے۔ جن کا ذکر میں انشاء اللہ قسم رابع میں کروں گا۔

### ۱۰۸۷۱ امیہ بنت ابوالصلت الغفاریہ

ان کا ذکر آخری قسم میں امامہ بنت ابوالحکم کے حالات میں آئے گا۔

### ۱۰۸۷۲ امیہ بنت ابی قیس الغفاریہ

ابن سعد کی کتاب میں صفیہ بنت حُجی کے حالات میں ان کا ذکر ہے۔ فرماتے ہیں: ہمیں واقدی نے بتایا کہ ہم نے

بیاض فی الأصل \* السیرۃ النبویہ (۲۶۵/۳) \* تجرید (۳۴۹/۲)

\* الطبقات الکبریٰ (۱۷۴/۸) \* تجرید (۱۸۱) \* الاستیعاب (ت: ۳۲۸۷)

\* الطبقات الکبریٰ (۲۱۴/۸)

محمد بن موسیٰ نے عمارہ بن مہاجر، امیہ بنت ابوقیس الغفاریہ بیان کیا، فرماتی ہیں کہ ہمیں ان خواتین میں سے ایک نے بتایا جنہوں نے صفیہ بنت حنیٰ کو شب زفاف میں نبی کریم ﷺ کی طرف بھیجا تھا، وہ کہتی ہیں کہ میں نے انہیں فرماتے سنا: میری عمر ابھی سترہ سال نہیں ہوئی تھی.... پھر سارا قصہ بیان کیا۔ \*

### ۱۰۸۴۳) اُنَيسَه بنت ثعلبه \*

بن زید بن قیس انصاریہ خزرجیہ، جو بنو حارث بن خزرج سے ہیں، ابن حبیب نے فرمایا: انہیں شرف صحابیت حاصل ہے، ابن اثیر نے اپنے استدراک میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۰۸۴۴) اُنَيسَه بنت اَبی حارثه \*

بن مَصْعَد انصاریہ۔ قتادہ بن نعمان اور ابوسعید جوسعد بن مالک خدری ہیں، ان کی والدہ ہیں۔ ابن حبیب نے انہیں ان لوگوں میں ذکر کیا ہے جنہوں نے رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

### ۱۰۸۴۵) اُنَيسَه بنت خُبیب \*

رخ اور ب کے ساتھ تصغیر ہے۔ ابن یساف بن عتبہ بن عمرو بن خدیج بن عامر بن جشم بن حارث بن خزرج انصاریہ۔ نبی کریم ﷺ سے روایت کی، ان سے ان کے بھائی کے بیٹے خبیب بن عبد الرحمن بن خبیب بن یساق نے روایت کی۔ ابن سعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اسلام لائیں اور نبی کریم ﷺ سے بیعت ہوئیں اور آپ ﷺ کے ساتھ حج کیا، اور ابن حبان نے کہا کہ انہیں شرف صحابیت حاصل ہے۔ اور ابن سکین اور ابو عمر \* فرماتے ہیں: ان کا شمار اہل بصرہ میں ہے۔

میں کہتا ہوں: ان کی حدیث مسند احمد، نسائی اور صحیح ابن خزیمہ میں ہے، یہ روایت ہمیں مسند طلیسی میں عالی سند سے لکھی ہوئی ملی ہے، جو یہ ہے: حضرت بلال اور ابن ام مکتوم نبی کریم ﷺ کے مؤذن تھے..... (الحدیث)

اور اس کے بعد طرق میں ہے: جب ابن ام مکتوم اذان دیں تو کھایا پیا کرو اور جب بلال اذان دیں تو کھانا پینا بند کر دو۔ اگر ہم میں سے کسی عورت کی سحری میں سے کوئی چیز بچ جاتی تو وہ بلال سے کہتی: ذرا ٹھہرنا! میں سحری سے فارغ ہو لوں۔

ابن سعد نے اسے صحیح سند سے ذکر کیا ہے۔ بحوالہ خبیب بن عبد الرحمن جو اپنی پھوپھی اُنَيسَه سے روایت کرتے ہیں، فرماتی ہیں: قبیلہ کی لڑکیاں اپنی بکریاں لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جاتیں تو وہ ان سے کہتے: کیا تمہیں پسند ہے کہ میں تمہارے لیے ابن عفراء کی طرح دودھ دوں؟ اور تہذیب الکمال میں لکھا ہے، بعض نے کہا: ان کو شرف صحابیت حاصل ہے۔ جس نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے ان کا شمار عام صحابہ رضی اللہ عنہم میں کیا ہے۔

\* السيرة النبوية (۲۶۵/۳) \* أسد الغابة (ت: ۶۷۴۱) تجرید (۲۴۹/۲)

\* أسد الغابة (ت: ۶۷۴۲) \* أسد الغابة (ت: ۶۷۴۳) تجرید (۲۴۹/۲)

\* الطبقات الكبرى (۲۶۵/۸) \* الاستيعاب (۱۷۹۱/۴)

### ۱۰۸۷۶) انیسہ بنت رافع \*

بن المعلیٰ بن لوذان انصاریہ، بنویاضہ سے ہیں، نبی کریم ﷺ سے بیعت کی، یہ ابن حبیب کا قول ہے اور ابن اثیر نے اپنے استدراک میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۰۸۷۷) انیسہ بنت رهم \*

بعض نے کہا: رقیم انصاریہ ہیں، اور بنو ظمہ سے تعلق رکھتی ہیں، ابن حبیب کے قول کے مطابق نبی کریم ﷺ سے بیعت کی، ابن اثیر نے اپنے استدراک میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۰۸۷۸) انیسہ بنت ساعده \*

بنو عمرو بن عوف سے ہیں، ابن حبیب کا قول ہے کہ نبی کریم ﷺ سے بیعت کی، ابن اثیر نے ان کا اپنے استدراک میں ذکر کیا ہے۔ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: وہ عویم بن ساعدہ کی بہن ہیں، یہ ان صحابیات میں سے ہیں جن کا ابن اثیر نے اپنے استدراک میں ذکر کیا ہے، ابن حبیب سے روایت ہے کہ ابن سعد نے ان کا طبقات میں ذکر کیا ہے۔ انہی سے ابن حبیب نے لیا ہے، لگتا ہے ابن اثیر کو طبقات ابن سعد دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔

میں کہتا ہوں: ایسا ہی ہے جیسا انہوں نے کہا، بہت سے لوگوں نے طبقات کے رجال کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ان لوگوں کو شامل کرنے کا احسان کیا ہے۔ ذہبی رحمہ اللہ نے جیسا کہ اپنے مختصر میں لکھا، انہوں نے بہت سی خواتین کو شامل کیا ہے۔

### ۱۰۸۷۹) انیسہ بنت ابی طلحہ \*

بن عصمہ بن زید انصاریہ، بنو ظمہ سے ہیں، ابن حبیب کا قول ہے کہ نبی کریم ﷺ سے بیعت کی، ابن اثیر نے اپنے استدراک میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۰۸۸۰) انیسہ بنت عبد اللہ \*

بن عمرو انصاریہ بنیاضیہ، ابن سعد نے ان کا ذکر کیا ہے۔ ذہبی رحمہ اللہ نے اپنے استدراک میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۰۸۸۱) انیسہ بنت عدی الانصاریہ \*

بکری قبیلہ کی خاتون ہیں، انصار میں ان کے حلیف ہیں، یہ ابو عمر کا قول ہے، اور فرمایا: انہیں شرف صحابیت حاصل ہے۔ ان سے سعید بن عثمان بلوی نے روایت کیا، وہ ان کی دادی اور عبد اللہ بن سلمہ عجلانی جو احد میں شہید ہوئے، ان کی والدہ ہیں۔

❖ أسد الغابۃ (۶۷۴۴) ❖ أسد الغابۃ (۶۷۴۵) تجرید (۲/۲۴۹) ❖ الطبقات (۸/۲۶۶)

❖ أسد الغابۃ (۶۷۴۶) تجرید (۲/۲۴۹) ❖ تجرید (۱۸۱) ❖ الطبقات الکبریٰ (۸/۲۵۴)

❖ أسد الغابۃ (ت: ۶۷۴۷) تجرید (۲/۲۴۹) ❖ تجرید (۲/۲۴۹) ❖ الطبقات الکبریٰ (۸/۲۸۳)

❖ أسد الغابۃ (ت: ۶۷۴۸) تجرید (۲/۲۴۹) ❖ الاستیعاب (۴/۱۷۹۲)

## الکتاب فی تبيين الصحابة (جلد ۷)

ابن مندہ نے کہا کہ انیسہ بنت عدی انصاریہ نے اُحد میں شہید اپنے بیٹے عبداللہ بن سلمہ البدری کو لے جانے کی اجازت طلب کی، ان سے عیسیٰ بن یونس نے بحوالہ سعید بن عثمان روایت کی ہے اور انہوں نے اپنی دادی انیسہ سے نقل کیا ہے۔  
میں کہتا ہوں: ابوبکر بن ابوعاصم، ابوذر عدرازی، ابوعلی بن سکن وغیرہ نے عیسیٰ بن یونس کی روایت سے ان کی حدیث کو مسند نقل کیا ہے۔ اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ نبی کریم ﷺ کے پاس آئیں اور کہنے لگیں: یا رسول اللہ! میرا بیٹا عبداللہ بن سلمہ جو بدر میں حاضر تھا، اُحد کے غزوہ میں شہید ہو گیا، میں اس کی نعش کو اپنی طرف منتقل کرنا چاہتی ہوں تاکہ میں اس کے قرب سے مانوس ہو سکوں تو رسول اللہ ﷺ نے انہیں منتقل کرنے کی اجازت دے دی، جنہیں انہوں نے مجاہد بن زیاد کے ذریعے ایک عبا میں اپنے اونٹ پر منتقل کیا، وہ انہیں لے کر چل پڑیں۔ آپ ﷺ نے دیکھ کر فرمایا: ان کے عمل میں موازنہ نہ کرو۔ \* مجاہد ہلکے پھلکے تھے جبکہ عبداللہ بھاری جسم والے تھے۔

### انیسہ بنت عدی (۱۰۸۸۲)

بن نعلہ قرشیہ عروہ، نعمان بن عدی کی بہن ہیں، زبیر بن بکار نے ان کا ذکر کیا ہے، جو ان کے بھائی نعمان کے حالات میں ہے۔ اور نعمان کا ذکر اپنے مقام پر گزر چکا ہے۔

### انیسہ بنت عروہ \* (۱۰۸۸۳)

بن مسعود بن سنان بن عامر بن اُمیہ انصاریہ، بنو یاسہ سے ہیں۔ نبی کریم ﷺ سے بیعت کی، \* یہ ابن حبیب کا قول ہے۔ اور ابن اثیر نے اپنے استدراک میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### انیسہ بنت عمرو بن عنہ \* (۱۰۸۸۴)

عین اور نون کے زبر کے ساتھ، یہ ثعلبہ بن عمرو شقیقہ کی بہن ہیں اور ان کی والدہ جھیر بنت قین بن کعب ہیں، جو بنو سلمہ انصاریہ سے ہیں، جو بنو سواد کی شاخ ہے۔ ابن حبیب نے فرمایا کہ انہیں شرف صحابیت حاصل ہے اور نبی کریم ﷺ سے بیعت کی، ابن اثیر نے اپنے استدراک میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### انیسہ بنت عمرو \* (۱۰۸۸۵)

بن قیس بن مالک بن عدی بن نجار، البوسلیط جو اُسیرہ بن عمر ہیں، ان کی بہن ہیں، ان کی والدہ اُمیہ بنت اوس بن حجرہ ہیں، ان کا نعمان سے نکاح ہوا جس سے قتادہ اور ام سہل پیدا ہوئے۔ اس کے بعد مالک بن سنان سے نکاح ہوا جس سے ابوسعید پیدا ہوئے۔

\* الاحاد والمثنائی (۲۲۴/۶) \* أسد الغابۃ (ت: ۶۷۴۹) تجرید (۲/۲۴۹)

\* الطبقات الكبرى (۲۸۰/۸) \* أسد الغابۃ (ت: ۶۷۵۰) تجرید (۲/۲۴۹)

\* تجرید (۲/۲۴۹)

### ۱۰۸۸۶) انیسہ بنت عنہ

گزشتہ کی طرح ہیں، ابن عدی بن سان بن نابی بن عمرو بن سواد۔ ابن سعد \* نے ان کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا: ان سے عبداللہ بن عمرو بن حزام نے نکاح کیا، اور شریک بن اسود بن قیس کی سند سے بحوالہ معج عنزی، جابر بن عبداللہ نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں: میرے والد اور ماموں اُحد کے دین شہید ہو گئے۔ میری والدہ ان دونوں کو لے کر آئیں، انہوں نے دونوں کو اونٹنی پر رکھا تھا، نبی کریم ﷺ کے منادی نے پکارا، شہداء کو ان کے مقتل میں دفن کرو، پس وہ لوٹائے گئے۔

ترمذی نے شعبہ بن اسود کے طریق سے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میری دو پھوپھیاں آئیں اور اگر یہ روایت محفوظ ہے تو احتمال ہے کہ دونوں شہداء کے لانے، لے جانے میں شریک تھیں۔

### ۱۰۸۸۷) انیسہ بنت قیس الخزرجیہ \*

تجرید \* میں اسی طرح ہے۔ ابن حبیب نے ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۰۸۸۸) انیسہ بنت معاذ \*

بن معص بن قیس بن خلدہ بن مغلد انصاریہ زرقیہ، ابو عبادہ کی بہن ہیں، ابن حبیب نے ان کا ذکر کیا ہے۔ اور ابن اثیر نے اپنے استدراک میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۰۸۸۹) انیسہ بنت ہلال \*

بن معالیٰ بن لوذان انصاریہ، بنویاضہ سے ہیں، ابن حبیب کا قول ہے کہ نبی کریم ﷺ سے بیعت کی، ابن اثیر نے اپنے استدراک میں ان کا ذکر کیا ہے۔

## القسم الثانی از حرف الف

### ۱۰۸۹۰) آمنہ بنت العباس

بن عبدالطلب بن ہاشم ہاشمیہ، دارقطنی نے راحۃ میں ان کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا ان سے عباس بن عقبہ بن ابولہب نے نکاح کیا جس سے فضل بن عباس مشہور شاعر پیدا ہوئے۔

### ۱۰۸۹۱) اسماء بنت زید \*

بن خطاب عدویہ۔ ابن مندہ نے فرمایا کہ انہیں دیدار حاصل ہے۔ ان سے محمد بن اسحاق نے بحوالہ محمد بن یحییٰ بن حبان، عبداللہ بن عمر اور انہوں نے اسماء سے حدیث روایت کی ہے۔

\* الطبقات الکبریٰ (۲۹۸/۸) \* تجرید (۲۴۹/۲) \* التجرید (۱۸۱)

\* أسد الغابۃ (۶۷۵۲) تجرید اسماء الصحابۃ (۲۴۹/۲) \* أسد الغابۃ (۶۷۵۴) تجرید اسماء الصحابۃ (۲۵۰/۲)

\* أسد الغابۃ (۶۷۰۰) تجرید اسماء الصحابۃ (۲۴۴/۲)

میں کہتا ہوں: اس روایت میں ایسی کوئی شے نہیں جو روایت پر دلالت کرے، حدیث یہ ہے کہ اسماء بنت زید انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا، جنہوں نے عبداللہ بن حنظلہ سے سنا: نبی کریم ﷺ نے ہر نماز کے وقت وضو کرنے کا حکم دیا جو ان پر گراں گزرا تو نبی کریم ﷺ نے مساوک کرنے کا حکم دیا..... (الحدیث) اسے ابوداؤد \* نے نقل کیا ہے۔ ہاں! البتہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا تعلق اس قسم سے ہے کیونکہ ان کے والد یمامہ میں نبی علیہ السلام کے کچھ ہی عرصہ بعد شہید ہوئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے ہاں اپنی اولادوں کو نبی علیہ السلام کے پاس ولادت کے وقت برکت کی دعا کے لیے لانے کے کئی اسباب تھے۔

### ۱۰۸۹۲) أمة الله بنت أبي بكره الثقفي \*

ابو عمر \* نے فرمایا: صحابہ رضی اللہ عنہم کا ان میں ذکر ہے۔ ان سے عطاء بن ابویمونہ نے روایت کیا ہے۔ اہل بصرہ میں ان کا شمار ہے۔ ذہبی رحمہ اللہ \* نے تجرید میں لکھا ہے کہ انہوں نے بیعت کی۔ میں کہتا ہوں: بعید نہیں کہ وہ اس قسم سے ہوں۔

### ۱۰۸۹۳) أمة الله بنت حمزه \*

بن عبدالمطلب، ان کی کنیت ام فضل ہے۔ بعض نے کہا: یہ وہی امامہ ہیں جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ بعض نے کہا: ان کی بہن ہیں، اگر یہ کوئی اور ہیں تو ہو سکتا ہے بچپن میں فوت ہو گئی ہوں، مجھے کتاب النسب میں ان کا ذکر نہیں ملا، میں نے اس لیے اس قسم میں ان کا ذکر کیا۔

## النسب الثالث از حرف الف

### ۱۰۸۹۴) أمامه بنت الأشجع العبدي \*

الأشجع عبدي کے بھتیجے عمرو بن عبد قیس کی اہلیہ ہیں۔ جب عمرو نبی کریم ﷺ کے پاس مسلمان ہو کر آئے تو ان کی زوجہ بھی اسلام لائیں، اس کا ذکر صحابہ بن عباس کے حالات میں گزر چکا ہے۔

### ۱۰۸۹۵) أمامه بنت الحطيئة الشاعر \*

محمد بن سلام الجمعی نے بحوالہ یونس بن عبید ایک قصہ میں ان کا ذکر کیا ہے، جو دلالت کرتا ہے کہ جاہلیت میں وہ اپنے والدین کے ساتھ تھیں، ان کا اونٹ چوری ہو گیا تو انہوں نے کہا: ”ہم تین تھے اور تین ہمارے اونٹ تھے، زمانے نے میرے عیال پر ظلم کیا۔“

\* ابوداؤد (الحدیث: ۴۸) \* أسد القابۃ (۶۷۲۱) تجرید اسماء الصحابة (۲/۲۴۶)

\* الاستیعاب (۴/۱۷۹۰) \* التجرید (۱۸۱) \* تجرید اسماء الصحابة (۲/۲۴۶)



### ۱۰۸۹۶) أنيسة النخعيه \*

انہوں نے معاذ بن جبل کا یمن میں بطور قاصد رسول اللہ ﷺ آنے کا ذکر کیا، فرمایا: ہمیں معاذ نے کہا، میں تمہاری طرف رسول اللہ ﷺ کا قاصد ہوں، پانچ وقت کی نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، اور بیت اللہ کا جو تم میں سے استطاعت رکھتا ہو حج کرو۔ فرماتی ہیں: وہ اس وقت اٹھارہ سال کے تھے۔ ابو عمر \* نے اسی طرح ان کا ذکر کیا ہے۔ ابن الاثیر فرماتے ہیں: ان کی عمر کے بارے میں نامثل ہے کہ ان کا قاصد بنا کر بھیجا جانا ہجری میں تھا، اس سے یہ لازم آتا ہے کہ وہ نو سال کے اسلام لائے ہوں۔ جبکہ ایسا نہیں، جب انہوں نے بیعت کی تو وہ آدمی تھے۔

میں کہتا ہوں: صحیح یہ ہے کہ وہ اٹھائیس (۲۸) سال کے تھے، معاذ کی عمر کے بارے میں دوسری روایت بھی ہے۔

### القسم الرابع از حرف الف

www.KitaboSunnat.com

### ۱۰۸۹۷) آمنہ بنت قیس \*

بن عبد اللہ بنو اسد بن خزیمہ۔ وہ اور ان کے والد حبشہ میں ام حبیبہ کے ساتھ تھے، مستغفری نے ابن اسحاق \* کے حوالہ سے ان کا ذکر کیا ہے۔ ابو موسیٰ نے اپنے استدراک میں ان کا ذکر کیا ہے۔ ابن الاثیر نے فرمایا: میرا خیال ہے وہ آمنہ بنت رقیش (شروع میں راء بغیر نقطوں والی اور شین نقطے والی) ہیں، ان کا ذکر گزر چکا ہے، ابو موسیٰ نے دو ترجمے لکھے ہیں، اور ان کی نسبت ابن اسحاق کی طرف کی ہے، یہ گمان کرتے ہوئے کہ وہ دو ہیں۔

میں کہتا ہوں: وہ ایسا ہی ہے جیسا ابن اثیر نے گمان کیا۔

### ۱۰۸۹۸) أسماء بنت الصلت \*

قادرہ ان کا نام لینے میں منفرد ہیں، اور وہ سائبہ بنت اسماء ہیں، جیسا کہ بغیر نقطے والی سین میں ان کا ذکر آئے گا۔

### ۱۰۸۹۹) أسماء \*

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شعر سنانے والی ہیں، یہ اسماء بنت یزید بن سکین ہیں، ابو موسیٰ نے ان کا علیحدہ ذکر کیا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے دوسری سند میں جن اسماء بنت یزید سے اسے نقل کیا ہے، وہ یہی ہیں۔

### ۱۰۹۰۰) أسماء بنت یزید الأنصاریہ \*

بنو عبد الاشہل سے ہیں۔ ابن مندہ نے بحوالہ بنت یزید بن سکین ان کا علیحدہ ذکر کیا ہے۔ اور وہ دونوں ایک ہیں، بنت یزید بن سکین بنو عبد الاشہل سے ہیں، جیسا کہ میں نے ان کے حالات میں وضاحت کر دی ہے۔

\* أسد الغابة (۶۷۵۳) الاستيعاب (۳۲۹۱) تجريد (۲۵۰/۲) \* الاستيعاب (۱۷۹۲/۴)

\* السيرة النبوية (۶/۴) \* أسد الغابة (۶۷۰۳) تجريد (۲۴۴/۲) \* أسد الغابة (۶۷۰۴) تجريد (۲۴۵/۲)

\* أسد الغابة (۶۷۱۱) الاستيعاب (۳۲۷۳) تجريد (۲۴۵/۲)

### ۱۰۹۰۱ امامہ بنت حارث

بن حزن الہمالیہ، میمونہ بنت حارث کی بہن ہیں، جو نبی کریم ﷺ کی زوجہ ہیں۔ ابو عمر\* نے ان کا ذکر کیا ہے، لیکن فرمایا: اسی طرح بعض راویوں نے لکھا ہے لیکن انہیں وہم ہوا ہے اور لفظی غلطی کی ہے، مجھے معلوم نہیں کہ میمونہ کی کوئی اور باپ شریک بہن ہو، یا یہ کہ ان کی والدہ کا نام امامہ ہو، ان کی باپ شریک بہن لبابہ کبریٰ جو عباس کی زوجہ ہیں اور دوسری لبابہ صغریٰ جو ولید بن مغیرہ کی زوجہ ہیں، اور ماں شریک تین بہنیں ہیں، یہ سب چھ ہیں جن کا کتاب میں اپنی اپنی جگہ پر ذکر ہے۔

### ۱۰۹۰۲ امامہ بنت ابی الحکم الغفاریہ

بعض نے کہا: آمنہ ہیں، ان سے ان کے بیٹے حکیم نے روایت کیا۔ تجرید\* میں اسی طرح ہے۔ ان کے اصول میں آمنہ بنت ابوالحکم کے علاوہ میں نے کوئی اور نہیں دیکھے۔ اسد الغابہ میں ابن عبدالبر اور ابوموسیٰ سے اسی طرح منقول ہے۔ رہے ابو عمرو تو وہ کہتے ہیں: ائمۃ بنت ابوالحکم الغفاریہ، بعض نے کہا: یہ امیہ ہیں اور ان کے بیٹے سلیمان بن حکیم نے ان سے نبی کریم ﷺ سے قضا و قدر کے بارے میں حدیث روایت کی، رہے ابوموسیٰ تو انہوں نے مستغفری کے حوالے سے وہی کہا جو ترجمہ میں مذکور ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہیں امیہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ زیادہ کیا ہے کہ خطیب نے فرمایا: امیہ بنت ابوالصلت یعنی ہمزہ کی پیش اور ی کی تصغیر کے ساتھ ہے۔ فرماتے ہیں: ابو عبد اللہ یعنی ابن مندہ نے تاریخ میں فرمایا: آمنہ بنت ابوالصلت، مد اور نون کے ساتھ۔

اسی طرح عبدالغنی نے المشتبہ میں فرمایا، فرماتے ہیں: طبرانی وغیرہ نے ان کی مخالفت کی ہے، انہوں نے ان کا شمار بے نام لوگوں میں کیا ہے۔ پھر طبرانی کی روایت سے بحوالہ حجاج بن عمران السدوسی، یحییٰ بن خلف، عبدالاعلیٰ، محمد بن اسحاق، سلیمان بن حکیم، ائمۃ بنت ابوالحکم الغفاریہ حدیث روایت کی ہے۔ فرماتی ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ایک شخص جنت کے اتنا قریب ہو جائے گا کہ اس میں اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جائے گا پھر وہ اس سے صنعاء جتنا دور ہو جائے گا۔

میں کہتا ہوں: یہ وہی حدیث ہے جس کی طرف ابو عمر نے اشارہ کیا ہے کہ وہ باب القدر میں ہے۔ لیکن ابوموسیٰ کے کلام سے ظاہر ہے کہ ابو عمر نے لفظ امہ کی تحریف کی ہے اور اسے ائمۃ دوزبروں اور تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے۔ ان کا گمان ہے کہ وہ اسم ہے جبکہ وہ صفت ہے، اور الف کے پیش اور میم کی تشدید کے ساتھ ہے۔ سلیمان فرماتے ہیں کہ مجھ سے میری والدہ نے بیان کیا پھر ان کی نسبت ان کے والد کی طرف کی جبکہ ان کا نام نہیں لکھا، عنقریب واقدی کی روایت سے آئے گا کہ وہ ام علی ہیں، ابوموسیٰ کے کلام کا تقاضا یہ ہے کہ بنت ابی الحکم اور بنت ابی الصلت ایک ہوں، عبدالاعلیٰ کی روایت کے علاوہ ظاہر ہو چکا ہے کہ ان کے قول: میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، اس میں وہم ہے کہ سند میں بنت ابی الحکم کے بعد صحابیہ کا لفظ رہ گیا ہے۔

ابوموسیٰ کو اس کا دھیان ہوا، انہوں نے ذکر کیا کہ ابوداؤد نے ابن اسحاق کی سند سے بحوالہ سلیمان بن حکیم، ان کی والدہ بنت ابی الصلت، قبیلہ غفار کی ایک عورت دوسری حدیث نقل کی ہے۔ اور یہ غفاریہ عورت سبیلی نے ذکر کی کہ اس کا نام لیلیٰ ہے۔ اور

\* اسد الغابۃ (۶۷۱۴) الاستیعاب (۳۲۷۸) تجرید (۲۴۶/۲) \* الاستیعاب (۱۷۸۸/۴)

\* اسد الغابۃ (۶۷۲۳) تجرید (۲۴۶/۲) \* التجرید (۱۸۱)

یہ ابوذر غفاری کی زوجہ ہیں، اور حرف لام میں آئے گا کہ ابو عمر نے لیلیٰ غفاریہ کا عنوان قائم کیا ہے۔ اسی طرح سہیلی نے ابو لید سے نقل کیا ہے کہ ابو الصلت کا نام الحکم ہے۔ لگتا ہے کہ بعض راویوں نے اس میں قلب کر دیا ہے، اور یوں کہہ دیا: بنت ابو الحکم اور وہ الصلت ہیں۔

میں کہتا ہوں: اس بیان کردہ نسب کے مطابق روایت لیلیٰ غفاریہ سے ہے جو صحابیہ ہیں، خواہ ان کا نام اُمّہ ہو یا اُمیہ یا اُمّہ ہو یا آمنہ ہو، اور چاہے ان کے والد کا نام حکم ہو یا صلت ہو یا ابو حکم یا ابو صلت، گویا بعض راویوں کو صحابیہ لفظ کے ساقط کرنے میں وہم ہوا ہے۔ اور سند یوں بن گئی کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا جو غلطی سے تابعیہ کی طرف منسوب ہو گیا، میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ حدیث کا مخرج ایک ہے۔ میں نے امیہ بنت قیس بن ابی الصلت اور ان کی حدیث کا ایک اور قصہ میں ذکر کیا ہے۔ اگرچہ ان کی سند میں سلیمان بن حکیم ہے، اسی طرح میں نے امیہ بنت ابی قیس اور ان کی حدیث کا دوسرے قصہ میں ذکر کیا ہے۔ اگرچہ سند میں سلیمان بن حکیم نہیں ہیں، ان دونوں میں تعدّد کا احتمال قریب ہے۔ ان کے برعکس جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ واللہ اعلم!

### ۱۰۹۰۳ امیہ بنت خلف الخزاعیہ \*

طلحہ بن عبد اللہ بن خلف کی پھوپھو ہیں، جو طلحہ طلحات کے نام سے مشہور ہیں، ابو عمر نے ان صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے جن کا نام امیہ ہے، انہوں نے اس میں لفظی غلطی کر دی ہے۔ ابن مندہ نے اسی طرح ان کا ذکر کیا ہے۔ لیکن کہا کہ امیہ بنت خالد ہیں، انہوں نے ان کے نام میں لفظی غلطی کی ہے۔ اور صحیح ابن ابی شیبہ دوسری میم کے بدلے ن کے ساتھ ہے۔ ان کے بارے میں کہا گیا ہے: ہَمَزَہ کے بدلے ہاء کے ساتھ ہیں، اور صحیح گزر چکا ہے۔ امیہ بنت خالد خزاعیہ، اسی طرح ابن مندہ نے ان کے والد کا نام لیا ہے۔ ابن اثیر نے فرمایا کہ اس میں وہم ہے۔ صحیح نام گزر چکا ہے۔

### ۱۰۹۰۴ انیسہ بنت کعب \*

ام عمارہ ہیں، کہتی ہیں: ہمیں کیا ہے کہ ہمارا ذکر خیر نہیں کیا جاتا، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: ”بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں.....“ (الآیہ) \* ابو الوفا بغدادی نے تفسیر میں بحوالہ مقاتل ان کا یہی نام لیا ہے اور وہ وہم ہے ان کا نام ثنیہ شروع میں نون اور ب کی تصغیر کے ساتھ ہے۔ یہ ابوموسیٰ کا قول ہے۔ میں کہتا ہوں: ام عمارہ کی حدیث مشہور ہے۔



## حرف الباء الموحدة

### القسم الاول از حرف باء

#### ۱۰۹۰۵ بادیہ بنت غیلان

بن سلمہ اشقی۔ یہ وہی ہیں مخث نے جن کی بیعت بیان کی تھی کہ وہ چار کے ساتھ آتی ہیں اور آٹھ کے ساتھ واپس ہوتی ہیں۔ حدیث صحیح بخاری میں ہے، اس میں ان کا نام نہیں ہے، جب ان کے والد اسلام لائے تو یہ اسلام لائیں اور روایت کی، ابن مندہ نے احمد بن خالد وہبی کی سند سے بحوالہ محمد بن اسحاق، زہری، قاسم بن محمد نقل کیا ہے، فرمایا: بادیہ بنت غیلان الشقیہ کا ذکر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے انہیں استخاضہ میں ہر نماز کے وقت وضو کا حکم دیا۔ ابو نعیم فرماتے ہیں: اس روایت میں ان کا نام نہیں، ابن مندہ نے احمد بن خالد وہبی کی سند سے ان کا نام لیا ہے۔

ابن مندہ نے اسے دو طرح سے لکھا ہے۔ ”ب“ کے بدلے ن کے ساتھ، فرمایا: یہ وہم ہے، ان کے علاوہ نے بیان کیا ہے کہ اس کے شروع میں ”ب“ ہے۔ پھر دال کے بعد نون ہے۔

#### ۱۰۹۰۶ بشینہ بنت النعمان

بن خلف بن عمرو بن أمیہ بن بیاضہ انصاریہ، بنو بیاضہ سے ہیں۔ ابن سعد نے بیعت کرنے والیوں میں ان کا ذکر کیا ہے، کہتے ہیں: اسلام لائیں اور بیعت کی، محمد بن عمرو بن حزم نے اس کے بعد ان سے نکاح کیا، ان کی والدہ حبیبہ بنت قیس ہیں۔

#### ۱۰۹۰۷ بحینہ

حائے بے نقطی، نون کی تصغیر کے ساتھ۔ بنت الحارث، ابن اسحاق نے ان کا ان لوگوں میں ذکر کیا ہے جن میں نبی کریم ﷺ نے خیر کی تئیں وسق کجوریں تقسیم کیں، اور ابو موسیٰ مستغفری نے اسے نقل کیا ہے۔ ابن اشیر فرماتے ہیں کہ وہ عبد اللہ بن نحسینہ کی والدہ ہیں۔ ابن سعد نے اس کا ذکر کیا ہے، اور ان کے لیے علیحدہ عنوان قائم کیا ہے۔ کہتے ہیں: ان کا نام عبذہ بنت حارث ہے اور وہ الأرت بن مطلب ہیں، ان سے مالک ازدی نے نکاح کیا جو ان کے حلیف تھے، ان سے عبد اللہ بن نحسینہ پیدا ہوئے، ان دونوں کو شرف صحابیت حاصل ہے۔ ان کی والدہ اسلام لائیں اور رسول اللہ ﷺ سے بیعت ہوئیں۔ آپ ﷺ نے

❖ اسد الغابۃ (۶۷۵۵) تجرید (۳۵۰/۲) ❖ بخاری (الحدیث: ۳۰۶) مسلم (الحدیث: ۳۳۴)

❖ تجرید (۲۵۰/۲) ❖ الطبقات الکبریٰ (۲۹۲/۸) ❖ اسد الغابۃ (۶۷۵۸) الاستیعاب (۳۲۹۲) تجرید (۲۵۰/۲)

❖ السیرۃ النبویۃ (۲۷۲/۳) ❖ الطبقات الکبریٰ (۱۶۵/۸)

انہیں خیبر کی تیس و سق مجھوڑیں کھانے کے لیے دیں۔

### ۱۰۹۰۸ برزہ بنت الحارث الہلالیہ

یزید بن الاصم کی والدہ ہیں۔ ان کی والدہ بنت عامر بن معتب ثقفی ہیں۔ ان کی سگی بہن عذہ بنت حارث کے حالات میں ان کا ذکر آئے گا۔

### ۱۰۹۰۹ برزہ بنت مسعود

بن عمرو بن عمیر ثقفی، صفوان بن امیہ کی زوجہ ہیں۔ ان کے ساتھ اسلام لائیں اور ان کے بیٹے عبداللہ بن صفوان کی والدہ ہیں۔ جب صفوان اسلام لائے تو یہ ان کے پاس تھیں، اس وقت ان کی چھ بیویاں تھیں۔ اس کا بیان عاتکہ بنت ولید کے حالات میں آئے گا۔

### ۱۰۹۱۰ البرصاء

عبدالرحمن کی دادی ہیں، یہ کبشہ ہیں، ان کا ذکر حرف کاف میں آئے گا۔

### ۱۰۹۱۱ البرصاء

حسب بن برصاء کی والدہ ہیں، یہ وہی ہیں کہ ان کے والد کو آپ ﷺ نے نکاح کا پیغام دیا تھا، انہوں نے کہا: انہیں برص کا مرض ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا، ان کے والد لوٹے تو دیکھا انہیں برص کا مرض ہو چکا ہے، ان کا نام امامہ ہے، بعض نے کہا: قرصافہ ہے۔

### ۱۰۹۱۲ برکہ

ام ایمن ہیں، کنیت کے باب میں ان کا ذکر آئے گا۔

### ۱۰۹۱۳ برکہ الحبشیہ

ام حبیبہ بنت ابوسفیان کے ساتھ تھیں، وہاں ان کی خدمت کرتی تھیں، انہیں کے ساتھ واپس آئیں، یہ وہی ہیں جنہوں نے نبی کریم ﷺ کا پیشاب پی لیا تھا، جیسا کہ حدیث امیمہ بنت رقیقہ کی حدیث میں آتا ہے۔ ابو عمرؒ نے انہیں ام ایمن کے ساتھ ملا دیا ہے۔ ان کے حالات میں ابن جریج کی سند سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: مجھے حکیمہ بنت امیمہ نے بحوالہ اپنی والدہ امیمہ بنت رقیقہ خبر دی ہے کہ نبی کریم ﷺ (سردیوں میں) لکڑی کے پیالے میں پیشاب کرتے تھے جو چار پائی کے نیچے رکھا جاتا تھا، ایک رات آپ ﷺ تشریف لائے تو پیالے میں کچھ نہ تھا، آپ ﷺ نے برکہ سے کہا جو ام حبیبہ کی خدمت کرتی تھیں اور ان کے ساتھ حبشہ کی سرزمین سے آئی تھیں، اس پیالے میں جو پیشاب تھا اس کا کیا ہوا؟ کہنے لگیں: یا رسول اللہ ﷺ! میں نے اسے پی

اسد الغابۃ (۶۷۶۰) تجرید (۲۵۰/۲) اسد الغابۃ (۶۷۶۱) تجرید (۲۵۰/۲)

اسد الغابۃ (۶۷۶۳) الاستیعاب (۳۲۹۸) تجرید (۲۵۱/۲) الاستیعاب (۱۷۹/۴)

یا ہے۔

عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں بحوالہ ابن جریج کہا ہے: مجھے بتایا گیا کہ نبی کریم ﷺ کمزری کے پیالے میں پیشاب فرماتے تھے جو چار پائی کے نیچے رکھا جاتا ہے۔ پس آپ ﷺ آئے اور ارادہ کیا تو پیالے میں کچھ نہ تھا۔ آپ ﷺ نے ایک عورت سے جنہیں برکہ کہا جاتا تھا، اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی خادمہ تھیں جو حبشہ کی سرزمین سے ان کے ساتھ آئی تھیں، فرمایا: پیشاب کہاں ہے؟

ابو عمر فرماتے ہیں: میرا گمان ہے کہ یہ برکہ ہی ام ایمن ہیں۔ انہیں یہ بات کہنے پر ان حالات نے آمادہ کیا جو ان کے ترجمے برکہ ام ایمن کے شروع میں ہیں کہ انہوں نے دو ہجرتیں کیں، ایک حبشہ کی سرزمین اور دوسری مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ ام ایمن نے حبشہ کی سرزمین کی طرف ہجرت کی، اس میں تا مل ہے کہ وہ نبی کریم ﷺ کی خدمت کرتی تھیں اور ان کے شوہر زید بن حارثہ نبی کریم ﷺ کے آزاد کردہ غلام تھے، اور زید نے حبشہ ہجرت نہیں کی، اور ان دونوں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں کوئی نہ تھا، اس سے ظاہر ہوا کہ یہ حبشیہ ام ایمن کے علاوہ کوئی اور ہیں، اگرچہ ان کے نام میں موافقت ہو۔ ام ایمن کے حالات میں عنقریب آئے گا جیسا کہ ابن سکین نے بیان کیا کہ ان دونوں کی کنیت ام ایمن تھی اور نام برکہ تھا۔ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ بول کا قصہ دوسری سند سے بھی مذکور ہے، جس کی راویہ ام ایمن ہیں، جیسا کہ ان کے حالات میں ان شاء اللہ میں ذکر کروں گا۔

### ۱۰۹۱۳ برکہ بنت یسار

ابوسفیان بن حرب کی باندی ہیں، اپنے شوہر قیس بن عبداللہ اسدی کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی، ابن ہشام نے بحوالہ ابن اسحاق **۱۰۹۱۴** ان کا ذکر کیا ہے کہ یہ ان لوگوں میں سے تھیں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اسی طرح ابن سعد **۱۰۹۱۵** نے ان کا ذکر کیا ہے جو قیس بن عبداللہ کے حالات میں گزر چکا ہے۔ بعض اہل مغرب نے یہ جواز بیان کیا ہے یہ برکہ حبشیہ جن کا ذکر ہوا ہے، وہی پہلے والی ہیں۔ جیسا انہوں نے گمان کیا، ویسا نہیں۔ برکہ بنت یسار بنوعبدالدار کے حلیفوں میں سے تھیں اور ابو تجرۃ کی بہن ہیں، ان کی اصل کندہ ہے اور حبشیہ نہیں ہیں۔ اگرچہ دونوں مہاجرین کے ساتھ حبشہ کی سرزمین میں موجود ہونے میں شریک تھیں۔

### ۱۰۹۱۵ برہ بنت ابی تجرۃ

بن ابی قلیبہ اور ان کا نام یسار تھا۔ ابن سعد **۱۰۹۱۶** نے کہا کہ وہ ازد سے تھے، پھر بنوعبدالدار کے حلیف ہوئے، ابن سعد فرماتے ہیں کہ ان کے والد یسار کی کنیت ابو قلیبہ تھی۔ قلیبہ کا ذکر آگے آئے گا۔ بعض نے کہا: یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کا ذکر زبیر بن

ابوداؤد (الحديث: ۲۴) النسائي (الحديث: ۳۲) طبرانی (الحديث: ۴۷۷/۲۴) حاکم (۱۶۷/۱)

اسد الغابة (۶۷۶۶) تجرید (۲۵۱/۲) السيرة النبوية (۶/۴) الطبقات الكبرى (۱۷۹/۸)

اسد الغابة (۶۷۶۶) تجرید (۲۵۱/۲) الطبقات الكبرى (۱۷۹/۸)

بکار نے کندہ والوں سے کیا ہے۔

وہ مکہ میں بنو عبدالدار کے حلیف بن گئے، نبی کریم ﷺ سے روایت کی، اور ان سے صفیہ بنت شیبہ نے سعی کے بارے میں روایت کی۔ ان سے عمیرہ بنت عبداللہ بن کعب بن مالک نے ثویبہ کے رسول اللہ ﷺ کو دودھ پلانے کا قصہ روایت کیا ہے۔ اس میں طلیب بن عمیر کا نبی کریم ﷺ کی مدد کا قصہ ہے۔ اور اُروی بنت عبدالمطلب کے حالات میں گزر چکا ہے۔ واقندی نے اسے نقل کیا ہے۔ اسی طرح صفیہ بنت شیبہ کی سند سے بحوالہ ان کے کسی اور نے بھی نقل کیا ہے، حدیث سعی میں صفیہ کے آگے اختلاف ہے۔ چنانچہ اسے بحوالہ برہ روایت کیا ہے۔ ابن مندہ وغیرہ نے اسے نقل کیا ہے۔ اور عطاء بن ابی رباح نے صفیہ سے اور انہوں نے حبیبہ سے اسے روایت کیا ہے۔ حرف حاء میں ان کا ذکر آئے گا۔

### ۱۰۹۱۶ برہ بنت الحارث الہلالیہ

یہ میمونہ ام المؤمنین ہیں، ان کا نام پہلے بڑہ تھا نبی کریم ﷺ نے جب ان سے شادی کی تو اسے بدل دیا، ابن ابوشیثمہ نے اسے عمدہ سندوں سے روایت کیا ہے۔

### ۱۰۹۱۷ بڑہ بنت الحارث المصطلقیہ

ام المؤمنین جویریہ رضی اللہ عنہا ہیں، ان کا نام پہلے بڑہ تھا، نبی کریم ﷺ نے جب ان سے نکاح کیا تو اسے بدل دیا۔ یہ ابن عباس اور قتادہ سے مروی ہے، مسلم نے اسے دوسرے طریق سے نقل کیا ہے۔

### ۱۰۹۱۸ بڑہ بنت سفیان السلمیہ

ابو اوس سلمیٰ کی بہن ہیں، ان سے حارث بن طلحہ نے نکاح کیا جو حالت کفر میں اُحد کے دن مارا گیا۔ پھر ان سے عبداللہ بن عمر نے نکاح کیا، جس سے دو بچے پیدا ہوئے: عبداللہ اور صفیہ وغیرہ۔ ان کے بعد بھی زندہ رہیں، زبیر بن بکار نے اس کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۰۹۱۹ بڑہ بنت ابی سلمہ

بن عبدالاسد، یہ زینب رسول اللہ ﷺ کی پروردہ ہیں، ان کا نام برہ تھا، نبی کریم ﷺ نے جب ان کی والدہ سے نکاح کیا تو اسے بدل دیا، اور ان کا نام زینب رکھا۔ ان کے حالات حرف زاء میں آئیں گے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ

### ۱۰۹۲۰ بڑہ بنت عامر

بن حارث بن سباق بن عبدالدار بن قصی، قرشیہ عبدریہ۔ ابو عمرؒ نے فرمایا: ابو اسرائیل کی زوجہ تھیں جو بنو حارث سے تھے، جس کا قصہ نذر کی حدیث میں آیا ہے۔ ان سے اسرائیل پیدا ہوئے، جو جنگ جمل میں شہید ہوئے۔ حضرت برہ کا تعلق مہاجر



صحابیات سے تھا۔

### ۱۰۹۲۱) برہ (بے نسبت)

طبرانی نے اوسط میں لکھا ہے۔ ہم سے محمد بن العباس المؤدب نے ان سے عبید بن اسحاق العطار نے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے قاسم بن محمد بن عبد اللہ بن عقیل نے اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ابو عبد اللہ نے اور میں اپنے دادا کو باپ کہہ کر پکارتا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے جابر بن عبد اللہ نے حدیث بیان کی، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی خادمہ تھیں جو ان کی خدمت کرتی تھیں، انہیں برہ کہا جاتا تھا، ان سے ایک آدمی ملا اور کہا: اے برہ! اپنی پنڈلیاں ڈھانپ لو، بے شک محمد اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہ آئیں گے، اس نے نبی کریم ﷺ کو بتا دیا، پس نبی کریم ﷺ اپنی چادر کر گھسیٹتے ہوئے باہر تشریف لائے اور آپ کے رخسار غصے سے سرخ ہو رہے تھے..... (الحدیث) عبید اور اس کا شیخ دونوں متروک ہیں۔ واللہ اعلم!

### ۱۰۹۲۲) بزوع بنت واشق الرواسیہ

کلابیہ، یا اجمعیہ۔ ہلال بن مرہ کی زوجہ ہیں۔ مَعْقِلُ اُشْجعی وغیرہ کی حدیث میں ان کا ذکر ہے۔ ان کی حدیث ابن ابی عاصم نے ان سے روایت کی ہے، جوشی بن صباح کی سند سے مروی ہے۔ بحوالہ عمرو بن شعیب جو سعید بن مسیب سے اور وہ بزوع بنت واشق سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک آدمی سے نکاح کیا اور اپنے نفس کو اس کے سپرد کر دیا، وہ اس سے صحبت کرنے سے پہلے فوت ہو گیا تو نبی کریم ﷺ نے اس کے لیے مہر مثل کا فیصلہ کیا، مَعْقِلُ کی حدیث سنن میں ہے، نسائی نے اس کے طرق کی تخریج اور اس کے راویوں کے بیان اختلاف کو عبد اللہ بن مسعود کے حصہ میں بیان کیا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے زائدہ کے طریق سے بحوالہ منصور نقل کیا ہے۔ انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ اور الاسود سے نقل کیا ہے..... (الحدیث) اس میں ہے: اُشْجعی سے ایک آدمی کھڑا ہوا، میرا خیال ہے وہ سلمہ بن یزید ہے اس نے کہا ہم میں سے ایک آدمی نے بزوع اس کی ایک خاتون بزوع سے نکاح کیا..... (الحدیث)

### ۱۰۹۲۳) بریدہ بنت بشر

بن حارث بن عمرو بن حارث، جو عباد بن سہل بن اسراف کی بیوی تھیں۔ ان سے ابراہیم بن عباد پیدا ہوئے، محمد بن حبیب نے نبی کریم ﷺ سے بیعت کرنے والی خواتین میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۰۹۲۴) بریرہ

رسول اللہ ﷺ کی باندی تھیں، ابن ابی شیبہ کہتے ہیں ہم سے وکیع نے بحوالہ منذر بن ثعلبہ، انہوں نے عبد اللہ بن بریرہ روایت کیا ہے، فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ جب رات کے وقت بیدار ہوتے تو خادمہ بریرہ کو مسواک کے لیے بلاتے، احتمال ہے کہ یہ وہی ہیں جن کا ذکر آگے آئے گا، اور مجازاً رسول اللہ ﷺ کے موالی میں شمار ہونے لگیں۔

### بریرہ ۱۰۹۲۵

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باندی ہیں، بعض نے کہا: انصار کی کسی قوم کی باندی ہیں، بعض نے کہا: عتبہ بن ابواسرائیل کی، بقول بعض: ابولہال کی، کسی کا یہ قول ہے: ابواحمد بن جحش اور اس قول میں تاثر ہے۔ اس کے شوہر منتخب کے حالات میں گزر چکا ہے کہ وہ ابواحمد بن جحش کے غلام تھے، دوسرا قول غلط ہے مولیٰ عتبہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس مسئلے کا حکم دریافت فرمایا، انہوں نے بریرہ کا قصہ ذکر کیا۔ ابن سعد رضی اللہ عنہ نے اسے نقل کیا ہے اس کی اصل بخاری میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں خرید اور آزاد کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے خریدنے سے پہلے وہ ان کی خدمت کرتی تھیں، ان کا قصہ صحیحین میں ہے۔ \* دونوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ بریرہ کے قصے میں تین مسائل ہیں..... (الحدیث) اس میں ہے، وراثت آزاد کرنے والے کے لیے ہے۔ بعض ائمہ نے اس حدیث کے فوائد جمع کئے ہیں، وہ تین سو سے زیادہ ہیں، فتح الباری میں میں نے ان کی تلخیص کر دی ہے۔

نسائی نے یزید بن رومان کے طریق سے بحوالہ عروہ حضرت بریرہ سے روایت کیا ہے۔ فرماتی ہیں: میرے بارے میں تین شئی ہیں..... (الحدیث) اور اس کے رجال ثقہ ہیں، لیکن نسائی نے کہا: وہ خطا ہے، یعنی صحیح یہ ہے: عروہ، عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں۔ ابوعمر \* نے اس کا ذکر عبدالحق بن زید بن واقد کے طریق سے بحوالہ ان کے والد کیا ہے کہ عبدالملک بن مروان فرماتے ہیں: میں بریرہ کے پاس مدینہ میں بیٹھا کرتا تھا وہ مجھ سے فرماتی تھیں: اے عبدالملک! مجھے تم میں کچھ (شاہانہ) خصلتیں نظر آتی ہیں، اور تم واقعی اس کے اہل ہو کہ یہ ذمہ داری تمہیں سونپی جائے۔ اگر تم والی بن گئے تو خون بہانے سے بچنا، کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے سنا ہے: ”آدمی کو جنت کے دروازے سے ہٹا دیا جائے گا، جبکہ وہ اس کی طرف دیکھ چکا ہوگا، اس ناحق خون کے گھاؤ کی وجہ سے جو کسی مسلمان کا بہایا ہوگا۔“ \*

### بریعہ بنت ابی حارثہ ۱۰۹۲۶

بن اوس بن ضحیٰ انصاریہ، بنوعوف بن خزرج سے ہیں۔ ابن حبیب نے رسول اللہ ﷺ سے بیعت کرنے والی خواتین میں ان کا ذکر کیا ہے۔ \* ابن اثیر نے اپنے استدراک میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### بریعہ بنت ابی خارجہ ۱۰۹۲۷

بن اوس۔ ابن سعد \* نے ان کا ذکر کیا ہے۔ تجرید میں بھی ان کا ذکر ہے۔ میرا گمان ہے کہ یہ اور جوان سے پہلے ہیں ایک ہی ہیں، ان کے نام اور ان کے والد کے نام میں لفظی غلطی ہے اسے صحیح کر کے لکھ لیا جائے۔

\* أسد الغابۃ (۶۷۷۰) تجرید (۲۵۱/۱) بخاری (الحدیث: ۲۱۶۹) مسلم (الحدیث: ۳۷۵۵)

\* الاستیعاب (۱۷۹۵/۴) الطبرانی (الحدیث: ۵۲۶/۲۴) الہیثمی (الحدیث: ۲۹۸/۷)

\* أسد الغابۃ (۶۷۷۱) تجرید (۲۵۱/۲) الطبقات الکبریٰ (۲۷۸/۸) \* تجرید (۲۵۱/۲)

\* الطبقات الکبریٰ (۲۷۸/۸)

### ۱۰۹۲۸ بصرہ بنت صفوان

بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی قرشیہ اسدیہ، ورقہ بن نوفل کی بھتیجی ہیں۔ بعض نے کہا: صفوان بن امیہ بن محرز کی صاحبزادی ہیں، بنو مالک بن کنانہ۔

ابن اثیر \* کا قول ہے: اوّل صحیح ہے، اُن کی والدہ سالہ بنت امیہ بن حارثہ بن اوقص سلمیہ ہیں، عقبہ بن ابومعیط کی ماں شریک بہن تھیں، بُسرہ مغیرہ بن ابوالعاص کی زوجہ تھیں۔ ان سے عائشہ بنت ابی بکر پیدا ہوئیں، جن کی شادی مروان بن حکم \* سے ہوئی جس سے عبدالملک پیدا ہوئے، اسی طرح ان کا قول ہے جو غلط ہے۔ ام عبدالملک معاویہ کی بیٹی اور مغیرہ کی بہن ہیں۔ زبیر بن بکار کا یہ قول ہے اور وہ اپنی قوم کے نسب کو سب سے زیادہ جانتے تھے۔ بُسرہ نے نبی کریم ﷺ سے روایت کی ہے اور ان سے مروان بن حکم، عروہ بن زبیر، سعید بن مسیب، ام کلثوم بنت عقبہ اور محمد بن عبدالرحمن نے روایت کی۔

امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: سابقین اولین میں سے ہیں اور ہجرت کی سعادت حاصل ہے۔ ابن حبان فرماتے ہیں: ہجرت کرنے والی خواتین میں سے تھیں، مصعب فرماتے ہیں: بیعت کرنے والی صحابیات میں شامل تھیں، اسحاق نے اپنی مسند میں عمرو بن شعیب کے طریق سے نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں: میں سعید بن مسیب کے پاس تھا۔ فرمانے لگے: بُسرہ بنت صفوان میری خالائیں میں سے ایک ہیں، پھر مَسْ ذَکَرُ کی حدیث ذکر کی۔ \* ابن کلبی نے ذکر کیا کہ وہ کنگھی کرنے والی تھیں اور مکہ میں عورتوں کی خدمت کرتی تھیں۔

### ۱۰۹۲۹ بصرہ بنت غزوان

یہ وہی ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جن کی مزدوری کی تھی۔ پھر ان سے نکاح کر لیا۔ میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے ان کا ذکر کیا ہو۔ تجرید میں اسی طرح ہے۔

میں کہتا ہوں: عقبہ بن غزوان المازنی جو مشہور صحابی ہیں، ان کی بہن ہیں۔ وہ بصرہ کے امیر تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قصہ ان کے ساتھ صحیح ہے، نبی کریم ﷺ کے عہد میں ان کی مزدوری کی، پھر اس کے بعد ان سے نکاح کر لیا، مروان مدینہ کی حکومت میں انہیں نائب بناتے تھے۔

### ۱۰۹۳۰ بشرہ

ب کی زیر اور شہین نقطوں والے کے ساتھ، بنت ملیل، دولا م کے ساتھ تصغیر ہے۔ ابن وہرہ انصاری، حبیبہ جن کے حالات آگے آئیں گے ان کی بہن ہیں۔ ابن سعد \* نے ان کا ذکر کیا ہے۔

\* اسد الغابۃ (۶۷۷۲) تجرید (۲۵۱/۲) \* اسد الغابۃ (۲۲۹/۵)

\* الطبقات الکبریٰ (۱۷۸/۸) \* ترمذی (الحديث: ۸۲)

\* تجرید (۳۲/۲) \* تجرید (۲۵۲/۲) \* الطبقات الکبریٰ (۲۴۷/۸)

### ۱۰۹۳۱ بشیرہ

عظیمہ کے وزن پر ہے، بنت حارث بن عبد رزاح بن ظفر انصاریہ ظفریہ۔ ابن حبیب نے ان کا ذکر ان خواتین میں کیا ہے جنہوں نے رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

### ۱۰۹۳۲ بشیرہ بنت ثابت

بن نعمان بن حارث انصاریہ۔ ابن سعد نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۰۹۳۳ بشیرہ بنت النعمان

بن حارث انصاریہ، ابن سعد نے ان کا ذکر بھی بیعت کرنے والی خواتین میں کیا ہے۔

### ۱۰۹۳۴ البغوم

اس کے شروع میں زبر ہے اور غین کے پیش کے ساتھ، بنت معذل۔ ان کا نام خالد بن عمرو بن سفیان بن حارث بن زہان بن عبد یلیل کنانیہ، بنو حارث بن عبد مناة بن کنانہ سے ہیں، صفوان بن امیہ بن خلف نجفی کی زوجہ ہیں، اور ان کی اولاد عبد اللہ اصغر، صفوان، عمرو کی ام ولد ہیں، فتح کے دن اسلام لائیں۔ یہ واقدی کا قول ہے، ابوعلی جیانی کی کتاب پر ابن اثیر نے اپنے استدراک میں ان کا ذکر کیا ہے۔

میں کہتا ہوں: واقدی نے موسیٰ بن عقبہ کے طریق سے بحوالہ ابو حبیب مولیٰ زبیر، اور انہوں نے ابن زبیر سے اسے مندرجہ ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں: بغوم بنت معذل کنانیہ، صفوان بن امیہ کی زوجہ اسلام لائیں اور صفوان بھاگ گئے یہاں تک کہ کشتی تک پہنچ گئے، پھر ان کے خوف کا قصہ، جنین کے واقعہ کے بعد اسلام لانے کا ذکر کیا۔

ابن سعد فرماتے ہیں: اسلام لائیں اور حجۃ الوداع کے موقع پر بیعت ہوئیں۔ بعض نے کہا: فتح کے دن اسلام لائیں پھر اسے واقدی سے مندرجہ ذکر کیا ہے۔

### ۱۰۹۳۵ بقیرہ

تققاق بن ابو حردو سلمیٰ کی زوجہ ہیں، ابن ابی حاتم نے ان کا ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں: مجھے معلوم نہیں اسلام لائیں یا نہیں، اور امام احمد نے سند میں محمد بن اسحاق کے طریق سے بحوالہ محمد بن ابراہیم بن حارث تمیمی نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں: میں

اسد الغابۃ (۶۷۷۳) تجرید (۲۵۲/۲) الطبقات الکبریٰ (۲۴۸/۸)

تجرید (۲۵۲/۲) الطبقات الکبریٰ (۲۴۹/۸)

اسد الغابۃ (۶۷۷۴) الاستیعاب (۳۳۰۳) تجرید (۲۵۲/۲)

الطبقات الکبریٰ (۲۱۸/۸) اسد الغابۃ (۴۱۰/۵)

الطبقات الکبریٰ (۲۱۸/۸) اسد الغابۃ (۶۷۷۵) تجرید (۲۵۲/۲)

مسند احمد (۳۷۸/۶)

نے بغیر، جو قنقاع کی زوجہ ہیں، سے سنا وہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ”اے لوگو! جب تم سنو کہ ایک لشکر قریب ہی دھنسا دیا گیا ہے تو قیامت آگئی۔“

اسے ابن سکین نے اس طریق سے نقل کیا ہے۔ بغیرہ سے اس حدیث اور اس سند کے علاوہ اور کوئی روایت نہیں۔

بقیہ ۱۰۹۳۶

سماک خیبری کی زوجہ ہے، جن کے ترجمے میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

بہیسہ بنت عامر ۱۰۹۳۷

بن خالدہ بن عامر بن قلد انصاریہ زرقیہ۔ ابن سعد رحمہ اللہ نے بیعت کرنے والی صحابیات رضی اللہ عنہن میں ان کا ذکر کیا ہے۔

بہیسہ الفزاریہ ۱۰۹۳۸

ابن حبان نے فرمایا: انہیں شرف صحابیت حاصل ہے۔ ان کے والد ابو یحییٰ کے سوانح میں کئیوں کے بیان میں جو حدیث روایت کی ہے، اس کے اختلاف کا بیان گزر چکا ہے۔ اگر ابن حبان کا قول نہ ہوتا کہ انہیں شرف صحابیت حاصل ہے تو روایت میں ایسی کوئی بات نہیں جو ان کے صحابی ہونے پر دلالت کرے۔ ابن مندہ کی حدیث کا سیاق بتاتا ہے کہ ان کے والد نے اجازت طلب کی تھی۔ ابو داؤد اور نسائی کی حدیث میں ان کے والد سے روایت ہے کہ انہوں نے اجازت طلب کی تھی، اور وہی قابل اعتماد ہے۔

بہیہ ۱۰۹۳۹

تشدید کے ساتھ تصغیر ہے۔ بعض نے کہا: بہیمہ، میم کے ساتھ ہے، بنت بشر مازنیہ۔ ابو ذر عد دمشقی فرماتے ہیں: مجھ سے دُجیم نے کہا: ”ایک گھرانے کے چار افراد کو شرف صحابیت حاصل ہے۔ بشر اور اس کے دونوں بیٹوں عبداللہ اور عطیہ کو اور ان کی بہن صماء کو۔“ دارقطنی رحمہ اللہ نے فرمایا: صماء ان کا نام بہیمہ ہے۔

ابو عمر نے ان کا ذکر کیا ہے اور فرمایا: انہوں نے نبی کریم ﷺ سے سوائے فرض روزوں کے ہفتے کے دن (نفل) روزے کی ممانعت کی حدیث روایت کی ہے، ان کے بھائی عبداللہ نے ان سے روایت کی، پھر ان سے ابو ذر عد دمشقی نے دو طریق سے مسند ذکر کی ہے، جو انہوں نے یحییٰ بن صالح سے اور انہوں نے محمد بن قاسم طائی سے روایت کی ہے۔ فرماتے ہیں: عبداللہ بن بشر کی بہن کا نام ایک روایت میں بھیمہ اور دوسری روایت میں بھتہ ہے۔

میں کہتا ہوں: ان کی حدیث نسائی نے نقل کی ہے، اور اپنی مسند میں راویوں کے اختلاف کے بیان میں دقت نظر سے کام لیا ہے۔ ان سب روایات میں ان کا نام صماء ہے، اور بعض طرق میں ان کی پھوپھی سے، اور بعض میں جن میں ان کی خالہ سے روایت ہے، ان کا نام نہیں لیا، بعض کے نزدیک ان کا نام جُہیمہ یا ہُجیمہ ہے، اور وہ غلط ہے۔

### ۱۰۹۴۰ بہیہ بنت عبد اللہ \*

البکریۃ۔ بکر بن وائل سے ہیں، اپنے والد کے ساتھ نبی کریم ﷺ کے پاس آئیں۔ فرماتی ہیں: آپ ﷺ نے مردوں سے بیعت لی اور ان سے مصافحہ کیا اور عورتوں سے بھی بیعت لی، لیکن ان سے مصافحہ نہیں کیا۔ فرماتی ہیں: آپ ﷺ نے مجھے دیکھا تو بلایا اور میرے سر پر ہاتھ پھیرا، اور میرے لیے اور میرے والدین کے لیے دعا کی، ان کی ساٹھ اولادیں ہوئیں جن میں سے چالیس مرد اور بیس عورتیں تھیں۔ ابو عمر \* نے اسی طرح بغیر سند کے ذکر کیا ہے۔ باوردی نے عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة جو ایک متروک راوی ہیں، ان کی سند سے بحوالہ جہ بنت ختمناخ مسند نقل کیا ہے۔ فرماتی ہیں: مجھ سے بھیہ بنت عبد اللہ بکریہ نے حدیث بیان کی، فرماتی ہیں: میں اپنے والد کے ساتھ آئی.... پھر حدیث ذکر کی اور اس کے آخر میں اضافہ کیا: ان میں سے بیس شہید ہو گئے ہیں۔ \* ابن مندہ نے اسے بحوالہ باوردی نقل کیا ہے۔

### ۱۰۹۴۱ البیضاء الفہریہ \*

سہیل اور صفوان کی والدہ ہیں۔ یہ دونوں بیضاء کے بیٹے ہیں، ان کا نام وعدہ ہے۔ جیسا کہ بغیر نقطوں والے حرف وال میں آئے گا۔

### القسم الثانی از حروفباء

### ۱۰۹۴۲ برکہ بنت النبی ﷺ \*

جس نے حافظ عبد الغنی کی کتاب رجال العمدۃ کو جمع کیا ہے، انہوں نے ان کا ذکر کیا ہے۔ پس کتاب کے شروع میں نبی کریم ﷺ کے سوانح میں ان کا کچھ تذکرہ ہے۔ پھر فرمایا: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ کا بیٹا قاسم پیدا ہوا پھر برکہ، پھر زینب، اس کے بعد رقیہ، پھر فاطمہ، پھر ام کلثوم پیدا ہوئیں۔ پھر فرمایا: ابن سعد نے اسی طرح ان کا ذکر کیا ہے۔ لیکن برکہ کا ذکر نہیں کیا، جس نے اس بات کا ذکر کیا ہے اسے کسی کی طرف منسوب نہیں کیا، نہ ہی وہ مشہور ائمہ کی مشہور کتابوں میں سے کسی میں مذکور ہے۔ اللہ ہی کی توفیق سے سب کام ہوتے ہیں، احتمال ہے کہ اس میں بھیہ بکریہ اور بھیہ فزاریہ کا ذکر کیا جائے۔

### القسم الثالث از حروفباء

کسی صحابیہ کے ذکر سے خالی ہے اور احتمال ہے کہ اس میں ذکر کیا جائے۔

### ۱۰۹۴۳ برزہ بنت رافع \*

ابن سعد \* نے زینب بنت جحش کے حالات میں فرمایا: ہمیں یزید بن ہارون اور عبد الوہاب بن عطاء نے بحوالہ محمد بن عمرو

\* اسد الغابۃ (۶۷۷۳) تجرید (۲۵۲/۲) \* الاستیعاب (۱۷۹۸/۴)

\* جامع المسانید والسنن (۳۲۷/۵۱) \* اسد الغابۃ (۶۷۷۹) تجرید (۲۵۲/۲)

\* الطبقات الکبریٰ (۷۷/۸)

خبر دی کہ مجھ سے یزید بن حصیفہ نے بحوالہ عبداللہ بن رافع حدیث بیان کی، انہوں نے برزہ بن رافع سے، انہوں نے عبداللہ بن رافع سے روایت کیا، فرماتے ہیں: جب حکومتی وظیفہ تقسیم ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زینب بنت جحش کی طرف ان کا حصہ بنتا بھیجا، جب ان کے پاس لایا گیا، فرمانے لگیں: اللہ تعالیٰ عمر کی مغفرت کرے، میرے سوا دوسری بہنیں اس تقسیم کی مجھ سے زیادہ حقدار ہیں۔ انہوں نے کہا: یہ سارا آپ کے لیے ہے۔ فرمایا: ”سبحان اللہ (اللہ پاک ہے)!“ اور اس میں سے کچھ کپڑے سے ڈھانپ لیا، اور فرمایا: اس کو رکھ دو اور اس پر کپڑا ڈال دو پھر مجھ سے کہنے لگیں: اس میں اپنا ہاتھ ڈالو اور مٹھی بھر کر بنو فلاں کے پاس لے جاؤ اور بنو فلاں کے پاس جو ان کے رشتہ دار اور یتیم تھے، یہاں تک کہ اس میں سے کچھ کپڑے کے نیچے باقی رہ گیا، ان سے برزہ نے عرض کیا: اے ام المومنین! اہل آپ کی مغفرت کرے، اللہ کی قسم! اس میں ہمارا حق بھی ہے۔ انہوں نے فرمایا: جو کچھ کپڑے کے نیچے ہے تمہارا ہے۔ ہم نے اس کے نیچے پچاسی درہم پائے، پھر انہوں نے آسمان کی طرف اپنے ہاتھ بلند کیے اور کہنے لگیں: اے اللہ! اس سال کے بعد عمر کا وظیفہ مجھے نہ ملے، پس وہ وفات پا گئیں۔

### القسم الرابع از حرف باء

بُئینہ ۱۰۹۴۴

ث اور نون کی تصغیر کے ساتھ، بنت ضحاک۔ ابو نعیم نے ان کا ذکر حرف ب میں کیا ہے، ابوموسیٰ نے ان کا تعاقب کیا ہے کہ اکثر نے ان کا ذکر شروع میں ث کے ساتھ کیا ہے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ ابن اثیر \* نے ابوموسیٰ کی پیروی کرتے ہوئے کہا ہے کہ حدیث میں ان کے صحابی ہونے کا ذکر نہیں ہے۔  
میں کہتا ہوں: ابوعمر \* کو اعتماد ہے کہ انہیں دیدار حاصل ہے۔ جیسا کہ حرف ث کے بیان میں آئے گا۔

بُحیدہ ۱۰۹۴۵

جیم کی تصغیر کے ساتھ، ابوعمر \* فرماتے ہیں: ابن ابی خثیمہ نے اپنی سند کے ساتھ بحوالہ ابن ابی ذئب، انہوں نے مقبری سے، انہوں نے عبدالرحمن بن بحیدہ انہوں نے اپنی والدہ بحیدہ سے ذکر کیا ہے، فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”سائل کو دو اگر چہ جلا ہوا کھر کیوں نہ ہو“ \*۔  
اسی طرح فرمایا: وہ اُمّ بحیدہ ہیں۔  
اور صحیح یوں ہے، بحوالہ عبدالرحمن بن امّ بحیدہ، جو اپنی والدہ بحیدہ سے روایت کرتے ہیں جیسا کہ درست نام کنیتوں کے بیان میں آ رہا ہے۔

\* اسد الغابۃ (۶۷۵۶) تجرید (۲۵۰/۲) \* اسد الغابۃ (۲۲۶/۵) \* الاستیعاب (۱۷۴۳/۴)

\* اسد الغابۃ (۶۷۵۷) تجرید (۲۵۰/۲) \* الاستیعاب (۱۷۹۲/۴)

\* مسند احمد (۳۸۲/۶) جامع المسانید والسنن (۳۱۵/۱۵)



### ۱۰۹۴۶ بدیلہ بنت مسلم

بعض نے کہا: اسلم، جعفر بن محمود بن محمد بن سلمہ، بدیلہ سے جو ان کی نانی فرماتی ہیں: ہمارے پاس عباد بن بشر آئے اور کہا: قبلہ تبدیل کر دیا گیا ہے۔ \* واقدی نے اس کا ذکر کیا ہے۔ ابن مندہ نے اسے نقل کیا ہے اور ان کے نام میں غلطی کی ہے، جو تو یلہ ت اور واؤ کے ساتھ آئے گا۔ بعض نے کہا: ان کے نام کے شروع میں نون ہے۔

### ۱۰۹۴۷ بركة بنت النبی ﷺ

دوسری قسم میں ان کا ذکر گزر چکا ہے، پھر مجھے پتہ چلا کہ وہ غلطی ہے جو تحریف سے پیدا ہوئی۔ بركة نبی کریم ﷺ کی باندی تھیں جو حضرت خدیجہ بنت النبی سے آپ ﷺ کی اولاد کی پرورش کرتی تھیں۔ جب قاسم پیدا ہوئے تو ان کی آپ نے پرورش کی، گویا اس بارے میں جس مصنف نے نقل کیا ہے اسی طرح لکھ دیا ہے۔ یوں یہ لفظ اس کے سامنے تبدیل ہو گیا، اور اسے ان کی سگی بہن بركة سمجھ لیا۔ واللہ اعلم!



## حرف تاء

### التسم الاول از حرف تاء

#### ۱۰۹۴۸ تَماضِر بنت الاصْبَغ

بن عمرو بن ثعلبہ کلبیہ۔ ان کے والد کے حالات میں ان کا نسب گزر چکا ہے جو صرف الف کی تیسری قسم میں ہے۔ بعض نے کہا: وہ تماضر بنت زبان بن اصغ ہیں۔

ابن سعد <sup>۱</sup> نے واقدی سے ذکر کیا ہے کہ ہم سے عبداللہ بن جعفر نے بحوالہ ابن عدی، انہوں نے صالح بن ابراہیم بن عبدالرحمن بن عوف سے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے عبدالرحمن بن عوف کو بنو کلب کی طرف بھیجا اور فرمایا: ”اگر وہ تمہاری دعوت کو قبول کر کے اسلام لے آئیں تو ان کے بادشاہ یا ان کے سردار کی بیٹی سے نکاح کر لیتا۔“ جب عبدالرحمن آئے تو انہیں اسلام کی طرف بلایا، انہوں نے اسے قبول کر لیا، اور جو جزیہ دینے پر راضی ہوا، اسے اس کے دین پر قائم رکھا، پس عبدالرحمن بن عوف نے تماضر بنت اصغ بن عمرو جو ان کے بادشاہ کی بیٹی تھی، ان سے نکاح کر لیا، پھر انہیں مدینہ لے آئے، اور وہ ابی سلمہ بن عبدالرحمن بن عوف کی والدہ ہیں۔

ابن سعد <sup>۲</sup> نے بحوالہ حماد بن زید، انہوں نے ایوب سے، اور انہوں نے سعد بن ابراہیم سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: ابوسلمہ بن عبدالرحمن کی والدہ تماضر بنت اصغ ہیں۔ عمر بن ابوسلمہ بن عبدالرحمن اپنے والد سے وہ اپنی دادی تماضر بنت زبان بن اصغ سے روایت کرتے ہیں کہ جب عبدالرحمن بن عوف کی وفات کے بعد زبیر نے انہیں طلاق دے دی، وہ ان کے ساتھ سات سال رہا، پھر انہیں طلاق دے دی، وہ عورتوں سے کہتی تھیں: جب تم میں سے کوئی نکاح کرے تو سات سال کے بعد دھوکے میں نہ رہے، جیسا کہ زبیر نے میرے ساتھ کیا۔ محمد بن عمر فرماتے ہیں: وہ پہلی کلبی عورت ہیں جن کا نکاح قریشی سے ہوا، عبدالرحمن کی ان سے ابوسلمہ کے علاوہ اولاد نہ ہوئی۔

محمد بن سعد فرماتے ہیں کہ ہم سے یزید بن ہارون نے حدیث بیان کی، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے ابراہیم بن سعد نے بحوالہ اپنے والد اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تماضر میں کچھ برا اخلاق تھا اور انہیں دو طلاق ملی تھیں، جب عبدالرحمن بیمار ہوئے تو ان دونوں کے درمیان کچھ رنجش ہو گئی تھی، تو انہوں نے ان سے کہا: اللہ کی قسم! اگر تم مجھ سے طلاق مانگو تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ وہ کہنے لگی: اللہ کی قسم! میں آپ سے اس کا سوال کرتی ہوں۔ انہوں نے کہا: ابھی نہیں، جب تمہیں حیض آئے اور پھر پاک ہو جاؤ تو مجھے بتانا۔ جب انہیں حیض آیا اور پاک ہوئیں تو ان کو بتانے کے لیے پیغام بھیجا، فرماتے ہیں، ان کا

قاصد ان کے کسی رشتہ دار کے پاس سے گزرا تو اس نے پوچھا: کہاں جا رہے ہو؟ قاصد نے کہا: مجھے تماضر نے عبدالرحمن کے پاس بھیجا ہے تاکہ میں انہیں بتاؤں کہ انہیں حیض آیا پھر پاک ہوگئی ہیں۔ انہوں نے کہا: ان کے پاس واپس جاؤ اور کہو ایسا نہ کریں، اللہ کی قسم! وہ اپنی قسم کو رد نہیں کرتے۔ تو انہوں نے کہا: اللہ کی قسم! میں اپنی قسم کو رد نہیں کروں گی۔ فرماتے ہیں: انہوں نے انہیں بتایا تو انہیں طلاق دے دی۔

ابن نمیر نے محمد بن اسحاق سے، انہوں نے سعد بن ابراہیم سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنی دادی ام کلثوم سے روایت کی ہے، فرماتی ہیں: جب عبدالرحمن نے اپنی بیوی تماضر جو قبیلہ بنو کلب سے تھیں طلاق دی تو انہیں حبشی باندی نفع اٹھانے کے لیے دی۔

محمد بن مصعب رحمہ اللہ، اوزاعی رحمہ اللہ، اور وہ زہری رحمہ اللہ سے، وہ طلحہ بن عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تماضر بنت اصغ کو عبدالرحمن کا وارث قرار دیا، انہوں نے مرض وفات میں انہیں طلاق دی تھی، جو ان کی آخری طلاق تھی۔ ایوب کی سند سے جس میں انہوں نے نافع اور سعد بن ابراہیم سے روایت کیا ہے۔ مروی ہے کہ انہوں نے انہیں تین طلاق دیں، عدت پوری ہونے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں وارث قرار دیا۔

#### ۱۰۹۴۹) تماضر بنت عمرو

بن شریذ سلمیہ، یہ خنساء شاعرہ ہیں۔ ان کا ذکر حرف خاء نقطہ والے میں آئے گا۔

#### ۱۰۹۵۰) تماضر العنبریہ الشیبیہ

بنو شیبہ بن عثمان سے ہیں، ان کا شمار اہل مکہ میں ہے۔ صفیہ بنت شیبہ نے ان سے سعی کی حدیث نقل کی، یہ ابو عمر کا قول ہے۔ ابن ابوعاصم، عقیلی اور ابن مندہ نے ان کی حدیث ثنی بن عمرو کے طریق سے نقل کی ہے۔ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ صفا و مروہ کے درمیان سعی کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے: ”اے لوگو! اللہ تعالیٰ نے تم پر سعی لازم کی ہے پس سعی کرو“۔ ابن مندہ فرماتے ہیں کہ اسے عطاء نے صفیہ سے بحوالہ حبیبہ روایت کیا ہے۔

میں کہتا ہوں: اس کا ذکر حبیبہ بنت ابوجراہ میں ان شاء اللہ تعالیٰ آئے گا۔

#### ۱۰۹۵۱) تمیمہ بنت ابی سفیان

بن قیس اشجلیہ۔ ابن سعد اور ابن حبیب نے نبی کریم ﷺ سے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ لیکن بنت خطیم کے حالات میں ان کا ذکر آئے گا۔

اسد الغابۃ (۶۷۸۰) تجرید (۲۵۲/۲) اسد الغابۃ (۶۷۸۱) تجرید (۲۵۳/۲)

الاحاد والمثنائی (۲۲۲/۶) اسد الغابۃ (۶۷۸۲) تجرید (۲۵۳/۲)

الطبقات الکبریٰ (۲۵۳/۸)

### ۱۰۹۵۲ تمیمہ بنت وہب

رفاعہ بن سموال کے ساتھ ان کا قصہ جو حدیث عسیلہ میں ہے، موطا مالک کی روایت سے ہے، میں اس کے علاوہ نہیں جانتا۔ ابن عبدالبر نے اسی طرح کہا ہے۔

ابن مندہ فرماتے ہیں: تمیمہ بنت ابوعبید رفاعہ القرظی کی خاتون ہیں، پھر سفیان کے طریق سے بحوالہ زہری، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حدیث روایت کی ہے کہ رفاعہ قرظی کی خاتون عبدالرحمن بن زبیر کی زوجہ تھی، اور ان کا نام نہیں لیا، جبکہ قتادہ نے ان کا نام لیا ہے، پھر سعید بن ابوعروہ بحوالہ قتادہ حدیث روایت کی ہے کہ تمیمہ بنت ابوعبید قرظیہ رفاعہ یا رافع قرظی کی بیوی تھی، انہوں نے اسے طلاق دی، پھر قصہ ذکر کیا۔\* ربیع مالک کی وہ روایت جس کی طرف ابوعمر\* نے اشارہ کیا، فرماتے ہیں: مسور بن رفاعہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے زبیر بن عبدالرحمن بن زبیر سے سنا کہ رفاعہ بن سموال نے اپنی بیوی تمیمہ بنت وہب کو طلاق دی.... پھر ساری حدیث ذکر کی۔

رفاعہ کے سوانح میں اس پر بحث گزر چکی ہے۔ محمد بن اسحاق نے اس کی اس کی مخالفت کی ہے۔ اور اسے ہشام بن عروہ سے بحوالہ ان کے والد روایت کیا ہے اور اسے پلٹ دیا ہے۔ فرماتے ہیں: بغور قیظہ کی خاتون جسے تمیمہ کہا جاتا تھا عبدالرحمن بن زبیر کی بیوی تھی، انہوں نے ان کو طلاق دے دی، پھر رفاعہ نے ان سے نکاح کر لیا، پھر ان کو طلاق دے دی، تو انہوں نے عبدالرحمن کے پاس لوٹنا چاہا..... (الحدیث)

ابو نعیم نے اسے نقل کیا ہے، بعض نے کہا کہ ان کا نام سُحیمہ ہے، جیسا کہ آگے آئے گا۔ بعض کا قول ہے: عائشہ ہے، اور رفاعہ کے سوانح میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

### ۱۰۹۵۳ تہناتہ

ہمزہ زبر والا اور اس کے بعد نون، بنت کلیب حضرمیہ، ان کے والد کلیب بن اسد کے سوانح میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

### ۱۰۹۵۴ التوامۃ

جوان سے پہلے نام ہے اس کے وزن پر ہے۔ بنت امیہ بن خلف حمزی، صالح بن ابوصالح کی باندی ہیں جو توأمہ کے غلام ہیں، بعض نے کہا: ان کا یہ نام اس وجہ سے ہے کہ وہ اپنی بہن کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئیں۔ باوردی نے فرمایا: ہم سے مطمئن نے بیان کیا وہ فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن حکم بن ابوزید کو فرماتے ہوئے سنا: صالح توأمہ بنت امیہ بن خلف حمزی کا غلام تھا۔ (توأمہ نے) نبی کریم ﷺ سے بیعت کی۔ ابن سعد\* فرماتے ہیں: ان کی والدہ لیلیٰ بنت حبیب تمیمیہ تھیں۔ توأمہ نے خاندان سے باہر عاصم بن جعد فزاری سے شادی کی۔

\* اسد الغابۃ (۶۷۸۳) تجرید (۲/۲۵۳) \* موطا مالک (الحدیث: ۱۷، ۱۸)

\* بخاری (الحدیث: ۵۲۵۶) \* الاستیعاب (۱۷۹۸/۴)

\* اسد الغابۃ (۶۷۸۴) تجرید (۲/۲۵۳) \* الطبقات الکبریٰ (۱۹۷/۸)

پھر جید سند سے نقل کیا ہے، لیکن اس میں واقدی ہیں، پھر سلیمان بن یسار سے روایت کرتے ہیں کہ تو اُمہ کو طلاق مغلظہ دی گئی، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے اسے ایک طلاق قرار دیا۔

### تویلہ ۱۰۹۵۵

تصغیر کے ساتھ ہے۔ بنت اسلم، طبرانی \* میں ان کی حدیث ابراہیم بن حمزہ زبیری کے طریق سے مروی ہے بحوالہ ابراہیم بن جعفر بن محمود بن محمد بن سلمہ وہ اپنے والد سے اور وہ اپنی دادی سے جو ان کی والدہ ہیں، روایت کرتے ہیں: تویلہ بنت اسلم، اور وہ بیعت کرنے والی خواتین میں سے تھیں، فرماتی ہیں: اسی اثناء میں کہ میں بنو حارثہ میں تھی، عباد بن بشر بن قنظی نے کہا: نبی کریم ﷺ نے بیت الحرام کو قبلہ بنا لیا ہے۔ تو مرد عورتوں کی جگہ اور عورتیں مردوں کی جگہ آگئیں، انہوں نے باقی دو سجدے کعبہ کی طرف ادا کیے۔ ابو عمر نے ذکر کیا ہے: وہ ظہر کی نماز تھی، اور ان کے بارے میں بعض کا قول ہے: تولتہ بغیر تصغیر کے ہے۔ اور بعض نے کہا: اس کے شروع میں نون ہے، عنقریب اس کا ذکر آئے گا۔

**نوٹ:** قسم ثانی، ثالث، رابع کسی کے ذکر سے خالی ہے۔



## حرف ثاء (تین نقطوں والا)

### التقسیم الاول از حرف ثاء

#### ثبیۃ ۱۰۹۵۶

ث کے ساتھ، پھر ب پھرت، تصغیر ہے۔ بنت ربیع بن عمرو بن عدی بن زید بن حشم بن حارثہ انصاریہ۔ ابوقیس بن جبر کی والدہ ہیں۔ ابن حبیب کا قول ہے کہ نبی کریم ﷺ سے بیعت کی، ابن سعد نے فرمایا: ان کی والدہ سہلہ بنت امرئ القیس بن کعب ہیں، اور ان سے اوس بن قظلی نے نکاح کیا جس سے عرابہ، عبداللہ اور کباشہ \* پیدا ہوئے۔

#### ثبیۃ بنت سلیم ۱۰۹۵۷

بن قیس بن عمرو بن عبید انصاریہ نجاریہ، ابن سعد \* نے بیعت کرنے والی خواتین میں ان کا ذکر کیا ہے اور فرمایا ان کی والدہ خلیلہ بنت صمہ ہیں، اور وہ عبدالرحمن بن عبداللہ بن ابوصعصعہ کی والدہ ہیں اور قلیلہ اور میمونہ کی بہن ہیں۔

#### ثبیۃ بنت النعمان ۱۰۹۵۸

بن عمرو بن غلدہ بن عمرو بن امیہ بن عامر بن بیاضہ انصاریہ بیاضہ، ابن سعد رضی اللہ عنہ \* فرماتے ہیں: اسلام لائیں اور بیعت کی، انہیں ان کے والد اور ان کے دادا کو شرف صحابیت حاصل ہے۔

#### ثبیۃ بنت النعمان الأنصاریہ ۱۰۹۵۹

بنو نجیح سے ہیں، ابن حبیب کا قول ہے کہ اسلام لائیں اور بیعت کی۔ انہوں نے ان کا ذکر ان سے پہلی صحابیہ سے ملا دیا ہے۔ اور بنو نجیح بنو بیاضہ سے نہیں ہیں۔

#### ثبیۃ بن یعار ۱۰۹۶۰

نیچے دو نقطے ہیں، اس کے بعد عین بغیر نقطوں کے، بغیر شد کے۔ بن زید بن عبید بن زید بن مالک بن عوف بن عمرو بن عوف انصاریہ اوسینہ، ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ کی بیوی ہیں، یہ وہی ہیں جنہوں نے سالم کو جو ابو حذیفہ کا غلام تھا، آزاد کیا۔ ابو حذیفہ

\* اسد الغابۃ (۶۷۸۶) تجرید (۲۵۳/۲) \* الطبقات الکبریٰ (۲۴۰/۸)

\* اسد الغابۃ (۶۷۸۷) تجرید (۲۵۳/۲) \* الطبقات الکبریٰ (۳۰۹/۸)

\* اسد الغابۃ (۶۷۸۹) تجرید (۲۵۳/۲) \* الطبقات الکبریٰ (۲۸۲/۸)

\* اسد الغابۃ (۶۷۹۰) تجرید (۲۵۳/۲)

کے سوانح میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔ مصعب زہری اور ایک جماعت نے ان کا یہ نام لیا ہے۔ جبکہ موسیٰ بن عقبہ نے بحوالہ ابن شہاب زہری ان کا نام سلمیٰ لیا ہے، اسی طرح ابن اسحاق نے اپنی روایت میں فرمایا، اور ابوطوالہ نے ان کا نام عمرہ لیا ہے۔ رہے ان کے والد تو موسیٰ بن عقبہ کے قول کے مطابق اوپر دو نقطوں کے ساتھ ہے۔ ابراہیم بن منذر نے پہلے قول کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہ سب ابو عمرؒ سے مروی ہے۔ ان کے نام کے بارے میں دو اور قول گزر چکے ہیں۔ لیلیٰ اور فاطمہ، ابو عمر کا قول ہے: اؤلین ہجرت کرنے والیوں میں سے تھیں، اور صحابہ کی عورتوں میں سے علم و فضل والی تھیں۔

• میں کہتا ہوں: اس قول میں کہ وہ مہاجرہات میں سے ہیں، تاقل ہے، کیونکہ ان کا نسب انصار میں ہے۔ اور اس قول میں کہ وہ ابو حذیفہ کی زوجہ ہیں، دوسرا تردد ہے۔ ابو حذیفہ کے سوانح میں گزر چکا ہے کہ ان کی زوجہ جنہیں دودھ پلانے کا کہا گیا تھا، وہ بڑی عمر کی تھیں اور ان کا نام سہلہ بنت سہل انصار یہ تھا، مگر اس صورت میں کہ کہا جائے کہ ان کی دو بیویاں تھیں، ایک جنہوں نے سالم کو آزاد کیا اور دوسری جنہیں دودھ پلانے کا حکم دیا گیا، اور یہ احتمال بعید ہے۔ اللہ کو ہی اس کا علم ہے۔

### ۱۰۹۶۱ ثویبہؓ

یہ وہی ہیں جنہوں نے نبی کریم ﷺ کو دودھ پلایا تھا، ابولہب کی باندی ہیں۔ ابن مندہ نے ان کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا: ان کے اسلام میں اختلاف ہے۔ ابو نعیم فرماتے ہیں: مجھے معلوم نہیں کہ کسی نے ان کا اسلام لانا ثابت کیا ہو۔ طبقات ابن سعدؒ کے باب من ارضع النبی ﷺ میں ایسی روایت ہے جو اس پر دلیل ہے کہ وہ اسلام نہیں لائیں، لیکن اس سے ابن مندہ کے قول کو رد نہیں کیا جاسکتا۔

ابن سعد نے بڑھ بخت ابو حجازہ کے طریق سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو سب سے پہلے ثویبہ نے اپنے بیٹے کے ساتھ دودھ پلایا، اس کا نام مسروح ہے۔ یہ حلیمہ بنت ابی اسحاق کے آنے سے چند روز قبل کا قصہ ہے۔ آپ ﷺ سے پہلے حمزہ کو اور بعد میں ابوسلمہ بن عبد الاسد کو دودھ پلایا۔ ابن سعد فرماتے ہیں کہ ہمیں واقدی نے کئی ایک اہل علم سے روایت کی، وہ کہتے ہیں کہ ثویبہ نے نبی کریم ﷺ کو دودھ پلایا۔ آپ ﷺ ان کے لیے تحفہ عطیہ بھیجتے تھے، وہ اس وقت مکہ میں ہی تھیں۔ حضرت خدیجہ بنت ابی اسحاق ان کی عزت کرتی تھیں، اور اس وقت وہ ابولہب کی باندی تھیں۔ حضرت خدیجہ بنت ابی اسحاق نے کہا کہ وہ اسے ان کے ہاتھ بیچ دیں، لیکن اس نے انکار کر دیا، جب رسول اللہ ﷺ نے ہجرت کی تو ابولہب نے انہیں آزاد کر دیا۔ نبی کریم ﷺ انہیں عطیہ اور کپڑے بھیجتے تھے۔ یہاں تک کہ سات ہجری میں جب خیبر سے واپس آئے تو اطلاع ملی کہ وہ فوت ہو گئی ہیں۔ ان کا بیٹا مسروح اس سے پہلے ہی فوت ہو چکا تھا۔

میں کہتا ہوں: میں روایات میں سے کسی ایسی شے سے واقف نہیں جس سے پتہ چلتا ہو کہ ان کا بیٹا مسروح اسلام لایا



تھا، اور اس کا احتمال ہے۔

## النقسم الثانی از حرف تاء

### ثبیته بنت الضحاک (۱۰۹۶۲)

بن خلیفہ۔ ابو عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں پیدا ہوئیں، قاضی اسماعیل بن اسحاق نے جو علی بن مدینی سے نقل کیا ہے اس میں وہ فرماتے ہیں: ابو جحیمہ اور ثابت جو دونوں الضحاک کے بیٹے اور انصاری ہیں، ان کی بہن ہیں۔ ابو عمر فرماتے ہیں: ب کے بجائے ن کے ساتھ ان کا نام لکھا ہے۔ اس میں متفرد ہیں۔

میں کہتا ہوں: ابو نعیم نے نقطے والی ب میں ان کا ذکر کیا ہے، اور حاء سے پہلے نون ہے۔ ابو موسیٰ نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے اس بارے میں ابن مندہ کا تاریخ میں اتباع کیا ہے۔ اور ان کا صحابہ رضی اللہ عنہم میں ذکر نہیں کیا۔ اور مشہور ہے کہ وہ ث کے ساتھ ہے۔ یہ ابو موسیٰ کا قول ہے۔ محمد بن سلیمان بن ابونخعمہ اپنے چچا سہل بن ابونخعمہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں: میں محمد بن سلمہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اپنی چھت پر تھے، مہینہ بنت ضحاک کو کنکھیوں سے دیکھ رہے تھے، وہ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ میں نے کہا: سبحان اللہ، آپ ایسا کر رہے ہیں حالانکہ آپ رسول اللہ ﷺ کے ساتھی ہیں۔ کہنے لگے، میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ”جب اللہ تعالیٰ کسی آدمی کے دل میں کسی عورت کو پیغام دینے کا خیال ڈال دے تو اسے دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔“

میں کہتا ہوں: ترمذی نے اسے نقل کیا ہے اور ابو موسیٰ نے اس کے طرق کی تخریج اور اس کے اختلاف کے بیان میں وقت نظر سے کام لیا ہے، اور جو کچھ یہاں ذکر ہوا اسے ترجیح دی ہے، ابو موسیٰ ذیل میں فرماتے ہیں: ان کا ذکر محمد بن سلمہ کی حدیث میں ہوا، لیکن اس میں ان کے صحابیہ ہونے کا ذکر نہیں ہے۔

میں کہتا ہوں: میں نے ابو عمر کے قول پر اعتماد کرتے ہوئے یہاں ان کا ذکر کیا ہے۔

نوٹ: تیسری اور چوتھی قسم کسی کے ذکر سے خالی ہے۔



## حرف جیم

### القسم الاول از حرف جیم

۱۰۹۶۳ جٹامہ \*

ث مشدد ہے۔ نبی کریم ﷺ نے ان کا نام تبدیل کر دیا اور ان کا نام حستانہ رکھا، ان کا ذکر حاء بغیر نقطوں والی میں آئے گا۔

۱۰۹۶۴ جدامہ بنت جندل \*

ابن اسحاق \* نے ان کا بنو غنم بن دودان بن اسد بن خزیمہ کی ہجرت کرنے والی خواتین میں ذکر کیا ہے۔ اہل مکہ سے ہیں، جو بنو عبدالمطلب کے حلیف ہیں۔ طبرانی نے ذیل میں ذکر کیا ہے کہ یہ بنت وہب ہیں جن کا ذکر آ رہا ہے۔ محدثین جو عرب ہیں، فرماتے ہیں: یہ بنت وہب ہیں۔ ابن سعد \* فرماتے ہیں: مکہ میں بہت پہلے اسلام لے آئیں۔ بیعت کی اور مدینہ کی طرف ہجرت کی، انیس بن قنادہ انصاری کی زوجہ تھیں، جو اسی تھے، بدری صحابی ہیں جو اُحد میں شہید ہوئے۔ ابن عبد البر نے ان کی پیروی کی ہے۔ بعض کا قول ہے: انیس بن قنادہ کی زوجہ خنساء بنت خدام تھیں، ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں ان کی بیویاں ہوں۔

۱۰۹۶۵ جدامہ بنت الحارث \*

حلیمہ جو نبی کریم ﷺ کو دودھ پلاتی تھیں، ان کی بہن ہیں۔ ان کا لقب شیماء ہے۔ ان کی کوئی روایت معلوم نہیں۔ ابن مندہ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ اور ابن اثیر نے ان کا تعارف کیا ہے کہ شیماء بنت حلیمہ ان کی بہن نہیں ہیں، جیسا کہ ان کے ذکر میں آئے گا، وہ نبی کریم ﷺ کی بہن ہیں، خالہ نہیں۔

میں کہتا ہوں: جو کچھ ابن مندہ نے ذکر کیا ہے اگر وہ محفوظ ہے تو احتمال ہے کہ حلیمہ کی بیٹی کا نام ان کی خالہ کے نام پر رکھا جائے اور ان کا لقب اس جیسا ہو، ان کا اس پر اتفاق نہیں کہ شیماء کا نام جدامہ (جیم اور میم سے) ہے۔ ابو عمر نے اس پر یقین دہانی کی ہے کہ وہ حذافہ (ہائے بے نقطہ اور ف سے) ہیں، اور ابن سعد نے پہلے قول پر اعتماد کیا ہے۔

۱۰۹۶۶ جدامہ بنت وہب الأسدیہ \*

بعض نے کہا: نقطہ والی خاء کے ساتھ، نبی کریم ﷺ سے حاملہ کے دودھ پلانے کے بارے میں حدیث روایت کی، ان

اسد الغابۃ (۶۷۹۲) تجرید (۲۵۴/۲) \* اسد الغابۃ (۶۷۹۴) تجرید (۲۵۴/۲)

السیرۃ النبویۃ (۸۸/۲) \* الطبقات الکبریٰ (۱۷۷/۸) \* اسد الغابۃ (۶۷۹۵) تجرید (۲۵۴/۲)

اسد الغابۃ (۶۷۹۶) تجرید (۲۵۴/۲) \*

سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کی، ان کی حدیث موطا میں ہے۔ اور اس کے الفاظ یہ ہیں: جَدَّ امہ اسدیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے سنا: ”میں نے لوگوں کو غیلہ (دودھ پلانے کے دوران صحبت) سے منع کرنے کا ارادہ کر لیا تھا.....“۔ (الحدیث)

مسلم کے بعض طرق میں ہے: حضرت جَدَّ امہ بنت وہب جو عکاشہ بن وہب کی بہن ہیں، فرماتی ہیں: میں کچھ لوگوں کے ساتھ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور آپ ﷺ فرما رہے تھے..... پھر انہوں نے حدیث ذکر کی، اس میں عزل کا ذکر کیا، یہ خفیہ و خسر کشی ہے۔

ابن مندہ نے موطا کے الفاظ کے ساتھ جو جَدَّ امہ بنت جَدَل سے مروی ہے، نقل کیا ہے۔

### ۱۰۹۶۷ الجرباء بنت قسامہ \*

بن قیس بن عیذ بن طریف بن مالک۔ حظلہ کی بہن ہیں۔ نبی کریم ﷺ کے پاس آئیں، آپ ﷺ نے طلحہ بن عبید اللہ سے ان کا نکاح کیا۔ ام اسحاق بنت طلحہ کی والدہ ہیں۔ ان کا ذکر ان کی بہن زینب رضی اللہ عنہا کے حالات میں آئے گا۔ \*

### ۱۰۹۶۸ جعدہ بنت عبید \*

بن ثعلبہ بن غنم بن مالک بن نجار انصاریہ۔ ابوعلی جیانی نے ابوعمر کی کتاب میں اپنے استدراک میں ان کا ذکر کیا ہے۔ عدوی کی کتاب نسب الانصار سے منقول ہے کہ نبی کریم ﷺ ان کے گھر تشریف لاتے تھے، اور ان کے پاس کھانا کھاتے تھے۔ \* یہ ام حارثہ بن نعمان ہیں، جن کے بھائی حارث بن حباب بن ارقم ہیں، جعدہ کے بھائی عمرو بن عبید بن ثعلبہ کو شرف صحابیت حاصل ہے۔

### ۱۰۹۶۹ جعدہ بنت عبید \*

بن ثعلبہ بن سواد بن غنم بن حارثہ انصاریہ۔ ابن حبیب کا قول ہے کہ نبی کریم ﷺ سے بیعت کی، ابن اثیر نے اپنے استدراک میں ان کا ذکر کیا ہے۔ \*

میں کہتا ہوں: ابن سعد نے ان کا ذکر کیا ہے، \* اور کہا ہے ان کی والدہ رعاۃ بنت عدی بن سواد ہیں، ان سے نعمان بن ثقیع نے نکاح کیا جن سے مشہور صحابی حارثہ پیدا ہوئے، اس کے بعد حباب بن ارقم نے ان سے نکاح کیا، جس سے حارثہ پیدا ہوئے، جعدہ اسلام لائیں اور بیعت کی۔

\* مسلم (الحدیث: ۳۵۲۹) \* اسد الغابۃ (۶۷۹۷) تجرید (۲/۲۵۴)

\* الاستیعاب (۱۸۵۲/۴) \* اسد الغابۃ (۶۷۹۹) تجرید (۲/۲۵۴)

\* الطبقات الکبریٰ (۳۲۴/۸) \* اسد الغابۃ (۶۷۹۹) تجرید (۲/۲۵۴)

\* اسد الغابۃ (۴۱۵/۵) \* الطبقات الکبریٰ (۳۲۲/۸)

### ۱۰۹۶۰ جلیله بنت عبد الجلیل

ابوسعید نیشاپوری نے شرف مصطفیٰ نامی کتاب میں ان کا ذکر کیا ہے اور ان کی حدیث کو نقل کیا ہے۔ فرماتی ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا۔ ہم نے چھوٹا کنواں کھودا تو اس میں حشرات اور کیڑے مکوڑے تھے، انہیں پانی کا برتن دیا گیا، آپ ﷺ نے فرمایا: پانی اس میں ڈال دو، فرماتی ہیں: ہم نے پانی کنوئیں میں ڈال دیا، کیڑے مکوڑے مر گئے اور چونچ گئے وہ چلے گئے، اس سند میں کلام ہے۔

### ۱۰۹۶۱ جُمَانَه

اس کے شروع میں پیش اور میم کی تخفیف کے ساتھ ہے، اور الف کے بعد نون ہے۔ ابوطالب کی صاحبزادی ہیں، ابواحمد عسکری فرماتے ہیں: یہ ام عبد اللہ بن ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب ہیں۔ دارقطنی نے کتاب الاخوه میں ایسا ہی لکھا ہے۔ ابوسفیان بن حارث نے ان سے نکاح کیا جس سے عبد اللہ پیدا ہوئے، یہ بغیر سند کے ہے۔  
زیر بن بکار فرماتے ہیں: ام حانی کی بہن ہیں، ابن اسحاق \* نے ان کا ذکر ان لوگوں میں کیا ہے، جن میں نبی کریم ﷺ نے خیبر سے تیس دن تقسیم کیے تھے۔

فاکبی نے کتاب مکہ میں عبد اللہ بن عثمان بن عثیم کے طریق سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: میں نے عطاء، مجاہد اور ابن کثیر اور بہت سے لوگوں کو پایا کہ رمضان المبارک کی ستائیسویں رات عثیم میں پہنچ کر خیمہ جمانہ سے عمرے کا احرام باندھا اور وہ بنت ابوطالب ہیں۔ ابن سعد \* نے ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد کے حالات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ اور نبی کریم ﷺ کی چچا زاد خواتین میں ان کا علیحدہ ذکر کیا ہے۔ اور فرماتے ہیں، ابوسفیان بن حارث کے ان سے بیٹے جعفر بن ابوسفیان ہوئے، رسول اللہ ﷺ نے خیبر سے تیس دن کھجوریں انہیں کھانے کے لیے دیں۔

### ۱۰۹۶۲ جمرہ بنت الحارث

بن عوف، وہ برصاء ہیں، ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

### ۱۰۹۶۳ جمرہ بنت عبد اللہ

تمیمہ یروبعیہ، بنو یروبع بن حظلہ بن مالک بن زید مناة بن قسیم سے ہیں۔

ابن مندہ فرماتے تھے: ان کا شمار اہل کوفہ میں ہے۔ انہیں اور ان کے والد کو شرف صحابیت حاصل ہے۔ حسن بن سفیان اور ابو یعلیٰ نے اپنی اپنی مسند میں عطوان بن مشکان کے طریق سے ان کی حدیث کا ذکر کیا ہے (وہ عین اور طاء کے زبر کے ساتھ ہے۔ بعض کا قول ہے: پہلے حرف کے پیش اور دوسرے حرف کے سکون کے ساتھ اور ان کے والد کا نام میم کے پیش اور ش کے سکون کے

\* اسد الغابۃ (۶۸۰/۱) تجرید (۲۵۴/۲) \* السیرۃ النبویۃ (۲۷۲/۳)

\* الطبقات الکبریٰ (۳۲/۸) \* اسد الغابۃ (۶۸۰/۲) تجرید (۲۵۵/۲)

ساتھ ہے۔) جمرہ بنت عبد اللہ ربیعہ فرماتی ہیں: میرے والد مجھے نبی کریم ﷺ کے پاس لے گئے، اور عرض کیا: میری بیٹی کے لیے اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کر دیجئے۔ فرماتی ہیں: آپ ﷺ نے مجھے اپنی گود میں بٹھا کر سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا کی۔

عبد اللہ نامی اشخاص کے آخر میں ان کے والد کے سوانح میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔ ابو عمرؒ فرماتے ہیں: ان کی حدیث میں اختلاف ہے۔ وہ سند کے لحاظ سے صحیح نہیں، اسی طرح فرمایا: اس میں عطاء نام ہے اور ان کے بارے میں ابن معین نے فرمایا: ان میں کوئی حرج نہیں۔

### ۱۰۹۷۴ جمرہ بنت قحافہ الکندیہ

ابن مندہ فرماتے ہیں: اہل کوفہ میں ان کا شمار ہے، ان سے شیب بن غرقہ نے روایت کی۔ ابو عمرؒ فرماتے ہیں: ان سے ان کی صاحبزادی ام کلثوم نے روایت کی، اگر وہ حدیث صحیح ہے، کیونکہ اس کی سند کی کوئی پرواہ نہیں۔ ربی حدیث شیب جو ان سے مروی ہے، طبرانیؒ وغیرہ نے بشر بن ولید کے طریق سے نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں: ہم سے حسن بن قارب نے بحوالہ شیب بن غرقہ بیان کیا، وہ فرماتے ہیں: مجھ سے جمرہ بنت قحافہ نے حدیث بیان کی، وہ فرماتی ہیں، میں حجۃ الوداع کے موقع پر اُم سلمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تھی، میں نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ”اے میری اُمت! کیا میں نے تم تک پہنچا دیا؟“ فرماتی ہیں: ان کے کسی بیٹے نے ان سے کہا: امی جان! آپ ﷺ کو کیا ہوا تھا کہ اپنی والدہ کو بلا رہے تھے؟ انہوں نے کہا: اے بیٹے! وہ تو اپنی اُمت کو بلا رہے تھے اور فرما رہے تھے: ”خبردار! تمہاری عزتیں اور تمہارے خون، تمہارے لیے ایسے ہی حرمت والے ہیں جیسے تمہارے اس مہینے میں اور اس شہر میں اور تمہارے اس دن میں حرمت ہے۔“

ربی ان کی بیٹی ام کلثوم کی روایت تو وہ مجھے اب یاد نہیں۔ ابن اثیر نے ابو عمرؒ کی حدیث جو ام کلثوم سے مروی ہے، اسے مختصر کیا ہے۔ ان کا قول ہے: ان کی حدیث کی سند کی کوئی پرواہ نہیں جس میں حدیث شیب خاص طور پر شامل ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔

### ۱۰۹۷۵ جمرہ بنت النعمان العدویہ

واقدیؒ کی کتاب میں ان کی حدیث بحوالہ شعیب بن میمون مخزومی ہے جو وہ ابو مرابہ بلوی سے اور وہ جمرہ بنت نعمان سے روایت کرتے ہیں، انہیں شرف صحابیت حاصل ہے۔ فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ نے بال اور خونؒ دفن کرنے کا حکم دیا۔ ابو نعیم نے کزور سند کے ساتھ اسے نقل کیا ہے۔ ابو موسیٰ نے اپنے استدراک میں ان کا ذکر کیا ہے۔

طبرانی (۵۳۷/۲۴) مجمع الزوائد (۲۶۶/۹) جامع المسانید والسنن (۳۴۳/۱۵)

الاستیعاب (۱۸۰/۴) اسد الغابۃ (۶۸۰/۳) تجرید (۲۵۵/۲)

الاستیعاب (۱۸۰/۴) طبرانی (۵۳۸/۲۴) مجمع الزوائد (۲۷۳/۳)

اسد الغابۃ (۶۸۰/۴) تجرید (۲۵۵/۲) جامع المسانید والسنن (۳۴۹/۱۵)

### ۱۰۹۷۶ جملہ

بعض کا قول ہے: تفسیر کے صیغے کے ساتھ ہے، ابن یسار مزنیہ، معقل بن یسار کی بہن ہیں، بعض کا قول ہے: یہ وہی ہیں، جب ان کے شوہر نے انہیں طلاق دی، پھر ان سے رجوع کرنے کا ارادہ کیا تو ان کے بھائی نے انہیں نکاح سے منع کیا۔  
ان کی حدیث بخاری \* نے ابراہیم بن طہمان کے طریق سے بحوالہ یونس بن عبید نقل کی ہے۔ وہ حسن سے روایت کرتے ہیں، وہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مجھ سے معقل بن یسار نے بیان کیا کہ یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی، فرماتے ہیں: میں نے اپنی بہن کا نکاح ایک آدمی سے کیا جس نے اسے طلاق دے دی، پھر جب اس کی عدت ختم ہوئی تو نکاح کا پیغام لے کر آیا، میں نے اسے کہا: میں نے اس کا نکاح تم سے کیا تھا، میں نے تمہاری عزت کی، اور اسے تمہارا بستر بنایا، تو تم نے اسے طلاق دے دی، پھر اب تم نکاح کا پیغام لے کر آئے ہو، اللہ کی قسم! تم ہرگز اس سے رجوع نہیں کر سکتے۔ راوی کا بیان ہے کہ وہ اچھے آدمی تھے، اور عورت بھی ان کی طرف لوٹنا چاہتی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: ”تم انہیں ان کے شوہروں سے نہ روکو“۔ \* تو میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! میں ابھی کر دوں گا۔ تو انہوں نے اپنی بہن کا نکاح ان سے کر دیا، صحیح میں ان کا نام نہیں لیا۔

طبرانی نے ابن جریج کے طریق سے نقل کیا ہے کہ ان کا نام جمیلہ تھا، اور کلبی فرماتے ہیں کہ ان کا نام جمیل تھا، ابن ماکولا \* نے اسے تفسیر کے ساتھ لکھا ہے۔ ثعلبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا نام جمیلہ ہے، بعض کا قول ہے: ان کا نام لیلیٰ ہے۔

### ۱۰۹۷۷ جمیل

تفسیر کے ساتھ۔ ان سے پہلے والی صحابیہ کے حالات میں ان کا ذکر ہے۔

### ۱۰۹۷۸ جمیلہ بنت ابی الخزرجیہ \*

عبداللہ بن ابی بن سلول کی بہن ہیں، ابن مندہ فرماتے ہیں: ثابت بن قیس بن شماس کی زوجہ تھیں، ان سے ابن عباس اور عبداللہ بن رباح نے روایت کی ہے، پھر ہمام کے طریق سے بحوالہ قتادہ مرسل حدیث نقل کی ہے۔ اور وہ عکرمہ سے روایت کرتے ہیں، اور سعید بن ابو عمروہ کے طریق سے بحوالہ قتادہ موصولاً حدیث نقل کی ہے، جو وہ عکرمہ سے اور وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ جمیلہ بنت ابی بن سلول نبی کریم ﷺ کے پاس آئیں، وہ اپنے خاوند سے خلع لینا چاہتی تھیں، آپ ﷺ نے پوچھا: ”تمہارا حق مہر کیا تھا؟“ انہوں نے عرض کیا: باغ۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تو اسے اس کا باغ لوٹا دو۔“ \*

خالد حذاء کے طریق سے روایت نقل کی ہے جو وہ عکرمہ سے بحوالہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نقل کرتے ہیں کہ ثابت بن قیس کی بیوی جو جمیلہ بنت ابی ہیں، کہنے لگیں: نہ یا رسول اللہ! میرا اور ثابت کا گزر نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے حدیث ذکر کی جس میں ان کا

\* اسد الغابۃ (۶۸۰/۵) تجرید (۲۵۵/۲) \* بخاری (۵۱۳۰) \* سورة البقرة، الآية (۲۳۲)

\* الاکمال (۱۲۵/۲) \* اسد الغابۃ (۶۸۰/۶) تجرید (۲۵۵/۲)

\* بخاری (۵۲۷۳) نسائی (۵۲۶۳) نسائی (۳۲۶۳) ابن ماجہ (۲۰۵۶)

اپنے شوہر سے خلع لینے کا ذکر ہے۔ راوی کا قول ہے: ایوب سے بحوالہ عکرمہ متصل روایت کی گئی ہے، درست یہ ہے کہ عکرمہ اور قنادہ سے مرسل روایت ہے، اسی طرح حسین بن واقد نے ثابت سے بحوالہ عکرمہ روایت کیا ہے، اور اسے محمد بن واقد نے ثابت سے بحوالہ عکرمہ روایت کیا ہے، اور اسے محمد بن حمید نے یحییٰ بن واضح سے بحوالہ حسین موصولاً نقل کیا ہے۔ اس میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کا نام بھی مذکور ہے۔

ابو نعیم نے سعید کے موصولہ طریق سے اس روایت کو متصلاً نقل کیا ہے۔ متن کے الفاظ یہ ہیں کہ جلیلہ بنت ابی نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! مجھے ثابت میں دین اور اخلاق کے لحاظ سے کوئی عیب نظر نہیں آتا، لیکن میں اسلام لانے کے بعد کفر کو ناپسند کرتی ہوں۔ مجھے اس پر غصے میں قابو نہیں رہتا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا تم اس کا باغ واپس کرنا چاہتی ہو؟“ راوی کہتے ہیں، انہوں نے کہا: ”جی ہاں!“ تو آپ ﷺ نے انہیں حکم دیا کہ وہ باغ ان سے لے لیں۔ \*

حفص بن عمر ضریر کی روایت، حماد بن سلمہ سے بحوالہ ثابت البنانی اور ایوب سے وہ دونوں عکرمہ سے روایت کرتے ہیں جو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ جلیلہ بنت ابی بن سلول نبی کریم ﷺ کے پاس آئیں، کہنے لگیں..... پہلے بیان کی گئی روایت کی طرح ذکر کیا۔

محمد بن خالد بن عبد اللہ طحان کے طریق سے بحوالہ ان کے والد سے اسے مستنداً نقل کیا ہے۔ اور وہ ابو جلیل سے روایت کرتے ہیں اور وہ جلیلہ بنت ابی بن سلول سے روایت کرتے ہیں، فرماتی ہیں کہ وہ ثابت بن قیس کے نکاح میں تھیں۔ میں کہتا ہوں: ابن حمید کی روایت جس کی طرف ابن مندہ نے اشارہ کیا ہے اسے ابن ابی شیبہ اور طبرانی نے ان سے روایت کیا ہے۔ متن کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ ثابت بن قیس بن شماس کی زوجہ تھیں، ان کا جھگڑا ہو گیا، رسول اللہ ﷺ نے ان کی طرف پیغام بھیجا: ”اے جلیلہ! تم ثابت میں کیا چیز ناپسند کرتی ہو؟“ کہنے لگیں: اللہ کی قسم! مجھے ان کے پستہ قد کے علاوہ کچھ ناپسند نہیں۔ آپ ﷺ نے انہیں کہا: ”کیا تم ان کا باغ انہیں واپس کرنا چاہتی ہو؟“ کہنے لگیں: جی ہاں! آپ ﷺ نے ان کے درمیان جدائی کرادی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ان سے روایت ہے جسے طبرانی نے ابن جریر کے طریق سے بحوالہ عکرمہ نقل کیا ہے۔ وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں: اسلام میں پہلا خلع عبد اللہ بن ابی کی بہن نے لیا، وہ نبی کریم ﷺ کے پاس آئیں، فرمانے لگیں..... پھر سارا قصہ ذکر کیا۔

ابو عمر \* فرماتے ہیں: سعید بن مسیب نے ان کی کنیت ام جمیل رکھی ہے۔ ثابت سے پہلے وہ حظلہ بن ابوعامر (جنہیں فرشتوں نے غسل دیا تھا) کے نکاح میں تھیں۔ ثابت کے بعد ان سے مالک بن دشتم نے نکاح کیا، ان کے بعد ضیب بن اساف نے ان سے شادی کی، ابو عمر فرماتے ہیں: بصریین نے روایت کی ہے کہ وہ جلیلہ ہیں، جنہوں نے ثابت سے خلع لیا، اہل مدینہ کی روایت ہے کہ وہ حبیبہ بنت سہل ہیں۔

میں کہتا ہوں: جس نے یہ کہا کہ یہ جلیلہ بنت عبد اللہ بن ابی بن سلول ہیں، ان کا قول انشاء اللہ تعالیٰ آگے آ رہا ہے۔



### ۱۰۹۷۹ جمیلہ بنت اوس المریہ \*

ان کی ایک حدیث ہے، اور ان کے والد کو شرف صحابیت حاصل ہے۔ یہ تجرید میں ہے۔  
میں کہتا ہوں: ابوی غسانی نے استیعاب کے اضافے میں ان کا ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں: اوس جو ان کے والد ہیں، ان کے سوانح میں ان کی حدیث ذکر کی، ان کا ذکر ابن قانع کی کتاب میں ہے، اور ابن قانع نے اوس کے نسب میں لفظی غلطی کی ہے، اور اسے زاء اور نون کے ساتھ لکھا ہے، جبکہ وہ راء بغیر نقطوں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد ہمزہ ہے جیسا کہ اوس کے بیان میں گزر چکا ہے۔ ان کی روایت سے حدیث گزر چکی ہے لیکن اس میں ام جمیل سے مروی ہے گویا یہ ان کی کنیت ہے، جبکہ ان کا نام جمیلہ ہے، کنیتوں میں ان کا ذکر آئے گا۔

### ۱۰۹۸۰ جمیلہ بنت ثابت بن ابی الاقح \*

عاصم کی بہن ہیں، عمر کی زوجہ ہیں، ان کی کنیت ام عاصم ہے، ان کا نام عاصیہ تھا، رسول اللہ ﷺ نے جمیلہ رکھا۔ یہ ابو عمر کا قول ہے، فرماتے ہیں: ان سے عمر نے سات ہجری میں نکاح کیا جس سے عاصم بن عمر پیدا ہوئے، انہوں نے انہیں طلاق دے دی پھر ان سے یزید بن حارثہ نے نکاح کیا، جس سے عبدالرحمن بن یزید پیدا ہوئے جو عاصم بن عمر کے ماں شریک بھائی تھے۔ یہ وہی ہیں جن کے بارے میں مؤطا وغیرہ میں حدیث مذکور ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ قباء کی طرف روانہ ہوئے تو ابن عاصم کے بیٹے کو کھیلتے ہوئے دیکھا۔

یہ حرف عین کی قسم چلنی میں عاصم کے سوانح میں گزر چکا ہے۔ ابن مندہ نے ہشام بن حسان کے طریق سے بحوالہ واصل بن ابی شیبہ مسند نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: عمر کی بیوی کا نام عاصیہ تھا، جب اسلام لائیں تو عمر کے پاس آئیں اور کہنے لگیں: مجھے اپنا نام ناپسند ہے، آپ میرا کوئی اور نام رکھ دیجئے۔ انہوں نے فرمایا: ”تم جمیلہ ہو“۔ وہ غصے ہوئیں اور کہنے لگیں: میرا نام رکھنے کے لئے آپ کو صرف ایک باندی کا نام ملا ہے؟

پھر وہ نبی کریم ﷺ کے پاس آئیں، اور عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ مجھے اپنا نام ناپسند ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم جمیلہ ہو“۔ تو وہ غصہ میں آگئیں یعنی عمر کا قول ذکر کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تم نہیں جانتی کہ اللہ تعالیٰ عمر کے دل اور زبان کے ساتھ ہے۔

پھر حجاج بن منہال کے طریق سے بحوالہ حماد بن سلمہ نقل کی ہے جو انہوں نے عبید اللہ بن عمر سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عاصیہ کا نام بدل دیا اور فرمایا: ”تم جمیلہ ہو“۔  
ابن ابی عمر نے بشر بن سری سے دوسری سند سے نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں: حماد سے بحوالہ ثابت، انہوں نے انس سے روایت کیا، فرماتے ہیں: میرا گمان ہے عمر کی لونڈی کا نام عجم کی طرح تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا نام جمیلہ رکھا، تو وہ نبی کریم ﷺ

کے پاس آئی، آپ ﷺ نے فرمایا: ”تو جمیلہ ہے۔“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس نام کو اپنی ناپسندیدگی کے باوجود لے لو۔  
ابن سعد رحمہ اللہ \* نے اپنی کتاب طبقات النساء کے شروع میں نبی کریم ﷺ سے بیعت کرنے والی خواتین کے باب میں لکھا ہے۔ ہمیں محمد بن عمر نے بتایا کہ مجھ سے ابن ابی حنیبلہ نے بحوالہ عاصم بن عمر اور انہوں نے قتادہ سے بیان کیا، فرماتے ہیں: نبی کریم ﷺ سے سب سے پہلے بیعت کی وہ ام سعد بن معاذ ہیں جو کبشہ بنت رافع بن عبید ہیں، اور ام عامر بنت یزید بن سکن، بنو نظفہ سے لیلیٰ بنت خطیم، اور بنو عمرو بن عوف سے لیلیٰ، مریم، تیممہ اور ابوسفیان (جسے ابویہات کہا جاتا ہے) کی بیٹیاں، یہ اُحد میں شہید ہوئے اور شمس بنت ابوعامر راہب اور ان کی بیٹی جمیلہ بنت ثابت بن ابوالواح، اور ظبیہ بنت نعمان بن ثابت بن ابوالواح نے بیعت کی۔

میں کہتا ہوں: ان کے قول ”فأتت“ سے پہلے شاید کچھ الفاظ رہ گئے ہیں، اور وہ یہ ہیں: پھر آپ ﷺ سے ان کی زوجہ نے ان کا نام بدلنے کو کہا، تو آپ ﷺ نے ان کا نام جمیلہ رکھا اور وہ ناراض ہوئیں جیسا کہ ابتداء میں واصل کی روایت میں ہے، جس سے بات مکمل ہوتی ہے۔ ان کا نام جمیلہ رکھا گیا جو ان کے غضب کا سبب معلوم ہوتا ہے۔ اس سے دوسری صحابیہ کا فائدہ ہوا، اور وہ عمر کی باندی ہیں۔

ابن سعد رحمہ اللہ نے ایسی سند سے جس میں واقدی ہیں روایت کیا ہے حدیث جابر میں عمر سے روایت ہے، فرماتے ہیں: میں نے کہا، یا رسول اللہ ﷺ! میں نے جمیلہ بنت ثابت کو اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ وہ زمین پر جا گریں، اس لیے کہ انہوں نے مجھ سے ایسی چیز کا سوال کیا ہے جس پر میں قدرت نہیں رکھتا۔

### ۱۰۹۸۱ جمیلہ بنت ابی جہل \*

بن ہشام بن مغیرہ، مخزومیہ، نبی کریم ﷺ سے روایت کی، اور ان سے ان کے شوہر نے روایت کی، ابن مندہ نے ان کی حدیث ساک بن حرب کے طریق سے بحوالہ عبداللہ بن عمیرہ نقل کی ہے، جو ابو جہل کی بیٹی کے شوہر سے اور وہ ابو جہل کی بیٹی سے روایت کرتے ہیں، جن کا نام جمیلہ ہے۔ فرماتی ہیں: نبی کریم ﷺ ہمارے پاس سے گزرے اور پانی مانگا، میں نے انہیں پانی پلا دیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”میری اُمت میں سب سے بہتر میرے زمانے والے ہیں، پھر وہ لوگ جو ان کے قریب ہیں۔“ \*

ابن ابوعاصم نے اسے اس طریق سے نقل کیا ہے، اور یہ اضافہ کیا ہے: میں صراحی کی طرف بڑھی اور آپ ﷺ کو پانی پلایا، ایک شخص جس نے دو زرد کپڑے پہن رکھے تھے، آپ ﷺ سے سوال کیا اور آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو، بعض نے کہا: یہ وہی ہیں جنہیں علی نے پیغام نکاح دیا تھا، اور محفوظ روایت میں ہے کہ وہ جویریہ ہیں۔

### ۱۰۹۸۲ جمیلہ بنت زید \*

علیہ بن زید بن صفی بن عمرو بن جشم بن حارثہ انصاریہ کی بہن ہیں، نبی کریم ﷺ سے بیعت ہوئیں۔ \*

### ۱۰۹۸۳ جمیلہ بنت سعد \*

بن ربیع انصاری لیشی، جو اُحد کے دن شہید ہوئے۔ ان کا نسب گزر چکا ہے، انہیں شرف صحابیت حاصل ہے، اپنے والد سے روایت کرتی ہیں، ان سے ثابت بن عبید انصاری نے روایت کی کہ ان کے والد اور چچا یوم اُحد میں شہید ہوئے، ہم نے انہیں ایک قبر میں دفن کر دیا، یہ ابو عمر کا قول ہے، فرماتے ہیں: ان جلیلہ کا نکاح زید بن ثابت سے ہوا، یہ ابن سعد \* کا قول ہے۔ اور اضافہ کیا ہے کہ ان سے خارجہ، یحییٰ، اسماعیل، سلیمان پیدا ہوئے، ان کی کنیت ام سعد ہے۔

ابن مندہ نے مسعر کے طریق سے بحوالہ ثابت بن عبید نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں: میں سعد بن ربیع کی صاحبزادی جلیلہ کے پاس گیا جو زید بن ثابت کی زوجہ ہیں، وہ میرے پاس خشک اور ترکھوریں لائیں، میں نے ان سے کہا: میرا خیال ہے یہ تمہارے والد کی میراث ہے۔ کہنے لگیں: مجھے اپنے والد کی میراث نہیں ملی کیونکہ وہ فرائض کے نازل ہونے سے پہلے ہی شہید ہو گئے تھے۔ ابن سعد رحمہ اللہ \* فرماتے ہیں: سعد کی موجودگی میں ان کی ولادت نہیں ہوئی۔ جب ان کے والد شہید ہوئے تو وہ حمل میں تھیں، پھر واقدی سے بحوالہ ابو زناد مسنداً نقل کیا ہے کہ ان کے والد جب شہید ہوئے وہ حمل میں تھیں۔

### ۱۰۹۸۴ جمیلہ بنت سنان \*

بن ثعلبہ بن عامر بن مجدہ بن جشم بن حارثہ انصاریہ، ابن حبیب نے ان کا ذکر نبی کریم ﷺ سے بیعت کرنے والی صحابیات میں کیا ہے۔ ابن سعد کا قول ہے: ان کی والدہ خولہ بنت منذر بن عمرو بن حزام انصاریہ خزرجیہ ہیں، اسلام لائیں اور بیعت ہوئیں، وہ ثابت بن عبید السہام بن سلیم انصاری کی والدہ ہیں، بنو خارجہ سے تھیں۔

### ۱۰۹۸۵ جمیلہ بنت صیفی \*

بن عمرو بن زید بن جشم بن حارثہ، اسلام لائیں اور بیعت کی۔ یہ ابن سعد کا قول ہے، ان کی والدہ النوار بنت قیس بن لوذان بن ثعلبہ ہیں، وہ علیہ بنت زید بن زید بن عمرو بن جشم کی بہن ہیں، جلیلہ نے عتیک بن قیس بن ہبشہ اوسی سے نکاح کیا جو بنو عمرو بن عوف سے ہیں۔

### ۱۰۹۸۶ جمیلہ بنت ابی صعصعہ \*

جن کا نام عمرو بن زید بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن نجار ہے۔ ابن سعد \* نے بیعت کرنے والی

\* اسد الغابہ (۶۸۱۱) تجرید (۲۵۶/۲) الطبقات الکبریٰ (۲۴۰/۸)

\* اسد الغابہ (۶۸/۲) تجرید (۲۵۶/۲) الطبقات الکبریٰ (۲۶۱، ۲۶۰/۸)

\* الطبقات الکبریٰ (۲۴۱/۸) \* اسد الغابہ (۶۸۱۳) تجرید (۲۵۶/۲) \* تجرید (۲۵۶/۲)

\* اسد الغابہ (۶۸۰۷) تجرید (۲۵۵/۲) \* الطبقات الکبریٰ (۳۰۴/۸)

## الکتاب فی تہذیب الصحابہ (جلد ۱)

صحابیات رضی اللہ عنہن میں ان کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا: ان سے عبادہ بن صامت نے نکاح کیا، جس سے ولید پیدا ہوئے، پھر ان سے ربیع بن سراقہ نے نکاح کیا، جس سے عبد اللہ، محمد اور یثیمہ پیدا ہوئے، پھر ان سے کلدہ بن ابو خالد بن قیس بن خالد بن مخلد بن عامر بن زریق نے نکاح کیا، فرماتے ہیں: ان کی والدہ انیسہ بنت عاصم بن عمرو بن عوف بن مبدول ہیں۔

www.KitaboSunnat.com

۱۰۹۸۷ جملہ بنت عبد اللہ

بن ابی ابن سلول، ابن سعد کا قول ہے کہ حظلہ بن ابو عامر نے ان سے نکاح کیا، وہ یوم أحد میں شہید ہوئے پھر ان سے ثابت بن قیس نے نکاح کیا، وہ وفات پا گئے۔ پھر مالک بن دحثم نے ان سے نکاح کیا، ان کے بعد خبیب بن راساف نے ان سے نکاح کیا، ابن مندہ کا یہی قول ہے، وہ ثابت بن قیس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ وفات پا گئے۔ جبکہ ابن سعد نے یہ نہیں لکھا، ثابت بن قیس یرامہ میں شہید ہوئے۔ اور خبیب بن راساف کے بارے میں فرمایا: انہوں نے ثابت بن قیس کے بعد ان سے نکاح کیا، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت تک زندہ رہے۔ جیسا کہ ان کے سوانح میں مذکور ہے اس کا آپس میں تعارض ہے اس لیے کہ میں نے طبقات ابن سعد کی مراجعت کی ان کے قول کا خلاصہ یہ ہے۔

ان سے حظلہ بن راہب نے نکاح کیا، جو یوم أحد میں شہید ہوئے، انہیں غسیل ملائکہ کہا جاتا ہے۔ ان سے عبد اللہ بن حظلہ پیدا ہوئے، پھر ان سے ثابت بن قیس بن شماس نے نکاح کیا، جس سے محمد پیدا ہوئے۔ اس کے بعد ان سے مالک بن دحثم نے نکاح کیا، ان کے بعد خبیب بن راساف نے جملہ بنت عبد اللہ سے نکاح کیا۔ پھر فرماتے ہیں: جملہ اسلام لائیں اور بیعت کی، وہ عبد اللہ بن عبد اللہ کی سگی بہن ہیں، حرہ کے ون ان کے دو بیٹے عبد اللہ اور محمد شہید ہوئے۔ جو کچھ ابن مندہ نے نقل کیا ہے، ابن اثیر اس پر اعتراض کرنے میں مشغول ہو گئے، فرماتے ہیں: جملہ بنت ابی کے سوانح میں مذکور ہے کہ انہوں نے ثابت بن قیس سے خلع لی تھی، اور ان کے بارے میں فرمایا: وہ حظلہ کی زوجہ تھیں، انہوں نے ان سے پہلی خاتون کے بارے میں ایسا نہیں کہا، فرمایا: ثابت انہیں بیوہ چھوڑ کر وفات پا گئے۔ گویا کہ انہیں گمان ہوا کہ یہ دو خواتین ہیں، جیسا کہ وہ انہیں جملہ بنت ابی اور انہیں جملہ بنت عبد اللہ بن ابی سمجھ بیٹھے، پہلا صحیح ہے اور دوسرا قول وہم ہے، جس کی حقیقت نہیں۔ اگر بغور دیکھتے تو انہیں پتہ چل جاتا وہ دونوں ایک ہیں۔ ابو نعیم اس زعم میں ان سے سبقت لے گئے ہیں کہ وہ دونوں ایک ہیں۔ فرماتے ہیں: ایک جماعت نے اس کی مخالفت کی ہے اور انہیں خلع لینے والی سے علیحدہ ذکر کیا ہے جبکہ اس میں وہم ہے۔ ابن اثیر فرماتے ہیں: ابو نعیم ٹھیک فرماتے ہیں۔

جس وہم سے میں نے متنبہ کیا ہے کہ وہ ابن مندہ کو پیش آیا ہے وہ تو بدستور باقی ہے۔ ابن اثیر اس سے صرف نظر کر گئے، اور دعویٰ یہ کیا کہ انہیں دو خواتین قرار دینے میں وہم ہوا ہے، حالانکہ جیسا ابن اثیر اور ابو نعیم نے سمجھا دیا انہیں بلکہ درست یہ ہے کہ وہ دو خواتین ہیں، ہوا یہ تھا کہ ثابت بن قیس نے پہلے ان کی پھوپھی سے شادی کی تھی، جنہوں نے ان سے خلع لے لیا تھا، پھر ان سے شادی کی تھی۔ بعد میں ان سے بھی علیحدگی اختیار کر لی تھی۔

### ۱۰۹۸۸ جمیلہ بنت عبداللہ

بن حنظلہ انصاریہ، بنو حنبلہ سے ہیں، ابن حبیب نے ان کا ذکر نبی کریم ﷺ سے بیعت کرنے والی صحابیات میں کیا ہے۔

### ۱۰۹۸۹ جمیلہ بنت عبدالعزیٰ

بن قطن خزاعیہ، بنو مصطلق سے ہیں، بیعت کرنے والی خواتین میں سے ہیں، عبدالرحمن بن عوام کی زوجہ ہیں، جو زہیر کے بھائی ہیں۔ ان کے بیٹوں کی والدہ ہیں، ان سے کوئی روایت مروی نہیں، یہ ابو عمر کا قول ہے۔

ابن اثیر نے بنت عبداللہ.... اور عمر کے بعد ان کا نام لیا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ان کے نزدیک عظیمہ کے وزن پر ہو اور ایسا نہیں، کیونکہ وہ بنیہ تصغیر کے ساتھ ہے۔ بعض نے فرمایا: ہاء نون کے ساتھ ہے، اسی طرح یہ الاستیعاب کے نسخے میں تجوید کے ساتھ ہے، اسی طرح زہیر بن بکار کی کتاب النسب کے قابل اعتماد نسخے میں ہے، اور دوسرے نسخے میں ہاء بنیہ نقطوں سے ہے۔

### ۱۰۹۹۰ جمیلہ بنت عمر

بن خطاب، جمیلہ بنت ثابت کے سوانح میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

### ۱۰۹۹۱ جمیلہ بنت عمرو

بن ہشام بن مغیرہ وہ ابو جہل کی بیٹی ہیں، جیسا کہ گزر چکا ہے۔

### ۱۰۹۹۲ جمیلہ

یا خولہ یا خولہ، اوس بن صامت کی زوجہ ہیں جن سے انہوں نے ظہار کیا تھا۔ ابن مندہ نے ان کا ذکر کیا ہے، ابو نعیم نے انہیں لفظی غلطی کے ساتھ منسوب کیا ہے۔ ایسا نہیں جیسا کہ وہ گمان کرتے ہیں، حدیث عائشہ میں ان کا نام اسی طرح مذکور ہے جو مند احمد کی روایت ہے، لیکن معروف یہ ہے کہ وہ خولہ ہیں، شاید جمیلہ لقب ہو، اس کا بیان حرف خاء (نقطہ والا) میں آئے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ!

### ۱۰۹۹۳ جمیلہ بنت یسار

جمل کے سوانح میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

### ۱۰۹۹۴ جمیلہ

تصغیر کے ساتھ ہے، حمام بن جموح انصاریہ کی بیٹی ہیں جو بنو حنبلہ سے تھے۔ ابن حبیب نے ان کا ذکر نبی کریم ﷺ سے

اسد الغابۃ (۶۸۱۵) تجرید (۲۵۶/۲) اسد الغابۃ (۶۸۱۶) تجرید (۲۵۶/۲) الاستیعاب (۱۸۰۴/۴)

اسد الغابۃ (۶۸۱۷) تجرید (۲۵۶/۲) تجرید (۲۵۵/۲) اسد الغابۃ (۶۸۱۸) تجرید (۲۵۶/۲)

بیعت کرنے والی صحابیات رضی اللہ عنہن میں کیا ہے۔

### ۱۰۹۹۵ جمیمہ بنت صیفی \*

بن صحر بن خنساء انصاریہ، ابن حبیب نے ان کا ذکر نبی کریم ﷺ سے بیعت کرنے والی صحابیات رضی اللہ عنہن میں کیا ہے۔  
ابوعلی غسانی نے ابن عبدالبر کی کتاب پر اپنے استدراک میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۰۹۹۶ جمیمہ

نون کے ساتھ ہیں، بعض کا قول ہے: وہ بنت عبدالعزیٰ ہیں، ان کا ذکر جمیلہ کے سوانح میں مذکور ہے۔

### ۱۰۹۹۷ جہدہ \*

بشر بن خصاصہ سدوسی، جو مشہور صحابی ہیں، ان کی زوجہ ہیں۔ بنو شیبان سے تھیں، نبی کریم ﷺ سے دو یا تین حدیثیں روایت کیں۔ یہ ابو عمر کا قول ہے۔  
میں کہتا ہوں: ابن مندہ نے ان کی دو حدیثیں ابو عتاب کلبی کے طریق سے بحوالہ زیاد بن لقیط جو جہدہ سے مروی ہیں، انہیں مستدرک نقل کیا ہے۔

میں کہتا ہوں: بشر کا نام رحم تھا، نبی کریم ﷺ نے ان کا نام بشر رکھا۔ دوسری روایت اس سند سے ہے۔ فرماتی ہیں: میں نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا کہ آپ نماز کے لیے باہر تشریف لائے۔ آپ کے سر اور پیشانی سے مہندی کی مہک پھوٹ رہی تھی۔  
ترمذی رحمہ اللہ نے اسے شامک میں نقل کیا ہے، بعض کا قول ہے: ان کا یہ نام تھا جسے نبی کریم ﷺ نے بدل کر لیلیٰ رکھ دیا، ابن حبان نے صحابہ رضی اللہ عنہم میں ان کا ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں: بعض کا قول ہے کہ انہیں شرف صحابیت حاصل ہے، پھر ثقات تابعین میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۰۹۹۸ جویریہ بنت ابی جہل \*

یہ وہی ہیں جنہیں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام دیا تھا، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”رسول اللہ ﷺ کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک شخص کے پاس کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتیں۔“ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے منگنی کو چھوڑ دیا۔ ان سے عتاب بن اسید جو امیر مکہ تھے، انہوں نے نبی کریم ﷺ کے عہد میں نکاح کیا، ان سے عبدالرحمن پیدا ہوئے جو جنگ جمل میں شہید ہوئے۔  
ابن مندہ نے ان کا ذکر کیا ہے، ان کے علاوہ نے کہا: ان کا نام جمیلہ ہے جیسا کہ گزر چکا ہے، اور ان کا قصہ صحیحین میں مسور خرمہ کی حدیث میں ہے، جس میں ان کا نام مذکور نہیں۔

اسد الغابۃ (۶۸۱۹) تجرید (۲۵۶/۲) \* اسد الغابۃ (۶۸۲۰) تجرید (۲۵۶/۲)

ترمذی (الحديث: ۴۵) \* اسد الغابۃ (۶۸۲۱) تجرید (۲۵۶/۲)

بخاری (الحديث: ۹۲۶) مسلم (الحديث: ۶۲۶۰)

## جویریہ بنت الحارث

ابن ابی ضرار بن حبیب بن جذیمہ، وہ مصطلق بن عمرو بن ربیعہ بن حارثہ بن عمرو بن عذراعہ مصطلقہ ہیں، غزوہ مریسج ۵ھ یا ۶ھ میں آپ ﷺ نے بنو مصطلق سے جہاد کیا، قیدیوں میں جویریہ بھی تھیں جو مسافع بن صفوان مصطلقی کے نکاح میں تھیں اور ثابت بن قیس کے حصے میں آئیں۔

ابن اسحاقؒ فرماتے ہیں: مجھ سے محمد بن جعفر بن زبیر نے عروہ بن زبیر کی پھوپھی سے انہوں نے اپنی خالہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا، فرماتی ہیں: جب رسول اللہ ﷺ نے بنو مصطلق کے قیدی تقسیم کیے تو جویریہ ثابت بن قیس بن شماس کے حصے میں یا ان کے چچا زاد کے حصے میں آئیں۔ انہوں نے اپنے نفس پر مکاتبت کر لی، وہ خوش مزاج اور خوش طبع خاتون تھیں جو بھی انہیں دیکھتا اس کا دل جھین لیتیں۔

وہ نبی کریم ﷺ کے پاس مال مکاتبت میں مدد مانگنے آئیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: اللہ کی قسم! جب میں نے اسے دیکھا تو مجھے ناگوار ہوا، اور میں نے کہا: رسول اللہ ﷺ ان میں وہ دیکھیں گے جو میں نے دیکھا، جب وہ نبی کریم ﷺ کے پاس گئیں، کہنے لگیں: یا رسول اللہ ﷺ! میں جویریہ، حارث کی بیٹی ہوں جو اپنی قوم کا سردار ہے، مجھے اتنی مصیبتیں پہنچی ہیں جو آپ پر مخفی نہیں ہیں، میں نے اپنے نفس پر مکاتبت کر لی ہے، آپ مال مکاتبت میں میری مدد کریں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا اس سے بہتر چیز نہ ہو؟ میں تمہارا مال مکاتبت ادا کر دوں اور تم سے نکاح کر لوں“۔ کہنے لگیں: جی ہاں! آپ ﷺ نے ایسا ہی کیا۔

لوگوں کو آپ ﷺ کے نکاح کی خبر پہنچی تو وہ کہنے لگے: یہ نبی کریم ﷺ کے سسرال ہیں، انہوں نے بنو مصطلق کے تمام قیدی رہا کر دیئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے بنو مصطلق کے سو (۱۰۰) گھرانے آزاد کیے، اور میں نے اپنی قوم کے حق میں ان سے زیادہ برکت والی خاتون نہیں دیکھی۔

ابن سعدؒ نے واقدی کے حوالے سے ان کی سند سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اسی طرح نقل کیا ہے، لیکن ان کے شوہر کا نام صفوان بن مالک لیا ہے، اور شعبہ کے طریق سے محمد بن عبد الرحمن نے جو آل طلحہ کے مولیٰ ہیں، انہوں نے بحوالہ کریم، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: جویریہ کا نام برہ تھا، نبی کریم ﷺ نے ان کا نام جویریہ رکھا۔

ترمذیؒ نے شعبہ کے طریق سے اسے نقل کیا ہے اور اس کی سند کو ابن عباس رضی اللہ عنہما تک پہنچایا ہے، جو جویریہ بنت حارث سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ ان کے ہاں سے گزرے تو وہ اپنی جائے نماز پر بیٹھی ہوئی تھیں، پھر دو پہر کے وقت وہیں سے گزرے تو فرمایا: کیا تم اسی حالت میں بیٹھی ہو؟ انہوں نے عرض کیا: جی ہاں۔ فرمایا: کیا میں تمہیں چند کلمات سکھا دوں جو تم پڑھو: سُبْحَانَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، ”اللہ کی پاکی جتنی اس کی مخلوق ہے“..... (الحديث)

اسد الغابۃ (۶۸۲۲) تجرید (۲۵۶/۲) \* السیرۃ النبویۃ (۲۳۱/۳)

المعجم الكبير (الحديث: ۱۶، الطبقات الكبير) (۸۴/۸)

الطبقات الكبير (۸۴/۸) \* ترمذی (الحديث: ۳۵۵۵)



ابن مندہ کی کتاب معرفة الصحابة میں یہ روایت اونچی سند سے ملی ہے اور وہ سند صحیح ہے۔ ابو قلابہ کی مرسل روایت ہے، فرمایا: نبی ﷺ نے جویریہ رضی اللہ عنہا کو قیدی بنایا یعنی آپ ﷺ نے ان سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا تو ان کے والد آ کر کہنے لگے: میری بیٹی تو ایسی ہے کہ اس جیسی کو قیدی نہیں بنایا جاتا۔ آپ ﷺ اسے چھوڑ دیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر میں اسے اختیار دوں تو تمہاری رائے میں یہ بہتر ہوگا؟“ انہوں نے کہا: کیوں نہیں۔ چنانچہ وہ اپنی بیٹی کے پاس آئے اور اس بات کا ان سے ذکر کیا تو وہ کہنے لگیں: میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو پسند کرتی ہوں۔ اس کی سند صحیح ہے۔

حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم ﷺ سے احادیث روایت کی ہیں، ان سے ابن عباس، جابر، ابن عمر، عبید بن سابق اور طفیل (ان کے بھتیجے) وغیرہ کی احادیث نقل کی ہیں۔

ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے کہ ان کے پہلے شوہر کو ابن ذی شقر کہا جاتا ہے، اور واقدی نے ان کا نام مسافع بن صفوان بن ذی شقر بن ابوسرح لیا ہے۔ مرسیع کے دن قتل ہوئے۔

صحیح بخاری میں حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ ان کے پاس جمعہ کے دن آئے اور وہ روزہ دار تھیں، آپ ﷺ نے پوچھا: ”کیا تم نے کل روزہ رکھا تھا؟“ انہوں نے کہا: نہیں۔ آپ ﷺ نے پوچھا: ”کیا تم کل روزہ رکھو گی؟“ کہنے لگیں: نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”پھر افطار کر لو“۔

مسلم کی روایت زہری رضی اللہ عنہ کے طریق سے جو انہوں نے عبید بن سابق سے بحوالہ جویریہ بنت حارث نقل کی ہے، فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا: کیا کھانے کو کچھ ہے؟ (الحدیث)

صحیح مسلم میں ہے کہ ان کا نام بڑہ تھا، نبی کریم ﷺ نے جویریہ رکھ دیا، آپ ﷺ کو یہ کہا جانا پسند نہیں تھا کہ آپ نیک کے پاس سے نکلے۔ بعض کا قول ہے (ہجرت کے پچاسویں سال) ۵۰ھ میں فوت ہوئیں۔ بعض نے کہا: ربیع الاول ۵۶ھ میں فوت ہوئیں۔ بعض نے کہا: ربیع الاول ۵۶ھ تک زندہ رہیں۔ یہ واقدی کا قول ہے، فرمایا: مروان نے ان کی نماز جنازہ پڑھی، بقول بعض: پینٹھ (۶۵) برس زندہ رہیں۔

### جویریہ (۱۱۰۰)

ابن بطل کی شرح میں لکھا ہے کہ یہ وہی خاتون ہیں جن سے خیب بن عدی نے استرا مانگے پر لیا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ان کا نام مذکور نہیں۔

### جویریہ بنت المجلل (۱۱۰۱)

حاطب بن حارث حمی کی زوجہ ہیں۔ ان کی کنیت ام جمیل ہے۔ یہ اپنی کنیت سے مشہور ہیں جبکہ ان کے نام میں اختلاف ہے، یہ ابو عمر کا قول ہے۔

## القسم الثانی از حرف جیم

### ۱۱۰۰۲ جمانہ بنت الحسن بن حبہ

محمد نبوی ﷺ میں پیدا ہوئیں، ان سے حذیفہ بن یمان نے نکاح کیا، ابن سعد نے ان لوگوں میں ان کا ذکر کیا ہے جنہوں نے آپ ﷺ سے روایت نہیں کی۔

### ۱۱۰۰۳ جمیلہ بنت عمر

بن خطاب، ان کا نام عاصیہ تھا، ان کا نام جمیلہ رکھا۔

ابن ابی شیبہ نے حسن بن موسیٰ سے بحوالہ حماء، انہوں نے عبید اللہ بن عمر سے انہوں نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ عمر کی بیٹی کو عاصیہ کہا جاتا تھا، رسول اللہ ﷺ نے ان کا نام جمیلہ رکھا، ابوعلی غسانی نے استیعاب \* پر اپنے استدراک میں ان کا ذکر کیا ہے۔ ابن اثیر نے ان کا تعاقب کیا ہے کہ یہ قصہ عمر کی زوجہ کے بارے میں وارد ہوا، نہ کہ ان کی بیٹی کے بارے میں، جیسا کہ گزر چکا ہے۔ جمیلہ بنت ثابت کے سوانح میں گزر چکا ہے کہ وہ عمر کی بیوی ہیں، جس کی نص یہ ہے: حماد بن سلمہ نے ان اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے کہ یہ یعنی جمیلہ بنت ثابت بن ابوالفتح کا نام عاصیہ تھا، جب وہ اسلام لائیں تو ان کا نام جمیلہ رکھا، انہوں نے ایسے ہی نقل کیا ہے، انہوں نے اسے ابن مندہ کی کتاب سے نقل کیا ہے، جس کے الفاظ حجاج بن منہال کے طریق سے بحوالہ حماد ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے عاصیہ نام بدل دیا اور فرمایا: ”تو جمیلہ ہے“۔ \* انہوں نے یہ بیان نہیں کیا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہیں یا بیٹی، لیکن اس سے پہلے واصل بن ابی عیینہ کی مرسل روایت میں عمر کی زوجہ کے متعلق ذکر ہے جیسا کہ ان کے سوانح میں گزر چکا ہے۔ روایت بالمعنی نقل کرتے ہوئے کچھ کمی بیشی ہو گئی، ان سے جوڑ ٹھیک نہیں بیٹھا، اور اس میں کچھ مانع نہیں کہ ان کی زوجہ اور بیٹی کا نام بدل دیا جائے۔ لیکن ابوعلی غسانی نے ابو مسلم کجی کے طریق سے بحوالہ حجاج بن منہال حدیث نقل کی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں: ام عاصم کا نام عاصیہ تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کا نام بدل کر جمیلہ رکھ دیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں عمر کی زوجہ مراد ہیں۔

### ۱۱۰۰۴ جویریہ بنت ابی سفیان

بن حرب، معاویہ کی سگی بہن ہیں۔ ابن سعد \* نے ان کا ذکر کیا ہے۔ اور فرمایا: ان سے سائب بن ابوخبیب اسدی نے نکاح کیا۔

\* أسد الغابۃ (۶۸۱۷) تجرید (۲۵۶/۲)

\* استیعاب (۱۸۰۲/۴)

\* احمد (الحديث: ۱۸/۲) بخاری (۸۲۰) طبرانی (الحديث: ۵۴۴/۲۴)

\* الطبقات الكبرى (۱۷۴/۸)

### القسم الثالث از حرف جیم

#### ۱۱۰۵ جسرہ بنت دجاجہ \*

معروف تابعیہ ہیں۔ ابو زر، علی، عائشہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، اہل کوفہ میں ان کا شمار ہے۔ ان سے قدامہ بن عبد اللہ عامری، اہلقت بن خلیفہ، ممدوح ہذلی نے روایت کی۔ عجل فرماتے ہیں: ثقہ ہیں۔ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کا زمانہ پایا ہے۔

ابن مندہ نے عثمان بن علی کے طریق سے، انہوں نے قدامہ سے بحوالہ جسرہ روایت کیا ہے، وہ فرماتی ہیں: نبی کریم ﷺ کی وفات کے دن ایک آنے والا پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا، اور کہا: اے وادی کے رہنے والو! دین بدل گیا، تین مرتبہ کہا، تمہارا نبی جس کا تم گمان کرتے ہو وفات پا گیا۔ وہ شیطان تھا۔ ہم نے حساب لگایا، یہ وہی دن تھا جب نبی کریم ﷺ وفات پا گئے۔ ابن مندہ نے صحابہ رضی اللہ عنہم میں ان کا ذکر کیا ہے اور ان سے اس کے علاوہ کچھ روایت نہیں کیا۔ ابو علی بن سکین نے اپنی سند سے اسے نقل کیا ہے، جسے وہ عثمان تک لے گئے ہیں (یہ عین بغیر نقطوں کے ہے، اور ث تشدید کے ساتھ ہے)۔ اس بات کی تصریح نہیں کہ انہوں نے دور نبوت پایا، کیونکہ احتمال ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ان کی قوم سے ایک آنے والا آیا، اور انہوں نے ان لوگوں سے نقل کر دیا ہو اور اس واقعہ کا زمانہ نہ پایا ہو۔ ابن سکین نے ان کا صحابہ رضی اللہ عنہم میں ذکر نہیں کیا، ان کی صحابہ رضی اللہ عنہم سے مروی حدیث ابو داؤد اور نسائی وغیرہ میں ہے۔

#### ۱۱۰۶ جمرہ

عیینہ بن حصن فزاری کی زوجہ ہیں، قیس ابن حازم کی مرسل حدیث جس میں عیینہ کا قصہ ہے، سعید ابن منصور کی کتاب کے آخری حصے کے اخیر میں ان کا ذکر ہے۔

### القسم الرابع از حرف جیم

#### ۱۱۰۷ جاریہ بنت عمرو

بن مؤمل، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں اذیتیں دی گئیں، تو ابوبکر نے انہیں خرید لیا۔ ابن سعد \* نے امیرہ بنت رقیقہ کے بعد ان کا ذکر کیا ہے۔ بعض کا قول ہے: بریرہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باندی ہیں، راوی کا قول ہے: وہ بنت عمرو نہیں ہیں وہ آل عمرو کی باندی تھیں، شاید وہ گھر کی باندی ہوں، اس لفظ کا اطلاق مرد اور عورت دونوں کی آل پر ہوتا ہے۔ یہاں سے مراد اول ہے۔ معروف جاریہ بنی عمرو بن مؤمل یا جاریہ بن عمرو بن مؤمل ہیں، بعض نے انہیں مرد گمان کیا اور لفظی غلطی کی یہ حارث فرماتے ہیں: ث کے ساتھ ہے، اللہ ہی کی توفیق ہے۔

\* اسد الغابۃ (۶۷۹/۲) تجرید (۲۵۴/۲)

\* الطبقات العکبری (۱۸۷/۸)

### ۱۱۰۸ جمیلہ بنت المصنف

نبی کریم ﷺ کا زمانہ پایا، ان سے فضیل بن مرزوق نے روایت کی ہے۔ ابو عمر نے ان کا ذکر کیا ہے۔ میں کہتا ہوں: ان کے علاوہ نے ان کے والد کے نام میں مصنف کے بجائے مصحح ذکر کیا ہے۔ میرے خیال میں انہیں کسی صحابی سے روایت حاصل نہیں ہے۔ نسائی نے مسند علی میں ان سے حدیث نقل کی ہے۔ ان کی ایک اور حدیث حاطب سے بحوالہ ابو ذر مروی ہے، مجھے کوئی ایسی بات معلوم نہیں جو ان کے دور نبوت پانے پر دلالت کرے۔

### ۱۱۰۹ جمیلہ بنت عبدالعزیٰ

قسم اول میں ان کے متعلق تنبیہ گزر چکی ہے۔

### ۱۱۱۰ جُویریہ بنت الحارث

بن عبدالمطلب بن ہاشم، ذہبی رحمہ اللہ نے خواتین کے حصے میں حرف جیم کے آخر میں فرمایا: یہ وہی جویریہ ہیں جن سے نبی ﷺ نے فرمایا: ”میں نے تمہارے بعد چار کلمات کہے.....“۔ (الحدیث)

مسلم نے اسے نقل کیا ہے، ابن حبان نے انواع میں فرمایا: یہ نبی کریم ﷺ کی پھوپھی زاد ہیں، اسی طرح فرمایا: یہ ام المومنین ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان سے روایت کی ہے۔

میں کہتا ہوں: ام المومنین جویریہ بنت حارث کے سوانح میں ترمذی کے بیان سے میں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ مسلم کے الفاظ ہیں سفیان جو ابن عیینہ ہیں، ان کے طریق سے بحوالہ محمد بن عبدالرحمن جو مولیٰ آل طلحہ ہیں، انہوں نے کریب سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما جنہوں نے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم ﷺ ان کے پاس سے صبح سویرے تشریف لے گئے..... (الحدیث)

مسعر کی روایت میں ہے: جو محمد بن عبدالرحمن سے وہ ابی راشدین سے وہ کریب سے اسی طرح روایت کرتے ہیں، لیکن انہوں نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ ان کے پاس سے گزرے، نماز پڑھنے سے پہلے یا جب وہ نماز پڑھ چکے تھے، جیسا کہ ابن ماجہ میں مسعر کے طریق سے ہے، اور ترمذی اور نسائی میں شعبہ کے طریق سے ہے کہ انہوں نے محمد بن عبدالرحمن سے سفیان کی طرح روایت کیا، اور اس میں ہے: ابن عیاش سے بحوالہ جویریہ بنت حارث بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ ان کے پاس سے گزرے اور وہ تسبیح کر رہی تھیں۔

حسن بن سفیان کی مسند میں بحوالہ قتیبہ، سفیان بن عیینہ سے مسلم کی سند کے ساتھ مروی ہے، وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ جویریہ بنت حارث فرماتی ہیں: نبی کریم ﷺ باہر تشریف لے گئے، اس وقت میں اپنے جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ جب دوپہر ہوئی تو لوٹے..... (الحدیث)

ابو نعیم نے اپنی مستخرج میں اسے نقل کرنے کے بعد فرمایا: اس کے شروع میں قصہ تھا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔  
میں کہتا ہوں: ابو عوانہ نے اسے اپنی صحیح میں بحوالہ شعبہ نقل کیا ہے، انہوں نے سفیان سے اور سند کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما تک لے گئے ہیں، فرماتے ہیں: نبی کریم ﷺ جویریہ رضی اللہ عنہا کے پاس سے ہمارے پاس تشریف لائے، ان کا نام برہ تھا، آپ ﷺ نے بدل کر جویریہ رکھ دیا، آپ ﷺ نا پسند کرتے تھے کہ کہا جائے آپ نیکی کے پاس سے نکلے، آپ ﷺ باہر تشریف لائے تو وہ اپنی جائے نماز پر تھیں۔ پھر حدیث ذکر کی، اس زیادتی سے یہ فائدہ ہوا کہ یہ جویریہ بنت حارث خزاعیہ، نبی کریم ﷺ کی زوجہ ہیں، کیونکہ مسلم نے حدیث کا یہ جز سفیان بن عیینہ کی روایت سے نقل کیا ہے، اور اس سند کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما تک پہنچایا۔ اسی طرح محمد بن سعد نے جویریہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین کے سوانح میں بحوالہ سفیان بن عیینہ اسے نقل کیا ہے۔ اور سفیان ثوری کے طریق سے بھی بحوالہ محمد بن عبدالرحمن نقل کیا ہے، اس کی سند ابن عیینہ کی طرح ہے۔ اس کے شروع میں فرماتے ہیں: جویریہ کا نام برہ تھا، رسول اللہ ﷺ نے جویریہ رکھ دیا۔ فرماتے ہیں: آپ ﷺ نے فجر کی نماز پڑھی پھر ان کے پاس سے باہر تشریف لائے یہاں تک کہ چاشت کا وقت ہو گیا، پھر آئے اور وہ اپنی جائے نماز پر تھیں..... (الحدیث)  
اس سے معلوم ہوا کہ وہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا ہیں، اللہ ہی کی توفیق ہے۔



## حرف حاء بے نقطی

### القسم الاول از حرف حاء

#### ۱۱۰۱۱ حبائہ

ح کی زیر، اور ب کی تشدید، الف کے بعد نون ہے۔ بنت سلیم بن شمع، ام عامر ہیں، اپنی کنیت سے مشہور ہیں۔ ابن سعد نے ان کا نام لیا ہے، ان کا ذکر کنیتوں میں آئے گا۔

#### ۱۱۰۱۲ حبثہ

ح پر زیر، ب پر سکون، اس کے بعد ت دو نقطوں والی، بنت جبیر ہیں، خوات بن جبیر کی بہن ہیں، ان کا نسب ان کے بھائی کے سواغ میں گزر چکا ہے۔ ابن سعد نے ان کا ذکر کیا اور فرمایا: اسلام لائیں اور نبی کریم ﷺ سے بیعت ہوئیں۔

#### ۱۱۰۱۳ حبثہ

سعد بن عیسری والدہ ہیں۔ ان کے بیٹے کے سواغ میں ان کا ذکر ہے۔

#### ۱۱۰۱۴ حبہ

ح کے اوپر زیر، بڑہ کے وزن پر ہے۔ عمرو بن حصن انصاریہ کی صاحبزادی ہیں۔ ابن سعد نے ان کا بیعت کرنے والی خواتین میں ذکر کیا ہے۔

#### ۱۱۰۱۵ حبیبہ بنت ابی امامہ

اسعد بن زرارہ۔ حرف الف میں ان کا نسب گزر چکا ہے، سہل بن حنیف کی زوجہ ہیں۔ ابوامامہ اسعد کی والدہ ہیں۔ ابراہیم بن محمد بن ابویحییٰ بحوالہ محمد بن عمارہ فرماتے ہیں: مجھ سے میری والدہ حبیبہ اور میری خالہ کبشہ جو فریہ بنت ابوامامہ اسعد بن زرارہ کی بہن ہیں،.... پھر حدیث ذکر کی۔

عبداللہ بن ادریس دوری نے محمد بن عمارہ سے بحوالہ نسیب بنت عقیط جو انس بن مالک کی زوجہ ہیں، سے روایت کیا، فرماتے ہیں: ابوامامہ اسعد بن زرارہ نے میری والدہ اور میری خالہ کو وصیت کی کہ رسول اللہ ﷺ کی طرف جائیں۔ انہوں نے سونے اور موتیوں کے زیور جنہیں رعاث کہا جاتا تھا پیش کیے، آپ ﷺ نے یہ رعاث انہیں پہنا دیئے۔ نسیب فرماتی ہیں: اس زیور

تجريد (۲۵۷/۲) الطبقات الكبرى (۲۵۷/۸) تجريد (۲۵۷/۲)

تجريد (۲۸۵/۸) أسد الغابة (۶۸۲۵) تجريد (۲۵۷/۲)

میں سے کچھ میرے گھر والوں کے پاس ہیں۔\*

ابن سکین نے ابن ادریس کی روایت سے اسے نقل کیا ہے اور ابن سعد\* فرماتے ہیں: حبیبہ اسلام لائیں اور بیعت کی، ان سے سہل بن حنیف نے نکاح کیا جس سے ابوامامہ اسعد پیدا ہوئے، رسول اللہ ﷺ نے اس کا نام اپنے باپ کے نام پر رکھا، اور اس کی کنیت اپنی کنیت پر رکھی، ان کی والدہ عمیرہ بنت سہل بن ثعلبہ بن حارث ہیں۔

### ۱۱۰۶ حبیبہ بنت ابی تجرة العبدیہ\*

پھر حبیبہ، امام شافعی رحمہ اللہ نے ان کی حدیث عبداللہ بن مؤمل سے روایت کی ہے، اور ابن سعد\* نے معاذ بن ہانی اور محمد بن سحر سے، انہوں نے ابوعبید اور ابن ابی یوسف سے، انہوں نے شریح بن نعمان سے، ان سب نے ابن مؤمل سے، انہوں نے عمر بن عبدالرحمن بن محیصن سے، انہوں نے عطاء بن ابی رباح سے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے صفیہ بنت شیبہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے ایک خاتون سے جنہیں حبیبہ بنت ابی تجرة کہا جاتا تھا، فرماتی ہیں کہ ہم دار ابی حسین میں قریش کی عورتوں کے ساتھ داخل ہوئے اور نبی کریم ﷺ کعبہ کا طواف کر رہے تھے اور آپ کا کپڑا ابھی پھر رہا تھا، اور وہ اپنے اصحاب سے فرما رہے تھے: ”سعی کرو، اللہ تعالیٰ نے تم پر سعی فرض کی ہے۔“ یہ معاذ کے الفاظ ہیں۔ طحاوی نے معاذ کے طریق سے نقل کیا ہے، ابن مندہ کی کتاب میں ان کے طریق سے یہ حدیث ہمیں عالی سند سے ملی ہے۔

ابو عمر\* فرماتے ہیں، بعض نے کہا: ان کا نام حبیبہ ”ح“ کے زبر کے ساتھ بعض کا قول ہے: تصغیر کے ساتھ ہے۔ ان کے علاوہ کا قول ہے: تجرة، دارقطنی رحمہ اللہ نے اسے ضبط کیا ہے، ت کے ساتھ، ابو عمر فرماتے ہیں، اس حدیث کی وجہ سے ان کے صحابیہ ہونے میں اختلاف ہے، کیونکہ اس میں صفیہ بنت شیبہ راویہ ہیں میں نے انتہید میں اس کا ذکر کیا ہے۔

میں کہتا ہوں: دوسری سند میں صفیہ سے بحوالہ برہ یہ گزر چکا ہے۔ بعض کا قول ہے: تمہلک سے، بعض نے کہا: شیبہ کی ام ولد سے، بعض کہتے ہیں: صفیہ سے بلا واسطہ، ابوعبید نے اس کے طرق کے بیان کا استیعاب کیا ہے، ان طرق میں بحیرہ بنت محمد بن سباع کا طریق جس میں حبیبہ بنت ابی تجرة سے اسی طرح مذکور ہے، نسائی اور ابن ماجہ نے بدیل بن مسیرہ کے طریق سے، بحوالہ مغیرہ بن حکیم، انہوں نے صفیہ بنت شیبہ سے انہوں نے ایک خاتون سے نقل کیا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ شیبہ کی ام ولد ہیں، حدیث تمہلک کی سند حرف ت میں گزر چکی ہے۔

### ۱۱۰۷ حبیبہ بنت جحش\*

ابن سعد\* نے ان کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا: حبیبہ کی والدہ ہیں، اسی طرح زینب کی سگی بہن ہیں، انہیں استخاضہ کا مرض

\* جامع المسانید والسنن (۳۵۵/۱۵) الطبقات الکبریٰ (۳۲۲/۸)

\* اسد الغابہ (۶۸۲۶) تجرید (۲۵۷/۲) الطبقات الکبریٰ (۱۸۰/۸)

\* مسند احمد (۴۲۱/۶) استیعاب (۱۸۰۶/۴)

\* اسد الغابہ (۶۸۲۷) تجرید (۲۵۷/۲) الطبقات الکبریٰ (۱۷۶/۸)



تھا، بعض محدثین فرماتے ہیں: ان کا نام بدل کر ام حبیبہ کہا جانے لگا، پھر ابن ابی ذئب کے طریق سے، زہری سے، بحوالہ عروہ، وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ ام حبیبہ بنت جحش کو سات سال تک استخاضہ رہا، وہ عبدالرحمن بن عوف کی زوجہ تھیں، واقدی کا قول ہے: ابن عبداللہؓ نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اور فرمایا: ایک جماعت نے کہا ہے، ان کی کنیت ام حبیبہ بغیرحاء کے ہے، فرمایا: مشہور ہے کہ وہ ام حبیبہ ہیں، اسی طرح فرمایا: کنیتوں میں اپنے استدراک میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۰۱۸ حبیبہ بنت ام حبیبہ

بنت ابوسفیان، وہ حبیبہ بنت رملہ بنت ابوسفیان بن صحر ہیں، ان کا ذکر آگے آئے گا، ان کے والد کا نام عبداللہ بن جحش ہے، ان کی والدہ ام المؤمنین ہیں۔

### ۱۱۰۱۹ حبیبہ بنت الحصین

بن عبداللہ بن اُس بن امیہ بن زید بن دارم، سائب بن ابوسائب کی زوجہ ہیں، زبیر بن بکار نے ان کا ذکر کیا ہے، عبداللہ بن سائب بن ابوسائب کی والدہ ہیں، عبداللہ اور ان کے والدین کو شرف صحابیت حاصل ہے۔

### ۱۱۰۲۰ حبیبہ بنت خارجہؓ

بن زید یا بنت زید بن خارجہ خزرجیہ، ابوبکر صدیق کی زوجہ ہیں، ام کلثوم کی والدہ ہیں جو ابوبکر کی بیٹی ہیں، جب ابوبکر فوت ہوئے تو وہ حمل میں تھیں، انہوں نے فرمایا: بنت خارجہ کے بطن والے میرے خیال میں لڑکی ہے، ایسا ہی ہوا، نبی کریم ﷺ کی وفات کے قصہ میں حضرت عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ کی صحت بہتر دیکھی تو خارجہ کے گھر جانے کی اجازت طلب کی، آپ ﷺ نے انہیں اجازت دے دی۔

ابن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: حبیبہ بنت خارجہ بن زید بن ابوہریرہ بن مالک بن امرئ القیس بن مالک اعز، ان دونوں کی والدہ ہزیلہ بنت عتبہ بن عمرو بن خدیج بن عامر بن جشم ہیں، اسلام لائیں اور بیعت ہوئیں۔ فرماتے ہیں: ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بعد اساف بن عتبہ بن عمرو نے حبیبہ سے شادی کی۔

### ۱۱۰۲۱ حبیبہ بنت زید

بن ابوہریرہ، ان کے والد کے سوانح میں ان کا ذکر ہے۔

### ۱۱۰۲۲ حبیبہ بنت ابی سفیانؓ

ابو عمرؓ فرماتے ہیں، ابان بن صمّہ کا قول ہے کہ انہوں نے محمد بن سیرین کو فرماتے ہوئے سنا کہ مجھ سے حبیبہ بنت

❖ الاستیعاب (۱۸۰۷/۴) ❖ اسد الغابۃ (۶۸۲۸) تجرید (۲۵۷/۲)

❖ الطبقات الکبریٰ (۲۶۲/۸) ❖ اسد الغابۃ (۶۸۲۹) تجرید (۲۵۸/۲)

❖ الاستیعاب (۱۸۰۸/۴)

ابوسفیان نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: جس شخص کی اولاد میں سے تین بچے مر گئے۔ ان سے محمد بن سیرین کے علاوہ کسی نے روایت نہیں کی، نہ ابوسفیان کی کوئی ایسی صاحبزادی ہیں جن کا نام حبیبہ ہو، جس کے کا گمان ہے کہ وہ حبیبہ بنت ام حبیبہ بنت ابوسفیان جن کی حدیث زہری نے عروہ سے بحوالہ زہب بنت ابوسلمہ انہوں نے ان سے، انہوں نے اپنے بیٹے سے، انہوں نے زہب بنت جحش سے یا جوج ماجوج کی دیوار کے بارے میں حدیث روایت کی ہے، اور ان کے والد عبید اللہ بن جحش حبشہ کی سرزمین میں وفات پا گئے۔

موسیٰ بن عقبہ نے ان کا ذکر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں کیا ہے۔ وہاں ان کے والد عیسائی ہو گئے۔ جیسا گمان ہے ویسا نہیں، کیونکہ یہ حبیبہ بنت ابوسفیان دوسری ہیں، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت کیا کرتی تھیں، اور ان کے والد ابوسفیان نہیں ہیں، وہ تو ابوجرب ام المؤمنین ام حبیبہ کے والد ہیں، یہ ابوسفیان کوئی اور ہیں جن کا نسب معلوم نہیں۔

ابن مندہ نے عالی سند کے ساتھ نصر بن شمیل کے طریق سے بحوالہ ابان بن مصعب روایت کیا ہے، فرماتے ہیں: میں نے ابن سیرین کو فرماتے ہوئے سنا: مجھ سے حبیبہ نے بیان کیا کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں بیٹھی ہوئی تھیں، نبی کریم ﷺ تشریف لائے اور فرمایا: ”جن مسلمان والدین کے تین بچے فوت ہوں اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جنت میں داخل کرے گا۔“

فرماتے ہیں: اسے انصاری وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ حسن بن سفیان نے اپنی مسند میں سہیل بن یوسف کے طریق سے بحوالہ ابان طویل حدیث نقل کی ہے، اور اس کے آخر میں فرمایا: ”ان بچوں سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ!“ وہ کہیں گے: پہلے ہمارے والدین اس میں داخل ہوں، پھر انہیں تیسری یا چوتھی مرتبہ کہا جائے گا: ”تم اور تمہارے والدین داخل ہوں۔“ فرماتے ہیں: مجھ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: کیا تم نے یہ حدیث سنی ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں! کہنے لگیں: تو اسے یاد کر لو۔

### حبیبہ بنت سہل ۱۱۰۲۳

بن ثعلبہ بن حارث بن زید بن ثعلبہ بن غنم بن مالک بن نجار انصاری، رعینہ کی سگی بہن ہیں، ان کی والدہ عمرہ بنت مسعود ہیں، جنہوں نے ثابت بن قیس سے خلع لے لی تھی، جیسا کہ اہل مدینہ سے مروی ہے۔ ان سے عمرہ نے روایت کی، ممکن ہے کہ انہوں نے اور حبیلہ بنت ابی بن سلول نے ثابت سے اکٹھی خلع لی ہو۔

میں کہتا ہوں: مسند دارمی رحمہ اللہ میں ہمیں یہ حدیث عالی سند سے بحوالہ یزید بن ہارون ملی ہے، ابن مندہ کی المعرفة میں ان کے طریق سے اور وہ ابن سعد کے ہاں ہے، بحوالہ یزید، وہ یحییٰ بن سعید سے نقل کرتے ہیں کہ عمرہ بنت عبدالرحمن نے انہیں بتایا کہ حبیبہ بنت سہل سے ثابت بن قیس نے نکاح کیا، انہوں نے ذکر کیا کہ نبی کریم ﷺ نے ان سے نکاح کرنے کا ارادہ فرمایا اور وہ لڑکی تھیں، ثابت نے انہیں مارا تھا، نبی کریم ﷺ باہر تشریف لائے تو ایک انسان کو دیکھا، آپ ﷺ نے پوچھا: ”کون؟“ کہنے

المعجم الكبير (الحديث: ۵۷۰/۲۴) مجمع الزوائد (۷/۳) المعجم الكبير (۵۷۱/۲۴)

اسد الغابۃ (۶۸۳۰) تجرید (۲۵۸/۲) الطبقات الكبرى (۳۲۶/۸)

لگیں: میں حبیبہ بنت سہل ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تمہیں کیا ہوا؟“ کہنے لگیں: ”میرا اور ثابت کا گزارہ نہیں۔“ نبی کریم ﷺ ثابت کے پاس آئے اور فرمایا: ”اس سے مال لے لو اور اسے آزاد کر دو“۔ وہ کہنے لگیں: یا رسول اللہ ﷺ! اللہ کی قسم! انہوں نے مجھے ہر شے دی ہے، انہوں نے وہ لے لیں، اور وہ اپنے گھر والوں کے پاس بیٹھ گئیں۔ ❀

یہ روایت مؤطا میں یحییٰ بن سعید سے ہے جو وہ عمرہ سے اور وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں۔ بعض نے اسے مرسل روایت کیا ہے۔ ابن ابی عاصم کے ہاں حماد بن زید کے طریق سے ہے، دونوں یحییٰ بن سعید سے طویل حدیث نقل کی ہے۔ اس میں ہے: وہ میری پھوپھیوں میں سے ایک ہیں، اور اس روایت میں ہے: پھر انصار کی غیرت کا ذکر کیا، انہیں ناپسند تھا کہ ان کی عورتوں کے بارے میں کوئی برائی کی جائے۔ اس روایت میں یہ ہے کہ ثابت نے انہیں نکاح کا پیغام دیا اور ان سے شادی کی، ان کے مزاج میں سختی تھی، اس لیے ثابت نے انہیں مارا۔ ابو عمر نے ثابت سے کئی خلع لینے والی خواتین کا ذکر کیا ہے تو وہ بعید نہیں ہے، اس کی وجہ سبب مذکور کا اختلاف ہے۔

ابن سعد نے حماد بن زید کے طریق سے، بحوالہ یحییٰ نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: حبیبہ بنت سہل ثابت بن قیس بن شماس کی زوجہ تھیں..... (الحدیث) اس روایت میں ہے کہ انہوں نے باغ واپس کر دیا، اس روایت میں ہے: اسلام میں یہ پہلا خلع ہے، اور یہ بھی ہے: ان سے ثابت کے بعد ابی بن کعب نے نکاح کیا۔

ابن سعد فرماتے ہیں: ہم سے انصاری نے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے ابان بن صممہ نے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے محمد بن سیرین سے سنا، وہ ہمارے پاس آئے اور فرمایا: مجھ سے حبیبہ نے اور وہ نبی کریم ﷺ کے گھر میں تھیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جس مسلمان کے تین بچے بلوغت سے قبل وفات پا جائیں، تو انہیں قیامت کے دن لایا جائے گا اور جنت کے دروازے پر ٹھہر جائیں گے، انہیں کہا جائے گا: جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ کہیں گے: پہلے ہمارے والدین داخل ہوں۔

ابن سیرین فرماتے ہیں: میرے گمان میں دوسری یا تیسری مرتبہ کہا جائے گا: تم اور تمہارے والدین جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عورت سے پوچھا: کیا تم نے سنا ہے؟ اس نے کہا: جی ہاں! ابن سعد فرماتے ہیں، ابن سیرین نے اسی طرح روایت کیا ہے، ان کا نسب بیان نہیں کیا، مجھے معلوم نہیں وہ بنت سہل بن ثعلبہ ہیں یا کوئی اور ہیں۔

### حبیبہ بنت سہل (۱۱۰۲۴)

ابان بن صممہ نے محمد بن سیرین سے روایت کیا ہے کہ حبیبہ بنت سہل نے ان سے روایت کیا ہے، پھر انہوں نے حدیث بیان کی جو پہلی صحابیہ کے سوانح میں گزر چکی ہے، ابن سعد کا قول ہے کہ ممکن ہے وہ دوسری ہوں۔

### حبیبہ بنت شریق (۱۱۰۲۵)

بعض کا قول ہے: ابو شریق انصاریہ کی صاحبزادی ہیں، بعض کا قول ہے: ہذلیہ ہیں، وہ عیسیٰ بن مسعود بن حکم کی دادی ہیں، انہوں نے ان سے روایت کی ہے، یہ ابن عبد البر ❀ کا قول ہے۔ ابن مندہ فرماتے ہیں: انہوں نے بزیل بن ورقاء سے روایت کی،

ان کی حدیث صالح بن کیسان نے عیسیٰ بن مسعود سے انہوں نے اپنی دادی حبیبہ سے روایت کی ہے، پھر اس حدیث کو سعید بن سلمہ کے طریق سے، بحوالہ صالح، انہوں نے عیسیٰ زرقی سے انہوں نے اپنی دادی سے روایت کیا ہے کہ وہ اپنی والدہ بنت عجماء کے ساتھ ایام حج میں منیٰ میں تھیں، وہاں بذیل بن ورقاء رسول اللہ ﷺ کی سواری پر آیا اور پکار کر کہا: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: تم میں سے جو کوئی روزہ دار ہو اسے چاہیے کہ افطار کرے، کیونکہ یہ کھانے اور پینے کے ایام ہیں۔

نسائی نے ان کی حدیث مسعود بن حکم کے طریق سے بحوالہ ان کی والدہ نقل کیا ہے، اور ان کا نام نہیں لیا۔ لیکن ان کے پاس یہ حدیث علی بن ابوطالب سے مروی ہے، نہ کہ بدیل سے۔ لہذا تعدد کا احتمال ہے۔

ابن حبان نے انہیں ثقات تابعین سے ذکر کیا ہے۔ بعض کا قول ہے: ان کا نام اسماء ہے جیسا کہ گزر چکا ہے۔ عمرو بن سلیم سے بھی بحوالہ ان کی والدہ اسی طرح منقول ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس طرح پکارتے ہوئے دیکھا: یہ قرینہ تعدد کو تقویت دیتا ہے۔

### ۱۱۰۲۶ حبیبہ بنت شریک

بن انس بن رافع ابھلیہ، ان کی والدہ امامہ بنت سماک کے سوانح میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

### ۱۱۰۲۷ حبیبہ بنت الضحاک

بن سفیان، عباس بن مرداس جب اسلام لائے تو ان کی زوجہ تھیں، ابو عبیدہ معمر بن شہی نے ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۰۲۸ حبیبہ بنت ابی عامر الراہب

حظله، جو غلیل ملائکہ ہیں، ان کی بہن ہیں۔ ابن سعد نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۰۲۹ حبیبہ بنت عبداللہ

بن حمیر اسدیہ، ام المؤمنین ام حبیبہ بنت ابوسفیان کی صاحبزادی ہیں، حبیبہ بنت ام حبیبہ کے سوانح میں ان کی طرف اشارہ ہے، ابن اسحاق اور موسیٰ بن عقبہ کا قول ہے: اپنی والدہ کے ساتھ حبشہ ہجرت کی اور انہی کے ساتھ مدینہ واپس آئیں، ابن اسحاق نے ایک قول ذکر کیا ہے کہ حبشہ کی سرزمین میں پیدا ہوئیں۔

### ۱۱۰۳۰ حبیبہ بنت عمرو

بن حصن، بنو عامر بن زریق سے ہیں، اسلام لائیں اور بیعت کی۔ ابن مندہ نے محمد بن سعد کے حوالہ سے فرمایا ہے کہ ان سے کوئی روایت نہیں۔

مسند احمد (۲۲۴/۵) تجرید (۲۵۸/۲)

الطبقات الکبریٰ (۲۵۲/۸)

اسد الغابہ (۶۸۳۳) تجرید (۲۵۸/۲)

### ۱۱۰۳۱ حبیبہ بنت قیس \*

بن زید بن عامر بن سواد انصاری، بنو نظف سے ہیں۔ نبی کریم ﷺ سے بیعت ہوئیں۔ ابن اثیر \* نے ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۰۳۲ حبیبہ بنت مسعود \*

بن خالد، بنو عامر بن ذریق سے ہے۔ رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی، ان سے کوئی روایت نہیں ہے۔ یہ ابن مندہ کا قول ہے، محمد بن سعد \* سے بھی ایسا ہی منقول ہے۔

### ۱۱۰۳۳ حبیبہ بنت معتب \*

بن عبید بن سواد بن یشم، رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی، بشر بن حارث کے نکاح میں تھیں، جن سے بریرہ پیدا ہوئیں۔ \*

### ۱۱۰۳۴ حبیبہ بنت ملیل \*

(دولام کے ساتھ تفسیر ہے) ابن وبرة بن خالد بن عجلان، بنو عوف بن حارث بن خزرج انصاریہ سے ہیں، نبی کریم ﷺ سے بیعت کی، ان سے فروہ بن عمرو بن ورقہ بن عبید بن عامر بن بیاضہ نے نکاح کیا، جس سے عبدالرحمن بن فروہ پیدا ہوئے۔ ابن مندہ نے ابن سعد کے حوالہ سے بھی اسے مسنداً نقل کیا ہے۔ \*

### ۱۱۰۳۵ حبیبہ بنت ثبیہ \*

بن حجاج سمیہ، مطلب بن ابوداد کے زوجہ ہیں، حبیبہ بنت مطلب کی والدہ ہیں، حبیبہ نے عبدالرحمن بن نوفل بن حارث بن عبدالمطلب سے نکاح کیا، وہ عبداللہ جنہیں امیر بصرہ کہا جاتا تھا، ان کے بھائی تھے۔ ثبیہ جو حبیبہ کے والد ہیں، عہد نبوی ﷺ میں حالت کفر میں قتل ہوئے، یہ سب زبیر بن بکار سے مروی ہے۔

### ۱۱۰۳۶ حذافہ بنت الحارث السعدیہ \*

نبی کریم ﷺ کی رضاعی بہن ہیں، یہ وہی ہیں جنہیں شیماء \* کہا جاتا ہے۔ (شین نقطوں والے کے ساتھ) بعض کا قول ہے: ان کا نام جذامہ جیم کے ساتھ ہے، جیسا کہ گزر چکا ہے۔

### ۱۱۰۳۷ حریملہ بنت عبد \*

بن اسود بن جذیمہ بن قیس بن بیاضہ بن سہج خزاعیہ۔ حبشہ کی سرزمین میں وفات پا گئیں، طبری نے ایسا ہی ان کا ذکر کیا

اسد الغابہ (۶۸۳۴) تجرید (۲۵۸/۲) \* اسد الغابہ (۴۲۴/۵) \*

اسد الغابہ (۶۸۳۵) تجرید (۲۵۸/۲) \* الطبقات الکبریٰ (۲۸۴/۸) \*

اسد الغابہ (۶۸۳۶) تجرید (۲۵۸/۲) \* الطبقات الکبریٰ (۲۵۰/۸) \*

اسد الغابہ (۶۸۳۷) تجرید (۲۵۸/۲) \* الطبقات الکبریٰ (۲۵۰/۸) \*

اسد الغابہ (۶۸۳۸) تجرید (۲۵۸/۲) \* السیرۃ النبویۃ (۷۸/۴) \*

اسد الغابہ (۶۸۳۹) تجرید (۲۵۸/۲) \*

ہے۔ ابن عبد البرؒ سے بھی ان کے بارے میں منقول ہے۔ ابن سعدؒ فرماتے ہیں: حرمہ (بغیر تصغیر ہے)۔ اسلام کے ابتدائی دور میں اسلام لائیں، اور اپنے شوہر جہم بن قیس کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی، ان سے عبد اللہ، عمر اور حرمہ پیدا ہوئے، ان کی کنیت ام حرمہ تھی، وہ وہاں وفات پا گئیں۔

### ۱۱۰۳۸ حرمہؒ

(بغیر تصغیر کے ہے) بنت عبید بن ثعلبہ بن سواد بن غنم انصاریہ۔ بنو مالک بن خزرج سے ہیں، ابن حبیب نے بیعت کرنے والی خواتین میں ان کا ذکر کیا ہے، طبرانی نے معجم کبیر میں اسی طرح فرمایا ہے۔

### ۱۱۰۳۹ حزمہؒ

بنت قیس فہریہ، فاطمہ کی بہن ہیں، ان کا نسب ان کے بھائی ضحاک بن قیس کے سوانح میں گزر چکا ہے۔ ان کے بھائی ضحاک بن قیس کی حدیث اور ان کی بہن فاطمہ بنت قیس کی حدیث جو مسند احمد میں ہے، ان کا ذکر گزر چکا ہے، سعید بن زید بن عمرو بن نفیل نے ان سے نکاح کیا، جس سے اولاد ہوئی۔

### ۱۱۰۴۰ حسانہ المزنیہؒ

ان کا نام جثامہ تھا، ابو عمر نے صالح بن رستم کے طریق سے بحوالہ ابن ابی ملیکہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے، ان کا قصہ مسند ائصال کیا ہے۔ فرماتی ہیں: نبی کریم ﷺ کے پاس ایک بڑھیا آئی، آپ ﷺ نے اس سے پوچھا: ”تو کون ہے؟“ کہنے لگی: میں جثامہ مرنیہ ہوں۔ آپ ﷺ نے پوچھا: ”تمہارا کیا حال ہے؟ اور تم ہمارے بعد کیسے رہے؟“ اس نے کہا: خیریت سے، یا رسول اللہ ﷺ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ جب وہ چلی گئی، میں نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ آپ اس بڑھیا سے اس عزت و احترام سے پیش کرتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے زمانے میں آتی تھی، اور اچھے طریقے سے پیش آنا ایمان کا حصہ ہے۔“ ابو عمر فرماتے ہیں کہ جس نے حواء بنت ثویت کے بارے میں جو کچھ نقل کیا ہے، ان میں یہ روایت سب سے زیادہ صحیح ہے۔

میں کہتا ہوں: حوا (بغیر نسبت کے) سوانح میں اس کا بیان آئے گا۔

### ۱۱۰۴۱ حسنہؒ

شرحیل بن حسن کی والدہ ہیں، عجمی کا قول ہے: انہیں شرف صحابیت حاصل ہے۔ ابن سعدؒ فرماتے ہیں: اپنے والد کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ ابراہیم بن سعد نے بنو نجیح میں سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں ان کا ذکر کیا ہے، ان میں

❖ الاستیعاب (۱۸۱/۴) ❖ الطبقات الکبریٰ (۲۰۹/۸) ❖ اسد الغابۃ (۶۸۴۰) تجرید (۲۵۹/۲)

❖ اسد الغابۃ (۶۸۴۱) تجرید (۲۵۹/۲) ❖ الاستیعاب (۱۸۱/۴) ❖ اسد الغابۃ (۶۸۴۲) تجرید (۲۵۹/۲)

❖ الاستیعاب (۱۸۱/۴) ❖ کنز العمال (حدیث: ۳۴۳۴۴) ❖ اسد الغابۃ (۶۸۴۳) تجرید (۲۵۹/۲)

❖ الطبقات الکبریٰ (۲۱۰/۸)

معمر بن حبیب ان کے ساتھ ان کے بیٹے خالد اور جُنادہ اور حسنہ تھیں، جو ان دونوں کی والدہ ہیں، اور ان دونوں کے ماں شریک بھائی شریل بن حسنہ تھے۔

۱۱۰۴۲ حسانہ جُثامہ میں ان کا ذکر ہے۔

۱۱۰۴۳ حفصہ بنت حاطب

بن عمرو بن عبید بن امیہ بن زید انصاریہ، حارث بن حاطب کی بہن ہیں، ابن حبیب کا قول ہے کہ نبی کریم ﷺ سے بیعت کی۔

۱۱۰۴۴ حفصہ بنت عمر

بن خطاب جو امیر المؤمنین ہیں، یہ ام المؤمنین ہیں، ان کے والد کے ذکر میں ان کا نسب گزر چکا ہے۔ ان کی والدہ زینب بنت مظعون ہیں، نبی کریم ﷺ سے نکاح سے قبل تھیں بن حذافہ کے نکاح میں تھیں۔ وہ بدر میں حاضر تھے اور مدینہ میں فوت ہوئے، جب ان کی عدت پوری ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابوبکر سے ان کے نکاح کی خواہش ظاہر کی، وہ خاموش ہو گئے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بات کی، انہوں نے کہا: میں ان دنوں شادی نہیں کرنا چاہتا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے اس کا ذکر کیا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”حفصہ سے عثمان سے بہتر شخص شادی کرے گا، اور عثمان سے حفصہ سے بہتر عورت کی شادی ہوگی۔“ اس کے بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملے، اور فرمایا: مجھ سے ناراض نہ ہونا۔ نبی کریم ﷺ نے حفصہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا تھا، میں رسول اللہ ﷺ کا راز ظاہر نہیں کر سکتا تھا، اگر آپ ان سے نکاح کا ارادہ ترک کر دیتے تو میں نکاح کر لیتا۔ \* نبی کریم ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔

ابن سعد \* نے اسے نقل کیا ہے، یہ الفاظ بعض طرق میں ہیں، اس کی اصل صحیح میں زہری کے طریق سے سالم بن عبد اللہ بن عمر کے حوالے سے ہے، وہ اپنے والد سے وہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، ابو عبیدہ فرماتے ہیں: ۲ھ کا واقعہ ہے، ان کے علاوہ نے کہا: ۳ھ ہے، وہ راجح ہے، کیونکہ ان کے شوہر اُحد میں ۳ھ میں شہید ہوئے، بعض کا قول ہے: وہ بخت سے پانچ سال قبل پیدا ہوئیں، ابن سعد نے اسے اپنی سند سے جس میں واقعہ بھی ہیں، نقل کیا ہے۔ انہوں نے نبی کریم ﷺ اور عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا، ان سے ان کے بھائی عبد اللہ اور ان کے بیٹے حمزہ ان کی زوجہ صفیہ بنت ابو عبیدہ، صحابہ اور تابعین نے روایت کی، ان میں حارثہ بن وہب، مطلب بن ابوداؤد، ام مبشر انصاریہ، عبد الرحمن بن حارث بن ہشام، عبد اللہ بن صفوان بن امیہ اور دوسرے راوی شامل ہیں۔

ابو عمر فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے انہیں ایک طلاق دی، پھر ان سے رجوع کر لیا، اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ ﷺ

\* المعجم الكبير (الحديث: ۵۴۹/۲۴) الاستيعاب (۱۸۱۱/۴)

\* اسد الغابۃ (۶۸۴۴) تجرید (۲۵۹/۲) \* اسد الغابۃ (۶۸۴۵) تجرید (۲۵۹/۲)

\* بخاری (الحديث: ۵۱۲۲) \* الطبقات الكبرى (۵۹، ۵۸/۸)

سے فرمایا تھا: حصہ سے رجوع کر لیں، یہ شب بیدار، روزہ دار ہیں، اور جنت میں آپ ﷺ کی بیوی ہوں گی۔\*

ابن سعد نے ابو عمران جونی کے طریق سے بحوالہ قیس بن زید نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ..... پھر حدیث ذکر کی۔ وہ مرسل روایت ہے۔ عثمان بن ابوشیبہ سے انہوں نے حمید سے انہوں نے انس سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حصہ کو ایک طلاق دی، پھر آپ ﷺ کو ان سے رجوع کرنے کا حکم دیا گیا۔ موسیٰ بن علی نے اپنے والد سے، انہوں نے عقبہ بن عامر سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں: نبی کریم ﷺ نے حصہ بنت عمر کو طلاق دی، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات پہنچی تو اپنے سر پر مٹی ڈال دی اور فرمایا: اللہ کو اس کے بعد عمر اور اس کی بیٹی کی کیا پرواہ! تو صحیح نبی کریم ﷺ کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا: اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ عمر پر مہربانی کرتے ہوئے حصہ سے رجوع کر لیں۔\* پھر اسے نقل کیا ہے۔

ابوصالح کی روایت میں ہے: حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت حصہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے تو وہ رو رہی تھیں، فرمایا: شاید رسول اللہ ﷺ نے تمہیں طلاق دے دی ہے۔ انہوں نے تمہیں ایک مرتبہ طلاق دی پھر میری وجہ سے رجوع کیا، اگر دوسری مرتبہ طلاق دی تو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ ابویعلیٰ نے اسے نقل کیا ہے۔

ابو عمر فرماتے ہیں: عمر رضی اللہ عنہ نے حصہ رضی اللہ عنہا کو وصیت کی، اور حصہ نے اپنے بھائی عبداللہ کو وہی وصیت کی جو انہیں عمر رضی اللہ عنہ نے کی تھی کہ غابہ کو صدقہ کر دیں، ابن سعد نے عبداللہ بن عمر کے طریق سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے ابن عمر سے نقل کیا ہے: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حصہ کو وصیت کی اور صحیح سند کے ساتھ نافع سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: حضرت حصہ رضی اللہ عنہا وفات سے قبل ہمیشہ روزہ دار رہتی تھیں۔

ایک سند کو جس میں واقدی بھی ہیں، ابوسعید المقبریٰ تک پہنچایا ہے، میں نے مروان کو ابو ہریرہ، ابوسعید کے درمیان حضرت حصہ رضی اللہ عنہا کے جنازے کے آگے دیکھا ہے، اور مروان کو دیکھا کہ جنازے کی چارپائی کو دار آل حزم سے دار مغیرہ تک دونوں لکڑیوں سے اٹھائے ہوئے تھے، اور ابو ہریرہ نے دار مغیرہ سے ان کی قبر تک اٹھایا۔

بعض کا قول ہے: جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے بیعت کی اس وقت ان کی وفات ہوئی، یہ جمادی الاولیٰ ۴۱ھ کا واقعہ ہے، بعض نے کہا: ۴۵ھ تک زندہ رہیں، اور بعض کا قول ہے۔ ۲۷ھ میں فوت ہو گئیں، اسے ابو بشر دولابی نے بیان کیا ہے جو غلط ہے۔ گویا اس بات کو کہنے والے نے اس کی سند کو اس روایت تک پہنچا دیا ہے جو ابن وہب نے امام مالک سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: فتح افریقہ کے سال حضرت حصہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، اور ان کی مراد فتح ثانی ہے۔ جو حضرت معاویہ بن خدیج کے ہاتھوں ہوئی اور وہ ۴۵ھ کا واقعہ ہے، اور پہلی فتح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ہوئی جو ۲۷ھ کا واقعہ ہے، وہ مراد نہیں۔ واللہ اعلم۔

\* المعجم الكبير (۳۰۶/۲۳) مجمع الزوائد (۲۴۴/۹)

\* المعجم الكبير (۳۰۷/۲۳) مجمع الزوائد (۲۴۴/۹)

\* مسند ابویعلیٰ (۱۷۲/۱)



۱۱۰۳۵ حفصہ

یا حِجَّة (قاف کے ساتھ) بنت عمرو: ابو عمر فرماتے ہیں، انہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز ادا کی، ابو جہل ان سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حالت احرام میں زرد رنگ کے کپڑے پہنتی تھیں۔

میں کہتا ہوں: ابن مندہ نے اسے مسند اُقل کیا ہے۔ بطریق شریک جو عاصم سے، وہ ابو جہل سے وہ حِجَّة بنت عمرو سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کا زمانہ پایا اور آپ ﷺ کے ساتھ دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی، آپ ﷺ جب احرام باندھنے کا ارادہ کرتیں اور میقات کے قریب ہوتیں تو اپنے پسندیدہ کپڑے پہنتیں، جن میں زرد رنگ ہوتا۔

۱۱۰۳۶ حُکیمہ

تغیر کے ساتھ ہے۔ بنت غیلان ثقفیہ، یعلیٰ بن مرہ کی بیوی ہیں، مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے سنایا نہیں؟ یہ ابو عمر کا قول ہے۔ فرماتے ہیں: انہیں اپنے شوہر سے روایت حاصل ہے۔ میں کہتا ہوں.....

۱۱۰۳۷ حلیمۃ السعدیۃ

انہوں نے نبی کریم ﷺ کو دودھ پلایا، ابو ذؤبیب کی بیٹی ہیں جن کا نام عبداللہ بن حارث بن ثعلبہ (شین کے زیر، جیم کے سکون، اس کے بعد نون) ابن رزام (راء کے زیر کے ساتھ اور اس کے بعد زاء) بن ناضرہ بن سعد بن بکر بن ہوازن۔ ابو عمر فرماتے ہیں: نبی کریم ﷺ کو دودھ پلایا۔ اور آپ ﷺ کے بارے میں غیبی کرشمے دیکھے جس کا ذکر اس کے مشہور ہونے کی وجہ سے ہم نے چھوڑ دیا، زید بن اسلم، عطاء بن یسار سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں: حلیمہ بنت عبداللہ، نبی کریم ﷺ کی رضاعی والدہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئیں، آپ ﷺ ان کے لئے کھڑے ہوئے اور اپنی چادر ان کے لئے بچھا دی، جس پر وہ بیٹھ گئیں، ان سے عبداللہ بن جعفر نے روایت کی ہے۔

میں کہتا ہوں: ان کی حلیمہ سے ان کے دودھ پلانے کے بارے میں حدیث ہے، ابو یعلیٰ اور ابن حبان نے اسے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے اور عبداللہ اور حلیمہ کے درمیان تحدیث کے ساتھ تصریح کی ہے۔ ابن اسحاق کی کتاب سیرۃ الکبریٰ میں ان کی سند سے جسے انہوں نے عبداللہ بن جعفر تک پہنچایا ہے، لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں: میں نے حلیمہ سے حدیث بیان کی، اور نسب جسے انہوں نے بیان کیا ہے۔ ابن اسحاق نے سیرۃ النبویہ کے شروع میں اسے ذکر کیا ہے۔

اسد الغابہ (۶۸۴۶) تجرید (۲۵۹/۲) المعجم الکبیر (۵۴۷/۲۴)، مجمع الزوائد (۲۲۰/۳)

اسد الغابہ (۶۸۴۷) تجرید (۲۵۹/۲) الاستیعاب (۱۸۱۲/۴)

الاستیعاب (۱۸۱۲/۴) اسد الغابہ (۶۸۴۸) تجرید (۲۵۹/۲)

الاستیعاب (۱۸۱/۴) السیرۃ النبویۃ (۱۳۲/۱، ۱۳۳)

السیرۃ النبویۃ (۱۳۱/۱)

اس میں ہے پھر دودھ پلانے والیوں کی تلاش اور آپ کو حلیمہ سعدیہ کا دودھ پلایا گیا، پھر ان کا نسب بیان کیا۔ ابوداؤد، ابویعلیٰ وغیرہ نے عمارہ بن ثوبان کے طریق سے بحوالہ ابوفیل روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ پھر انہ کے مقام پر گوشت تقسیم فرما رہے تھے، اتنے میں ایک بدوی عورت آئی، جب وہ نبی کریم ﷺ کے قریب آئی تو آپ ﷺ نے اس کے لئے اپنی چادر بچھائی، وہ اس پر بیٹھ گئیں، میں نے پوچھا: یہ کون ہے؟ وہ کہنے لگے، یہ آپ ﷺ کی والدہ ہیں، جنہوں نے آپ ﷺ کو دودھ پلایا تھا۔\*

ابن مندہ نے انہیں ان کے دادا کی طرف منسوب کیا ہے، فرماتے ہیں: حلیمہ بنت حارث سعدیہ، اور نوح بن ابومریم کے طریق سے بحوالہ ابن اسحاق ان کی سند سے حدیث نقل کی ہے، اس میں فرماتے ہیں: بحوالہ عبداللہ بن جعفر، جو حلیمہ بنت حارث سعدیہ سے حدیث بیان کرتے ہیں۔

### ۱۱۰۳۸ حلیمہ بنت عروہ

بن مسعود ثقفی، تجرید میں ان کا ذکر ہے، ان کے والد نبی کریم ﷺ کے زمانے میں وفات پا گئے وہ اس وقت چھوٹی تھیں، اس لئے انہیں قسم ثانی میں ذکر کرنا چاہیے۔

### ۱۱۰۳۹ حمامہ

ابو عمر نے ان کا ذکر ان لوگوں میں کیا ہے، جنہیں اللہ کے راستے میں تکالیف دی گئیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا، استیعاب میں ان کے سوانح علیحدہ بیان نہیں کئے گئے، ابن دباغ نے اپنے استدراک میں ان کا ذکر کیا ہے۔

میں کہتا ہوں: ابویعلیٰ غسانی نے بھی اپنے استدراک میں ان کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا: وہ بلال کی والدہ ہیں، جو مؤذن ہیں، اور ابو عمر نے مخازی اور سیر کے کتاب الدرر میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۰۵۰ حمامہ المغنیہ

انصار کی لوٹ پوٹیوں میں سے تھیں، حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا میں ان کا ذکر ہے۔ عید کے دن جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے، تو ان کے پاس دو لونڈیاں ترنم سے اشعار پڑھ رہی تھیں، ان میں سے ایک کا نام حمامہ تھا، فلیح بن ابوالدینا کی روایت میں ہشام سے وہ اپنے والد سے اور وہ عائشہ سے روایت کرتے ہیں، اس سند سے اصل حدیث صحیحین میں ہے لیکن ان میں سے ایک کا نام مذکور نہیں۔ میں نے فتح الباری میں اس کی وضاحت کر دی ہے۔

### ۱۱۰۵۱ حمہ بنت جحش الأسدیہ

ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے بھائیوں کی بہن ہیں، حضرت عبداللہ بن جحش کے سوانح میں ان کا نسب گزر چکا ہے۔ مصعب بن عمیر کی زوجہ تھیں، جو یوم أحد میں شہید ہو گئے، پھر ان سے طلحہ بن عبید اللہ نے نکاح کیا، جس سے محمد اور عمران پیدا ہوئے،

\* مسند ابویعلیٰ (۹۰۰/۲) \* اسد الغابہ (۶۸۴۹)، تجرید (۲۶۰/۲)

\* اسد الغابہ (۶۸۵۰)، تجرید (۲۶۰/۲)

ان دونوں اور ان کی بہن زینب والدہ امیہ بنت عبدالمطلب ہیں، ابو عمرؓ فرماتے ہیں۔ بیعت کرنے والی صحابیات میں سے تھیں، احد کے دن شریک ہوئیں، وہ پیاسوں کو پانی پلاتی تھیں، زخمیوں کو اشاتی اور لانی کا علاج معالجہ کرتی تھیں، انہیں استحاضہ کا مرض تھا وہ اپنی والدہ حمنہ بنت جحش سے روایت کرتے ہیں، پھر انہوں نے استحاضہ کی حدیث ذکر کی۔

عاصم احول، عکرمہ سے اور وہ حمنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہیں استحاضہ کا مرض تھا، ابوسحاق شیبانی نے اس کی مخالفت کی ہے، اور ابو بکر عکرمہ سے روایت کرتے ہیں: ام حبیبہ کو استحاضہ کا مرض تھا، بعض نے اس اختلاف کو جمع کیا ہے کہ دونوں کو استحاضہ کا مرض تھا، اور حبیبہ ام حبیبہ یا ام حبیبہ، عبدالرحمن کی زوجہ تھیں، بعض کا قول ہے: زینب کو بھی استحاضہ کا مرض تھا، یہاں تک کہ بعض کا قول ہے، جحش کی تمام بیٹیوں کی اس سے آزمائش کی گئی، جبکہ واقدی نے انکار کیا ہے کہ حمنہ کو استحاضہ کا مرض ہو۔ اور علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ابن سعدؓ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے انہیں خیبر سے تیس وسق کھجوریں کھانے کو دیں۔ محمد بن طلحہ کی والدہ ہیں، جو حجاج کے نام سے معروف ہیں۔

### ۱۱۰۵۲ حمنہ بنت ابی سفیانؓ

بن حرب بن امیہ، ابن عائشہ نے طبرانی کی روایت سے ان کا نام لیا ہے، جو ان کے طریق سے بحوالہ حماد، وہ ہشام سے، وہ اپنے والد سے وہ زینب بنت ابوسلمہ سے وہ ام حبیبہ سے روایت کرتی ہیں، کہ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! کیا آپ کو حمنہ بنت ابی سفیان کے بارے میں رغبت ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں کیا کروں“ کہنے لگیں، آپ اس سے نکاح کر لیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ میرے لئے حلال نہیں“..... الحدیث

ابوموسیٰ نے اپنے استدراک میں ان کا ذکر کیا ہے، فرمایا: ہشام سے کئی لوگوں نے روایت کیا، لیکن ان کا نام نہیں لیا، بعض نے ان کا نام دُرہ بتایا ہے، اللہ ہی علم والا ہے۔

### ۱۱۰۵۳ حمیدہؓ

تغیر کے ساتھ ہے، اسماء بنت ابوبکر کی باندی تھیں، اشعب طامع کی والدہ ہیں، بعض کا قول ہے: ازواج النبی ﷺ کے گھر میں آتی تھیں اور ان کے درمیان پھوٹ ڈالتی تھی، نبی کریم ﷺ نے انہیں سزا دینے کا حکم دیا، بعض نے کہا: اس کے لئے بددعا کی اور وہ مر گئی، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اشعب نبی کریم ﷺ کے بعد پیدا ہوئے، شائد ان کی بددعا سے ایسا مرض ہو گیا ہو، جس سے کچھ مدت بعد فوت ہو گئی ہوں۔

الاستیعاب (۱۸۱۳/۴) ترمذی کتاب ابواب الطہارۃ

الطبقات الکبریٰ (۱۷۵/۸) اسد الغابہ (۶۸۵۱) . تجرید (۲۶/۲)

مسند احمد (الحديث ۲۹۱/۶) . مصنف عبد الزواق (۱۳۹۴۷) . بیہقی (۱۶۲/۷)

تجرید (۲۶/۲)

### ۱۱۰۵۳ حُمَيْدہ \*

یہ بھی تصغیر ہے، اور دال کے بدلے میم ہے۔ بنت صفی بن صخر، بنو کعب بن سلمہ سے ہیں، براء بن معرور کی زوجہ ہیں، ابن سعد نے نبی کریم ﷺ سے بیعت کرنے والی خواتین میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۰۵۵ حُمَيْدہ بنت الحمام \*

بن جموح، عمرو بن حمام کی بہن ہیں، ابن سعد نے ان کا ذکر کیا ہے، حاء بغیر نقطوں کے، اس باب میں ذہبی نے اپنے استدراک میں ان کا ذکر کیا ہے، ابن اثیر نے حرف جیم میں ان کا ذکر کیا ہے۔ اسے لکھ لیا جائے۔

### ۱۱۰۵۶ حُمَيْدہ \*

میم کے بدلے نون کے ساتھ، بنت ابو طلحہ بن عبد العزی بن عثمان بن عبد الدار، خلف بن اسد بن عاصم بن بیاضہ خزاعی کی زوجہ ہیں۔ وہ فوت ہو گیا تو اس کے بیٹے اسود بن خلف سے ان کا نکاح ہوا، اسلام نے ان دونوں میں جدائی کرا دی، مستغفری نے محمد بن ثور کے طریق سے، انہوں نے ابن جریج سے بحوالہ عکرمہ اسی طرح نقل کیا ہے، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔

”تم ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا، ہاں مگر جو پہلے ہو چکا۔“ \*

تو اسلام نے چار عورتوں اور ان کے شوہروں کے بیٹوں کے درمیان تفریق کرا دی، ان میں یہ حمیدہ بھی شامل ہیں۔ ابو موسیٰ نے اپنے استدراک میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۰۵۷ حمیدہ بنت عبد العزی \*

بقول بعض: جیم کے ساتھ ہے، بعض کا قول ہے: جیم اور نون کے بدلے لام کے ساتھ ہے۔ ان کے حالات گزر چکے ہیں۔

### ۱۱۰۵۸ الخفاء بنت ابو جہل \*

بن ہشام بن مغیرہ: ابن سعد نے ان کا ذکر بیعت کرنے والی صحابیات میں کیا ہے، ابن حزم کا گمان ہے کہ یہ وہی ہیں جنہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام دیا تھا۔

### ۱۱۰۵۹ حواء بنت رافع \*

بن امریاء القیس اشلہیہ: ابن مندہ نے ان کا ذکر کیا ہے، اور محمد بن سعد نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے ان کا بیعت کرنے والی صحابیات میں ذکر کیا ہے۔

\* اسد الغابہ (۶۸۵۲)، تجرید (۲۶۰/۲) \* الطبقات الکبریٰ (۲۹۰/۱)

\* تجرید (۲۶۰/۲) \* الطبقات الکبریٰ (۲۹۱/۸) \* اسد الغابہ (۶۸۵۳)، تجرید (۲۶۰/۲)

\* سورة النساء: آیت ۲۲ \* جامع المسانید والسنن (۲۱۲/۲) \* الطبقات الکبریٰ (۱۹۱/۸)

\* اسد الغابہ (۶۸۵۵)، تجرید (۲۶۰/۲) \* الطبقات الکبریٰ (۲۳۲/۸)

میں کہتا ہوں: ابن سعد نے واقدی سے ان کا ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں: انصار کے نسب میں ہمیں حضرت رافع کی صرف ایک بی بی کا تذکرہ ملا ہے، جن کا نام صعبہ ہے، ان کی والدہ حویمہ بنت عدی نجاریہ ہیں، جو ابوالحیسر کی بہن ہیں۔

### ۱۱۰۶۰ حواء بنت یزید \*

بن سکن: ابن سعد \* فرماتے ہیں: ہمیں محمد بن عمر یعنی واقدی رضی اللہ عنہ نے خبر دی، وہ فرماتے ہیں، مجھے اسامہ بن زید نے، داؤد بن حصین سے، انہوں نے ابوسفیان مولیٰ ابن ابواحمد سے، بتایا وہ فرماتے ہیں: میں نے ام عامر اشہلیہ سے سنا، فرما رہی تھیں: میں لیلیٰ بنت خثیم اور حواء بنت یزید بن سکن بن کرز بن زعوراء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مغرب اور عشاء کے درمیان آئیں، اور ہم اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تمہاری کیا حاجت ہے؟“ ہم نے کہا: ہم آپ کے پاس اسلام پر بیعت کرنے کے لئے آئی ہیں..... الحدیث، \* جلیلہ بنت ثابت بن ابوالفتح کے سوانح میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔ مصعب نے اس کا ذکر کیا ہے، اور ابن سعد نے طویل اور ان سے زیادہ مکمل قصہ ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۰۶۱ حواء بنت یزید \*

بن سنان بن کرز بن زعوراء بن عبد اٹھل انصاریہ، ابو عمر نے ان کا ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں: مصعب زبیری کا قول ہے، اسلام لائیں، اسلام لانے کو اپنے شوہر قیس بن خثیم شاعر سے چھپاتی تھیں، جس وقت قیس مکہ آئے، وہ قریش میں سے حلیف چاہتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اسلام پیش کیا، قیس نے اس کے لئے مہلت مانگی، یہاں تک کہ وہ مدینہ آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی زوجہ حوا بنت یزید کے ساتھ برے سلوک سے منع کیا اور اس کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ اسلام لا چکیں ہیں۔ قیس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو قبول کیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو فرمایا: ”کالے ڈوروں والے نے وفا کی۔“

ابو عمر فرماتے ہیں: میں نے مصعب کے سامنے اس قصے کی نکارت کا ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں: اس کا منکر حصہ یہ ہے کہ ان کے شوہر قیس بن شماس ہیں، رہے قیس بن خثیم تو وہ ہجرت سے قبل قتل ہو گئے، ہمارے نزدیک مصعب کا قول معتبر ہے، قیس بن شماس، قیس بن خثیم سے بڑے ہیں، انہوں نے اسلام کا زمانہ نہیں پایا، ان کے بیٹے ثابت بن قیس نے اسلام کا زمانہ پایا ہے۔ عدوی نے مصعب کی موافقت کی فرمایا: حواء بنت یزید بن سنان بن کرز بن زعوراء بن عبد اٹھل، قیس بن خثیم کی زوجہ ہیں، جن سے ثابت بن قیس پیدا ہوئے۔

محمد بن سلام جمعی جو طبقات الشعراء کے مصنف ہیں فرماتے ہیں: قیس بن خثیم کی زوجہ اسلام لائیں، انہیں حوا کہا جاتا تھا۔ وہ انہیں اسلام سے روکتا اور مذاق اڑاتا تھا، وہ عہدہ کرتیں تو ان کا کپڑا ان کے سر پر پلٹ دیتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے قبل مکہ میں انصار کے اسلام لانے کی خبر ملتی رہتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اسلام لانے کا پتہ چلا اور جو قیس ان کے ساتھ کرتا تھا۔ جب حج کا

\* اسد الغابہ (۶۸۵۶)، تجرید (۲۶۰/۲) \* الطبقات الکبریٰ (۲۳۷/۸)

\* مسند احمد (الحديث ۴۳۴/۶) \* اسد الغابہ (۶۸۵۷)، تجرید (۲۶۱/۲)

موسم آیا تو وہ نبی کریم ﷺ کے پاس آیا تو آپ ﷺ نے اس سے فرمایا: تمہاری بیوی اسلام لائی ہے اور تم اسے اذیت دیتے ہو، مجھے یہ پسند ہے کہ تم اسے کچھ نہ کہو۔

محمد بن اسحاق اس کی طرف سبقت لے گئے ہیں، اور اسے سیرۃ نبویہ میں ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں: مجھ سے عاصم بن عمر بن قتادہ اسی طرح روایت کرتے ہیں، اور یہ اضافہ کیا ہے، سعد بن معاذ حواء کے ماموں تھے، کیونکہ ان کی والدہ عقر ب بنت معاذ ہیں۔ حواء اسلام لائیں پھر ان کا اسلام سنو گیا۔ ان کا شوہر کافر تھا، جب وہ ان کے پاس آتا، تو انہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا، تو ان کا کپڑا اٹھا کر ان کے سر پر ڈال دیتا اور کہتا: تم ایسے دین پر ہو، معلوم نہیں وہ کیا ہے، اس روایت میں اسے اپنی بیوی کے حق میں نبی کریم ﷺ کی وصیت کا ذکر ہے، جیسا پہلے گزر چکا، ان سب سے مصعب کے کلام کو تقویت ملتی ہے، اسے محمول کیا جائے گا کہ قیس اس سال قتل کیا گیا۔

انصار نبی کریم ﷺ کے پاس تین مرتبہ جمع ہوئے منیٰ کی گھاٹی عقبہ میں، پہلی مرتبہ وہ بہت تھوڑے تھے، اور وہاں سے مسلمان ہو کر لوٹے، اودا اپنے اسلام لانے کو خفیہ رکھتے تھے، پھر ان میں سے معزز لوگوں نے پوشیدہ طور پر اسلام قبول کر لیا، پھر دوسرے سال نبی کریم ﷺ سے بیعت عقبہ کی جو پہلی بیعت ہے، وہ بارہ آدمی تھے، وہ لوٹے تو اسلام مدینہ میں پھیل گیا اور بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے، پھر انہوں نے دوسری بیعت کی، وہ بہتر (۷۲) مرد اور دو (۲) عورتیں تھیں۔ ان حواء کا اسلام لانا پہلی اور دوسری بیعت کے درمیان تھا، اور قیس کو وصیت دوسرے سال تھی، وہ دوسرے اور تیسرے سال کے درمیان مقتول ہوا۔ واللہ اعلم ابن مندہ کو ان میں اور جو ان سے قبل ہیں، ان میں وہم ہے۔ وہ کہتے ہیں: حواء بنت زید بن سکن اشہلیہ، قیس بن حطیم کی زوجہ ہیں، جنہیں ام بجید کہا جاتا ہے۔ پھر ام بجید مذکورہ کی حدیث، جن کا ذکر بعد میں آ رہا ہے ان کے سوانح میں بیان کی، اس میں خلط ملط ہوا ہے۔ ام بجید کے والد کا نام زید (زاء سے پہلے ی ہے) اور ان کے دادا کا نام سنان ہے۔

### ۱۱۰۶۲ حواء

ام بجید (ب اور جیم کی تصغیر کے ساتھ) امام مالک نے ان کی روایت، زید بن اسلم سے بحوالہ ام بجید انصاریہ انہوں نے اپنی دادی سے روایت کی ہے، کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ”سائل کو دو، اگرچہ جلا ہوا کھر ہی کیوں نہ ہو۔“ امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں اسی طرح نقل کیا ہے بحوالہ روح بن عبادہ وہ مالک سے روایت کرتے ہیں، ان کے لئے یہ عنوان قائم کیا ہے، حواء عمرو بن معاذ کی دادی، اصحاب موطن نے اسے روایت کیا بحوالہ مالک اور وہ زید سے روایت کرتے ہیں، اس میں یہ الفاظ ہیں: ”اے مومن عورتو! تم میں سے کوئی اپنی پڑوسن کے ہدیے کو حقیر نہ سمجھے اگرچہ جلا ہوا کھر ہی کیوں نہ ہو۔“ مالک نے اسی طرح روایت کیا ہے، بحوالہ زید بن اسلم وہ عمرو بن معاذ سے، وہ اپنی دادی حواء سے وہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتی ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”کوئی عورت اپنی پڑوسن کے ہدیے کو حقیر نہ جانے اگرچہ وہ جلا ہوا کھر ہی کیوں نہ ہو۔“ اور اسے سعید المقمری کے طریق سے بحوالہ عبدالرحمن بن بجید انصاری، انہوں نے اپنی دادی سے اسی طرح نقل کیا ہے،

## الْأَخْبَارُ فِي تَبَيُّنِ الصَّحَابَةِ وَالْمَنْشَأَانِ (أُورُو) جلد ۱۳۶

ان کی ایک اور حدیث جسے بزار اور ابونعیم نے ہشام بن سعد کے طریق سے بحوالہ زید بن اسعد، انہوں نے ابن بجید سے اور انہوں نے اپنی دادی حواء سے نقل کیا ہے، وہ بیعت کرنے والی صحابیات میں شامل تھیں، فرماتی ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ”فجر کی نماز روشنی میں پڑھو، اس کا اجر زیادہ ہے۔“ ❀

بزار کہتے ہیں: اسحاق حنفی اس میں متقدم ہیں، بحوالہ ہشام بن سعد، سعید بن منصور نے اسے سنن میں اور ابن ابی خثیمہ نے ان سے نقل کیا ہے، بحوالہ حفص بن میسرہ، وہ زید بن اسلم سے وہ عمرو بن معاذ انصاری سے وہ اپنی دادی حواء سے روایت کرتے ہیں، پہلی روایت کی طرح انہوں نے حدیث نقل کی، اسی طرح حسن بن سفیان نے اپنی مسند میں حفص کے طریق سے نقل کیا ہے، ابو عمر ❀ فرماتے ہیں: حفص بن میسرہ نے اسے بدل دیا ہے۔ وہ ابن وہب کے ہاں ان سے مروی ہے، ابن مندہ فرماتے ہیں: اسے لیث اور ابن اوزب نے سعید المقبری سے، وہ ام بجید سے، روایت کیا ہے، اوزاعی نے مطلب بن عبد اللہ سے، انہوں نے ابن بجید سے، انہوں نے اپنی دادی سے اسے روایت کیا ہے، اسی طرح ثوری نے منصور بن حبان سے انہوں نے ابن بجید سے نقل کیا ہے۔

میں کہتا ہوں: لیث کی روایت کو ابونعیم نے موصولاً ذکر کیا ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں: مجھ سے سعید مقبری نے، انہوں نے عبد الرحمن بن بجید سے (جو بنو حارثہ میں سے ہیں): کہ ان کی دادی نے ان سے حدیث بیان کی، جو ام بجید ہیں، یہ نبی کریم ﷺ سے بیعت کرنے والوں میں سے ہیں، انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا: کہ مسکین میرے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے اور میں اسے دینے کے لئے کچھ نہیں پاتی، آپ ﷺ نے اس سے فرمایا: ”اگر تم دینے کے لئے جلے ہوئے کھر کے علاوہ کچھ نہ پاؤ، تو وہ ہی اس کے ہاتھ میں تھادو۔“ ❀

اسی طرح ابن سعد ❀ نے ابوالولید سے، انہوں نے لیث سے نقل کیا ہے۔ ابونعیم فرماتے ہیں: اسے حماد بن سلمہ نے محمد بن اسحاق سے انہوں نے مقبری سے اسی طرح روایت کیا ہے۔

میں کہتا ہوں: ابن سعد نے اسے عقال سے ان کی سند سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں، اسے ثوری، بحوالہ منصور ابن حبان روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا: انہوں نے ابن بجید سے، انہوں نے اپنی دادی سے روایت کیا ہے، ابو عمر فرماتے ہیں: بعض کا قول ہے ام بجید کا نام حواء تھا۔

### ۱۱۰۶۳) الْحَوْلَاءُ بَنْتُ ثَوَيْتٍ ❀

(دونقطوں کے ساتھ، تفسیر ہے) ابن حبیب بن اسد بن عبد العزی بن قصی قرشیہ، اسدیہ: ابن سعد ❀ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ اور فرمایا: اسلام لائیں اور بیعت کی، صحیحین میں زہری کی حدیث میں بحوالہ عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت ثابت ہے

❀ المعجم الكبير (الحديث ۵۶۳/۲۴)، مجمع الزوائد (الحديث ۳۱۶/۱)

❀ الاستيعاب (۱۸۱۳/۴) ❀ مسند احمد (الحديث ۳۸۲/۶)، المعجم الكبير (الحديث ۳۱۶/۱)

❀ الطبقات الكبرى (۳۳۷/۸) ❀ اسد الغابہ (۶۸۵۸) تجرید (۲۶۱/۲)

❀ الطبقات الكبرى (۱۷۸/۸)

کہ حواء بنت تویت ان کے پاس سے گزریں، جبکہ آپ ﷺ ان کے پاس تھے۔ آپ ﷺ نے عرض کیا: یہ حواء بنت تویت ہیں، لوگوں کا اس کے بارے میں گمان ہے کہ وہ رات کو سوتی نہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”جتنی تم طاقت رکھتے ہو اتنا عمل کرو“.....  
الحديث۔ \* حدیث کے مختلف الفاظ کے کئی طرق ہیں، ان میں اکثر میں ان کا نام نہیں، مسند احمد میں ان کا نام مذکور ہے وہ ابویمان سے، وہ شعیب سے وہ زہری رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں۔

### ۱۱۰۶۳ الخولاء العطاره \*

ابوموسیٰ نے اپنے استدراک میں ان کا ذکر کیا ہے، اور ابوشیح کے طریق سے ان کی سند کے ساتھ نقل کیا ہے، جسے انہوں نے زیاد ثقفی تک پہنچایا ہے جو انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں: مدینہ میں ایک عطر فروش عورت تھی جس کا نام حواء بنت تویت تھا، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے ام المؤمنین! میں ہر رات خوشبو لگاتی ہوں، میں شب زفاف میں بھیجی جانے والی لہن کی طرح زینت کرتی ہوں، پھر میں اپنے شوہر کے لحاف میں داخل ہو جاتی ہوں، اس سے میں اپنے رب کی رضا چاہتی ہوں۔ وہ مجھ سے منہ پھیر لیتا ہے، میں اس کے سامنے آتی ہوں تو وہ مجھ سے اعراض کرتا ہے اور ہمیشہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس سے فرمایا: ٹھہرو یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ تشریف لائیں، جب آپ ﷺ تشریف لائے تو فرمایا: مجھے حواء کی خوشبو آ رہی ہے، کیا وہ تمہارے پاس آئی ہے؟ کیا تم نے اس سے کچھ خریدا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا نہیں لیکن وہ اپنے شوہر کی شکایت لے کر آئی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اے حواء! تمہیں کیا ہوا؟ اس نے جو کچھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ذکر کیا تھا آپ ﷺ سے ذکر کیا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے عورت! جاؤ اور خاوند کی بات غور سے سنو اور اطاعت کرو؟“ کہنے لگی، یا رسول اللہ ﷺ! میرے لئے کیا اجر ہے؟ پھر عورت کے خاوند پر حق اور خاوند کے عورت پر حق اور حمل و ولادت اور طویل مدت دودھ پلانے کے بارے میں حدیث ذکر کی۔

میں کہتا ہوں: اس حدیث کی سند بہت واہی ہے۔ اسے بزار نے ذکر کیا ہے زیاد ثقفی فرماتے ہیں: اس حدیث کی بصری راویہ متروک الحدیث ہیں۔

### ۱۱۰۶۵ الخولاء (آخری)

کسی کی طرف منسوب نہیں، ابو عمر نے اسے کذیبی کے طریق سے ابو عاصم سے بحوالہ صالح بن رستم، انہوں نے ابن ابوملیکہ اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا ہے۔ فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ سے حواء نے آنے کی اجازت طلب کی، آپ ﷺ نے اسے اجازت دے دی، اور اس کی طرف متوجہ ہوئے، آپ ﷺ نے کہا: تمہارا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا: آپ اس عورت سے اس طرح توجہ سے پیش آرہے ہیں: آپ ﷺ نے فرمایا: یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے زمانے میں ہمارے پاس آتی تھی، اور اچھے طریقے سے پیش آنا ایمان کا حصہ ہے۔ ابو عمر نے اس روایت کو حواء بنت تویت کے سوانح میں ذکر کرنے کے بعد فرمایا:

\* مسلم (الحديث ۱۸۳۰، مسند احمد (الحديث ۲۴۷/۶)، المعجم الكبير (الحديث ۵۶۴/۲۴)

\* اسد الغابہ (۶۸۶۰) تجرید (۲/۶۶۱)



کہ یہی نے اسے اسی طرح روایت کیا ہے۔ اور صحیح یہ ہے کہ یہ قصہ حسانہ مدنیہ کے ساتھ پیش آیا جیسا کہ گزر چکا ہے۔  
میں کہتا ہوں: تعدد کا احتمال مانع نہیں ہے، جیسا کہ یہ احتمال ہے کہ حسانہ ان کا نام ہو اور حواء ان کا وصف یا لقب ہو،  
ابو عمر نے اعتراف کیا کہ کہ یہی نے بنت تویت نہیں کہا، اگر ایسا ہے تو جس نے اس قصہ کو حواء بنت تویت کے سوانح میں ذکر کیا وہ  
درست نہیں، پھر یہ اعتراض ہے کہ اگر سند ثابت ہو جائے تو وہ دوسری ہیں، اور علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔

### ۱۱۰۶۶ الحولاء

عثمان بن مظعون کی زوجہ ہیں، ابن مندہ نے مختصر ان کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا: حدیث میں ان کا ذکر ہے، اور ان سے کوئی  
روایت مروی نہیں۔

میں کہتا ہوں: احتمال ہے کہ یہ وہی عطارہ ہوں اگر ان کا قصہ محفوظ ہو، کیونکہ عثمان بن مظعون عورتوں سے اعراض کرنے  
میں مشہور ہیں، جیسا کہ ان کے سوانح میں مذکور ہے۔

### ۱۱۰۶۷ الخوِیصلہ بنت قطبہ

ابو عمر نے قطبہ کے سوانح میں ان کا ذکر کیا ہے، انہوں نے نبی کریم ﷺ سے عرض کیا: میں اپنے نفس اور خوِیصلہ پر آپ  
سے بیعت کر سکتا ہوں؟ ابن اثیر رحمہ اللہ نے اسے نقل کیا ہے اور ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: عجیب حدیث میں ان کا ذکر ہے۔

### القسم الثانی از حرف حاء - کسی کے ذکر سے خالی ہے۔

### القسم الثالث از حرف حاء

### ۱۱۰۶۸ حیہ

(ح اوری کی تشدید سے) بنت ابو حیہ۔ ابن ماکولا نے اسے ضبط کیا ہے، ابن مندہ نے ان کا ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں:  
از ہر بن سعید اور ابن علقمہ نے عبد اللہ بن عون سے، انہوں نے عمرو بن سعید سے، انہوں نے ابو ذر عہ بن عمرو بن جریر سے انہوں نے  
حیہ بنت ابی حیہ سے روایت کیا ہے، فرماتی ہیں: میرے پاس ایک آدمی آیا، میں نے کہا: تم کون ہو؟ اس نے کہا: ابو بکر صدیق۔ میں  
نے پوچھا: رسول اللہ ﷺ کا ساتھی؟ کہنے لگے: جی ہاں! پھر انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نہیب بنت جابر الحمیری کے ساتھ پیش آنے  
والے قصے کی طرح قصہ بیان کیا، اس میں تعدد کا احتمال ہے۔ اللہ بہتر علم رکھنے والا ہے۔

### القسم الرابع از حرف حاء

### ۱۱۰۶۹ حُنبشہ

(ح کے پیش اور ب کے سکون کے ساتھ، اس کے بعد شین اوری مشدو ہے) خزاعیہ عدویہ، از عدی خزاعہ، سفیان بن

اسد الغابہ (۶۸۵۹) تجرید (۲/۲۶۱) \* اسد الغابہ (۶۸۶۱) تجرید (۲/۸۶۱) \* اسد الغابہ (۵/۲۵۸)

اسد الغابہ (۶۸۶۲) تجرید (۲/۲۶۱) \* الإكمال (۲/۳۲۴) \* اسد الغابہ (۶۸۲۴) تجرید (۲/۲۵۷)

یہ بن حبیب بیاضی، حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والی خواتین میں شامل تھیں۔ ابن مندہ نے اسی طرح، بروایت ابن لہیعہ، وہ ابوالاسود سے، انہوں نے عروہ سے نقل کیا ہے۔ ابو نعیم فرماتے ہیں: اسی طرح مذکور ہے۔ لیکن وہ لفظی غلطی ہے، وہ حسنہ (ح) اور سین کے زبر کے ساتھ، پھر نون ہے) جیسا کہ ابن اسحاق رحمہ اللہ وغیرہ \* نے درست ذکر کیا ہے، اسی طرح ان کا قول کہ وہ بیاضی ہیں غلط ہے، درست یہ ہے کہ وہ نجی ہیں۔  
میں کہتا ہوں: جیسا ابو نعیم نے کہا ویسا ہی ہے۔

### ۱۱۰۶۰ حلیسہ الانصاریہ

یہ وہی ہیں جنہوں نے حضرت سلمان کو خریدا تھا۔ ابن مندہ نے سلمان کے سوانح میں ان کا نام لیا ہے۔ میں نے اسد الغابہ کے حاشیہ میں مغلطی کی تحریر میں پڑھا، جو حرف حاء میں ہے، ان کا ذکر حلیہ سعدیہ رضی اللہ عنہما کے بعد ہے۔ حاء کے ساتھ وہم ہے جو لفظی غلطی سے پیدا ہوا، وہ خاء کے ساتھ ہے، جیسا کہ ابو موسیٰ نے ذیل میں اس کا ذکر کیا ہے، عنقریب اس کا بیان آئے گا۔

### ۱۱۰۶۱ حمہ بنت ابی سلمہ

بعض کا قول ہے: یہ ام حبیبہ کی حدیث میں مذکور ہیں جب انہوں نے نبی کریم ﷺ سے عرض کیا کہ وہ ان کی بہن سے نکاح کر لیں، حدیث میں ہے، کیا آپ ابوسلمہ کی بیٹی کا ارادہ کرتے ہیں، جس نے شیخ برہان الدین حلبی کی شرح البخاری میں اسے پڑھا ہے، جسے انہوں نے ہمارے شیخ ابن ملقن کی شرح سے تلخیص کیا ہے، اور اسے ابو موسیٰ کی طرف منسوب کیا ہے۔ ابو موسیٰ کے ذیل میں حمہ بنت ابوسفیان ہیں نہ کہ بنت ابوسلمہ، اور اس کے باوجود صحیح بات اور ہے، جسے میں نے فتح الباری میں وضاحت سے ذکر کر دیا ہے۔

### ۱۱۰۶۲ حمہ

(ح کے زبر کے ساتھ، میم ساکن) بنت اوس مزنیہ، ان کا ذکر جمیلہ میں ہے۔ تجرید میں ذہبی رحمہ اللہ نے اپنے استدراک میں ان کا ذکر کیا ہے۔ اور ان کا نام حمہ بتانے والے کی وضاحت نہیں کی۔ میں نے جمیلہ (جیم کے ساتھ) کے سوانح میں ان کا نام بتانے والے کا ذکر کیا ہے کہ ابن قانع کا قول ہے: یہ ام جمیل ہیں۔

### ۱۱۰۶۳ حواء \*

عمرو بن معاذ انصاریہ کی دادی ہیں، ابن سعد نے ان حواء اور جو حواء ام بجید ہیں، ان دونوں میں فرق کیا ہے، جبکہ وہ دونوں ایک ہیں، انہوں نے حفص بن میسرہ کے طریق سے بحوالہ زید بن اسلم، انہوں نے عمرو بن معاذ سے، انہوں نے اپنی دادی حواء سے نقل کیا ہے، فرماتی ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا: ”سائل کو دو اگر چہ جلا ہوا کھر ہی کیوں نہ ہو“ \*  
یہ حواء ام بجید کے سوانح میں مالک کے طریق سے بحوالہ زید گزر چکا ہے، لیکن متن کے الفاظ مختلف ہیں۔ واللہ اعلم!

## حرفِ خاء

## القسم الاول از حرفِ خاء

## ۱۱۰۶۴ خالدہ بنت الاسود\*

بن عبد یغوث بن وہب بن عبد مناف بن زہرہ قرشیہ زہریہ، ابن حبیب فرماتے ہیں: وہ مہاجرات میں سے صالحہ خاتون ہیں، حدیث عائشہ میں ان کا ذکر ہے کہ رسول اللہ ﷺ ان کے پاس آئے، اور ان کے پاس ایک خاتون کو دیکھا، اور فرمایا: ”یہ کون ہیں؟“ کہنے لگیں: آپ کی ایک خالہ ہیں، خالدہ بنت اسود..... (المحدث)\*

ہم نے اسے ابن نجیب کے جز میں بخارہ بن مغلس کے طریق سے بحوالہ ابن مبارک، وہ معمر سے، وہ زہری سے، وہ عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ وہ ان سے موصولاً روایت کرتے ہیں۔ بخارہ ضعیف ہیں، اور معاویہ بن حفص نے بحوالہ ابن مبارک ان کی متابعت کی ہے۔ لیکن فرمایا: عبید اللہ سے، وہ ام خالدہ بنت اسود سے روایت کرتے ہیں، ابن ابو عاصم نے اسے نقل کیا ہے۔ اگر یہ روایت محفوظ ہے تو شاید یہ ان کی کنیت اور خالدہ نام ہے۔ مستغفری نے اسے ابو عمیر جری کے طریق سے، بحوالہ معمر نقل کیا ہے، وہ زہری سے وہ عبید اللہ سے مرسل نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں: نبی کریم ﷺ گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک خاتون دیکھی، تو پوچھا: یہ خاتون کون ہے اے عائشہ؟ وہ کہنے لگیں: یہ آپ کی ایک خالہ ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”میری خالائیں اس شہر میں اجنبی ہیں۔“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: یہ خالدہ بنت اسود بن عبد یغوث ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”پاک ہے اللہ جس نے مردہ سے زندہ کو نکالا۔“\*

ابو موسیٰ فرماتے ہیں: اسے عبد الرزاق نے معمر سے بحوالہ زہری مرسل نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: انہوں نے اچھے لباس، پوشاک والی خاتون دیکھی، فرمایا: وہ مومنہ تھیں، ان کے والد کافر تھے۔ ان کا نام اور کنیت ذکر نہیں کی۔ یہ اس روایت کا سب سے صحیح طریق ہے۔

میں کہتا ہوں: واقدی نے اسے معمر سے طویل اور مرسل حدیث نقل کی ہے۔ اور موسیٰ بن محمد بن ابراہیم سے وہ اپنے والد سے وہ ابوسلمہ سے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے موصولاً روایت کرتے ہیں، جس کے الفاظ اسی جیسے ہیں۔

\* اسد الغابۃ (۶۸۶۳) تجرید (۲/۲۶۱)

\* طبرانی المعجم الكبير (۲۵/۲۴۸)

\* المعجم الكبير (۲۵/۲۴۷) مجمع الزوائد (۹/۲۶۴) الاحاد والمثنائ (۶/۱۴۱)

### ۱۱۰۷۵ خالدہ بنت انس الأنصاریہ

ساعدیہ، بنو حزم کی والدہ ہیں، جھاڑ پھونک کے بارے میں ان کی حدیث ہے۔ یہ ابو عمر کا قول ہے۔  
میں کہتا ہوں: ابن ابی شیبہ نے ابن ادریس سے، انہوں نے محمد بن عمارہ سے، انہوں نے ابوبکر بن محمد یعنی ابن عمرو بن حزم سے ان کی حدیث نقل کی ہے کہ خالدہ بنت انس جو بنو حزم ساعدیہ کی والدہ ہیں، نبی کریم ﷺ کے پاس آئیں، نبی ﷺ کے سامنے دم کیا، آپ ﷺ نے اس کی اجازت دے دی، ابن ماجہ نے اسے ابوبکر سے، طبرانی اور ابن مندہ نے اپنے طریق سے اسے نقل کیا ہے۔

### ۱۱۰۷۶ خالدہ

یا خلدہ بنت حارث، عبداللہ بن سلام کی پھوپھی ہیں، محمد بن اسحاق نے عبداللہ بن سلام کے قصے میں ذکر کیا ہے کہ وہ اسلام لائیں، اور ان کا اسلام سنوڑ گیا، امام اسماعیل بن محمد نے اس آیت کی تفسیر میں ان کا ذکر درج کیا ہے: ”آپ ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبیلے کی پیروی کرنے لگیں۔“  
ابوموسیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔

میں کہتا ہوں: وہ ان کی کوتاہی ہے، ابوطی غسانی نے اپنے استدراک میں ان کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا: ابن ہشام نے ابن اسحاق سے ذکر کیا ہے کہ وہ عبداللہ بن سلام کے اسلام لانے کے ساتھ مسلمان ہوئیں، پھر میں نے مختصر سیرت ابن ہشام کی مراجعت کی، تو اس میں ابن اسحاق سے ہے: مجھ سے عبداللہ بن سلام کے گھر والوں میں سے بعض نے ان کے اسلام لانے کا قصہ ذکر کیا، ابن اسحاق نے کبریٰ میں عبداللہ بن ابو حزم سے، وہ یحییٰ بن عبداللہ سے، عبداللہ بن سلام کی اولاد میں سے ایک آدمی سے مروی ہے: عبداللہ بن سلام جب اسلام لائے تو فرماتے ہیں: میں نے جب رسول اللہ ﷺ کے بارے میں سنا، اور آپ ﷺ کی نشانیاں، نام اور زمانہ اچھی طرح پہچان لیا جس کا ہم انتظار کرتے تھے، جب آپ مدینے تشریف لائے، تو آپ کے آنے کی ایک شخص نے اطلاع دی، میں کھجور کی چوٹی پر چڑھا ہوا تھا۔ میں نے وہیں سے نعرہ تکبیر لگایا، میری پھوپھی خالدہ بنت حارث جو نیچے بیٹھی ہوئی تھیں، مجھ سے کہنے لگیں: اللہ کی قسم! اگر میں موسیٰ بن عمران کی آمد کا سنتی تو اس سے زیادہ کچھ نہ کہتی، میں نے ان سے کہا: پھوپھی جان! اللہ کی قسم! وہ تو موسیٰ کے بھائی ہیں، جنہیں پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہے۔ کہنے لگیں: بھتیجے! کیا یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا تھا کہ وہ قیامت کے نزدیک مبعوث ہوں گے؟ میں نے کہا: جی ہاں! فرمایا: پھر تو یہ وہی ہوئے۔ چنانچہ میں اسلام لے آیا، پھر میں اپنے گھر والوں کے پاس آیا وہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔

حدیث کے آخر میں ہے: میری پھوپھی خالدہ بنت حارث اسلام لائیں۔

اسد الغابۃ (۶۸۶۴) تجرید (۲/۲۶۱) ❀ الاستیعاب (۴/۱۸۱۶)

اسد الغابۃ (۶۸۶۵) تجرید (۲/۲۶۱) ❀ سورة البقرة الآية (۱۴۵)

### ۱۱۰۷۷ خالده بنت عبدالعزی \*

نبی کریم ﷺ کے چچا ابولہب تھے۔ یعنی ابولہب کی بیٹی۔ ان سے عثمان بن ابوالعاص نے شادی کی، جس سے اولاد ہوئی، یہ ابن سعد \* کا قول ہے۔

میں کہتا ہوں: دارقطنی نے کتاب الاخوة میں ان کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا: انہیں دیدار نبوی حاصل نہیں۔

### ۱۱۰۷۸ خالده بنت ابی لہب بن عبدالمطلب، یہ پہلے والی ہیں۔

### ۱۱۰۷۹ خالده بنت عمرو بن ورقہ، بنوہامہ سے ہیں۔ ابن سعد \* نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر

www.KitaboSunnat.com

کیا ہے۔

### ۱۱۰۸۰ خذامہ بنت جندل \* حرف جیم میں ان کی طرف اشارہ ہے۔

### ۱۱۰۸۱ خذامہ بنت وہب الاسدیہ

حرف جیم میں جذامہ کے سوانح میں ان کا ذکر گزر چکا ہے، بعض کا قول ہے: وہ دونوں ایک ہیں۔

### ۱۱۰۸۲ خدیجہ بنت الحصین \*

بن حارث بن مطلب بن عبدمناف مطلبیہ۔ اسلام لائیں اور بیعت کی، نبی کریم ﷺ نے انہیں اور ان کی بہن ہند کو سو وقت خیر کی کھجوریں کھانے کو دیں۔ ابن سعد \* نے ان دونوں کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۰۸۳ خدیجہ بنت خویلد \*

بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی قرشیہ اسدیہ، نبی کریم ﷺ کی زوجہ ہیں، مردوں اور عورتوں میں انہوں نے سب سے پہلے آپ ﷺ کی بعثت کی تصدیق کی۔

زبیر بن بکار فرماتے ہیں: بعثت سے پہلے انہیں طاہرہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ ان کی والدہ فاطمہ بنت زائدہ ہیں۔ قرشیہ ہیں اور بنو عامر بن لؤی سے ہیں۔ سب سے پہلے ابوہالہ بن زرارہ بن نباش بن عدی تمیمی کے نکاح میں تھیں، ان کے بعد ابوہالہ عقیق بن عائد بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم کے نکاح میں آئیں، پھر رسول اللہ ﷺ کے نکاح میں آئیں، یہ ابن عبدالبر \* کا قول ہے جسے انہوں نے اکثر لوگوں کی طرف منسوب کیا ہے۔

قتادہ رحمہ اللہ سے اس کے برعکس منقول ہے کہ ان کے پہلے شوہر عقیق پھر ابوہالہ تھے، ابن اسحاق نے یونس بن بکر کی روایت

\* تجرید (۲/۲۶۱) الطبقات الکبریٰ (۸/۳۴) \* الطبقات الکبریٰ (۸/۲۸۱)

\* اسد الغابۃ (۶۸۶۶) تجرید (۲/۲۶۲) \* الطبقات الکبریٰ (۸/۱۶۵)

\* اسد الغابۃ (۶۸۶۷) تجرید (۲/۲۶۲) \* الاستیعاب (۴/۱۸۱۷)

یہاں جو ان سے مروی ہے ان کی موافقت کی ہے، زیر بن بکار کی کتاب النسب میں اسی طرح منقول ہے۔ لیکن آخری قول بھی بعض لوگوں کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی آپ ﷺ سے شادی بعثت سے پندرہ (۱۵) برس قبل ہوئی، بعض کا قول ہے: اس سے زیادہ مدت پہلے کی بات ہے، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا مال دار تھیں، ان کی رغبت کا سبب جو کچھ ان کے غلام میسرہ نے بیان کیا، اور جو کچھ بعثت سے قبل علامات نبوت میں سے اس نے مشاہدہ کیں اور جو کچھ انہوں نے آپ ﷺ کے بارے میں بحیراراہب سے سنا، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب میسرہ نے آپ ﷺ کے ساتھ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مال تجارت کے ساتھ سفر کیا۔

رسول اللہ ﷺ کی سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی۔

میں نے ان سب کے سوانح میں ان کے شایان شان باتیں ذکر کی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حدیث بدء الوحی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے اقوال و افعال کا ذکر کیا، جس سے نبی کریم ﷺ کے دل کو تقویت ملی۔ تاکہ آپ ﷺ وحی کو لے لیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔“ وہ کہنے لگیں: ہرگز نہیں! اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اور آپ ﷺ کی اچھی صفات بیان کیں اور آپ ﷺ کو ورتہ کی طرف لے گئیں، یہ واقعہ صحیح بخاری میں ہے۔

اسے ابن اسحاقؒ نے ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سب سے پہلی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان لائیں، اور آپ ﷺ جو کچھ لے کر آئے اس کی تصدیق کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے رسول اللہ ﷺ کا بوجھ ہلکا کر دیا، کفار جو آپ ﷺ کی تردید کرتے، آپ ﷺ ان کے پاس آتے وہ آپ کو تسلی دیتیں اور لوگوں کی باتوں کو خاطر میں نہ لاتیں۔

ابو نعیم کی کتاب دلائل میں ضعیف سند کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ ان کے پاس بیٹھے دئے تھے کہ انہوں نے زمین اور آسمان کے درمیان ایک آدمی کو دیکھا۔ آپ ﷺ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا: میرے قریب و جائیں، وہ ان کے قریب ہو گئے۔ وہ کہنے لگیں: آپ اسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جی ہاں!“ کہنے لگیں: اپنا سر میری قمیص کے نیچے کریں۔ آپ ﷺ نے ایسا ہی کیا۔ وہ کہنے لگیں: کیا آپ اسے دیکھ رہے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”نہیں۔“ کہنے لگیں: خوشخبری ہو، یہ فرشتہ ہے، اگر وہ شیطان ہوتا تو حیا نہ کرتا، اس کے بعد آپ ﷺ نے اسے اجیاد کے مقام پر اسے دیکھا۔ وہ آپ ﷺ کی طرف اُترا، ان کے لیے پچھونا بچھایا، زمین کھودی اور پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں وضو کرنا سکھایا، آپ ﷺ نے وضو کیا اور کعبہ کی طرف دو رکعت نماز پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ ﷺ کو نبوت کی خوشخبری دی، اور آپ ﷺ کو یہ آیت سکھائی: ”اپنے رب کے نام سے پڑھو۔“ پھر وہ لوٹ گئے۔ آپ ﷺ جس درخت اور پتھر کے پاس سے گزرتے وہ کہتا: ”اے اللہ کے رسول ﷺ! آپ پر سلام ہو۔“ آپ ﷺ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور انہیں خبر دی، وہ کہنے لگیں: مجھے بتائیں جیسا جبرائیل نے آپ کو بتایا ہے۔ آپ ﷺ نے انہیں سکھایا، انہوں نے وضو کیا، جیسا کہ انہوں نے وضو کیا تھا، پھر آپ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی اور کہنے لگیں: ”میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔“

میں کہتا ہوں: کہ ان کے مسلمان ہونے کے بارے میں یہ سب سے صریح روایت ہے جو مجھے ملی۔

# الکتاب فی تبيين الصحاح (جلد ۱۳۳)

ابن سعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ورقہ جو ان کے عم زاد ہیں، ان کے لیے ذکر ہوا وہ اس پر قادر نہ ہو سکے تو ابوالہ نے ان سے نکاح کیا اس کے بعد عتیق بن عائد سے نکاح کیا، پھر واقدی سے ان کی سند کے ساتھ مسنداً نقل کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی کنیت ام ہند تھی، حکیم بن حزام سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم ﷺ سے پندرہ (۱۵) برس بڑی تھیں، مدائنی سے ان کی سند کے ساتھ بحوالہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کیا ہے کہ اہل مکہ کی عورتیں جاہلیت میں عید کے دن جمع ہوئیں، ان کے سامنے ایک مرد آیا، جب وہ قریب پہنچا تو باواز بلند پکار کر کہنے لگا: مکہ کی عورتو! تمہارے شہر میں احمد (ﷺ) نامی ایک نبی ہونے والا ہے۔ تو جس سے ہو سکے کہ وہ اس کا خاوند بنے تو اس کی کوشش کرے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سوا سب نے اسے کنکریاں ماریں۔ آپ رضی اللہ عنہا نے اس کی بات پلے بانوھ لی، اور اسے کچھ نہیں کہا۔

اسی طرح انہوں نے یعنی واقدی نے نفیہ اخت یعلیٰ بن امیہ کی حدیث مسنداً بیان کی ہے کہ وہ فرماتی ہیں: خدیجہ شرافت اور جمال والی خاتون تھیں، پھر وہ قصہ ذکر کیا جس میں انہوں نے نبی ﷺ کی طرف پیغام بھیجا اور آپ بصرہ کے بازار میں ان کا بال تجارت لے کر نکلے تھے، جس میں دوسروں سے دگنا نفع لے کر لوٹے۔ نفیہ کہتی ہیں: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے مجھے اپنی بنا کر بھیجا تاکہ میں آپ ﷺ کے سامنے ان کے نکاح کی پیشکش کروں، چنانچہ آپ نے قبول کر لی اور ان سے شادی کر لی، اس وقت آپ کی عمر پچیس سال تھی۔ ان سے آپ کے بیٹے قاسم اور عبداللہ جو طیب اور طاہر کہلاتے ہیں، پیدا ہوئے۔ انہیں طیب طاہر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کی ولادت اسلام میں ہوئی اور چار بیٹیاں، یوں چھ بچوں کی ولادت ہوئی۔ آپ کی دایہ سلمہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی باندی تھیں، وہی ان کے بچوں کو دودھ پلاتی تھیں جس کا بندوبست انہوں نے ولادت سے پہلے کر رکھا تھا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے مسنداً ایک روایت نقل کی ہے کہ جس شخص نے ان کا نکاح کر لیا تھا، ان کا چچا عمر تھا، کیونکہ ان کے والد جاہلیت میں فوت ہو چکے تھے۔

واقدی کہتے ہیں: اس بات پر ہمارے ہاں اتفاق ہے، اور انہوں نے مختلف طرق سے اس بات کو سند سے بیان کیا ہے کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شادی آپ سے ہوئی تو ان کی عمر چالیس سال تھی۔ واقدی رحمہ اللہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شادی کا قصہ ام سعد بنت سعد بن ربیع کے طریق سے بحوالہ نفیہ بنت امیہ، اخت یعلیٰ مسنداً بیان کیا ہے، فرماتے ہیں: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا شریف زادی، تندرست و توانا اور مالدار خاتون تھیں۔ جب آپ رضی اللہ عنہا بیوہ ہو گئیں تو قریش کا ہر شریف زاوہ آپ سے شادی کرنے کا متمنی تھا، لیکن جب آپ ﷺ نے ان کی تجارت کا سفر کیا، اور وافر مقدار میں نفع لے کر لوٹے تو وہ آپ ﷺ میں رغبت کرنے لگیں اور مجھے ایک اپنی خاتون کے طور پر آپ کی طرف بھیجا۔ میں نے آپ سے کہا: آپ کس وجہ سے شادی نہیں کر رہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”فی الحال میں نادار ہوں۔“ میں نے کہا: ”اگر اس کا بندوبست کر دیا جائے اور آپ کو کوئی صاحب مال اور حسن و جمال والی خاتون مل جائے تو کیا رائے ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ کون ہے؟“ میں نے کہا: ”خدیجہ!“ تو آپ ﷺ نے حامی بھر لی۔ صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جنت میں مروارید سے بنے ایک ایسے گہر کی خوشخبری دی جس میں نہ تھکاؤٹ ہوگی نہ شور۔



مسلم میں بروایت عبداللہ بن جعفر بن ابوطالب بحوالہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مروی ہے، آپ نے نبی علیہ السلام سے سنا: ”جنت کی بہترین عورتیں خدیجہ بنت خویلد اور مریم بنت عمران ہیں۔“

مسلم میں ہی حدیث ابو زرہ سے منقول ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے سنا: میرے پاس جبرائیل آ کر کہنے لگے، اللہ کے رسول! خدیجہ برتن میں کچھ لارہی ہیں، جس میں کھانا یا مشروب ہے، جب وہ آپ ﷺ کے پاس پہنچیں تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام پہنچا دیجئے گا۔ (الحدیث)

ابن سعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ہمیں محمد بن عبیدطافسی نے بحوالہ محمد بن عمرو ابوسلمہ اور یحییٰ بن عبدالرحمن بن حاطب سے روایت کر کے بتایا، فرماتے ہیں: یا رسول اللہ! خولہ بنت حکیم نبی کریم ﷺ کے پاس آ کر کہنے لگیں: یا رسول اللہ! مجھے لگتا ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی کمی کی وجہ سے آپ ﷺ کو کسی کی ضرورت ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں! وہ بچوں کی ماں اور گھر کی نگران تھیں۔ (الحدیث)

باوجودیکہ روایت مرسل ہے لیکن اس کی سند قوی ہے۔ اسی طرح ابن سعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ہمیں یزید بن ہارون نے بحوالہ حماد بن سلمہ، حمید طویل سے وہ عبداللہ بن عمیر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وجہ سے بے حد صدمہ پہنچا، اور دیکھنے والوں کو خدشہ ہونے لگا، تو یہ مصیبت اس وقت دور ہوئی جب آپ ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے شادی کر لی۔

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی من جملہ خصوصیات میں سے ایک صفت یہ تھی کہ وہ نبی علیہ السلام کی تعظیم کرتیں، بعثت سے پہلے اور بعد آپ کی بات کی تصدیق کرتی تھیں۔ جب انہوں نے آپ ﷺ کو تجارت کی غرض سے بھیجا چاہا تو فرمایا: میں آپ کو اس وجہ سے روانہ کر رہی ہوں کہ مجھے آپ کی بات کی سچائی، امانت کی عظمت اور عالی اخلاق کی اطلاع ملی ہے۔ ابن اسحاق نے اس کا ذکر کیا ہے۔ نیز انہوں نے ذکر کیا کہ جب آپ ﷺ نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے آپ کی سچائی اور حسن اخلاق کی وجہ سے پہلے ہی رغبت تھی۔

بعثت سے پہلے ان کی آپ ﷺ سے ہمدردی اور فرمانبرداری کا ثبوت اس سے ملتا ہے کہ جب آپ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام زید بن حارثہ کو پسند کرتے ہیں، تو اپنی ملکیت میں آ جانے کے بعد بھی آپ کو سوئپ دیا، اسی خصوصیت کی وجہ سے زید رضی اللہ عنہ نے اسلام میں پہل کی، جو کہا جاتا ہے، وہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔

ابن سنی نے بحوالہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنی سند سے لکھا ہے کہ وہ آپ ﷺ کا کھانا لے کر مکہ کے بالائی حصے میں آپ کو تلاش کر رہی تھیں کہ جبرائیل ایک مرد کی صورت میں ان سے ملے، انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نبی علیہ السلام کے متعلق پوچھا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اندیشہ ہوا کہ یہ آپ ﷺ کا کوئی دشمن نہ ہو۔ بعد میں جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات آپ ﷺ سے ذکر کی تو آپ ﷺ نے بتایا: ”وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، انہوں نے مجھے آپ تک سلام پہنچانے کا کہا ہے۔“

آپ ﷺ نے انہیں جنت میں مردارید سے بنے ایسے گھر کی خوشخبری دی جس میں نہ شور ہوگا، نہ تھکاوٹ۔ اسے نسائی اور حاکم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے نقل کیا ہے، جبرائیل علیہ السلام نبی کریم ﷺ کے پاس آ کر کہنے



# الْاَكْبَرُ فِي سُنَنِ النَّبِيِّ ﷺ (جلد ۱۳۶)

لگے: اللہ تعالیٰ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سلام کہہ رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا عرض کرنے لگیں، اللہ تعالیٰ خود سلام ہے۔ جبرائیل علیہ السلام پر اور آپ پر اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو۔

صحیح بخاری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے: ”جنت کی بہترین عورت مریم اور خدیجہ ہے۔“ جس کی مراد اس روایت سے واضح ہوتی ہے جسے ابن عبدالبر نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے حالات میں بحوالہ عمران بن حصین نقل کیا ہے کہ نبی ﷺ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عیادت کی، انہیں سخت تکلیف تھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”بیٹی! کیسی حالت ہے؟“ عرض کرنے لگیں: ”بڑی تکلیف ہے، اور تکلیف بڑھتی جا رہی ہے۔ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”بیٹی! کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم دنیا کی عورتوں کی سردار بنادی جاؤ۔“ عرض کیا: ”ابا جان! تو مریم بنت عمران کہاں جائیں گی؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ اپنے زمانے کی بہترین عورت تھیں۔“

اس بناء پر حضرت مریم علیہا السلام گزشتہ امت کی بہترین عورت اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا موجودہ امت کی بہترین عورت ہوئیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا قصہ اگر ثابت ہو جائے تو دو میں سے کسی ایک پر محمول کیا جائے گا، یا سرداری اور بہتری میں فرق ہوگا، یا اُن عورتوں کی نسبت کہا گیا ہوگا جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے قصے کے وقت موجود تھیں۔ آپ ﷺ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جیسی تعریف کی، کسی اور خاتون کی نہیں کی، جس کا ثبوت حدیث عائشہ میں ملتا ہے۔ فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ بہت کم گھر سے باہر نکلتے، یہاں تک کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ذکر ہوتا تو ان کی تعریف کرتے، ایک دن ان کا ذکر کرنے لگے تو مجھے غیرت ہوئی، میں نے کہہ دیا: وہ تو ایک بوڑھی خاتون تھیں اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر آپ کو بیویاں عطا کر دی ہیں، پھر آپ ﷺ ان کا کیوں تذکرہ کرتے ہیں؟ تو آپ ﷺ ناراض ہو کر فرمانے لگے: ”اللہ کی قسم! مجھے اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر کوئی خاتون نہیں دی، وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب لوگوں نے انکار کیا، اور جب لوگوں نے میری تکذیب کی انہوں نے میری تصدیق کی، اور اپنے مال سے میری مدد کی، جس سے لوگوں نے مجھے محروم رکھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے وہ اولاد دی جو دوسری بیویوں سے نہیں ہوئی ہے۔“ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: میں نے دل میں کہا: اب میں کبھی بھی برائی سے ان کا ذکر نہیں کروں گی۔

اسے ابو عمر نے بھی نقل کیا ہے، جسے ہم نے دولابی کی کتاب ”الذدیۃ الطاہرۃ“ میں روایت کیا ہے، جو بطریق وائل بن ابی داؤد، عبد اللہ بن یحییٰ، بحوالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مروی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب بکری ذبح کرتے تو فرماتے: خدیجہ کی سہیلیوں کی طرف گوشت بھیجنا۔ فرماتی ہیں: ایک دن ان کا ذکر ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے خدیجہ کی سہیلیوں کا خیال رہتا ہے۔“

ابن اسحاق فرماتے ہیں: حضرت خدیجہ اور ابوطالب کی وفات ایک ہی سال ہوئی جسے عام الحزن کہتے ہیں۔ حضرت خدیجہ اور زید رضی اللہ عنہ سچے مسلمان تھے۔

آپ ﷺ کو ان سے قلبی سکون ملتا تھا، ابن اسحاق کے علاوہ کا قول ہے۔ صحیح روایت یہ ہے کہ ان کا انتقال ہجرت سے تین سال پہلے ہوا، بقول بعض چار، ایک قول پانچ سال کا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: نماز فرض ہونے سے پہلے وہ فوت ہوئیں۔ یعنی نبی ﷺ کی معراج سے پہلے فوت ہوئیں۔ ایک قول یہ ہے کہ رمضان میں فوت ہوئیں۔ واقدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

رمضان کی دس (۱۰) راتیں گزرنے پر پینٹھ (۶۵) سال کی عمر میں فوت ہوئیں۔ پھر انہوں نے حکیم بن حزام کی حدیث سند سے بیان کی ہے کہ وہ بعثت کے دسویں سال بنی ہاشم کے شعب ابی طالب سے نکلنے کے بعد فوت ہوئیں۔ چون میں دفن ہوئیں۔ آپ ﷺ ان کی قبر میں اترے، اس وقت تک جنازہ شروع نہیں ہوا تھا۔

### ۱۱۰۸۳ خدیجہ بنت الزبیر

بن عوام، ان کی والدہ اسماء بنت ابوبکر صدیق ہیں، زبیر بن بکار نے انہیں زبیر بن عوام کی اولاد میں شمار کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا: خدیجہ کبریٰ۔

میں کہتا ہوں: طرانی نے ان کی والدہ کے سوانح میں ان کا ذکر کیا ہے جو دلالت کرتا ہے کہ ان کی ولادت احزاب سے قبل ہوئی، نبی کریم ﷺ کی زندگی میں پانچ یا اس سے زیادہ برس کی تھیں، اسے ابن لہیعہ کے طریق سے بحوالہ ابوالاسود، انہوں نے جابر بن عبد اللہ بن زبیر سے، انہوں نے حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے، فرماتی ہیں: میں بنوفضیر کی زمین سے گزر رہی تھی جو آپ ﷺ نے ابوسلمہ اور زبیر کے لیے مخصوص کر دی تھی، زبیر رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نکلے اور ہمارے ہمسائے یہودی تھے، انہوں نے بکری ذبح کی اور پکائی، مجھے اس کی خوشبو آئی، میرا ایسا دل لچلایا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں اس وقت اپنی بیٹی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ حاملہ تھی مجھ سے صبر نہ ہوسکا، میں چلی اور یہودیہ عورت کے پاس آگ لینے کے لیے گئی شاید وہ مجھے کھانے کے لیے دے، اور مجھے آگ کی ضرورت نہ تھی، پھر جب میں نے خوشبو سونگھی تو میری خواہش اور بھی بڑھ گئی، تو میں نے اسے بجا دیا، پھر دوسری دفعہ آگ لینے کے لیے گئی، پھر تیسری مرتبہ گئی، پھر بیٹھ کر رونے لگی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی، اتنے میں یہودیہ کا خاوند آیا، اور کہنے لگا: کیا تمہارے پاس کوئی آیا ہے؟ کہنے لگی: ایک عربی عورت جو آگ لینے آئی تھی۔ اس نے کہا: میں اس میں سے ہرگز نہ کھاؤں گا جب تک تم اس میں سے اس کی طرف کچھ بھیجو، اس نے میری طرف چلو بھر سالن بھیج دیا، تو دنیا میں اس کھانے سے زیادہ مرغوب مجھے کوئی شے نہ تھی۔

ابن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: زبیر رضی اللہ عنہ کی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے یہ اولاد ہوئی: عبد اللہ، عروہ، منذر، عاصم، مہاجر، خدیجہ الکبریٰ، ام حسن، عائشہ۔

میں کہتا ہوں: لڑکوں میں سب سے بڑے عبد اللہ اور لڑکیوں میں خدیجہ تھیں۔

### ۱۱۰۸۵ خدیجہ بنت عبیدہ

بن حارث بن مطلب مطلبیہ، ابن سعد نے ان کے والد کے سوانح میں ان کا ذکر کیا ہے۔ ان کے والد بدر کے قریب شہید ہو گئے تھے، وہ تھوڑا عرصہ زندہ رہے، مدینہ لوٹتے ہوئے صفراء کے مقام پر وفات پائی۔

### ۱۱۰۸۶ خرقاء

جہشی عورت جو مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، حماد بن زید کی روایت میں ثابت سے بحوالہ انس ان کا ذکر ہے، ابن مندہ نے

اسی طرح نقل کیا ہے، اور ابو نعیم نے ان کی پیروی کی ہے۔

### ۱۱۰۸۷ خرقاء

ابو اسفر، سعید بن محمد نے ان سے روایت کی، ابن سکن نے ان کا ذکر کیا ہے، ان کی حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں جو ان کے صحابیہ ہونے اور انہیں دیدار حاصل ہونے پر دلالت کرے، یہ ابو عمر کا قول ہے۔  
میں کہتا ہوں: ابن سکن کے الفاظ ہیں: خرقاء ان سے ابو اسفر نے روایت کی۔

پھر علی بن مجاہد کے طریق سے بحوالہ حجاج بن ارطاة، وہ ابو اسفر سے وہ خرقاء سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں: وہ حبشیہ عورت تھیں جو گھٹلیاں چنتی تھیں۔ اور مسجد نبوی سے تکلیف کی چیز دور کرتی تھیں، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اس کے لیے دگنا اجر ہے“۔ پھر فرماتے ہیں: مجھے معلوم نہیں کہ حجاج کے علاوہ کسی نے ان سے روایت کی ہو۔  
اس سے پتہ چلتا ہے یہ پہلے والی خاتون ہیں۔

### ۱۱۰۸۸ خرقاء امرأة من الجن (ایک جنی خاتون)

عباس بن عبد اللہ برقی کی خبر میں ان کا ذکر ہے، جس کا انہوں نے ایک قصہ میں ذکر کیا، جو سلف میں سے بعض کے ساتھ پیش آیا۔ وہ عمر بن عبد العزیز ہیں۔ میں نے احمد بن عبد القادر بن فخر کو سنایا کہ احمد بن علی ہکاری نے ان کو خبر دی، بحوالہ مبارک خواص، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حسین بن علی سری نے بتایا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عبد اللہ بن یحییٰ سکری نے بتایا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسماعیل صفار نے بتایا، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے عباس برقی نے روایت کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے محمد بن فضیل نے روایت کیا یہ محمد بن فضیل، ابن غروان نہیں ہیں ہم سے عباس بن ابوراشد نے بیان کیا بحوالہ اپنے والد فرماتے ہیں: ہمارے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پڑاؤ کیا، جب کوچ کیا تو مجھ سے میرے مولانا نے کہا: آپ کے ساتھ سوار ہو کر انہیں رخصت کرو۔ فرماتے ہیں: میں سوار ہوا اور ہم ایک وادی سے گزرے، تو راستے میں کسی نے سانپ مار کر پھینک دیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اترے اور اسے راستے سے ہٹا کر دفن کر دیا، پھر سوار ہو گئے ہم سفر کر رہے تھے کہ ہم نے غیبی آواز سنی جو کہہ رہا تھا: اے خرقاء! اے خرقاء! ہم دائیں بائیں متوجہ ہوئے لیکن ہم نے کسی کو نہ دیکھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے غیبی آواز! میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اگر تم ظاہر ہونے والے ہو تو ہمارے لیے ظاہر ہو جاؤ اور اگر تم ظاہر ہونے والے نہیں تو ہمیں خرقاء کے بارے میں بتاؤ۔ اس نے کہا: یہ وہ سانپ ہے جو تمہیں فلاں مقام پر پڑا ہوا ملا۔ میں نے ایک دن رسول اللہ ﷺ کو اس سے فرماتے ہوئے سنا:

”اے خرقاء! تم ویران زمین میں فوت ہوگی اور اہل ارض میں سے سب سے بہتر مومن تمہیں دفن کرے گا۔“

حضرت عمر نے اس سے پوچھا: کیا تم نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا، ہم

لوٹ آئے۔

خطیب رضی اللہ عنہ نے عباد بن راشد کے سوانح میں کتاب المتفق سے، محمد بن جعفر ظفری کے طریق سے اسے نقل کیا ہے،

فرماتے ہیں: ہم سے نصر بن داؤد نے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے محمد بن فضیل نے بیان کیا، شرح بن یونس نے مکہ میں پڑھ کر سنایا کہ ہم سے عباد بن راشد نے حدیث بیان کی، بحوالہ اہل ذی مردہ وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں: عمر بن عبدالعزیز نے میرے مولا سے ملاقات کی، جب وہ لوٹنے لگے تو میرے مولیٰ نے کہا: اسے رخصت کرو.... پھر انہوں نے اسی طرح بیان کیا۔ اس کے آخر میں ہے: پھر کہا: میں ان سات لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اس وادی میں رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی، اس میں ہے، مجھ سے فرمایا: ”اے راشد! میری موت تک کسی کو اس کی خبر نہ دینا۔“

ابو نعیم نے حلیہ میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے سوانح میں اس کا ذکر کیا ہے، اس میں ہے انہوں نے مردہ سانپ دیکھا، اسے کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا، پھر انہوں نے کسی کو کہتے ہوئے سنا: یہ خرقاء ہے.... پھر اسی طرح بیان کیا۔

### ۱۱۰۸۹ خزنیق

(خاء نقطے والی کے زیر کے ساتھ اور راء کے سکون اور نون کی زیر کے ساتھ اس کے بعد ی اور ق) بنت حصین خزاعیہ، عمران کی بہن ہیں۔ اسلام لائیں، بیعت کی، اور روایت کی۔ یہ ابن سعد کا قول ہے اور جویریہ بنت حارث کے سوانح میں ان سے بحوالہ عمران بن حصین مسنداً ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں: یوم مریسج کے دن بنو مصطلق کی عورتوں نے فدیہ دیا اور وہ جاہلیت میں دیت ادا کرنے میں شریک ہوتے تھے۔

### ۱۱۰۹۰ خرنق

(پہلے والی کی طرح ہیں، لیکن ق سے قبل ی نہیں) بنت خلیفہ کلبیہ، دحیہ کلبی کی بہن ہیں۔ ابن سعد کا قول ہے ان کا ذکر کیا ہے، بحوالہ ہشام بن کلبی وہ شرقی بن قُطامی سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے خولہ بنت ہذیل سے شادی کی، اور ان کی والدہ بنت خلیفہ بن فروہ ہیں، جو دحیہ کی بہن ہیں، ان کی خالہ شراف بنت خلیفہ ہیں جنہوں نے ان کی پرورش کی تھی۔ وہ آپ ﷺ سے ملنے سے پہلے ہی راستہ میں وفات پا گئیں۔ مفضل بن غسان علانی نے اپنی تاریخ میں ان کا ذکر کیا ہے۔ جیسا کہ خولہ بنت ہذیل کے سوانح میں آ رہا ہے۔

### ۱۱۰۹۱ خزیمہ بنت جهم

بن قیس عہد ریہ۔ اپنے والد اور والدہ خولہ بنت اسود ام حرمہ کے ساتھ حبشہ کی سرزمین کی طرف ہجرت کی، یہ ابو نعیم کا قول ہے۔

### ۱۱۰۹۲ خضرہ

نبی کریم ﷺ کی خادمہ ہیں، ابن سعد نے ان کا ذکر کیا ہے اور بحوالہ واقدی حدیث سلمیٰ ام رافع سے ان کی سند سے مسنداً

تجريد (۲۶۲/۲) الطبقات الكبرى (۱۲۰/۸) الطبقات الكبرى (۱۱۵/۸)

اسد الغابة (۶۸۶۹) تجريد (۲۶۲/۲) الاستيعاب (۱۸۲۶/۴) اسد الغابة (۶۸۷۰) تجريد (۲۶۲/۲)

نقل کیا ہے۔ فرماتی ہیں: میں، خضرہ، رضوی اور میمونہ بنت سعد رسول اللہ ﷺ کی خدمت کیا کرتی تھیں، آپ ﷺ نے سب کو آزاد کر دیا۔ \* بلا ذری نے ایسا ہی ذکر کیا ہے، سورہ تحریم کی تفسیر میں ان کا ذکر بحوالہ کتاب ابن مردویہ ہے۔

۱۱۰۹۳ خلدہ بنت حارث خلدہ نامی صحابیہ کے سوانح میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

۱۱۰۹۴ خلیدہ بنت ثابت بن سنان النصاریہ، ابن سعد \* نے ان کا ذکر کیا ہے۔

۱۱۰۹۵ خلیدہ بنت الحباب \*

بن سعد بن معاذ النصاریہ، بنظرف سے ہیں، ابن حبیب کا قول ہے کہ نبی کریم ﷺ سے بیعت کی، ان سے پہلے ابن سعد کا قول ہے۔

۱۱۰۹۶ خلیدہ بنت قعب الضبیہ \*

ابن ابوعاصم نے ان کا ذکر کیا ہے اور حمید بن حماد بن ابوالحوراء کے طریق سے، ثعلب بنت رباب سے، بحوالہ ان کی خالہ خلیدہ بنت قعب نقل کرتے ہیں کہ وہ ان خواتین میں تھیں جو نبی کریم ﷺ کے پاس بیعت کرنے کے لیے آئیں، ایک عورت آئی جس کے ہاتھ میں سونے کا نگن تھا، آپ ﷺ نے اس سے بیعت لینے سے انکار کر دیا، وہ بھیڑنے لگی اور نگن پھینک دیئے، پھر نبی کریم ﷺ کے پاس آئی، آپ ﷺ نے اس سے بیعت لے لی۔ فرماتی ہیں: پھر وہ نگن اور نگن تلاش کیا، لیکن وہ اٹھالیا گیا تھا۔

۱۱۰۹۷ خلیسہ بنت قیس \*

بن ثابت بن خالد اشجعیہ، بنودھمان سے ہیں، براء بن معرور کی زوجہ تھیں، بیعت کی اور انہیں روایت حاصل ہے۔ بشر بن براء کی والدہ ہیں، یہ ابن سعد کا قول ہے۔ اور ام بشر بن براء بن معرور کی روایت سے احادیث نقل کی ہیں۔

۱۱۰۹۸ خلیسہ \*

حفصہ بنت عمرام المؤمنین کی باندی ہیں۔ علیکہ بنت کیت ان کی دادی سے بحوالہ خلیسہ ان کی حدیث روایت کرتی ہیں کہ عائشہ اور حفصہ بیٹھی باتیں کر رہی تھیں، اتنے میں سودہ جو نبی کریم ﷺ کی زوجہ ہیں آئیں، تو ان میں سے ایک دوسری سے کہنے لگیں: کیا تم نے سودہ کو دیکھا ہے؟ اس کا کتنا اچھا حال ہے؟ ہم اس کو بدل دیں۔ وہ ان میں سب سے زیادہ اچھے حال والی تھیں، وہ طاہگی چڑھ بناتی تھیں، جب وہ ان دونوں کے قریب ہوئیں، دونوں نے کہا: اے سودہ! کچھ پتہ بھی ہے؟ کہنے لگیں: ایسا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا: کانا دجال نکل آیا۔ وہ گھبرا کر آگ جلانے والے خیمے میں جا گھسیں۔ اتنے میں نبی کریم ﷺ تشریف لائے، انہوں نے جب آپ ﷺ کو دیکھا تو ہنسنے لگیں، اتنا نہیں کہ ان سے بات نہیں ہو پا رہی تھی۔ آپ ﷺ نے پوچھا تو آپ ﷺ کو اشارہ کر دیا۔

\* معجم الکبیر (۶۳۹/۲۴) مجمع الزوائد (الحدیث: ۲۶۲/۹) الطبقات الکبریٰ (۲۶۹/۸)

\* اسد الغابہ (۶۸۷۱) تجرید (۲۶۲/۲) الطبقات الکبریٰ (۲۵۰/۸) \* اسد الغابہ (۶۸۷۲) تجرید (۲۶۲/۲)

\* تجرید (۲۶۲/۲) \* اسد الغابہ (۶۸۷۳) تجرید (۲۶۲/۲)

چنانچہ آپ چلے اور خیمے کے دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے تو حضرت سودہ نے اندر سے آواز دی یا رسول اللہ ﷺ کیا کانا دجال نکل آیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں۔ تو وہ اپنے کپڑوں سے مکڑی کا جالا جھاڑتے ہوئے باہر نکل آئیں۔ \*

### ۱۱۰۹۹ خلیسہ \*

سلمان فارسی کی مالکن ہیں، بعض کا قول ہے: یہ وہی ہے جنہوں نے سلمان بنی النخوع سے عقد مکاتبت کی، ابن مندہ نے بعض طرق سے یہ ان کے اسلام لانے کے قصے میں ذکر کیا ہے۔ ابوسلمہ بن عبدالرحمن کے طریق سے حضرت سلمان فارسی بنی النخوع سے روایت ہے، جس میں ہے: میرے پاس سے کلب کا دیہاتی گزرا، اس نے مجھے سوار کر لیا یہاں تک کہ مجھے بیثرب لے آیا، پھر مجھے خلیسہ بنت فلان جو بنو نجار کے حلیف تھے کے ہاتھوں تین سو درہم کے بدلے فروخت کر دیا، میں اس کے ساتھ سولہ (۱۶) ماہ ٹھہرا، یہاں تک کہ نبی ﷺ مدینہ آئے، میں آپ ﷺ کے پاس آیا، پھر اپنے اسلام لانے کا ذکر کیا، فرماتے ہیں: آپ ﷺ نے اس کو پیغام بھیجا کہ ”یا تم اسے آزاد کرو گی یا میں اسے آزاد کر دوں“۔ اس وقت وہ اسلام لا چکی تھی، کہنے لگیں: نبی ﷺ سے کہہ دو، جیسے آپ چاہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں نے اسے آزاد کیا“۔ فرماتے ہیں: نبی کریم ﷺ نے انہیں تین سو (۳۰۰) پودے دیے۔۔۔۔۔ (الحدیث) ابوموسیٰ نے طویل احادیث میں اسے نقل کیا ہے۔

### ۱۱۱۰۰ خناس ان کا ذکر بعد میں آ رہا ہے، خدام شاعرہ کی بیٹی ہیں۔

### ۱۱۱۰۱ خنساء بنت خدام \*

بن خالد انصاریہ، بنو عمرو بن عوف سے ہیں، موطا \* میں ان کی حدیث بحوالہ عبدالرحمن بن قاسم، وہ اپنے والد سے، وہ عبدالرحمن اور مجمع جو زید کے بیٹے ہیں ان سے، وہ خنساء سے نقل کرتے ہیں کہ ان کے والد نے ان کا نکاح کر دیا اور وہ لڑکی تھیں، انہیں یہ نام گوار ہوا وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئیں، آپ ﷺ نے ان کا نکاح رد کر دیا۔

اسے ثوری نے بحوالہ عبدالرحمن بن قاسم روایت کیا ہے، سند اور متن میں اختلاف ہے، فرماتے ہیں: عبداللہ بن یزید و دلیعہ سے بحوالہ خنساء بنت خدام روایت ہے کہ وہ اس وقت کنواری تھیں، ابن عبدالبر نے ایسا ہی کہا ہے۔ \*

ابن مندہ فرماتے ہیں: ابن عیینہ نے عبدالرحمن بن قاسم سے اسے روایت کیا ہے جو مالک کے موافق ہے، اور اسے یحییٰ بن سعید نے قاسم بن محمد سے بحوالہ عبدالرحمن اور مجمع مرسل اور متصل روایت کیا ہے۔

محمد بن اسحاق کے طریق سے بحوالہ حجاج بن سائب نقل کرتے ہیں، وہ اپنے والد سے وہ اپنی دادی خنساء بنت خدام بن خالد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک آدمی سے بیوہ ہو گئیں۔ ان کے والد نے بنو عمرو بن عوف کے ایک شخص سے ان کا نکاح کر دیا، اور انہوں نے ابولبابہ بن عبدالمندر کو نکاح کا پیغام دیا تھا، ان کا معاملہ رسول اللہ ﷺ کی طرف لے جایا گیا، رسول اللہ ﷺ نے

\* جامع المسانید والسنن (۴/۵) \* اسد الغابہ (۶۸۷۴) تجرید (۲/۲۶۲)

\* اسد الغابہ (۶۸۷۵) تجرید (۲/۲۶۲) \* الموطا (الحدیث: ۱۱۵۸)

\* الاستیعاب (۴/۱۸۲۶)

ان کے والد کو حکم دیا کہ وہ انہیں اپنی مرضی کرنے دیں، انہوں نے ابولبابہ سے شادی کی، اور ان کے بیٹے سابع کی والدہ تھیں۔  
ابن مندہ کی کتاب معرفت میں ہمیں یہ روایت عالی سند سے ملی ہے، اور اسے احمد \* نے نقل کیا ہے، خناس کی روایت میں اس کے شروع میں پیش ہے۔

ابن مندہ نے اسحاق بن یونس مستملی کے طریق سے، ہشیم سے بحوالہ عمرو بن ابوسلمہ وہ اپنے والد سے وہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ خنساء بنت خزام کے والد نے ان کا نکاح ایک شخص سے کر دیا، وہ اپنے معاملے کی مالک تھیں، انہوں نے اسے ناپسند کیا اور نبی کریم ﷺ کے پاس آئیں، آپ ﷺ نے فرمایا: تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، انہوں نے ابولبابہ کو پیغام دیا، ان سے سابع پیدا ہوئے۔

ابن مندہ فرماتے ہیں: ان کے علاوہ کسی اور نے ہشیم سے بحوالہ عمرو بن ابوسلمہ مرسل روایت کی ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں: ابوہریرہ عمر سے روایت کرتے ہیں۔ ابن سعد نے اسے وکیع سے بحوالہ ثوری، انہوں نے ابوہریرہ سے، انہوں نے نافع بن جبیر سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں: خنساء بنت خزام بیوہ ہو گئیں تو ان کے والد نے ان کا نکاح کر دیا، وہ نبی کریم ﷺ کے پاس آئیں اور کہنے لگیں: یا رسول اللہ ﷺ! میرے والد نے میرا حق مارا ہے، مجھے پتہ بھی نہیں اور انہوں نے میرا نکاح کر دیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ان کا نکاح نہیں ہوا، جہاں چاہو نکاح کرو“۔ انہوں نے ابولبابہ سے نکاح کر لیا۔

اور عمر کے طریق سے سعید بن عبد الرحمن حنفی سے روایت ہے، فرماتے ہیں: ایک خاتون جنہیں خنساء بنت خزام کہا جاتا تھا، انہیں بن قوادہ انصاری کی زوجہ تھیں، وہ اُحد میں شہید ہو گئے، ان کے والد نے ان کی شادی ایک آدمی سے کر دی، وہ کہنے لگی: یا رسول اللہ ﷺ! میری اولاد عام ہو مجھے زیادہ پسند ہے۔ آپ ﷺ نے اسے اختیار دے دیا۔ \*

### ۱۱۱۰۲ خنساء بنت رباب \*

بن نعمان بن سنان بن عبید بن عدی بن کعب بن سلمہ جو جابر بن عبد اللہ بن رباب کی پھوپھی ہیں، بیعت کرنے والیوں میں شامل تھیں۔ ابن سعد \* نے ان کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا: ان کی والدہ اداہ بنت حرام بن ربیعہ بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمہ ہیں، ان سے عامر بن عدی بن سنان بن نابی بن عمرو بن سواد نے نکاح کیا، اس کے بعد نعمان بن خنساء بن سنان بن عبید کے نکاح میں آئیں۔

### ۱۱۱۰۳ خنساء بنت عمرو \*

بن شریہ بن ثعلبہ بن عَصِیہ بن خفاف بن امری القیس بن ہشیم بن سلیم سلمیہ جو مشہور شاعرہ ہیں، ان کی والدہ تماضر (ت کے ساتھ ہیں) ان کے بارے میں زُرید بن صمد فرماتے ہیں: جب انہیں دیکھا تو اپنے اونٹ کو تار کول مل رہی تھیں، پھر وہ نہانے لگیں، انہیں پسند آئیں اور نکاح کا پیغام دیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ ان کے بارے میں کہا:

\* مسند احمد (۶۲۸/۶) \* سنن دارقطنی (۲۳۱/۳) معجم الکبیر (۶۴۳/۲۴) السنن الکبریٰ (۱۱۹/۷)

\* تجرید (۲۶۳/۲) \* الطبقات الکبریٰ (۲۹۴/۸) \* اسد الغابۃ (۶۸۷/۶) تجرید (۲۶۳/۲)



”لوگو! تماضر کو سلام دو اور میری صبح میں قیام کرو، کیونکہ تمہارا ٹھہرنا میرا مقصد ہے، میں نے اگر آج کی طرح اس کے بارے میں سنا، دیکھا نہ ہوتا جیسے آج کا دن خارشِ اونٹوں کو تار کول ملنے والے کا ہے۔ چھوڑے پن سے اس کی خوبیاں ظاہر ہوئیں، جو تار کول کو خارش کی جگہ لگا رہا تھا۔ اے خنساء! دل تم پر فدا ہو گیا اور محبت کی بیماری کا عادی ہو گیا۔“

حضرت خنساء کو اس کا پیغام نکاح پہنچا، آپ نے فرمایا: بھلا میں اپنے دراز قد چچا زادوں کو چھوڑ کر جو نیزوں کی طرح لمبے ہیں، ایک بوڑھے سے شادی کر لوں؟ جب درید کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے کہا:

”اے آلِ عمرو کی بیٹی! اللہ تجھے مجھ جیسے نوجوان سے بچا کر رکھے، اس نے کہا کہ وہ بوڑھا کھوسٹ ہے۔ بھلا میں نے اسے بتایا تھا کہ میں شام کا بچہ ہوں، جمادی میں دودھ پلانے والیاں جانتی ہیں جب انہوں نے اپنے کام میں جلدی کی۔“

جس میں اس نے یہ بھی کہا:

”اونٹ ذبح کئے بغیر میں رات بسر نہیں کرتا اور شام ہوتے ہی بچواؤں، ناداروں سے ابتداء کرتا ہوں، میرے مہمان کو کتا بھونکتا اور نہ میرا پڑوسی پریشان حالی میں رات گزارتا ہے۔“

اسے شعروں میں جواب دیا۔

ابو عمر کہتے ہیں کہ اپنی قوم بنو سلیم کے ساتھ نبی کریم ﷺ کے پاس آئیں، اور ان کے ساتھ مسلمان ہو گئیں۔ مؤرخین ذکر کرتے ہیں کہ آپ ﷺ ان سے اشعار کی فرمائش کرتے اور ان کے اشعار پسند فرماتے ہوئے کہتے: نکھاس! اور سناؤ، اور ہاتھ سے اشارہ کرتے۔

مؤرخین کا بیان ہے کہ ابتداء میں خنساء دو، تین شعر کہا کرتی تھیں۔ پھر جب ان کے گنگے بھائی معاویہ بن عمرو قتل ہوئے اور ماں شریک بھائی صحر قتل ہوئے جو انہیں بہت پیارے تھے، اور وہ تھے بھی بردبار، بہادر، پورے قبیلے میں پسند کئے جاتے تھے۔ انہوں نے بنی اسد پر حملہ کیا تھا تو ابو ثور اسدی نے انہیں ایسا نیزہ مارا جس سے گہرا زخم سال بھر رہا، اور اسی کی وجہ سے فوت ہوئے۔ ان دونوں بھائیوں کے قتل کے بعد انہوں نے اشعار کی بھرمار کر دی۔ صحر کے بارے میں ان کے اشعار ہیں:

”اے میری آنکھو! سخاوت سے روؤ، تمہارے آنسو نہ تھمیں، کیا تم خلی صحر پر نہیں رو سکتی ہو ایسا جری، بہادر جو خوبصورت تھا، اس جوان پر جو سردار تھا، آنسو نہیں بہا سکتی ہو؟ دور دور تک فیاضی کرنے والا، بے حد جو دو سخا سے کام لینے والا، جو لڑکپن میں ہی قوم کا سردار بن گیا۔“

نیز ان کے متعلق ان کے اشعار ہیں:

”صحر ایسا تھا جب ہم گوشت بھوننے لگتے تو اونٹوں کے اونٹ ذبح کر دیتا، وہ ایسا پاکیزہ روح تھا کہ لوگ اس کے پیچھے چلتے تھے، یوں لگتا تھا گویا وہ بلند پہاڑ ہے جس کے اوپر آگ جل رہی ہو۔“

فرماتے ہیں: اہل علم کا شعر کے بارے میں اتفاق ہے کہ اگلوں اور پچھلوں میں ان سے زیادہ اچھی شعر کہنے والی کوئی



خاتون نہیں۔ زبیر بن بکار نے محمد بن حسن مخزومی سے اور وہ ابن زبالہ کے نام سے معروف ہیں اور متروک راوی ہیں، انہوں نے عبدالرحمن بن عبداللہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ابو جرحہ سے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ خنساء بنت عمرو سلمیہ قادیسیہ کی جنگ میں شریک ہوئیں۔ ان کے ساتھ ان کے جواں مرد چار بیٹے تھے، راوی نے انہیں ان کی نصیحت کا ذکر کیا اور انہیں قتال کی ترغیب، نہ بھاگنے پر برا بھینٹہ کرنے کا ذکر کیا، اسی میں ہے: تم لوگ اپنی مرضی سے مسلمان ہوئے، اور اپنے اختیار سے تم لوگوں نے ہجرت کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ تم لوگ ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد ہو، نہ تمہارے آباء و اجداد کو برا بھلا کہا گیا اور نہ تمہارے ماموؤں کی رسوائی ہوئی، صبح جب یہ لوگ عملاً یکے بعد دیگرے جہاد میں شریک ہوئے تو سب کے سب شہید ہو گئے، ہر ایک نے شہادت سے پہلے چند اشعار کہے۔ پہلے نے یہ شعر کہے:

”اے بھائیو! خیر خواہ بڑھیا نے جب گزشتہ شب ہمیں بلایا تھا تو ایسے انداز میں نصیحت کی تھی، جو واضح اور عیاں تھی، کہ تم نے حج کے وقت آل ساسان کے بھونکتے کتوں کو ملنا ہے۔“

دوسرے نے یہ اشعار کہے:

”باہمت اور مضبوط بڑھیا نے ہمیں چوکنا اور ہوشیار رہنے کا حکم دیا، یہ اس کی طرف سے خیر خواہی اور بچوں پر شفقت تھی۔ جنگ میں پہل کرو، تعداد کی حفاظت کرتے ہوئے۔“

تیسرے نے کہا:

”اللہ کی قسم! ہم بڑھیا کی خیر خواہی، نیکی، سچائی اور مہربانی کی وجہ سے حرف برابر بھی نافرمانی نہیں کریں گے، تو آہستہ آہستہ پیٹنے والی جنگ میں جلدی کرو، یہاں تک کہ تم کسریٰ والوں سے جا چٹو۔“

چوتھے نے کہا:

”میں نہ خنساء کا ہوں نہ اخرم کا اور نہ عمرو کا ہوں، جو پرانی دوا والا ہے، اگر لشکر میں میں عجی لشکر کا ارادہ نہ کروں تو گھبراہٹ میں تلوار مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔“

ساری سندیں اس سے طویل ہیں، انہیں اطلاع مل گئی تو کہنے لگیں: الحمد للہ! مجھے اللہ نے ان کی شہادت کا شرف بخشا ہے۔ اور مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ اپنی جوار رحمت میں جمع کرے گا، لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تادم وفات حضرت خنساء کو ان کے چاروں بیٹوں کا وظیفہ دیا کرتے تھے۔

میں کہتا ہوں: ان کے اپنے بھائی کے بارے میں یہ اشعار ہیں:

”اے صحر! میں تمہیں کبھی نہ بھولوں گی، یا تو میری روح پرواز کر جائے یا میری لاش کے ٹکڑے ہو جائیں، سورج کا نکلنا، صحر کی یاد دلاتا ہے۔ اور ہر غروب آفتاب پر میں اس کے لیے روتی ہوں۔ اگر میرے ارد گرد رونے والیوں کی کثرت نہ ہوتی جو اپنے بھائیوں پر آنسو بہاتی ہیں تو میں اپنی جان گنوا دیتی۔“

نیز ان کے صحر کے بارے میں یہ اشعار ہیں:

”اے صحر! اگر تو نے میری آنکھ کو اٹکھار کیا تو ایک زمانہ تو نے اسے ٹھنڈا بھی رکھا ہے، میں نے واویلا کرنے

والی عورتوں میں تیرا ذکر کیا، تو واویلا کرنے والیوں میں اپنے آپ کو حقدار پایا۔ تیری وجہ سے میں نے بڑے مصائب دھکیل دیئے جب تو زندہ تھا، اب ان مصائب کو کون ہٹائے گا؟ اگر کسی مقتول پر رونا بری بات ہے تو تجھ پر رونا اچھی بات ہے۔“

بعض کا قول ہے کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئیں اور حضرت خنساء نے بالوں کی بنی صدری پہن رکھی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: خنساء! اس سے نبی پاک ﷺ نے منع فرمایا ہے۔ کہنے لگیں: مجھے علم نہیں تھا۔ بہر حال اس کا بھی ایک قصہ ہے۔ ہوا یوں تھا کہ میرے والد نے ایک فضول خرچ سے میری شادی کر دی تھی، اس نے اپنا سارا مال اڑا دیا، میں صحر کے پاس آئی، اس نے اپنے مال کے دو حصے کر دیئے، ایک حصہ جو مجھے پسند تھا دے دیا، میرے شوہر نے دوبارہ بھی ایسے کیا، تو میرے بھائی نے پھر اپنے مال کو دو حصوں میں تقسیم کر کے بہترین حصہ مجھے دے دیا۔ میری بھابھی اس سے کہنے لگیں: کیا تم اس پر راضی نہیں کہ آدھا حصہ اسے دے دیا ہے، اب بہترین حصہ اسے دینا چاہتے ہو۔ تو صحر نے کہا:

”اللہ کی قسم! میں برا حصہ اسے نہیں دوں گا، یہ تو مجھ سے تنگ و عار کو ہٹاتی ہے۔ میں اگر مر گیا تو یہ اپنا دوپٹہ پھاڑ دے گی اور بالوں کی صدری ہٹالے گی۔“

### ۱۱۱۰۴ خولہ بنت الأسود الخزاعیہ

کنیتوں میں ام حرمہ کے سوا خ میں ان کا ذکر آئے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ!

### ۱۱۱۰۵ خولہ بنت ایاس

بن جعفر حنفیہ، محمد بن علی بن ابوطالب کی والدہ ہیں، نبی کریم ﷺ نے انہیں گھر میں دیکھا تو مسکرائے اور فرمایا: ”اے علی! تم اس سے میرے بعد نکاح کرو گے، اور عنقریب تمہارا اس سے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام میرے نام پر رکھنا اور اس کی کنیت میری کنیت پر رکھنا۔“ ہم نے اسے ابو حسن احمد بن عثمان اذمی کے فوائد میں ابراہیم بن عمر بن کیسان کے طریق سے بحوالہ ابو نعیم وہ اپنے والد قصیر جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دربان ہیں، ان سے روایت کیا ہے، مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا.... پھر اسے ذکر کیا، اس کی سند ضعیف ہے اس کے باوجود ان کے صحابی ہونے کا ثبوت اس پر موقوف ہے کہ یہ اس وقت مسلمان تھیں۔

### ۱۱۱۰۶ خولہ بنت ثابت

بن منذر بن عمرو بن حرام انصاریہ، حسان بن ثابت کی بہن ہیں، اسحاق بن ابراہیم موصلی نے اسمعی کے حوالے سے ان کا شعر روایت کیا ہے جو کتاب الاغانی میں مذکور ہے، ان سے ابو فرج اصہبانی نے اپنی سند سے روایت کیا ہے۔

### ۱۱۱۰۷ خولہ بنت ثامر

علی بن مدینی نے کہا ہے کہ وہ قیس بن قہد کی بیٹی ہیں، اور ثامر لقب ہے، ابو عمر نے ایسا ہی روایت کیا ہے۔

بعض کا قول ہے: وہ دو ہیں، ہاں وہ حدیث جو خولہ بنت ثامر سے مروی ہے وہ خولہ بنت قیس سے بھی روایت کی گئی ہے۔ ابو عمر فرماتے ہیں: ان سے نعمان بن ابوعیاش نے روایت کی.... پھر حدیث ذکر کی، اس کی سند نہیں بیان کی۔

جبکہ ابن مندہ نے اسے دو سندوں سے نقل کیا ہے۔ ابواسود یتیم عروہ سے وہ نعمان سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے خولہ بنت ثامر انصاریہ کو کہتے ہوئے سنا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ”بے شک دنیا سرسبز اور میٹھی ہے، اور لوگ اللہ کے مال اور اس کے رسول کے مال میں ناحق جھگڑا کرتے ہیں، ان کے لیے قیامت کے دن آگ ہے۔“

ترمذی \* نے اسے سعید المقبری کے طریق سے بحوالہ ابولید نقل کیا ہے، میں نے خولہ بنت قیس سے سنا.... پھر اسی مفہوم کی روایت بیان کی۔ بخاری \* نے مقبری سے، انہوں نے سعید بن ابویوب سے انہوں نے ابوالاسود سے نقل کیا ہے، وہ فرماتی ہیں: خولہ انصاریہ سے نقل کیا ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں: ”بے شک لوگ اللہ کے مال کے بارے میں ناحق جھگڑ رہے ہیں، ان کے لیے آگ ہے، ابن ابوعاصم نے آحاد میں یعقوب بن حمید سے بحوالہ مقبری نقل کیا ہے، ان کے والد کا نام نہیں لیا۔“ واللہ اعلم!

#### ۱۱۱۰۸ خولہ بنت ثعلبہ

اسی طرح اکثر کا قول ہے، ابن کلبی نے اپنی تفسیر میں ان کا نسب بیان کیا ہے، اور فرمایا: بنت ثعلبہ بن مالک بن دحثم۔

#### ۱۱۱۰۹ خولہ بنت مالک \*

بن ثعلبہ بن اصرم بن فہر بن ثعلبہ بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف، بعض کا قول ہے: خولہ بنت حکیم ہیں۔ ابو عمر نے ان کا ذکر کیا ہے۔ بن خلیل بن دجاج، بحوالہ قتادہ، بعض کا قول ہے: بنت دجاج، ابن مندہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ بعض کا قول ہے: خولہ، تصغیر کے ساتھ ہے، بنت خولید اس کے آخر میں دال ہے۔ ابن مندہ نے اسے ابو حمزہ ثمالی کے طریق سے، مکرّمہ سے بحوالہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نقل کیا ہے۔ بعض کا قول ہے: بنت صامت، یحییٰ حمانی نے اپنی مسند میں ابواسحاق السمعی کے طریق سے، یزید بن زید سے وہ ان سے روایت کرتے ہیں، نقل کیا ہے۔ محمد بن اسحاق، یونس بن بکر کی روایت میں جو ان سے مروی ہے فرماتے ہیں، اور اسے احمد نے یعقوب اور سعد جو ابراہیم بن سعد کے بیٹے ہیں، بحوالہ اپنی والدہ اسے نقل کیا ہے، اور اس کے الفاظ ابواسحاق، بحوالہ معمر بن عبد اللہ بن حنظلہ، یوسف بن عبد اللہ بن سلام سے بحوالہ خولہ مروی ہیں۔

ابراہیم کی روایت میں ہے: خولہ اوس بن صامت کی بیوی ہیں، جو عبادہ کا بھائی ہے۔ فرماتی ہیں: اللہ کی قسم! میرے اور اوس بن صامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ مجادلہ کی شروع کی آیتیں نازل کیں، فرماتی ہیں: میں ان کے پاس تھی وہ بوڑھے کھوسٹ، بد اخلاق اور ڈانٹتے تھے۔ فرماتی ہیں: ایک دن میرے پاس آئے، میں نے کسی بات کا جواب دیا تو غصے میں آ گئے اور کہا: تو مجھ پر میری ماں کی مثل ہے، پھر چلے گئے اور اپنی قوم کی مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھے، پھر میرے پاس آئے اور مجھے چاہتے تھے۔ فرماتی ہیں، میں نے کہا: ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تم میری طرف راہ نہیں پاسکتے۔ تم نے جو کہا، سو کہا، یہاں تک کہ اللہ اور اس کے رسول ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، فرماتی ہیں: انہوں نے مجھے گرا لیا، میں

ان سے رُک رہی، میں ان پر غالب آگئی جیسے ایک عورت بوڑھے کھوسٹ پر غالب آتی ہے۔ میں نے انہیں اپنے سے دور کر دیا، پھر میں نکلی یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئی، میں آپ کے سامنے بیٹھ گئی اور جو کچھ ہوا تھا آپ ﷺ کو بتایا، اور مجھے اپنے شوہر کے برے اخلاق کا سامنا تھا اس کا شکوہ کرنے لگی، فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ فرماتے لگے: ”اے خویله! تمہارا بچا زاد بہت بوڑھا ہے، اس کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔“

فرماتی ہیں: اللہ کی قسم! میں وہاں ٹھہری رہی یہاں تک کہ میرے بارے میں قرآن پاک نازل ہوا۔ نبی کریم ﷺ پر وحی کی کیفیت طاری ہوگئی، جب یہ کیفیت ختم ہوگئی تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے خویله! تیرے اور تیرے شوہر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے۔“ پھر آپ ﷺ نے میرے بارے میں یہ آیات پڑھیں: ﴿اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہی تھی﴾ اس آیت تک ﴿اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے﴾۔

فرماتی ہیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اسے غلام آزاد کرنے کا کہو۔“ فرماتی ہیں، میں نے کہا: ”اللہ کی قسم! یا رسول اللہ ﷺ! اس کے پاس آزاد کرنے کے لیے غلام باندی نہیں۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اسے چاہیے کہ دو مہینے لگاتار روزے رکھے۔“ فرماتی ہیں، میں نے کہا: ”اللہ کی قسم! وہ بوڑھے کھوسٹ ہیں، انہیں روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”پھر انہیں چاہیے کہ وہ ساٹھ مسکینوں کو ایک دن کے حساب سے کھجور کھلائیں۔“ فرماتی ہیں، میں نے کہا: ”یہ بھی اس کے بس میں نہیں۔“ فرماتی ہیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہم تمہیں کھجور کا گچھا دیں گے۔“ فرماتی ہیں، میں نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! ہم اس کے بدلے میں آپ کو کھجور کا خوشہ دیں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم نے ٹھیک کیا اور اچھا کیا، اب جاؤ اور اسے اُس کی طرف سے صدقہ کر دو، پھر اپنے بچے کے بیٹے کو بھلائی کی نصیحت کرو۔“ فرماتی ہیں: میں نے ایسا ہی کیا۔

محمد بن مسلمہ کی روایت میں بحوالہ ابن اسحاق ہے، خولہ بنت مالک بن ثعلبہ، ابن مندہ نے اسے نقل کیا ہے۔ اسی طرح اسے جعفر بن حارث کے طریق سے بحوالہ ابن اسحاق روایت کیا ہے، اور اسے زکریا بن ابوزائدہ نے بھی ابن اسحاق سے روایت کیا ہے۔ اسے حسن بن سفیان نے نقل کیا ہے، ابوعمرؒ فرماتے ہیں: ”ہم نے کئی طریق سے عمر بن خطابؓ سے روایت کیا ہے کہ آپ باہر تشریف لائے اور ان کے ساتھ لوگ تھے، آپ ایک بڑھیا کے پاس سے گزرے، اس نے آپ ﷺ کو ٹھہرایا، آپ ﷺ نے رک گئے، آپ ﷺ اور وہ باتیں کرنے لگے۔ آپ ﷺ سے ایک آدمی نے کہا: اے امیر المؤمنین! آپ نے اس بڑھیا کی وجہ سے لوگوں کو ٹھہرایا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تمہاری ہلاکت ہو، کیا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ وہ خاتون ہیں کہ اللہ نے ان کا شکوہ سات آسمانوں کے اوپر سن لیا، یہ خولہ بنت ثعلبہ ہیں، جن کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئیں: ﴿اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں تجھ سے جھگڑا کر رہی تھی اور اللہ کے حضور شکوہ کر رہی تھی﴾، اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا....﴾ (الآیات)

اللہ کی قسم! اگر وہ رات تک ٹھہری رہتی، میں اس سے سوائے نماز کے علیحدہ نہ ہوتا، پھر اس کی طرف لوٹ آتا۔

فرماتے ہیں: خلید بن ولح نے بحوالہ قتادہ روایت کیا ہے، فرماتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد سے نکلے اور آپ کے ساتھ جارود عبدی تھے، ایک عورت برزہ راستے میں تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ اس نے کہا: سنو اے عمر! مجھے تمہارا زمانہ یاد ہے، تمہیں سوق عکاظ میں عمیر کہا جاتا تھا، تم اپنے عصا کے ساتھ بچوں کو ڈراتے تھے، زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ تمہیں عمر کہا جانے لگا، پھر زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ تمہیں امیر المومنین کہا جاتا ہے۔ رعیت کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اور جان رکھو کہ جو عید سے ڈرا، دور کی چیز اس کے نزدیک ہو جائے گی، جو موت سے ڈرا، اسے رہ جانے کا ڈر ہوتا ہے۔

جارود فرماتے ہیں: اے خاتون! آپ نے امیر المومنین کو زیادہ دیر کھڑا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اسے چھوڑ دو، کیا تم اسے جانتے ہو؟ یہ خولہ بنت حکیم، عبادہ بن صامت کی بیوی ہیں، جن کی بات اللہ تعالیٰ نے سات آسمانوں کے اوپر سے سنی۔ اللہ کی قسم! عمر اس کی بات سننے کا زیادہ حقدار ہے۔ اسی طرح روایت میں خولہ بنت حکیم ہے، جو عبادہ کی بیوی ہے، اور وہ وہم ہے، یعنی ان کے والد اور شوہر کے نام میں اختلاف ہے، خلید ضعیف ہیں اور ان کا حافظہ بہت کمزور ہے۔

### ۱۱۱۰ خولہ بنت حکیم

بن أمیہ بن حارث بن اوقص بن مرہ بن ہلال بن فالح بن ذکوان بن ثعلبہ بن بھضہ بن سلیم سلمیہ، عثمان بن مظعون کی بیوی ہیں، بعض کا قول ہے: ان کی کنیت ام شریک ہے۔ انہیں خویله (تقصیر کے ساتھ) کہا جاتا ہے، یہ ابو عمر کا قول ہے، فرمایا: نیک، صاحب فضیلت خاتون تھیں، نبی کریم ﷺ سے روایت کی، ان سے سعد بن ابوقاص اور سعید بن مسیب اور بشر بن سعد اور عروہ نے روایت کی ہے۔ ان سے عمر بن عبدالعزیز نے مرسل روایت کی ہے۔ حمیدی نے اپنی مسند میں بحوالہ عمر بن عبدالعزیز نقل کیا ہے: ایک نیک خاتون خولہ بنت حکیم عثمان بن مظعون کی زوجہ کا گمان ہے.... پھر حدیث ذکر کی۔

سراج نے اپنی تاریخ میں حجاج بن ارطاة کے طریق سے بحوالہ ربیع بن مالک وہ خولہ بنت حکیم سے جو عثمان بن مظعون کی زوجہ ہیں، اسے نقل کیا ہے، ہشام بن عروہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں: خولہ بنت حکیم ان خواتین میں سے ہیں، جنہوں نے اپنے نفس کو نبی پاک ﷺ کے لیے بہہ کر دیا تھا۔ بخاری نے اسے تعلقاً ذکر کیا ہے، ابونعیم نے ابوسعید مولیٰ بنو ہاشم بحوالہ ان کے والد وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں، اس روایت کو موصولاً ذکر کیا ہے۔

طبرانی نے اسے یعقوب کے طریق سے، انہوں نے محمد سے، انہوں نے ہشام سے بحوالہ ان کے والد اور انہوں نے خولہ بنت حکیم سے نقل کیا ہے کہ وہ ان خواتین میں سے تھیں جنہوں نے اپنے نفوس کو رسول اللہ ﷺ کے لیے بہہ کر دیا تھا، ابو عمر فرماتے ہیں: یہ وہی ہیں جنہوں نے رسول اللہ ﷺ سے فرمایا: یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ آپ کو اگر طائف پر فتح دے تو مجھے بادیہ بنت غیلان ابوسلامہ یا فارعہ بنت عقیل کا زیور عطا کریں۔ اور وہ ثقیف کی سب سے زیادہ زیور والی خاتون تھیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے خویله! اگر مجھے ثقیف سے جہاد کرنے کی اجازت ہی نہ ملی تو؟“ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا آپ کو ثقیف کے بارے میں اجازت ملی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”نہیں۔“

ابن مندہ نے زہری رحمہ اللہ کے طریق سے نقل کیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ خولہ بنت حکیم عثمان بن مظعون کی زوجہ ان کے پاس آئیں، ان کی خستہ حالت تھی، انہوں نے کہا: عثمان کو عورتوں سے رغبت نہیں..... (المحدث) یہ ابویمان کی روایت شعیب سے مروی ہے، ان کے علاوہ نے اسے زہری سے بحوالہ عروہ موصولاً ذکر کیا ہے، وہ اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس روایت کو ذکر کیا ہے، وہ ثابت نہیں، لیکن احمد نے ابن اسحاق کے طریق سے، ہشام بن عروہ سے بحوالہ ان کے والد، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا ہے، فرماتی ہیں: میرے پاس خولہ بنت حکیم بن امیہ بن حارث بن اوقس سلمیہ آئیں، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”خولہ کس قدر خستہ حال ہیں“۔ میں نے کہا: یہ ایسی خاتون ہیں جن کا خاوند نہیں، دن کو روزے رکھتی ہیں، رات کو قیام کرتی ہیں۔

ہشام بن بکبی فرماتے ہیں: ان خواتین میں سے تھیں جنہوں نے اپنا نفس نبی کریم ﷺ کو بہہ کر دیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ انہیں چھوڑ کر فوت ہوئے۔

### ۱۱۱۱۱ خولہ بنت حکیم الأنصاریہ \*

طبرانی \* نے ان میں اور ان سے پہلی والی صحابیہ میں فرق کیا ہے۔ اور شعبہ کے طریق سے، عطاء خراسانی سے بحوالہ سعید بن المسیب، انہوں نے خولہ بنت حکیم سے نقل کیا ہے۔ فرماتی ہیں: نبی کریم ﷺ نے انہوں نے سوال کیا: یا رسول اللہ ﷺ! عورت خواب میں دیکھے جو آدمی دیکھتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جب وہ یہ دیکھے تو اسے چاہیے کہ غسل کرے“۔

میں کہتا ہوں: بعض روایات میں ہے کہ ام عطیہ کا نام خولہ تھا، وہ اس روایت میں ہے جسے ابونعیم نے عباد بن عوام کے طریق سے بحوالہ حجاج بن ارطاة نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ربیع بن مالک نے بحوالہ ام عطیہ بیان کیا، اور ان کا نام خولہ تھا، فرماتی ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: جو کسی جگہ اترے وہ کہے: ”میں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں“..... (المحدث) \*

ام عطیہ اگر وہ انصاریہ ہیں تو مشہور ہے کہ ان کا نام نسبیہ ہے (ن کے ساتھ اور ب کی تصغیر کے ساتھ) احتمال ہے کہ ان کے دو نام ہوں یا دو ناموں میں سے ایک لقب ہو، لیکن یہ متن اس طریق سے ثابت ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اسے نقل کیا ہے، اس میں ہے: خولہ جو عثمان بن مظعون کی زوجہ ہیں ان سے روایت ہے، اس سے ظاہر ہوا کہ خولہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زوجہ تھیں ان کی کنیت ام عطیہ ہے وہ انصاریہ نہیں ہیں، بلکہ وہ سلمیہ ہیں جیسا کہ گزر چکا ہے، انصاریہ ان کے علاوہ ہیں۔

### ۱۱۱۱۲ خولہ بنت خولی \*

بن عبد اللہ انصاریہ، اوس بن خولی کی بہن ہیں، ان کا نسب ان کے بھائی کے حالات میں گزر چکا ہے۔ ابن سعد \* نے

\* اسد الغابۃ (۶۸۸۱) تجرید (۲/۲۶۶) \* المعجم الكبير (۲۴/۶۰۷)

\* مسلم (الحديث: ۶۸۱۷) ترمذی (۳۴۳۷) ابن ماجہ (۳۵۴۷) احمد (۶/۳۷۷)

\* تجرید (۲/۲۶۶) \* الطبقات الكبير (۸/۲۸۰)

بیعت کرنے والی خواتین میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۱۱۳ خولہ بنت دلیج ❁

ان کے حالات بھی خولہ بنت ثعلبہ کے سوانح میں گزر چکے ہیں۔

### ۱۱۱۱۴ خولہ بنت خویلد ❁

بعض کا قول ہے: وہ مجادلہ ہیں، ان کے حالات بھی خولہ بنت ثعلبہ کے سوانح میں گزر چکے ہیں۔

### ۱۱۱۱۵ خولہ بنت الصامت ❁

ان کے حالات بھی خولہ بنت ثعلبہ کے سوانح میں گزر چکے ہیں۔

### ۱۱۱۱۶ خولہ بنت عاصم ❁

ہلال بن امیہ کی زوجہ ہیں۔ ان پر تہمت لگی تھی، آپ ﷺ نے لعان کے ذریعے ان میں جدائی کرا دی۔ ابن مندہ کا قول ہے کہ ان کا ذکر ہے لیکن ان سے روایت نہیں ہے۔

### ۱۱۱۱۷ خولہ بنت عبداللہ الأنصاریہ ❁

فرماتی ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ”لوگوں کی مثال باہر والا کپڑا ہے اور انصار کی مثال اندر والا کپڑا ہے۔“ ان کی حدیث میں کلام ہے۔ ابو عمر ❁ نے مختصر اس کا ذکر کیا ہے۔ ابن مندہ فرماتے ہیں: ان کا شمار اہل بصرہ میں ہے۔ پھر عبدالرحمن بن عمرو بن جبلة جو ایک متروک راوی ہیں، ان کی روایت سے بحوالہ سلکینہ بنت منیع حدیث نقل کی ہے، وہ اپنی والدہ رقیہ بنت سعد سے وہ اپنی دادی خولہ بنت عبداللہ سے روایت فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا:.... پھر انہوں نے حدیث ذکر کی اور اس کے ساتھ یہ اضافہ کیا ہے: ”اے اللہ! انصار، انصار کے بیٹوں اور انصار کے پوتوں کی مغفرت فرما“۔ ❁ کیکنہ فرماتی ہیں: مجھے امید ہے کہ مجھے رسول اللہ ﷺ کی دعا پہنچی ہے۔

### ۱۱۱۱۸ خولہ بنت عبید ❁

بن ثعلبہ انصاریہ، نجاریہ۔ بیعت کرنے والی صحابیات میں سے ہیں۔ ابن سعد رحمہ اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے اور فرمایا: ان کی والدہ رعاۃ بنت عدی بن سواد ہیں، ان سے صامت بن زید بن خلدہ نے شادی کی، جس سے معاویہ پیدا ہوئے۔

❁ اسد الغابۃ (۶۸۸۲) تجرید (۲/۲۶۴) ❁ اسد الغابۃ (۶۸۸۴) تجرید (۲/۲۶۴)

❁ اسد الغابۃ (۶۸۸۵) تجرید (۲/۲۶۴) ❁ اسد الغابۃ (۶۸۸۶) تجرید (۲/۲۶۴)

❁ الاستیعاب (۱۸۱۳/۴) ❁ مجمع الزوائد (۲۱۷/۸) جامع المسانید والسنن (۴۱۶/۱۵)

❁ تجرید (۲/۲۶۵)



### ۱۱۱۱۹ خولہ بنت عقبہ \*

بن رافع اشہلیہ، ام حکم اور ام سعد کی بہن ہیں، وہ دونوں محمود بن لبید کی پھوپھیاں ہیں۔ اسلام لائیں اور بیعت کی۔ ابن سعد رحمہ اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے اور فرمایا: ان کی والدہ سلمی بنت عمرو ساعدیہ ہیں، فرماتے ہیں: حارث بن صمہ انصاری نجاری سے ان کی شادی ہوئی جس سے سعد پیدا ہوئے اس کے بعد عبداللہ بن قوادہ سے شادی ہوئی جس سے عمر پیدا ہوئے۔

۱۱۱۲۰ خولہ بنت عمرو چوتھی قسم میں ان کا ذکر آئے گا۔

### ۱۱۱۲۱ خولہ بنت القعقاع

بن معبد بن زرارہ تمیمیہ۔ ان کے والد کا ذکر گزر چکا ہے۔ وہ ابوہم بن حذیفہ کی زوجہ تھیں، ان سے محمد پیدا ہوئے، یہ گزر چکا ہے۔ خولہ معاویہ کی خلافت تک زندہ رہیں۔ ام ولد ابوہم کے ساتھ ان کا قصہ ہے، مدائنی وغیرہ نے ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۱۲۲ خولہ بنت قیس

بن سکن بن قیس بن زعوراء بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار، ابن سعد فرماتے ہیں: ہشام بن عامر بن امیہ بن زید سے ان کی شادی ہوئی، بنو مالک بن عدی بن نجار سے ہیں، اسلام لائیں اور بیعت کی۔ ام خولہ بنت سفیان بن قیس بن زعوراء ان کے والد ہیں۔

### ۱۱۱۲۳ خولہ بنت قیس \*

بن قہد (قاف کے ساتھ) بن ثعلبہ بن غنم بن مالک بن نجار انصاریہ، خزرجیہ، نجاریہ ہیں۔ محمد کی والدہ ہیں، بعض کا قول ہے: ان کے علاوہ کوئی اور ہیں، محمود بن لبید بحوالہ خولہ بنت قیس بن قہد سے روایت کرتے ہیں اور وہ حمزہ بن عبدالمطلب کی زوجہ تھیں، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی شے تیار کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھالیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کیا میں تمہیں گناہوں کے کفارے کے بارے میں نہ بتاؤں؟“ انہوں نے کہا: ”کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ناپسندیدگی کے باوجود پورا وضو کرنا، مسجد کی طرف چلنے کی کثرت اور ایک نماز کے بعد دوسری کا انتظار کرنا۔“ \*

ابن مندہ نے عالی سند کے ساتھ اسے نقل کیا ہے اور قیس بن نعمان بن رفاعہ کے طریق سے بھی نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: میں نے معاذ بن رفاعہ بن رافع کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، وہ خولہ بنت قیس بن قہد سے روایت کرتے ہیں، فرماتی ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حریر بنایا جب میں اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس میں رکھا تو گرم محسوس ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھینچ لیا، پھر فرمایا: ”اے خولہ! ہم نہ گرم چیز پر صبر کرتے ہیں نہ سرد چیز پر۔“

\* تجرید (۲۶۵/۲) الطبیقات الکبریٰ (۲۳۳/۸) \* اسد الغابۃ (۶۸۸۸) تجرید (۲۶۵/۲)

\* المعجم الکبیر (۵۹۴/۲۴) مجمع الزوائد (۲۳۸/۱)



ابن سعد فرماتے ہیں: ان کی والدہ فریجہ بنت زرارہ ہیں جو اسعد بن زرارہ کی بہن ہیں، فرماتے ہیں: حمزہ بن عبدالمطلب کے بعد حنظلہ بن نعمان بن عمرو بن مالک بن عامر بن عجلان سے نکاح ہوا، ابونعیم نے ابومعشر کے طریق سے، انہوں نے سعید المقبری سے، انہوں نے عبید سنوطی سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں: میں خولہ بنت قیس کے پاس آیا جو حمزہ کی زوجہ تھیں، ان سے پھر نعمان بن عجلان بنی النضر کے بعد نکاح کیا، میں نے کہا: اے ام محمد! آپ دیکھیں کہ آپ کیا روایت کر رہی ہیں، کیونکہ نبی کریم ﷺ سے بغیر ثبوت کے حدیث روایت کرنا سخت گناہ ہے۔ کہنے لگیں: میرا برا ہوا اگر میں تم سے رسول اللہ ﷺ کی سنی ہوئی بات بیان کرتے ہوئے جھوٹ بولوں۔ میں نے آپ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ”دنیا میٹھی اور سرسبز و شاداب ہے، جو اس سے حلال شے لے گا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیں گے اور بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کے مال میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں۔“

### ۱۱۱۴۳ خولہ بنت قیس

ام صبیہ (ص کے بعد ب کی تصغیر، تشدید کے ساتھ)۔ طبرانی \* نے اسے خارجہ بن حارث بن رافع بن مکیت جہنی کے طریق سے بحوالہ سالم بن سرح روایت کیا ہے، جو ام صبیہ بنت قیس کے مولیٰ تھے۔ اور ان کا نام خولہ بنت قیس ہے۔ جو خارجہ بنت حارث کی دادی ہیں کہ انہوں نے ان سے سنا، فرماتی ہیں: میرا اور رسول اللہ ﷺ کا ہاتھ مبارک ایک ہی برتن میں لگتا تھا۔ ابونعیم نے اسے دوسری سند سے نقل کیا ہے، بحوالہ خارجہ بن حارث، ابن مندہ کا خیال ہے کہ ام صبیہ ہی خولہ بنت قیس بن قہد ہیں۔ ابونعیم نے اس کا رد کیا ہے، اور وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ ابن سعد نے ان دونوں میں فرق کیا ہے۔

### ۱۱۱۴۵ خولہ بنت مالک

بن بشر انصاریہ زرقیہ، ابن سعد \* نے بیعت کرنے والی خواتین میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۱۴۶ خولہ بنت المنذر

بن زید بن لبید بن خراش بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار، نبی کریم ﷺ کے بیٹے ابراہیم بنی النضر کو دودھ پلاتی تھیں، اپنی کنیت ام بردہ سے مشہور ہیں۔ عدوی نے ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۱۴۷ خولہ بنت الہذیل

بن قبیصہ بن مہیرہ بن حارث بن حبیب بن حرفہ (ح کے پیش را کے سکون کے ساتھ، اس کے بعد فاء ہے) بن ثعلبہ بن بکر بن حبیب بن عمرو بن عثم بن ثعلبہ تغلیبیہ۔ بعض کا قول ہے، ان سے نبی کریم ﷺ نے نکاح کیا، وہ آپ ﷺ کے پاس پہنچنے سے قبل ہی راستے میں وفات پا گئیں، یہ ابوعمر \* کا قول ہے۔ بحوالہ جر جانی صاحب نسب۔

\* اسد الغابۃ (۶۸۸۹) المعجم الكبير (۲۳۵/۲۴) تجرید (۲۶۵/۲)

\* الطبقات الكبرى (۲۸۶/۸) تجرید (۲۶۵/۲) اسد الغابۃ (۶۸۹۰) تجرید (۲۶۵/۲)

\* الاستيعاب (۱۸۳۴/۴)

میں کہتا ہوں: مفصل بن غسان غلابی نے اپنی تاریخ میں ان کا ذکر بحوالہ علی صالح سے کیا ہے۔ انہوں نے علی بن مجاہد سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں: نبی کریم ﷺ نے خولہ بنت ہذیل سے نکاح کیا، اور ان کی والدہ خرنف بنت خلیفہ ہیں جو وحیہ کلبی کی بہن ہیں، وہ ملک شام سے سواری پر آپ ﷺ کے پاس آ رہی تھیں کہ راستے میں وفات پا گئیں، پھر آپ ﷺ نے ان کی خالہ شراف سے جو وحیہ بن خلیفہ کی بہن ہیں نکاح کیا، وہ بھی راستہ میں وفات پا گئیں، خرنف کے سواغ میں جو کچھ پہلے گزر چکے ہیں بحوالہ ابن سعد اسی طرح گزر چکا ہے۔

### ۱۱۱۳۸ خولہ بنت یسار\*

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ان کا ذکر ہے، ابن وہب نے اسے بحوالہ ابن لہیعہ نقل کیا ہے، انہوں نے یزید بن ابوجہیب سے، انہوں نے عیسیٰ بن طلحہ سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ خولہ بنت یسار نے کہا: یا رسول اللہ! خون کا دھبہ میرے کپڑے سے نہیں اترتا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”تمہیں کچھ گناہ نہیں“۔ \* ابن مندہ نے اس کا ذکر کیا ہے، ابو نعیم نے اسے متصل ذکر کیا ہے۔ بعد والی صحابیہ میں ان کا ذکر آئے گا۔

### ۱۱۱۳۹ خولہ بنت الیمان\*

حذیفہ کی بہن ہیں، ابوسلمہ بن عبد الرحمن نے ان سے روایت کی ہے، فرماتی ہیں: میں نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ”عورتوں کے کسی مجمع میں بھلائی نہیں، ہاں! جو اجتماع کسی میت کے پاس ہو، اس لیے کہ جب وہ میت کے پاس اکٹھی ہو جاتی ہیں تو کیا کچھ کہتی ہیں۔“

ابو عمر نے اس کا مختصر ذکر کیا ہے، ابن مندہ نے صلت بن مسعود کے طریق سے بحوالہ علی بن ثابت، اسے مستند ذکر کیا ہے، وہ وازع بن نافع سے وہ ابوسلمہ سے روایت کرتے ہیں، اسے اسی طرح ذکر کیا۔

ابن مندہ نے اسی طرح ابن حفص کے طریق سے بحوالہ علی بن ثابت انہوں نے وازع بن نافع سے، انہوں نے ابوسلمہ بن عبد الرحمن سے، انہوں نے خولہ بنت یسار سے روایت کیا ہے، فرماتی ہیں: میں نبی کریم ﷺ کے پاس آئی، میں نے کہا: میں حیض والی عورت ہوں، میرے پاس ایک کپڑے کے علاوہ اور کپڑا نہیں، میں نہیں جانتی میں کیا کروں یا رسول اللہ ﷺ! آپ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم پاک ہو جاؤ تو اپنے کپڑے کو دھو لو، پھر اسی میں نماز پڑھ لو“۔ میں نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! میں دیکھتی ہوں کہ اس میں خون کا داغ ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اسے دھو لو، اس کے داغ میں کوئی گناہ نہیں۔ ابو عمر فرماتے ہیں: مجھے ڈر ہے کہ وہ خولہ بنت یمان ہیں، کیونکہ ان دونوں کی حدیث کی اسناد ایک ہیں۔

میں کہتا ہوں: اگر ان دونوں کی حدیث کی سند ایک ہو اور متن میں اختلاف ہو تو لازم نہیں آتا کہ وہ دونوں ایک ہی ہوں۔ ابن مندہ نے ذکر کیا ہے کہ ایک خاتون ربیع بن خراش نے خولہ بنت یمان سے روایت کی، اور ابو مسلم کجی نے اسے متصل ذکر

\* اسد الغابہ (۶۸۹۱) تجرید (۲/۲۶۵) \* معجم الکبیر (۲۴/۲۱۱) مجمع الزوائد (۱/۲۸۲)

\* اسد الغابہ (۶۸۹۲) تجرید (۲/۲۶۵)

کیا ہے۔

ابو نعیم نے اپنے طریق سے، ابو عوانہ کی روایت سے، بحوالہ منصور انہوں نے ربیع سے، انہوں نے ایک خاتون سے، انہوں نے حذیفہ کی بہن سے روایت کیا ہے، فرماتی ہیں: ہم میں رسول اللہ ﷺ کھڑے ہوئے، اور فرمایا: اے عورتوں کی جماعت! تمہارے لیے چاندی کے پہننے کا زیور نہیں؟\* یہ حدیث سونے کے زیور پہننے کے بارے میں زجر ہے۔

### ۱۱۱۳۰ خولہ\*

رسول اللہ ﷺ کی خادمہ ہیں، ابو عمر فرماتے ہیں: ان سے حفص بن سعید نے بحوالہ اپنے والد حدیث روایت کی ہے۔ وہ ان سے ﴿الضحیٰ﴾ کی تفسیر بیان کرتے ہیں، ان کی حدیث کی سند کے بیان کی ضرورت نہیں۔

میں کہتا ہوں: ابو بکر بن ابوشیبہ اور طبرانی نے ابو نعیم کے طریق سے بحوالہ حصہ اسے نقل کیا ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں: وہ اپنی والدہ سے روایت کرتی ہیں کہ وہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت کیا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ کتے کا بچہ گھر میں داخل ہوا اور چار پائی کے نیچے چلا گیا، نبی کریم ﷺ پر تین دن وحی نازل نہ ہوئی، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے خولہ! رسول اللہ ﷺ کے گھر میں کیا واقعہ پیش آیا کہ جبریل علیہ السلام تشریف نہیں لاتے؟“ انہوں نے عرض کی: اللہ کی قسم! مجھے معلوم نہیں۔ آپ ﷺ نے چادر اوڑھی اور باہر تشریف لے گئے۔ میں نے کہا: میں گھر کی صفائی کر دوں۔ میں نے اس میں جھاڑو دیا تو وہاں مرا ہوا پلا تھا، میں نے اسے اٹھا کر پھینک دیا۔ نبی کریم ﷺ تشریف لائے اور آپ ﷺ کپکپا رہے تھے، جب آپ ﷺ پر وحی نازل ہوتی تو کپکپاہٹ طاری ہو جاتی، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے خولہ! مجھے اوڑھا دو“۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں: ﴿قسم ہے چاشت کی اور رات کی جب وہ چھا جائے....﴾\*

### ۱۱۱۳۱ خولہ\* (بے نسبت)

طبرانی نے ان کا علیحدہ ذکر کیا ہے، ابو نعیم فرماتے ہیں: میرا گمان ہے کہ وہ حمزہ کی زوجہ ہیں، ابن ابوعاصم اور حسن بن سفیان اور طبرانی نے بقیہ کے طریق سے سلیمان بن عبد الرحمن بن ابوالجوز سے، انہوں نے ابوسعید بن عاص سے، انہوں نے معاویہ بن اسحاق سے انہوں نے خولہ سے نقل کیا ہے۔ فرماتی ہیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کسی قوم کو پاک نہیں کرتا، جس کے ضعیف اپنے قوی سے حق نہیں لے سکتے جو اپنے قرض خواہ کے پاس سے لوٹے اور وہ اس سے راضی ہو تو زمین کے جاندار اور سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے سلامتی کی دعا بھیجتی ہیں۔ اور جو اپنے قرض خواہ سے ناراض لوٹا اس کے لیے ہر دن ہر رات ہر جمعہ ہر مہینہ اور ہر سال ظلم کھا جاتا ہے۔“

### ۱۱۱۳۲ خولہ بنت الأسود

خولہ بنت ثعلبہ، خولہ بنت حکیم، خولہ بنت خویلد اور خولہ بنت قیس ان سب کا ذکر گزر چکا ہے۔

\* الاحاد والمثنائی (۶۳/۶) \* المعجم الكبير (۶۲۰/۲۴) \* اسد الغابۃ (۶۸۸۳) تجرید (۲/۲۶۴)

\* سورة الضحیٰ (الآیات: ۵-۱) \* اسد الغابۃ (۶۸۹۳) تجرید (۲/۲۶۵) \* المعجم الكبير (۲۴/۶۳۵)

### ۱۱۱۳۳ خیرہ بنت ابی امیہ

بن حارث بن مالک بن کعب بن نخط، انصاریہ، بنو غنم بن سلیم سے ہیں، مکلف بن محیصہ بن مسعود انصاری کی زوجہ ہیں، ابن سعد فرماتے ہیں: اسلام لائیں اور بیعت کی۔

### ۱۱۱۳۴ خیرہ بنت ابی حلدہ

ام درداء کبری، احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین نے ان کا نام لیا ہے جو ابن ابوشمہ نے ان دونوں سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں: ابو حلدہ کا نام عبد تھا، اور فرمایا: ام الدرداء صغریٰ کا نام جیمہ تھا اور ان دونوں کے علاوہ نے کہا کہ ان کا نام جیمہ تھا۔ ابو عمر فرماتے ہیں: ام درداء کبری صاحب فضیلت اور عقلمند خواتین میں سے تھیں اور ان میں صاحب رائے تھیں، عبادت گزار اور قربانی کرنے والی تھیں، ابو درداء سے پہلے شام میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں وفات پائی۔ انہوں نے نبی کریم ﷺ اور اپنے شوہر سے حدیث یاد کی، ان سے تابعین کی ایک جماعت نے روایت کی ہے۔ ان میں میمون بن مہران، صفوان بن عبد اللہ اور زید بن اسلم شامل ہیں، فرماتے ہیں: ام درداء صغریٰ ان کے بارے میں ایسی کوئی روایت نہیں جو ان کے صحابیہ ہونے یا دیدار حاصل ہونے پر دلالت کرتی ہو، ان کے حالات میں سے یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ابو درداء کے بعد انہیں پیغام نکاح دیا لیکن انہوں نے ان سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔

میں کہتا ہوں: ابو زاہریہ نے جبیر بن نفیر سے، انہوں نے ام درداء سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے ابو درداء رضی اللہ عنہ سے کہا: تم نے میرے والدین کو دنیا میں نکاح کا پیغام دیا تھا، تو انہوں نے میرا نکاح آپ سے کر دیا، میں آپ کو آخرت میں آپ کے نفس کے بارے میں پیغام دیتی ہوں، انہوں نے فرمایا: میرے بعد نکاح نہ کرنا۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے انہیں نکاح کا پیغام دیا، تو انہوں نے اس کا ذکر کر دیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا: تم روزے رکھو۔ تاریخ ابن عساکر میں ان کے مکمل سوانح ہیں، اور جو ابو عمر نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے بحوالہ ام درداء کبریٰ روایت کی، وہ وہم ہے۔ کیونکہ وہ صغریٰ سے روایت کرنے والے راوی ہیں۔ سوائے میمون بن مہران کے، کیونکہ انہوں نے ان کا زمانہ پایا اور ان سے روایت کی۔ مزی وغیرہ نے اسی کا یقین کیا ہے۔

ابن مندہ فرماتے ہیں: ام درداء خیرہ ہیں، بعض کا قول ہے: ان کا نام جیمہ ہے۔ ابن اثیر نے اس کا تعاقب کیا ہے۔ علی بن مدینی کا قول ہے کہ ابو درداء کی دو بیویاں تھیں دونوں کو ام درداء کہا جاتا تھا، ان میں سے ایک نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا اور وہ خیرہ بنت ابو حلدہ ہیں، اور دوسری سے نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد نکاح کیا، ان کا نام جیمہ وصائبہ ہے۔ ابو مسھر فرماتے ہیں: دونوں ایک ہیں، اس میں وہم ہے، ابن ماکولا کا قول ہے: ام درداء کبریٰ انہیں شرف صحابیت حاصل ہے۔ وہ ابو درداء سے پہلے فوت ہو گئیں اور صغریٰ وہی ہیں جنہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام دیا۔ ابن مندہ نے ام درداء سے مرفوع حدیث شریک

تجريد (۲۶۵/۲) الطبقات الكبرى (۲۶۰/۸) اسد الغابة (۶۸۹۴) تجريد (۲۶۶/۲)

الاستيعاب (۱۸۳۴/۴) اسد الغابة (۲۷۵/۵)

کے طریق سے نقل کی ہے، جو انہوں نے خلف بن حوشب سے اور انہوں نے میمون بن مہران سے نقل کی، فرماتے ہیں: میں نے ام درداء سے کہا: کیا آپ نے نبی کریم ﷺ سے کچھ سنا ہے؟ کہنے لگیں: جی ہاں! میں آپ ﷺ کے پاس آئی، آپ ﷺ مسجد میں تشریف فرما تھے، میں نے سنا وہ کہہ رہے تھے: ”میزان میں رکھی جانے والی حسن خلق سے بڑھ کر کوئی شے نہیں۔“

طبرانی \* نے زبان بن فائد کے طریق سے، سہل بن معاذ بن انس سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے ام درداء سے فرماتے ہوئے سنا: میں حمام سے نکلی تو آپ ﷺ مجھے ملے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”کوئی عورت جو اپنے کپڑے اپنے امہات میں سے کسی ایک کے گھریا شوہر کے گھر کے علاوہ اتارتی ہے، گویا اس پردے کو جو اس کے اور اللہ کے درمیان ہے چاک کرنے والی ہے۔“ (الحديث) \* اس کی سند بہت ضعیف ہے۔

### ۱۱۱۳۵ خیرہ بنت قیس الفہریہ

فاطمہ کی بہن ہیں، سعید بن زید بن عمرو بن نفیل جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کی زوجہ ہیں، طبرانی کی مسند اہل شام میں ان کا ذکر ہے۔

### ۱۱۱۳۶ خیرہ \*

کعب بن مالک انصاری کی زوجہ ہیں جو نبی کریم ﷺ کے شاعر ہیں، بعض کا قول ہے: حاء کے ساتھ ہے، ان کی حدیث لیث کے ہاں ابن وہب کی روایت سے ہے جو وہ ان سے روایت کرتے ہیں، اس کی سند ضعیف ہے۔ اس پر حجت قائم نہیں ہوئی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”عورت کے لیے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے مال میں تصرف کرنا جائز نہیں۔“ ابو عمر \* نے اسی طرح کہا ہے۔ ابن ماجہ \* نے اسے موصولاً ذکر کیا ہے اور ابن مندہ نے اس طریق سے لیث سے، انہوں نے کعب بن مالک کی اولاد میں سے ایک آدمی جسے عبد اللہ بن یحییٰ کہا جاتا تھا، انہوں نے اپنے والد انہوں نے اپنے دادا سے روایت کیا ہے کہ ان کی وادی خیرہ جو کعب بن مالک کی زوجہ تھیں، نبی کریم ﷺ کے پاس آئیں اور کہنے لگیں: میں یہ زیور صدقہ کرتی ہوں.... پھر حدیث ذکر کی، اس میں ہے: ”کیا تم نے کعب سے اجازت لی ہے؟“ انہوں نے عرض کیا: جی ہاں، ابن مندہ کا قول ہے: اسے یحییٰ بن عبد اللہ بن کعب نے اپنی والدہ بنت عبد اللہ بن انس، انہوں نے اپنی والدہ فاضلہ انصاریہ سے روایت کیا ہے، ان کا ذکر آگے آئے گا۔

### القسم الثانی از حرف حاء

### ۱۱۱۳۷ خدیجہ بنت الزبیر

بن عوام، قسم اول میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔ غالب گمان ہے کہ وہ اس قسم میں سے ہے، کیونکہ نبی کریم ﷺ کے زمانے

\* المعجم الكبير (۶۴۶/۲۴) مسند احمد (۳۶۲/۶) مجمع الزوائد (۲۷۷/۱)

\* اسد الغابہ (۶۸۹۴) تجرید (۲۶۶/۲) الاستیعاب (۱۸۳۵/۴) ابن ماجہ

میں وہ چھوٹی تھیں۔

### القسم الثالث از حرف خاء

#### ۱۱۱۳۸ خولہ الحنفیہ

محمد بن علی بن ابوطالب کی والدہ ہیں، قسم اول میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔ اگر یہ نہ ثابت ہو کہ جس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا گیا تو وہ مسلمان تھیں ورنہ وہ اس قسم میں سے ہیں۔

#### ۱۱۱۳۹ خولہ بنت الہذیل

پہلی قسم میں ان کا ذکر گزر چکا ہے، اور ان کے قصے سے ظاہر ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کا زمانہ نہیں پایا، تو وہ اس قسم میں سے ہوں گی۔

### القسم الرابع از حرف خاء

#### ۱۱۱۴۰ خولہ بنت عمرو

ابن مندہ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ اور عبدالملک بن یحییٰ کے طریق سے بحوالہ ہشام بن عروہ، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے، فرماتی ہیں: نبی کریم ﷺ نے ایک اعرابی سے اونٹ خریدا، حضرت خولہ بنت عمرو کی طرف۔

پھر فرمایا: مدحی بن رجباء وغیرہ نے ہشام سے روایت کیا ہے، وہ اپنی حدیث میں کہتے ہیں: خولہ بنت حکیم کی طرف بھیجا اور یہ زیادہ صحیح ہے۔

میں کہتا ہوں: خولہ بنت حکیم سے یہ حدیث مشہور ہے جبکہ یہ کہنا بنت عمرو کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، واہم ہے، یہ احتمال بھی ہے کہ قصے ایک سے زائد ہوں، میں نے پہلی قسم میں اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔



## حرفِ دال

### النقسم الاول از حرف دال

#### ۱۱۱۳۱ دُبیہ

(دال کے پیش، ب کے سکون، ی کے ساتھ) بنت خالد بن نعمان بن خضاء، بنو غنم بن مالک بن نجار سے ہیں۔ میں نے اسے قابل اعتماد تحریر میں ب اور ی کی تشدید دونوں کے ساتھ دیکھا ہے، ان کی کنیت اُم ساک ہے، اسلام لائیں اور بیعت کی، ابن سعد نے ان کا ذکر کیا ہے اور فرمایا: ان کی والدہ ادام بنت عمرو بن معاویہ ہیں، ان سے یزید بن ثابت بن ضحاک نے نکاح کیا، اس سے عمارہ پیدا ہوئیں۔

#### ۱۱۱۳۲ دِجاجة بنت اسماء

عبداللہ بن عامر بن کرز کی والدہ ہیں، عمر بن شبہ نے ذکر کیا کہ نبی کریم ﷺ نے دیکھا عمیر کے پاس پانچ بیویاں تھیں، انہوں نے دِجاجة بنت اسماء کو طلاق دے دی، ان سے عامر بن کرز نے شادی کی جس سے عبداللہ بن عامر پیدا ہوئے۔

#### ۱۱۱۳۳ ذرہ بنت اُبی سفیان

صحز بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف امویہ، ام حبیبہ کی بہن ہیں جن کے بارے میں انہوں نے نبی کریم ﷺ سے عرض کیا تھا: میری بہن بنت ابوسفیان سے نکاح کر لیجئے۔

مذکورہ حدیث جو ابو موسیٰ کے ہاں ہے اس کے بعض طریق میں ان کا نام آیا ہے۔ عبدالجبار بن العلاء کے طریق سے بحوالہ سفیان، انہوں نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے زینب بنت ابوسلمہ سے نقل کیا ہے، فرماتی ہیں: ام حبیبہ نے نبی کریم ﷺ سے عرض کیا: کیا آپ کو ذرہ بنت ابوسفیان میں رغبت ہے؟.... (الحدیث) بعض کا قول ہے: ان کا نام عزرة ہے۔ ابو عمرؒ فرماتے ہیں: وہ مشہور ہے۔ بعض کا قول ہے: ان کا نام حمہ ہے، جیسا کہ گزر چکا ہے۔

#### ۱۱۱۳۴ ذرہ بنت اُبی سلمہ

بن عبدالاسد بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم مخزومیہ۔ یہ وہی ہیں جن کے بارے میں ام حبیبہ نے عرض کیا تھا، اس سے قبل یہ قصہ گزر چکا ہے کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ایک ذرہ بنت ابوسلمہ سے نکاح کرنے والے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر وہ میری پرورش

تجريد (۲۶۶/۲) \* تجريد (۲۶۶/۲) \* اسد الغابہ (۶۸۹۵) تجريد (۲۶۶/۲)

الاستيعاب (۱۸۳۵/۴) \* اسد الغابہ (۶۸۹۶) تجريد (۲۶۶/۲)

میں نہ ہوتی تب بھی میرے لیے حلال نہیں، کیونکہ وہ میرے رضاعی بھائی کی بیٹی ہے۔ \*

بخاری کی حدیث کے بعض طرق میں ان کا نام آیا ہے، لیث کے طریق سے، بحوالہ یزید بن ابوصیب وہ عراق بن مالک سے وہ حضرت زینب بنت ابوسلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم ﷺ سے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ ﷺ دُرّہ بنت ابوسلمہ سے نکاح کرنے والے ہیں..... (الحدیث) زبیر بن بکار نے کتاب النسب میں ابوسلمہ بن عبدالاسد کی اولاد میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۱۴۵ دُرّہ بنت ابی لہب \*

بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمناف ہاشمیہ، نبی کریم ﷺ کے چچا کی بیٹی ہیں، اسلام لائیں اور ہجرت کی، حارث بن نوفل بن حارث بن عبدالمطلب کے نکاح میں تھیں، ان سے عقبہ اور ولید وغیرہ پیدا ہوئے، ابن عبدالبر نے انہی طرح لکھا ہے۔ ابن سعد \* فرماتے ہیں: ان سے حارث بن عامر بن نوفل بن عبدمناف بن قصی نے نکاح کیا، اس سے ولید ابوحسن اور اسلم پیدا ہوئے، پھر بدر کے دن وہ حالت کفر میں مارا گیا، اس کے بعد وحیہ بن خلیفہ کلبی سے نکاح ہوا۔

ابن ابوعاصم، طبرانی اور ابن مندہ نے عبدالرحمن بن بشر، جو ضعیف ہے، کے طریق سے بحوالہ محمد بن اسحاق، انہوں نے نافع اور زید بن اسلم سے انہوں نے ابن عمر سے انہوں نے سعید مقبری اور ابن منکدر سے انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور عمار بن یاسر سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں: دُرّہ بنت ابولہب نے مدینہ ہجرت کی اور دارالرفع بن معلیٰ میں اُتریں۔ انہیں بنو ذریق کی عورتیں کہنے لگیں: تم ابولہب کی بیٹی ہو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ہاتھ نہ لائیں ابولہب کے﴾۔ تو تمہاری ہجرت تمہارے کیا کام آئے گی؟ حضرت دُرّہ نے نبی کریم ﷺ کے پاس آئیں اور آپ ﷺ کو بتایا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں نے جاؤ۔“ پھر لوگوں کو ظہر کی نماز پڑھائی اور منبر پر تھوڑی دیر بیٹھے پھر فرمایا: ”اے لوگو! کیا وجہ ہے کہ مجھے میرے گھر والوں کے بارے میں ایذا دی گئی؟ اللہ کی قسم! میری شفاعت میرے رشتہ داروں کو پہنچے گی یہاں تک کہ ضدّاء، حکم اور سہب کو بھی قیامت کے دن حاصل ہوگی۔“ \*

ابن مندہ نے یزید بن عبدالمطلب نوفلی، جو بہت کمزور ہیں، کے طریق سے بحوالہ سعید مقبری اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سنیعہ بنت ابولہب رسول اللہ ﷺ کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ لوگ میرے بارے میں یہ بات پھیلا رہے ہیں کہ میں آگ کے اندھن کی بیٹی ہوں۔ رسول اللہ ﷺ غصے میں کھڑے ہوئے اور فرمایا: ”لوگوں کو کیا ہوا کہ میرے نسب اور رشتہ داروں کے بارے میں مجھے ایذا دیتے ہیں، بن رکھو! جو میرے اہل نسب اور قرابت داروں کو ایذا دے اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی، اس نے اللہ کو ایذا دی۔“

پھر فرمایا: اسے محمد بن اسحاق وغیرہ نے مقبری سے روایت کیا ہے، کہنے لگے: دُرّہ بنت ابولہب آئیں.... پھر اسی طرح روایت کیا، ابونعیم فرماتے ہیں: صحیح دُرّہ ہے۔

\* بخاری (الحديث: ۵۱۲۳) \* اسد الغابہ (۶۸۹۷) تجرید (۲/۲۶۶)

\* الطبقات الکبریٰ (۳۴/۸) \* المعجم الکبیر (۶۶۰/۲۴) الاحاد والمثنائی (۴۷۰/۵)



## الاصول فی تفسیر الصحیح (جلد ۱۵)

میں کہتا ہوں: احتمال ہے کہ ان کے دو نام ہوں یا دونوں میں سے ایک لقب ہو، یا یہ قصہ دو خواتین کے ساتھ پیش آیا ہو۔ دارقطنی نے کتاب الاخوہ اور ابن عدی نے کامل میں اور ابن مندہ نے علی بن ابی لہی کے طریق سے بحوالہ جعفر بن محمد، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا سے، انہوں نے علی بن ابی طالب سے نقل کیا ہے، انہوں نے درہ بنت ابولہب سے نقل کیا ہے، فرماتی ہیں: نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”کسی زندہ کومیت کی وجہ سے اذیت نہ دی جائے (یعنی کسی کے مردہ رشتہ دار کو برا بھلا نہ کہا جائے، جس سے زندہ کو دکھ یا اذیت پہنچے)۔“

ابن مندہ کی روایت میں سماک بن حرب کے طریق سے بحوالہ زوج درہ بنت ابولہب مروی ہے، فرماتے ہیں: یا رسول اللہ ﷺ! کون سا شخص بہتر ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”لوگوں میں سب سے بہتر زیادہ قراءت کرنے والا، زیادہ پرہیزگار، بھلائی کا حکم دینے والا اور برائی سے منع کرنے والا اور صلہ رحمی کرنے والا۔“ ❀

پھر طویل حدیث ذکر کی، اور اسے مسند عائشہ کے شروع میں ذکر کیا۔ بلاذری نے ذکر کیا ہے کہ زید بن حارثہ نے ان سے نکاح کیا، اور شاید یہ حارث بن نوفل سے نکاح سے پہلے ہو، بعض کا قول ہے، دحیہ کلبی سے ان کا نکاح ہوا، ابن مندہ نے محمد بن سلمہ کے طریق سے بحوالہ ابن اسحاق، انہوں نے محمد بن عمرو سے، انہوں نے عطا سے انہوں نے علی بن حسین سے، انہوں نے درہ بنت ابولہب سے نقل کیا ہے، وہ دحیہ بن خلیفہ کی زوجہ تھیں، لوگوں کو کھانا کھلاتی تھیں، ان کے پاس منافقین کا ایک گروہ آیا، ان میں سے بعض نے کہا: محمد کی مثال انگور کے اس خوشے کی طرح ہے جو صحن میں آگے، اسے درہ بنت ابولہب نے سنا تو ام سلمہ کے پاس گئیں اور ان سے یہ ذکر کیا، اور یہ حجاب کے نزول سے قبل کا واقعہ ہے، پھر ابن اسحاق کی طویل حدیث کی طرح ذکر کیا۔

### ۱۱۱۳۶ عدد بنت عامر

بعض کا قول ہے: بنت عبید بن دھمان، وہ ام رومان ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ ہیں، کئیوں میں ان کا ذکر آئے گا۔

### القسم الثانی از حرف وال

خالی ہے، اسی طرح قسم ثالث بھی خالی ہے۔

### القسم الرابع از حرف وال

### ۱۱۱۳۷ دقرہ ❀

اذینہ کی ام ولد ہیں: طبرانی نے ان کا ذکر کیا ہے اور فرمایا: بعض کا قول ہے انہیں شرف صحابیت حاصل ہے، ان سے کوئی حدیث مروی نہیں ہے۔

میں کہتا ہوں: یہ پہلے طبقے کی تابعیہ ہیں، ان کا نام ق کے ساتھ ہے، وہ بنت غالب راسبیہ بصریہ ہیں، جو عبد الرحمن بن اذینہ کی والدہ ہیں۔

نسائی نے عدت کے بارے میں ان کی روایت بحوالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نقل کی ہے۔ ابن حبان نے ثقات تابعین میں ان کا ذکر کیا ہے۔ ان سے محمد بن سیرین اور ہذیل بن میسرہ نے روایت کی، ان کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کپڑے پر صلیب کے بارے میں حدیث مروی ہے۔

ابن ابوجاتم کو ان کے بارے میں وہم ہے، ان کا گمان ہے کہ وہ آدمی ہیں: فرماتے ہیں دقرہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، اور ان سے ہذیل بن میسرہ نے روایت کی، مزنی، تہذیب میں فرماتے ہیں: اس میں وہم ہے۔



## حرف ذال

استیعاب میں یہ حرف صحابیات کے ذکر سے خالی ہے۔

### القسم الاول از حرف ذال

#### ۱۱۱۳۸ ذرہ ، غیر منسوبہ \*

ابونضر اور ہاشم بن قاسم کے پاس ان کی حدیث ہے جو انہوں نے جعفر رازی سے انہوں نے لیٹ سے، انہوں نے ابن منکدر سے، انہوں نے ذرہ سے نقل کی ہے، فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جو اس کا قرابت دار ہو یا قرابت دار نہ ہو، ان دو انگلیوں کی طرح جنت میں ہوں گے“ اور اپنی انگلیوں کی طرف اشارہ کیا، ”اور بیوہ مسکین کی خبر گیری کرنے والا گویا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے، اور اس قیام کرنے والے روزے دار کی طرح ہے جو افطار نہیں کرتا۔“ \*

### القسم الثاني از حرف ذال

دوسری، تیسری، چوتھی قسم کسی کے ذکر سے خالی ہے۔



## حرفِ راء

www.KitaboSunnat.com

قسم الاول از حرف راء

### ۱۱۱۳۹ رابعہ بنت ثابت \*

بن فاکہ بن ثعلبہ انصاریہ، بنو حنظلہ سے ہیں، ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۱۵۰ رابطہ بنت حارث \*

بن جلیلہ بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ قرشیہ تیمیہ، حارث بن خالد بن صخر بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ، ابن اسحاق \* نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں ان کا ذکر کیا ہے۔ بعض کا قول ہے: ان کا نام ربطہ بغیر الف کے ہے، ابن سعد اور ابو عمر \* نے اسی پر اعتماد کیا ہے اور فرمایا: ان کی والدہ زینب بنت عبداللہ بن ساعدہ خزاعیہ ہیں اور وہ صبیحہ بنت رث کی بہن ہیں، مکہ میں ابتدائی دور میں اسلام لائیں، بیعت کی اور حبشہ کی طرف ہجرت کی، وہاں ان کے ہاں موسیٰ اور عائشہ رہا ہوئے، موسیٰ حبشہ میں فوت ہو گئے، اور ربطہ راستے میں لوٹتے ہوئے وفات پا گئیں۔

### ۱۱۱۵۱ رابطہ بنت حسان \*

بن عذرہ بن ثامرہ، ہوازن کے قیدیوں میں سے تھیں۔ رسول اللہ ﷺ نے انہیں علی بن ابوطالب کو دے دیا، جنہوں نے قرآن کا کچھ حصہ سکھایا۔ ابن اسحاق \* نے یونس بن بکیر وغیرہ کی ان سے مروی روایت میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۱۵۲ رابطہ بنت سفیان \*

بن حارث خزاعیہ، قدامہ بن مظعون کی زوجہ ہیں، ان کا ذکر ان کی بیٹی عائشہ بنت قدامہ بن مظعون کے سوانح میں ہے۔

### ۱۱۱۵۳ رابطہ بنت عبداللہ \*

عبداللہ بن مسعود کی زوجہ ہیں، ان کے حالات ربطہ کے سوانح میں آئیں گے۔

اسد الغابۃ (۶۹۰/۴) تجرید (۲۶۷/۲) \* اسد الغابۃ (۶۹۰/۰) تجرید (۲۶۶/۲)

السیرۃ النبویۃ (۴۱۴) \* الاستیعاب (۱۸۷۴/۴) \* اسد الغابۃ (۶۹۰/۱) تجرید (۲۶۷/۲)

السیرۃ النبویۃ (۱۰۵/۴) \* اسد الغابۃ (۶۹۰/۲) تجرید (۲۶۷/۲) \* الاستیعاب (۲۸۴۷/۴)

اسد الغابۃ (۶۹۰/۳) تجرید (۲۶۷/۲)

### ۱۱۱۵۳ رانطہ بنت کرامہ المذحجیہ

طبرانی نے کبیرؒ میں علی بن ابوعلی کے طریق سے شععی سے بحوالہ رابطہ بنت کرامہ نقل کیا ہے، فرماتی ہیں: ہم نبی کریم ﷺ کے پاس تھے، آپ ﷺ نے مسافروں کی ایک جماعت سے کہا: ”تمہارے ساتھ ہرگز کوئی بھٹکا ہوا اونٹ نہ ہو اور نہ تم میں سے کوئی شخص کسی برگشتہ اونٹ کا ذمہ دار بنے اور اگر تمہیں نفع اور سلامتی کی چاہت ہے تو کسی سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا.....“۔ (المحدث)

### ۱۱۱۵۵ الرباب بنت البراءؒ

بن معرور، تجرید میں صرف انہی کا ذکر ہے گویا کہ یہ مستند سمجھی جاتی ہے۔ مشہور ہے کہ ان کے والد نبی کریم ﷺ کے زمانے میں ہجرت کے شروع میں وفات پا گئے، تو یہ اس قسم میں سے ہیں۔

### ۱۱۱۵۶ الرباب بنت حارثہؒ

بن سنان انصاریہ، تجریدؒ میں اسی طرح ہے۔ ان کے بارے میں واقدی فرماتے ہیں: الرباب بنت کعب بن عدی بن عبدالاشہل انصاریہ، حذیفہ بن یمان کی والدہ ہیں۔ ابن سعدؒ اور ابن حبیب نے نبی کریم ﷺ سے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے، ابن سعد فرماتے ہیں: یمان سے ان کی اولاد ہوئی، جن کے نام یہ ہیں: حذیفہ، سعد، صفوان، مدح، لیلیٰ۔

### ۱۱۱۵۷ الرباب بنت النعمانؒ

بن امرئ القیس بن عبدالاشہل انصاریہ اشہلیہ، معاذ بن زرارہ ظفری کی والدہ ہیں، ابن حبیب نے اسی طرح ذکر کیا ہے۔ ابن سعدؒ فرماتے ہیں: سعد بن معاذ کی پھوپھی ہیں، ان سے زرارہ بن عمرو بن عدی اوسی نے نکاح کیا جس سے معاذ پیدا ہوئے، اس کے بعد معرور بن صخر نے نکاح کیا، جس سے رباب پیدا ہوئیں، رباب اسلام لائیں اور بیعت کی۔

### ۱۱۱۵۸ الرباب (بے نسبت)

محمود بن احمد فریابی نے کتاب خالصۃ الحقائق میں ان کا ذکر کیا ہے کہ وہ عمرو نامی شخص کی زوجہ تھیں۔ ان دونوں نے آپس میں معاہدہ کیا کہ دونوں میں سے ایک فوت ہو گیا۔ تو دوسرا اپنی موت تک شادی نہ کرے گا، ان کا شوہر فوت ہو گیا تو ایک مدت تک وہ بغیر نکاح کے رہیں، پھر ان کے والد نے ان کا نکاح کر دیا، انہوں نے اس رات عمرو کو شعر پڑھتے ہوئے دیکھا، صبح ہوئی تو وہ خوفزدہ تھیں، انہوں نے نبی کریم ﷺ سے قصہ بیان کیا، آپ ﷺ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی موت تک تنہائی سے اُنس حاصل کریں، اور ان کے شوہر کو انہیں جدا کرنے کا حکم دیا، انہوں نے ایسا ہی کیا۔

میں کہتا ہوں: یہ حکایت اور اشعار جو اس قصے میں مذکور ہیں، ان دونوں کے علاوہ کسی اور کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔

المعجم الكبير (۳۷۶/۲۲) \* اسد الغابۃ (۶۹۰۵) تجرید (۲۶۷/۲)

اسد الغابۃ (۶۹۰۶) تجرید (۲۶۶/۲) \* التجرید (۱۸۶) \* الطبقات الكبرى (۲۶۹/۸)

اسد الغابۃ (۶۹۰۸) تجرید (۲۶۷/۲) \* الطبقات الكبرى (۲۳۱/۸)

ان کے شوہر کا نام مالک بن نصر تھا، اور وہ قتیبہ بن مسلم کی خراسان پر گورنری کے زمانے میں تھے، یہ پہلی صدی ہجری کے آخری سالوں کی بات ہے۔

### ۱۱۱۵۹) الرِّبْذَاءُ بِنْتُ عَمْرٍو\*

بن عمارہ بن عطیہ بلویہ۔ ان کے مولا یاسر کے سوانح میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔ جو آخری حرف ی میں ہے، میں نے وہاں ان کا نام تحریر کیا ہے۔

### ۱۱۱۶۰) رُبِيعَه

تغیر کے ساتھ ہے، نبی کریم ﷺ کی باندی تھیں۔ ابن سعد نے ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۱۶۱) الرُّبِيعُ\*

(تغیر کے ساتھ اور تشدید سے ہے)۔ بنت حارثہ بن سنان رباب کی بہن ہیں جن کا ذکر ابھی گزرا ہے۔ واقدی نے بھی ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۱۶۲) الرُّبِيعُ بِنْتُ طَفِيلٍ\*

بن نعمان بن خضاء بن سنان، ابن سعد\* نے بیعت کرنے والی خواتین میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۱۶۳) الرُّبِيعُ بِنْتُ مَعُوذٍ\*

بن عفراء بن حرام بن جندب انصاریہ نجاریہ، بنو عدی بن نجار سے ہیں، ان سے ایاس بن کبیر لیشی نے نکاح کیا، جس سے محمد پیدا ہوئے، انہیں دیدار حاصل ہے۔ ان کے بیٹے کے سوانح میں ان کا نسب گزر چکا ہے۔ ابن ابوشیمہ بحوالہ اپنے والد فرماتے ہیں: درخت کے نیچے بیعت کرنے والی صحابیات میں سے ہیں، ابو عمر\* فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ کے ساتھ بعض غزوات میں شریک ہوئیں۔

ابن سعد\* فرماتے ہیں: ان کی والدہ ام یزید بنت قیس بن زَعُوْرَاء ہیں، نبی کریم ﷺ سے روایت کی، ان سے ان کی بیٹی عائشہ بنت انس بن مالک نے اور نافع مولیٰ ابن عمر، عبادہ بن ولید بن عبادہ بن صامت، خالد بن ذکوان، عبد اللہ بن محمد بن عقیل، ابو عبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر نے روایت کی۔ بخاری و ترمذی وغیرہ نے خالد بن ذکوان کے طریق سے بحوالہ ربیع بنت معوذ روایت کیا، فرماتی ہیں: نبی کریم ﷺ میرے پاس تشریف لائے اور اس وقت میری رخصتی ہوئی تھی۔ آپ ﷺ میرے بستر پر بیٹھ گئے، جیسے آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں تو لڑکیوں نے دف بجانا شروع کیا اور بدر کے دن میرے مقتول آباء کی تعریف کرنے لگیں،

\* اسد الغابہ (۶۹۰/۲) تجرید (۲۶۷/۲) \* تجرید (۲۶۷/۲) \* تجرید (۲۶۷/۲)

\* الطبقات الکبریٰ (۲۹۳/۸) \* اسد الغابہ (۶۹۱۰) تجرید (۲۶۷/۲)

\* الاستیعاب (۱۸۳۷/۴) \* الطبقات الکبریٰ (۲۹۷/۸)

## الاصول فی تبيين الصحاح (جلد ۸)

۱۷۶

جب ان میں سے ایک نے کہا: ہم میں نبی ہیں جو آنے والی کل کے بارے میں جانتا ہے، تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اس بات کو چھوڑ دو اور پہلے والی بات کہتی رہو“۔

ابوداؤد اور ترمذی، ابن ماجہ نے بہت سی احادیث میں ابن عقیل کی روایت سے نقل کیا ہے، جس میں وہ نبی کریم ﷺ سے وضو کی صفت کے بارے میں روایت کرتی ہیں۔ اس میں یہ بھی ہے: ہمارے پاس تشریف لاتے تھے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”میرے لیے وضو کا پانی انڈیلو“..... (حدیث)

ابن مندہ نے اسامہ بن زید لیشی کے طریق سے بحوالہ ابو عبیدہ بن محمد روایت کیا ہے، فرماتے ہیں: میں نے ربیع بنت معوذ سے کہا: مجھ سے رسول اللہ ﷺ کے اوصاف بیان کیجئے، کہنے لگیں: اے بیٹے! اگر تم انہیں دیکھ لیتے تو گویا تم نے روشن سورج کو دیکھا ہے۔

بخاری، نسائی اور ابومسلم کجی نے بشر بن مفضل کے طریق سے خالد بن ذکوان سے، انہوں نے ربیع بنت معوذ سے روایت کیا ہے، فرماتی ہیں: ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جہاد کرتی تھیں، اور لوگوں کو پانی پلاتیں اور ان کی خدمت کرتی تھیں، مقتولوں اور زخمیوں کو مدینہ واپس لاتی تھیں، یہ ابومسلم کے الفاظ ہیں۔ اور بخاری کی روایت میں ہے: ہم پانی پلاتی تھیں اور زخمیوں کا علاج کرتی تھیں..... (الحدیث)

ابن سعد نے عبداللہ بن محمد بن عقیل کے طریق سے، بحوالہ ربیع بنت معوذ نقل کیا ہے، فرماتی ہیں: میں نے اپنے شوہر سے کہا: میں تم سے اپنی ملکیت میں موجود ہر شے کے بدلے خلع طلب کرتی ہوں۔ اس نے کہا: ہاں! میں نے اسے ہر شے دے دی سوائے اپنی زرہ کے، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے میری شکایت کر دی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس کی شرط پوری کی جائے، میں نے اسے دے دی۔

دوسری سند سے اس روایت کو اس سے مکمل نقل کیا ہے، اس میں ہے کہ فرمایا: شرط زیادہ ملکیت کا باعث ہوتی ہے۔ ہر شے لے لو، یہاں تک کہ سرکا جوڑا بھی۔ فرماتے ہیں: یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے محصور ہونے کا زمانہ ہے، یعنی ۳۵ھ کا واقعہ ہے۔

### ۱۱۱۶۳ الربیع بنت النضیر

بن ضمیم بن زید بن حرام انصاریہ، انس بن نضر کی بہن اور انس بن مالک کی پھوپھی ہیں، جو رسول اللہ ﷺ کے خادم تھے۔ ان کے سوانح میں ربیع کا نسب گزر چکا ہے۔ بنوعدی بن نجار سے ہیں، وہ حارثہ بن سراقہ کی والدہ ہیں، ان کا ذکر بھی گزر چکا ہے۔ اس میں ان کا یہ قول ہے: مجھے حارثہ کی شہادت کی خبر دی گئی، اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں اور ثواب کی امید رکھوں، اگر وہ اس کے علاوہ کہیں ہے تو میں بہت زیادہ روؤں۔ ان سے نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”وہ جنت الفردوس میں ہیں“..... (الحدیث)

ترمذی (الحدیث: ۱۰۹۰) \* المعجم الكبير (۶۹۹/۲۴) مجمع الزوائد (۲۸۰/۸)

اسد الغابۃ (۶۹۱۱) تجرید (۲۶۷/۲)

صحیح بخاری میں ہے ﴿بحوالہ انس کہ ربیع بنت نصر، جو ان کی پھوپھی ہیں، انہوں نے کسی کو طمانچہ مارا، انہوں نے کہا: یہ ہم سے معافی مانگیں، انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے تاوان کا مطالبہ کیا، انہوں نے انکار کر دیا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کا حکم قصاص ہے۔“ انس بن نصر نے فرمایا: کیا ربیع کے دانت توڑے جائیں گے، نہیں! اللہ کی قسم! جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، ان کے دانت نہیں توڑے جائیں گے، وہ لوگ تاوان پر راضی ہو گئے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اللہ کی قسم کھالیں تو اللہ ان کی قسم ضرور پوری فرماتا ہے۔ ان میں انس بن نصر ہیں۔“

صحیح مسلم ﴿میں دوسری سند سے منقول ہے، بحوالہ انس کہ ربیع کی بہن نے کسی کو زخمی کر دیا، پھر حدیث ذکر کی، اس میں ہے ام ربیع کہنے لگیں: یا رسول اللہ ﷺ! کیا فلاں عورت سے قصاص لیا جائے گا، اگر راوی کو یاد رہا تو یہ دوسرا قصہ ہے، ورنہ بعض راویوں سے یہ جو منقول ہے، وہم ہے۔ اگر یہ محفوظ ہے تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ربیع کی والدہ کو شرف صحابیت حاصل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ان سے مروی روایت صحیح مسلم میں ہے۔ ان کے بھائی انس بن نصر کے قتل کے قصے میں ہے، جب وہ اُحد کے دن شہید ہوا، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ان کی بہن ربیع نے میری پھوپھی بنت نصر سے کہا: میں نے اپنے بھائی کو ہاتھ کے پوروں سے پہچانا ہے۔ یہ ان کی روایت سے واضح ہے، جو انہوں نے اپنی پھوپھی سے نقل کی ہے، اطراف کے مصنف نے یہ مقام خالی چھوڑ دیا ہے اور ربیع بنت نصر کا عنوان قائم نہیں کیا، یہ بخاری کے ہاں دوسرے طریق سے بحوالہ انس ہے، جس میں یہ الفاظ ہیں: انہیں ان کی بہن نے پہچانا۔

### ۱۱۱۶۵ رجاء الغنویہ ﴿

ابن سیرین نے ایک خاتون، جنہیں رجاء کہا جاتا تھا، سے روایت کیا کہ وہ فرماتی ہیں: میں نبی کریم ﷺ کے پاس تھی کہ ایک عورت اپنے بیٹے کو لے کر آئی اور کہنے لگی: یا رسول اللہ ﷺ! اللہ سے میرے اس بیٹے کے لیے برکت کی دعا کر دیجئے، اس سے پہلے تین فوت ہو چکے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”تمہارے اسلام لانے کے بعد ایسا ہوا؟“ انہوں نے عرض کیا: جی ہاں! آپ ﷺ نے فرمایا: ”محفوظ جنت۔“ ﴿فرماتی ہیں: مجھ سے ایک آدمی نے کہا جو وہاں موجود تھا: رسول اللہ ﷺ جو کچھ فرما رہے ہیں اسے غور سے سنو۔

امام احمد رحمہ اللہ نے عبد الرزاق سے بحوالہ ہشام ان کی سند سے نقل کیا ہے، اور اس کے راوی ثقہ ہیں۔ ابن مندہ کی کتاب معرفۃ میں ہمیں یہ روایت عالی سند سے ملی ہے۔ ابوموسیٰ نے اسے حرف راء اور حرف زاء میں ذکر کیا ہے اور نادانستہ طور پر اسے چھوڑ دیا ہے۔ کیا وہ جیم کی تخفیف کے ساتھ ہے یا تشدید کے ساتھ؟

### ۱۱۱۶۶ رحیلہ ﴿

حاکم کی کتاب اکلیل میں ان کا ذکر ہے۔

﴿بخاری (الحديث: ۲۸۰۹) ﴿مسلم (الحديث: ۴۳۵۷)

﴿اسد الغابۃ (۶۹۱۲) تجرید (۲۶۷/۲) ﴿الاستیعاب (۱۸۳۸/۴)



### ۱۱۱۶۷ رزینہ \*

حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جو نبی کریم ﷺ کی زوجہ ہیں ان کی باندی ہیں۔ ابو عمر فرماتے ہیں: بصرین کے پاس ان کی حدیث یوم عاشوراء کے بارے میں ہے۔

میں کہتا ہوں: ابن ابوعاصم اور ابن مندہ نے علیہ بنت کیت کے طریق سے اسے نقل کیا ہے کہ مجھ سے میری والدہ امینہ نے بحوالہ اُمّۃ اللہ بنت رزینہ نقل کیا ہے، فرماتی ہیں: میں نے اپنی والدہ رزینہ سے پوچھا: رسول اللہ ﷺ عاشوراء کے روزے کے بارے میں کیا فرماتے تھے؟ کہنے لگیں: آپ ﷺ اس دن روزہ رکھتے تھے اور ہمیں بھی روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے۔ \* یہ ابن مندہ کی روایت کے الفاظ ہیں۔

ابو مسلم نجی اور ابو نعیم نے اپنے طریق سے بحوالہ مسلم بن ابراہیم انہوں نے علیہ سے طویل حدیث نقل کی ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں: ہم سے علیہ بنت کیت عتکیہ نے بیان کیا: میں نے اپنی والدہ امینہ سے سنا، وہ واسطہ آئیں، اور رسول اللہ ﷺ کی باندی اُمّۃ اللہ سے ملیں ان کی والدہ رسول اللہ ﷺ کی خادمہ تھیں۔ انہیں رزینہ کہا جاتا تھا، انہوں نے ان سے کہا: کیا تم نے اپنی والدہ سے عاشوراء کے روزے کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ کہنے لگیں: جی ہاں! میری والدہ رزینہ نے مجھ سے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا..... یہاں تک کہ اگر ان کے بچے یا فاطمہ کے دودھ پیتے بچوں کو اس دن بلاتے اور ان کے منہ میں لعاب ڈالتے، اور ان کی ماؤں سے کہتے: ”انہیں رات تک دودھ نہ پلاؤ۔“ رزینہ راء کے زبر کے ساتھ ہے۔ بعض کا قول ہے: تصغیر کے ساتھ ہے۔

ابوموسیٰ بیان کرتے ہیں کہ ان کے بارے میں بعض کا قول ہے کہ راء سے پہلے زاء ہوگی، ابو یعلیٰ نے نقل کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے جب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو اپنی خادمہ جو رزینہ ہیں ان سے نیکی کا حکم دیا۔

### ۱۱۱۶۸ رَضَوِی بِنْتُ کَعْب \* \*

ابوموسیٰ نے ذیل میں ان کا ذکر کیا ہے اور رَوَّاد بن جراح کے طریق سے بحوالہ ان کے والد، انہوں نے سعید بن بشیر سے انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے رَضَوِی بنت کعب سے روایت کیا ہے، فرماتی ہیں: ”میں نے رسول اللہ ﷺ سے حائضہ کے حیض کے بارے میں پوچھا، تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس میں کوئی حرج نہیں۔“ \*

رَوَّاء اور ان کے شیخ دونوں ضعیف ہیں، تجرید میں ایک قول ہے: گویا یہ تابعیہ ہیں، جو مرسل روایت کرتی ہیں، اسی طرح فرمایا: یہ تعجب کی بات ہے باوجودیکہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا۔

### ۱۱۱۶۹ رَضَوِی \*

نبی کریم ﷺ کی آزاد کردہ باندی ہیں۔ نقطے والی خاء میں خضرہ نامی صحابیہ میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔ ابوموسیٰ فرماتے

\* اسد الغابۃ (۶۹۱۳) تجرید (۳۶۸/۲) \* اسد الغابۃ (۲۸۳/۳) \* اسد الغابۃ (۶۹۱۵) تجرید (۲۶۸/۲)

\* جامع المسانید والسنن (۱۶۸/۱۵) \* اسد الغابۃ (۶۹۱۴) تجرید (۲۶۸/۲)

ہیں: مستغفری نے ان کا ذکر کیا ہے، ان کی کوئی حدیث مذکور نہیں۔

### ۱۱۱۶۰ رُغینہ \*

(تفسیر کے ساتھ ہے، بعض کا قول ہے: اس کے شروع میں زاء ہے)۔ بنت سہل بن ثعلبہ بن حارث بن زید بن ثعلبہ بن غنم بن مالک بن نجار۔ ابن سعد \* نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے اور فرمایا: ان کی والدہ عمرہ بنت مسعود بن قیس ہیں، ان سے رافع بن ابوعمر بن عائد بن ثعلبہ بن غنم بن مالک بن نجار نے نکاح کیا، حبیبہ بنت سہل جن کا ذکر گزر چکا ہے، ان کی بہن ہیں۔

### ۱۱۱۶۱ رفاعہ بنت ثابت \*

بن فاکہ بن ثعلبہ بن حارث بن زید بن ثعلبہ۔ بنو ظمہ انصاریہ سے ہیں۔ ابن حبیب نے نبی کریم ﷺ سے بیعت کرنے والی صحابیات رضی اللہ عنہن میں ان کا ذکر کیا ہے۔ ابن سعد نے اسی طرح لکھا ہے۔

### ۱۱۱۶۲ رفیدہ الأنصاریہ \*

یا اُسلمیہ۔ ابن اسحاق نے سعد بن معاذ کے قصے میں ان کا ذکر کیا ہے، جب وہ غزوہ خندق میں زخمی ہوئے، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اسے رفیدہ کے خیمے میں جو مسجد میں ہے لٹا دو، تاکہ میں قریب سے ان کی عیادت کروں“ \*۔ یہ وہ خاتون تھیں جو زخموں کا علاج معالجہ کرتی تھیں، مسلمانوں میں سے کسی کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا تو اس کی خدمت بذاتِ خود کر کے ثواب کی امید رکھتی تھیں۔

بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد میں فرمایا: ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے ابن الغنیل نے بحوالہ عاصم بن عمر بن قتادہ، انہوں نے محمود بن لبید سے بیان کیا ہے، فرماتے ہیں: جب سعد غزوہ خندق میں زخمی ہوئے، بعض نے کہا: اسے رفیدہ نامی خاتون کے پاس لے چلو، جو زخموں کا علاج معالجہ کرتی تھیں اور نبی ﷺ جب ان کے پاس سے گزرتے تو فرماتے: ”تمہاری شام کیسی رہی؟“ اور جب صبح ہوتی تو فرماتے: ”تمہاری صبح کیسی رہی؟“ تو وہ انہیں بتاتی، تاریخ میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی وفات کا قصہ نقل کیا گیا ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ مستغفری رحمہ اللہ نے اسے بخاری رحمہ اللہ کے طریق سے نقل کیا ہے، اور ابو موسیٰ رحمہ اللہ نے مستغفری رحمہ اللہ کے طریق سے اسے بیان کیا ہے۔

### ۱۱۱۶۳ رُقیقہ \*

(دوقافوں کے ساتھ تفسیر ہے)، بنت ابوصفی بن ہاشم بن عبدالمطل بن ہاشم ہاشمیہ، اور ان کے بھائیوں کی چچا زاد ہیں جو بنو عبدالمطلب سے ہیں۔ وہ کُحْر مہ بن نوفل کی والدہ ہیں، جو موسر کے والد ہیں۔

\* تجرید (۲/۲۶۸) \* الطبقات الکبریٰ (۸/۳۲۵) \* اسد الغابہ (۶۹۱۷) تجرید (۲/۲۶۸)

\* اسد الغابہ (۶۹۱۷) تجرید (۲/۲۶۸) \* الاستیعاب (۴/۱۸۳۸)

طرائی اور مستغفری نے صحابہ میں ان کا ذکر کیا ہے، اور ابو عمر فرماتے ہیں: میرا گمان ہے کہ انہوں نے نبوت کا زمانہ نہیں پایا، ان کے تذکرہ کی معتبر روایت وہ ہے جو محمد شین نے حمید بن منہب کے طریق سے، بحوالہ عروہ بن مضر، انہوں نے خرّمہ بن نوفل سے انہوں نے اپنی والدہ رُقِیقہ سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں: وہ عبدالمطلب بن ہاشم کی اولاد سے ہیں۔ فرماتی ہیں: قریش پر لگاتار ایسے سال آئے کہ تھنوں پر قحط آ گیا اور ہڈیوں کا گودا خشک ہو گیا.... عبدالمطلب کا قریش کے لیے پانی طلب کرنے کے بارے میں طویل حدیث ہے۔ رسول اللہ ﷺ ان کے ساتھ تھے، اس وقت وہ لڑکے تھے، جو ابھی بالغ ہوئے تھے۔ اس میں ہے: ان پر بارش تھی، قریش کے سردار عبد اللہ بن جدعان اور حرب بن امیہ، جب ان کی دعا سے بارش ہوئی تو عبدالمطلب سے کہنے لگے: ابوبطحاء مبارک ہو، اس میں رُقِیقہ مذکورہ کا شعر ہے۔ اس کے شروع میں یہ ہے:

”شیبہ حمدی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے شہر کو سیراب کیا، ہم حیا کھو چکے تھے اور بارش موسم گزرنے کے بعد بھی ہوتی رہی۔“

ابوموسیٰ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں: یہ حدیث حسن ہے، فرماتے ہیں: ابن سعد رحمہ اللہ نے ان کا ذکر اسلام لانے والی اور ہجرت کرنے والی صحابیات میں کیا ہے، اور فرمایا: ان کی والدہ ہالہ بنت کلدہ بن عبد الدامہ ہیں، پھر واقدی سے بحوالہ عبد اللہ بن جعفر، انہوں نے ام بکر بنت مسور سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے خرّمہ بن نوفل سے، انہوں نے اپنی والدہ رُقِیقہ سے نقل کیا ہے، فرماتی ہیں: گویا کہ میں اپنے چچا شیبہ کی طرف دیکھ رہی ہوں، اور ان کی مراد عبدالمطلب بن عبد مناف ہیں کہ جلدی سے ان کی طزف جانے والی میں سب سے پہلی تھی، میں ان سے لپٹ گئی، اور اپنے گھر والوں کو ان کے بارے میں بتایا۔ وہ اس وقت عبدالمطلب سے بڑی تھیں۔ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کا زمانہ پایا اور اسلام لائیں۔ اپنے بیٹے خرّمہ پر اسلام نہ لانے کی وجہ سے بہت سختی کرتی تھیں۔ اسی سند سے ان کی والدہ سے روایت ہے کہ رُقِیقہ جو ام خرّمہ بن نوفل ہیں، رسول اللہ ﷺ سے حدیث بیان کرتی ہیں۔ فرماتی ہیں: قریش جمع ہو چکے ہیں اور آج کی رات کا قصد کرتے ہیں، مسور فرماتے ہیں: نبی کریم ﷺ اپنے بستر سے ہٹ گئے اور اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رات گزاری۔

### ۱۱۱۷۲ رُقِیقہ ۞ التّضیہ

ابو عمر ۞ فرماتے ہیں: ابوطالب اور خدیجہ رضی اللہ عنہما کی وفات کے بعد جب نبی کریم ﷺ مکہ سے طائف کی طرف گئے، اس وقت اسلام لائیں، عبد ربہ بن حکم کے پاس بحوالہ امیمہ بنت رُقِیقہ ان کی حدیث ہے۔

میں کہتا ہوں: ابن ابوعاصم ۞ نے عبد اللہ بن عبد الرحمن طامی کے طریق سے بحوالہ عبد ربہ اسے نقل کیا ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں: ان کی والدہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں: نبی کریم ﷺ جب مدد حاصل کرنے کے لیے طائف آئے تو میرے پاس تشریف لائے، میں نے ان کے لیے ستو کا شربت بنایا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے رُقِیقہ! بتوں کی عبادت نہ کرو، اور ان کی طرف

رُخ کر کے نماز نہ پڑھو۔“ کہنے لگیں: تب تو وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم نماز پڑھو تو اپنی پیٹھ ان کی طرف کر لینا۔“ پھر میرے پاس سے تشریف لے گئے۔

### رُقیّہ

۱۱۱۴۵

(ایک قاف اور تشدید کے ساتھ) بنت ثابت بن خالد، بنو مالک بن نجار انصاریہ سے ہیں۔ ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ ابن سعد \* فرماتے ہیں: محمد بن عمر نے ذکر کیا ہے کہ اسلام لائیں اور بیعت کی۔

### رُقیّہ بنت زید

۱۱۱۴۶

بن حارثہ کلبی، رسول اللہ ﷺ کی آزاد کردہ باندی اور امانہ کی بہن ہیں۔ بلاذری نے ان کا ذکر کیا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ کے سوانح میں ان کا ذکر گزر چکا ہے، اور ان کی والدہ کا نام ام کلثوم بنت عتبہ ہے، ابن سعد نے مسند خالد بن نمیر کے حوالے سے ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں: جب زید بن حارثہ شہید ہوئے تو ان کے پاس نبی کریم ﷺ تشریف لائے تو زید کی بیٹی نے آپ ﷺ کے چہرے پر ہاتھ مارے اور آپ ﷺ بھی بہت زیادہ رونے لگے۔

### رُقیّہ بنت کعب الأسلمیہ

۱۱۱۴۷

سفیان بن حمزہ نے بحوالہ اپنے شیوخ، ان سے روایت کیا ہے۔ بعض کا قول ہے: انہیں شرف صحابیت حاصل ہے، ابونصر بن ماکولانے ان کا ذکر کیا ہے۔

### رُقیّہ بنت سید البشر

۱۱۱۴۸

محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب ہاشمیہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی زوجہ اور ان کے بیٹے عبد اللہ کی والدہ ہیں۔ ابو عمر فرماتے ہیں: حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے آپ ﷺ کی سب سے بڑی صاحبزادی ہونے میں اختلاف نہیں، حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہن کے بارے میں اختلاف ہے۔ اکثر کے نزدیک وہ اسی ترتیب سے ہیں، ابو عمر نے بحوالہ جرجانی رحمہ اللہ نقل کیا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا ان سب میں چھوٹی ہیں۔ بعض نے کہا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ان سب میں چھوٹی ہیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا پہلے عجب بن ابولہب کے نکاح میں تھیں، جب نبی کریم ﷺ مبعوث ہوئے تو ابولہب نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ انہیں طلاق دے دو، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح ہوا۔ ابن ہشام فرماتے ہیں: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا اور ان کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی، وہاں ان کے ہاں عبد اللہ پیدا ہوئے، جن سے ان کی کنیت ہے۔

ابو عمر فرماتے ہیں: قتادہ کا قول ہے: ان کی اولاد نہیں ہوئی، فرماتے ہیں: وہ غلط ہے، ان کے علاوہ کسی کا یہ قول نہیں، شاید

\* اسد الغابۃ (۶۹۲۰) تجرید (۲/۲۶۸) \* الطبقات الکبریٰ (۸/۳۳۳)

\* اسد الغابۃ (۶۹۲۲) تجرید (۲/۲۶۸) \* اسد الغابۃ (۱/۶۹۲۱) تجرید (۲/۲۶۸)

وہ ان کی بہن ام کلثوم کے حالات بیان کرنا چاہتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے بعد ان سے نکاح کیا، وہ بھی ان کے پاس وفات پا گئیں، ان کی اولاد نہیں ہوئی۔ یہ ابن شہاب اور جمہور کا قول ہے، سعدی ام عثمان جو ان کی ساس ہیں کے سوانح میں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا ذکر آئے گا۔

ابن سعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: انہوں نے اور ان کی بہنوں نے نبی کریم ﷺ سے بیعت کی، ان سے عتبہ بن ابولہب نے نبوت سے قبل نکاح کیا: جب آپ ﷺ مبعوث ہوئے تو ابولہب نے کہا: میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، اگر تم ان کی بیٹی کو طلاق نہ دو، تو اس نے انہیں جدا کر دیا۔ ابھی ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، پھر ان سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نکاح کر لیا، ان سے اسقاط ہوا، پھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا اور اس سے ان کی کنیت ہے، اسے ایک مرغ نے چونچ ماری تو وہ فوت ہو گیا، اس کے بعد ان کی اولاد نہ ہوئی۔

ابن سعد نے علی بن زید کے طریق سے، بحوالہ یوسف بن مہران نقل کیا ہے۔ وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں: جب حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا فوت ہوئیں، تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”ہمارے گزشتہ لوگوں میں سے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل جاؤ۔“ عورتیں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا پر رونے لگیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے اور انہیں مارنے لگے، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جو غم کا اظہار آکھ اور دل سے ہو وہ اللہ کی طرف سے ہے اور رحمت ہے اور جو ہاتھ اور زبان سے ہو وہ شیطان کی طرف سے ہے۔“ تو فاطمہ قبر کے کنارے بیٹھ کر رونے لگیں، اور اپنی آنکھیں کپڑے کے پلو سے صاف کرنے لگیں۔

واقدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یہ وہم ہے، شاید یہ آپ ﷺ کی کوئی اور صاحبزادی ہیں۔ کیونکہ ثابت ہے کہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بدر میں فوت ہوئیں، یہ بھی احتمال ہے کہ غزوہ بدر سے واپس آ کر ان کی قبر پر گئے ہوں۔ ابن مندہ نے بہت ضعیف سند سے نقل کیا ہے بحوالہ ہاشم بن عروہ، وہ اپنے والد سے وہ اسماء بنت ابوبکر سے نقل کرتے ہیں، فرماتی ہیں: میں اپنے والد کے پاس کھانا لے جاتی تھی، اور وہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ غار میں تھے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی اجازت طلب کی، آپ ﷺ نے انہیں حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی، پھر میں آپ ﷺ کے پاس کھانا لے گئی تو آپ ﷺ نے مجھ سے پوچھا: ”عثمان اور رقیہ کا کیا ہوا؟“ میں نے کہا: وہ چلے گئے ہیں، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: ”اس ذات کی قسم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد وہ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے ہیں۔“

میں کہتا ہوں: یہ منکر روایت ہے، کیونکہ جب نبی کریم ﷺ نے ہجرت کی، اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، یہ باطل ہے، مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے جس غار میں پناہ لی تھی، اگر یہاں اس کے علاوہ کوئی اور مراد ہے تو یہ صحیح ہے۔ اہل سیر کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور جب نبی کریم ﷺ بدر کی طرف نکلے تو وہ بیمار تھیں، نبی کریم ﷺ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کے پاس چھوڑا، جس دن حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بدر کی فتح کی خوشخبری

لے کر آئے، اس دن آپ رضی اللہ عنہا وفات پا گئیں۔ بعض کا قول ہے: ان کے دفن کے بعد آپ رضی اللہ عنہم پہنچے، حماد بن سلمہ نے ثابت سے بحوالہ انس روایت کیا ہے، فرماتے ہیں: جب حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا وفات پا گئیں تو آپ رضی اللہ عنہم نے فرمایا: ”قبر میں ایسا شخص داخل نہ ہو جس نے صحبت کی ہو۔“

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قبر میں داخل نہ ہوئے۔

ابو عمر فرماتے ہیں: حماد سے خطا ہوئی کیونکہ یہ واقعہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا ہے۔

ابن مبارک نے یونس رضی اللہ عنہ سے بحوالہ زہری روایت کیا ہے، فرمایا: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی بیماری کی وجہ سے غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے، انہیں حصاء کی بیماری ہو گئی تھی، اس سے وہ فوت ہو گئیں، حضرت زید بدر کی فتح کی خوشخبری لے کر آئے، فرماتے ہیں: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی قبر پر تھے۔

قنادہ کے طریق سے بحوالہ نصر بن انس مروی ہے، وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، ان کی کوئی اطلاع نہ ملی، نبی کریم رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی، اور آپ رضی اللہ عنہم کو بتایا کہ اس نے ان دونوں کو دیکھا ہے، نبی کریم رضی اللہ عنہم نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ ان دونوں کا برا کرے“ حضرت عثمان اپنے اہل کے ساتھ اس امت میں پہلے ہجرت کرنے والے ہیں۔“

سراج نے اپنی تاریخ میں ہشام بن عروہ کے طریق سے، بحوالہ ان کے والد ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں: حضرت عثمان اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما بدر سے پیچھے رہ گئے، جب وہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کو دفن کر رہے تھے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کبیر سنی اور کہا: اے اسامہ! یہ کیا ہے؟ انہوں نے دیکھا تو زید بن حارثہ نبی کریم رضی اللہ عنہم کی اونٹنی جدعاء پر بدر میں مشرکین کے قتل کی خوشخبری دے رہے تھے۔

### ۱۱۱۷۹ رقیہ

فاطمہ بنت رسول اللہ رضی اللہ عنہ کی باندی ہیں، طویل عمر پائی یہاں تک کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے انہیں حضرت فاطمہ کی قبر کے پاس ٹھہرا دیا، کیونکہ ان کی قبر کو پہچاننے والا ان کے سوا کوئی نہ بچا تھا، یہ عمر بن شبہ نے اخبار مدینہ میں لکھا ہے۔

### ۱۱۱۸۰ رملہ بنت الحارث

بن ثعلبہ بن حارث بن زید انصاریہ نجاریہ، ابن حبیب نے بیعت کرنے والی خواتین میں ان کا ذکر کیا ہے۔ ابن اسحاق \* نے سیرۃ نبویہ میں ان کا ذکر کیا ہے کہ سعد بن معاذ نے جب بنو قریظہ کے بارے میں فیصلہ کیا تو انہیں رملہ بنت حارث کے گھر مجبوس کیا گیا جو انصار میں بنو نجار کی خاتون ہیں۔  
میں کہتا ہوں: سیرۃ میں ان کا ذکر دو مرتبہ ہے۔

واقدي رحمہ اللہ فرماتے ہیں: رملہ بنت حدث (دال کے ساتھ ہے)۔ ابن سعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: رملہ بنت حارث، اور وہ حارث بن ثعلبہ بن زید بن ثعلبہ بن غنم بن مالک بن نجار ہیں، ان کی کنیت ام ثابت ہے، ان کی والدہ کبشہ بنت ثابت بن نعمان بن حرام ہیں، معاذ بن حارث بن رفاعہ ان کے شوہر ہیں۔

### ۱۱۱۸۱ رملہ بنت الخطاب

فاطمہ بنت خطاب کے سوانح میں ان کا ذکر ہے۔

### ۱۱۱۸۲ رملہ بنت ابی سفیان

صخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس امویہ، نبی کریم ﷺ کی زوجہ ہیں۔ ان کی کنیت ام حبیبہ ہے، وہ اپنے نام سے زیادہ اپنی کنیت سے مشہور ہیں۔ بعض کا قول ہے: ان کا نام ہند ہے، اور رملہ زیادہ صحیح ہے، ان کی والدہ صفیہ بنت ابوالعاص بن امیہ ہیں۔ بخت سے سترہ برس پہلے پیدا ہوئیں، ان کے حلیف عبید اللہ (تصفیر کے ساتھ) بن جحش بن رساب بن یمر اسدی سے ان کا نکاح ہوا جو بنو اسد بن خزیمہ سے ہیں، دونوں اسلام لائے اور حبشہ کی طرف ہجرت کی، وہاں ان کے ہاں حبیبہ پیدا ہوئیں، اسی سے ان کی کنیت ہے، بعض کا قول ہے: ان کی ولادت مکہ میں ہوئی، ان کی ولادت کے قریب انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، بعض کا قول ہے: حبشہ میں ان کی ولادت ہوئی۔ حبیبہ نے داؤد بن عروہ بن مسعود سے نکاح کیا، جب ان کا شوہر عبید اللہ بن جحش عیسائی ہو گیا، اور اسلام سے پھر گیا اور انہیں طلاق دے دی۔

ابن سعد رحمہ اللہ نے اسماعیل بن عمرو بن عمرو بن سعید اموی کے طریق سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: میں نے خواب میں عبید اللہ بن جحش کو بری صورت میں دیکھا، میں گھبرا گئی، صبح ہوئی تو وہ عیسائی ہو گیا تھا، میں نے اسے خواب کے بارے میں بتایا، زیادہ عرصہ نہیں گزر رہا تھا کہ وہ شراب پر مداومت کرنے لگا اور اسی حال میں مر گیا، خواب میں کسی نے مجھے کہا: اے ام المؤمنین! میں گھبرا گئی، پھر میری عدت ختم ہو گئی۔ مجھے معلوم بھی نہ تھا کہ نجاشی کی ابرہہ نامی قاصد عورت اجازت طلب کر رہی تھی، اور کہنے لگی: بادشاہ آپ سے کہہ رہے ہیں، ایسے شخص کو اپنا وکیل بنا دیں جو آپ کا نکاح کر سکے۔ میں نے خالد بن سعید بن العاص بن امیہ کی طرف پیغام بھیجا اور انہیں وکیل بنا دیا، میں نے ابرہہ کو چاندی کے دو کنگن دیے، جب عشاء ہوئی تو نجاشی نے جعفر بن ابوطالب کو حکم دیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی، اور تشہد پڑھا، پھر فرمایا: اما بعد! رسول اللہ ﷺ نے میری طرف خط بھیجا ہے کہ میں ام حبیبہ کی شادی ان سے کر دوں جسے میں نے قبول کیا اور ان کی طرف سے چار سو دینار حق مہر دیتا ہوں، پھر دینار انڈیل دیے۔ حضرت خالد نے خطبہ دیا اور فرمایا: رسول اللہ ﷺ نے جو کچھ لکھا ہے، میں نے اسے قبول کر لیا اور ام حبیبہ کا ان سے نکاح کر دیا، اور دینار لے لیے، نجاشی نے ان کے لیے کھانا تیار کیا، جسے انہوں نے کھایا۔

حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: جب میرے پاس مال پہنچا تو میں نے ابرہہ کو اس میں سے پچاس دینار دیے، فرماتی

الطبقات الکبریٰ (۳۲۷/۸) اسد الغابۃ (۶۹۲۴) تجرید (۲/۲۶۸)

الطبقات الکبریٰ (۳۲۷/۸)

ہیں اس نے مجھے واپس کر دیے اور کہنے لگیں: بادشاہ نے کچھ نہ لینے کی قسم لی ہے۔ اور جو میں نے اسے پہلے دیئے تھے وہ بھی مجھے لوٹا دیئے۔ اگلے دن میرے پاس عود، ورس، عنبر اور بہت سی خوشبو لے کر آئی اور پھر ان چیزوں کو ساتھ لے کر میرے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی طرف آئی۔

ابن سعد رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ یہ ساتواں سال تھا، بعض کا قول ہے کہ چھٹا سال تھا۔ پہلا قول زیادہ مشہور ہے۔ زہری کے طریق سے ہے: قاصد جو نجاشی کی طرف تھا، تو انہیں شراحیل بن حسنہ کے ساتھ بھیجا۔ دوسرے طریق سے ہے کہ نجاشی کی طرف قاصد عمرو بن امیہ ضمری تھا۔

ابن عبدالبر نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ کا ان سے نکاح حضرت عثمان بن عفان نے کیا، عبدالواحد بن ابوعون کے طریق سے ہے، فرماتے ہیں: جب ابوسفیان کو یہ بات پہنچی کہ نبی کریم ﷺ نے ان کی بیٹی سے نکاح کر لیا ہے تو اس نے کہا: یہ ایسا نر ہے جو باز نہیں آتا۔

زہیر بن بکار نے اپنی سند سے بحوالہ اسماعیل بن عمرو بن امیہ، اور انہوں نے ام امیہ سے پہلے سے ملتی جلتی روایت نقل کی ہے۔ بعض کا قول ہے: اس بارے میں یہ آیت اتری: ﴿اللہ سے اُمید ہے کہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جن میں دشمنی ہے، محبت پیدا کر دے﴾۔

یہ بعید بات ہے، اگر یہ ثابت ہو جائے تو ان کا عقد ہجرت سے پہلے مدینہ کی طرف جاتے ہوئے ہوا، یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کے مدینہ آنے کے بعد تجدید نکاح کی۔ اس پر راوی کا قول لیا جائے گا کہ نبی کریم ﷺ نے ان کے مدینہ آنے کے بعد ان سے نکاح کیا، یہ قتادہ سے منقول ہے۔ فرماتے ہیں: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ویسے کے لیے گوشت تیار کیا، اسی طرح عقیل سے بحوالہ زہری رحمہ اللہ مروی ہے، قتادہ رحمہ اللہ کی روایت ابن حزم کے دعویٰ کی تردید کرتی ہے، اجماع اس بات پر ہے کہ نبی کریم ﷺ نے جب ام حبیبہ سے نکاح کیا تو وہ حبشہ میں تھی، ایک جماعت نے اس کی پیروی کی ہے، ان میں سے آخری ابوصحن بن الاشیر نے اسد الغابہ میں نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: اہل سیر میں اس بارے میں اختلاف نہیں سوائے اس کے جو مسلم میں ہے کہ ابوسفیان جب اسلام لائے تو رسول اللہ ﷺ نے ان سے کہا کہ اُن کی شادی ان سے کر دیں۔ انہوں نے یہ قول کر لیا، بعض راویوں سے یہ وہم ہے۔ اس کے وہم ہونے پر اعتماد کرنے میں بھی تاثر ہے، بعض ائمہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ احتمال ہے کہ ابوسفیان نے عقد کی تجدید کا ارادہ کیا ہو، ہاں! اس میں اختلاف نہیں آپ ﷺ ابوسفیان کے اسلام لانے سے قبل حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے۔

ابن سعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ہمیں محمد بن عمر نے بتایا کہ ہم سے محمد بن عبداللہ نے بحوالہ زہری رحمہ اللہ حدیث بیان کی، فرماتے ہیں: ابوسفیان مدینہ آئے وہ معاہدے کی مدت زیادہ کرنا چاہتے تھے، اپنی بیٹی ام حبیبہ کے پاس آئے، جب وہ رسول اللہ ﷺ کے بستر پر بیٹھنے لگے تو انہوں نے بستر لپیٹ دیا، کہنے لگے: اے بیٹی! کیا اس بستر کو مجھ سے ہٹایا ہے یا مجھے بستر سے ہٹایا ہے۔

الطبقات العکبری (۱۷۰/۸) سورة الممتحنة الآية (۷)

مسلم (الحديث: ۶۳۳۳) الطبقات العکبری (۶۸/۸)



کہنے لگیں: وہ رسول اللہ ﷺ کا بستر ہے، اور آپ مشرک ناپاک آدمی ہیں۔ کہنے لگے: ہمارے بعد تمہاری عادتیں بدل گئی ہیں۔

ہمیں محمد بن عمر نے بتایا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عبداللہ بن جعفر نے بحوالہ عبدالواحد بن ابوعون بتایا، فرماتے ہیں: جب ابوسفیان بن حرب کو نبی کریم ﷺ کے ان کی بیٹی سے نکاح کا پتہ چلا تو کہنے لگے: یہ وہ زہر ہے جو باز نہیں آیا۔  
ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم ﷺ سے اور حضرت زینب بنت جحش ام المؤمنین رضی اللہ عنہا سے کئی احادیث روایت کی ہیں، ان کی بیٹی حبیبہ نے ان کے بھائیوں، معاویہ، عتبہ اور ان کے بھائی کے بیٹے عبداللہ بن عتبہ بن ابوسفیان، ابوسفیان بن سعید بن مغیرہ بن اغس ثقفی جو ان کے بھانجے ہیں اور ان کے دو غلاموں سالم بن سوال اور ابوجراح، اس کے علاوہ صفیہ بنت شیبہ، زینب بنت ام سلمہ، عروہ بن زبیر، اور ابوصالح السمان اور دوسرے لوگوں نے ان سے روایت کی ہے۔

ابن سعد نے عوف بن حارث کے طریق سے بحوالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کی ہے، فرماتی ہیں: مجھے ام حبیبہ نے اپنی موت کے وقت بلایا اور کہنے لگیں: سوکنوں میں جو بات ہوتی ہے وہ ہمارے درمیان تھی، مجھے یہ معاف کر دو، میں نے انہیں معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت طلب کی، وہ مجھے کہنے لگیں: تم نے میری پردہ پوشی کی، اللہ تمہاری پردہ پوشی کرے، انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی طرف بھی ایسا ہی پیغام بھیجا، اور مدینہ میں ۴۴ھ میں وفات پا گئیں۔ ابن سعد اور ابوعبید نے اسی پر اعتماد کیا ہے اور ابن حبان اور ابن قانع فرماتے ہیں: ۲ھ میں ابن ابیوضئہ فرماتے ہیں: ۵۹ھ میں اور یہ بعید ہے۔ واللہ اعلم

### ۱۱۱۸۳ رملہ بنت شیبہ

بن ربیعہ بن عبد شمس عثمیہ، ان کے والد بدر کے دن حالت کفر میں قتل ہوئے۔ ابو عمرؒ نے ان کا ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں: ہجرت کرنے والی صحابیات میں سے تھیں اور اپنے شوہر عثمان بن عفان کے ساتھ ہجرت کی، اس بارے میں ان کی چچا زاد ہند بنت عتبہ کہتی ہیں: ”وادی دُجج مکہ اور یحون کے اطراف میں ایک بے دین عورت پر رحمت کی لعنت ہو، اس نے ایسے لوگوں کا دین اختیار کیا ہے جنہوں نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا، کیا تمہیں اپنے باپ کے قتل ہونے کا یقین آ گیا۔“

ابو عمر ابن اثیر کے قول کے بارے میں فرماتے ہیں: اپنے شوہر عثمان کے ساتھ ہجرت کی، انہوں نے اپنی زوجہ رقیہ بنت رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ہجرت کی، فرماتے ہیں: اگر یہ نہ کہا جائے کہ انہوں نے اپنے شوہر عثمان کے ساتھ ہجرت کی تو ممکن ہے کہا جائے کہ انہوں نے ہجرت کی، اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کر لیا۔

میں کہتا ہوں: میرے گمان میں ان کا یہ قول ”انہوں نے اپنے شوہر عثمان کے ساتھ حبشہ کی طرف نہیں بلکہ مدینہ کی طرف ہجرت کی“۔ شاید عثمان نے عمرہ قضیہ میں ان سے نکاح کیا، اور ان کے ساتھ اس وقت ہجرت کی، پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی، پہلی ہجرت میں ان کی زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے سوا کوئی اور ساتھ نہ تھی، گویا انہوں نے رقیہ یا ام کلثوم کے بعد

ان سے نکاح کیا۔ یہ احتمال بھی ہے کہ صحیح قول یہ ہو کہ ان سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی اور عثمان نے نکاح کیا ہو، شاید وہ عثمان بن ابوالعاص ثقفی ہوں، قرینہ یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا: توج مقام پر اور وہ طائف میں ہے۔ اور عثمان بن ابوالعاص بھی طائف سے ہیں، جبکہ ابن عفان کے ساتھ ایسا نہیں۔ پھر میں نے طبقات ابن سعد \* میں لکھا ہوا پایا: ان سے حضرت عثمان بن عفان نے نکاح کیا، جس سے عائشہ، ام ابان، ام عمرو پیدا ہوئے، ابو زناد جو ان کے مولیٰ ہیں، فرماتے ہیں: اسلام لائیں اور بیعت کی، حضرت زبیر نے ہند کے قول سے یہ شعر پڑھے:

”اس کا اسلام اس پر عیب ہے، اور بدر کے دن ان کے والد کے قتل پر عار دلائی جاتی ہے۔“

پھر دو شعر ذکر کئے، فرماتے ہیں: ان کی والدہ ام شریک بنت وقدان بن عبد شمس بن عبد ود ہیں جو بنو عامر بن لوی سے ہیں، ابن سعد نے ایسا ہی لکھا ہے، لیکن فرماتے ہیں: ام شریک ہیں۔

### ۱۱۱۸۳ رملہ بنت عبد اللہ \*

بن ابی بن سلول: ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۱۸۵ رملہ بنت ابی عوف \*

بن صبرہ بن سعید بن سعد بن سہم، مطلب بن ازہر بن عوف زہری کی زوجہ ہیں۔ ابن اسحاق \* نے اہل مکہ میں سے اسلام لانے والوں اور حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں ان کا ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں: مطلب بن ازہر بن عوف زہری کے ہاں حبشہ میں عبد اللہ بن مطلب پیدا ہوئے، فرماتے ہیں، بعض کا قول ہے: وہ اسلام میں پہلے ہیں، جنہوں نے اسلام میں اپنے والد کی میراث پائی۔ ابن عمر \* نے ان کے شوہر کے سوانح میں ان کا ذکر کیا ہے۔ ابن سعد \* فرماتے ہیں: مکہ میں دار ارقم سے پہلے اسلام لائیں، بیعت کی اور ہجرت کی۔

### ۱۱۱۸۶ رملہ بنت الوقیعہ \*

بن حرام بن غفار بن ملیل (دولاموں کے ساتھ تصغیر ہے) خلیفہ بن خیاط فرماتے ہیں: یہ ابوذر غفاری کی والدہ ہیں، ابوذر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے قصے میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔ اس میں ان کا نام نہیں ہے۔ بعض کا قول ہے کہ وہ عمر بن عبد سہم کی والدہ بھی ہیں۔

### ۱۱۱۸۷ رُمیثہ \*

(ث کے ساتھ تصغیر ہے) بنت عمرو بن ہاشم بن مطلب بن عبد مناف۔ ابن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اسلام لائیں اور

\* الطبقات الکبریٰ (۱۷۱/۸) \* اسد الغابہ (۶۹۲۶) تجرید (۲۶۹/۲)

\* اسد الغابہ (۶۹۲۷) تجرید (۲۶۹/۲) \* السیرۃ النبویہ (۲۰۷/۱)

\* الاستیعاب (۱۸۴۶/۴) \* الطبقات الکبریٰ (۱۹۶/۸)

\* اسد الغابہ (۶۹۲۸) تجرید (۲۶۹/۲) \* اسد الغابہ (۶۹۳۰) تجرید (۲۶۹/۲)

بیعت کی، بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ان سے عتقا بن حکیم نے روایت کی، ابو عمر \* کا قول ہے: عاصم بن قتادہ کی دادی ہیں، اور ان سے روایت کی۔

میں کہتا ہوں: اسی طرح فرمایا: مجھے لگتا ہے، یہ اس کے علاوہ ہیں اور عاصم کی دادی کا ذکر بعد میں آ رہا ہے۔ رہی یہ تو مجتم الاوسط میں محمد بن محمد التمار کے سوانح میں ان کی حدیث ہے۔

### ۱۱۱۸۸ رمیثہ الأنصاریہ \*

مشہور تابعی عاصم بن عمر بن قتادہ انصاری کی دادی ہیں، ترمذی \* نے یوسف ماضون کے طریق سے، بحوالہ ان کے والد، انہوں نے عاصم بن عمر سے، انہوں نے اپنی دادی زمیثہ سے نقل کیا ہے، فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا: ”میں رسول اللہ ﷺ کے اتنے قریب تھی اگر میں چاہتی کہ دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو بوسہ دوں تو میں بوسہ دے سکتی تھی۔ آپ ﷺ نے سعد بن معاذ کے لیے وفات کے دن فرمایا: ”اس کی موت نے رمن کے عرش کو ہلا دیا ہے۔ ابن مکتدر نے ابن زمیثہ سے انہوں نے زمیثہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے چاشت کی نماز کے بارے میں حدیث روایت کی ہے۔

### ۱۱۱۸۹ الرَّمِيصَاء \*

یا غميصاء، ام سلیم جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں ان کا لقب ہے۔ یہ ابو طلحہ کی زوجہ ہیں، کئیوں میں ان کے سوانح تفصیل سے آئیں گے۔ عبدالعزیز بن ابوسلمہ بحوالہ محمد بن مکتدر وہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرمایا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے دکھایا گیا کہ میں جنت میں داخل ہوا اور ابو طلحہ کی زوجہ رمیصاء میرے ساتھ ہیں۔“ \*

ابن سعد فرماتے ہیں: ہمیں محمد بن عبد اللہ انصاری نے بتایا وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حمید نے بحوالہ حضرت انس رضی اللہ عنہ حدیث روایت کی، فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے آگے قدموں کی آواز سنی، میں نے دیکھا کہ میرے ساتھ غميصاء بنت ملحان ہیں۔“

حماد رحمہ اللہ کے طریق سے ثابت رحمہ اللہ سے بحوالہ حضرت انس رضی اللہ عنہ اسی مفہوم کی روایت ہے، لیکن فرمایا کہ رمیصاء ہیں، ام سلیم کے سوانح میں ان دونوں کا ذکر ہے۔

### ۱۱۱۹۰ الرَّمِيصَاءُ أُخْرَى \*

امام احمد \* اپنی مسند میں فرماتے ہیں: ہم سے ہشیم نے حدیث بیان کی، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے یحییٰ بن ابواسحاق نے سلیمان بن یسار سے بحوالہ عبید اللہ بن عباس حدیث نقل کی، فرماتے ہیں: رمیصاء یا غميصاء نبی کریم ﷺ کے پاس اپنے خاوند کا شکوہ لے کر آئی، وہ کہتی تھی کہ وہ ان سے ملنے نہیں، تھوڑی دیر گزری تھی کہ ان کا شوہر آ گیا، اس نے کہا: یہ جھوٹی ہے اور اپنے پہلے شوہر

\* الاستيعاب (۱۸۴۶/۴) أيضًا \* ترمذی فی الشمال (الحدیث: ۱۷۲)

\* اسد الغابة (۶۹۳۱) تجرید (۲۷۰/۲) \* مسند ابویعلیٰ (۲۰۶۳/۴)

\* اسد الغابة (۶۹۳۲) تجرید (۲۷۰/۲) \* مسند احمد (۲۱۴/۱)

کی طرف لوٹنا چاہتی ہے۔ آپ ﷺ نے اس سے فرمایا: ”یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تم اس کے علاوہ کسی دوسرے آدمی کا ذائقہ چکھ لو۔“

### ۱۱۱۹۱ ﴿رمضہ﴾

اہل مدینہ میں سے کسی خاتون کی باندی تھیں، وہ اور ان کی مولاۃ نبی کریم ﷺ کی آمد پر ایمان لائیں۔ ابو عمرؒ نے مختصر اسی طرح ذکر کیا ہے۔ ابن مندہ نے دونوں کی حدیث کو عبد الجلیل بن حارث کے طریق سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: مجھے بنت عمیا کی بیٹی مویہ نے روایت کیا، فرماتی ہیں: مجھے روضہ نے بتایا، فرماتی ہیں: میں اہل مدینہ میں سے ایک عورت کی باندی تھی، جب نبی کریم ﷺ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، تو میری مولاۃ (مالکن) نے مجھ سے کہا: اے روضہ! دروازے پر کھڑی ہو جاؤ، اور جب یہ شخص گزرے تو مجھے بتانا، میں دروازے پر کھڑی ہوئی۔ جب آپ ﷺ گزرے اور ان کے ساتھ صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت تھی، تو میں نے آپ ﷺ کی چادر کا کنارہ پکڑا۔ آپ ﷺ مسکرا دیئے۔ میں نے اپنی مولاۃ سے کہا: یہ شخص آگیا ہے۔ میری مالکن نکلی اور اس کا شوہر گھر میں تھا، آپ ﷺ نے ان پر اسلام پیش کیا تو وہ سب اسلام لے آئے۔

نسائی نے کئیوں میں ابوصالح عبد الجلیل بن حارث بن عبد اللہ بن نصر سے بیان کیا ہے وہ فرماتے ہیں: مجھ سے مویہ بنت اسود نے حدیث بیان کی، وہ فرماتی ہیں: مجھ سے روضہ نے بیان کیا، اور روایت میں یہ بھی ہے، میرے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور میں نے آپ ﷺ کے پڑے کا کنارہ پکڑا۔

### ۱۱۱۹۲ ﴿روضہ آخری﴾

رسول اللہ ﷺ کی مولاۃ تھیں، محمد بن ہارون رویانی نے اپنی مسند میں ان کا ذکر سفیان ثوری کے طریق سے بحوالہ ایک شخص کیا ہے، اس نے کریب سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں: نبی کریم ﷺ کی ایک لونڈی تھی، اس کا نام روضہ تھا.... پھر طویل حدیث ذکر کی، ابن سعد اور بلاذری نے نبی کریم ﷺ کے موالی میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۱۹۳ ﴿روضہ آخری﴾

طبری نے سورۃ نور کی تفسیر میں اس آیت ﴿اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو﴾ میں ان کا ذکر کیا ہے۔

چنانچہ ہشیم کے طریق سے اسے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: ہمیں منصور نے خبر دی بحوالہ ابن سیرین، وہ یونس بن عبید سے، وہ عمرو بن سعید ثقفی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم ﷺ کے پاس آنے کی اجازت طلب کی اور کہنے لگا: ”کیا میں گھس آؤں؟“ نبی کریم ﷺ نے اپنی لونڈی جسے روضہ کہا جاتا تھا سے فرمایا: ”اس کے پاس جاؤ اور اسے سکھاؤ کہ وہ اچھے طریقے سے اجازت نہیں مانگ رہا، اسے کہنا کہ یوں کہو: السلام علیکم! کیا میں اندر آ جاؤں؟“ اس شخص نے یہ سنا اور کہا میں اندر آ جاؤں؟

### ۱۱۱۹۴ ریحانہ بنت شمعون \*

بن زید۔ بعض کا قول ہے: زید بن عمرو بن قنافہ (ق کے ساتھ) یا خنافہ (خاء کے ساتھ) بنوفصیر سے ہیں، ابن اسحاق \* فرماتے ہیں: بنوعمر بن قریظہ سے ہیں۔ ابن سعد \* فرماتے ہیں: ریحانہ بنت زید بن عمرو بن خنافہ بن شمعون بن زید، بنوفصیر سے ہیں، بنوقریظہ کے ایک آدمی سے ان کی شادی ہوئی تھی جس کا نام حکم تھا، یہ واقدی رحمہ اللہ سے مروی ہے۔

ابن اسحاق رحمہ اللہ نے کبریٰ میں لکھا ہے: رسول اللہ ﷺ نے انہیں قیدی بنایا، اس نے یہودیت کو پسند کیا، نبی کریم ﷺ نے اس بات کو محسوس کیا، آپ ﷺ اپنے اصحاب کے ساتھ تھے کہ آپ ﷺ نے جوتوں کی آواز سنی اور فرمایا: ”یہ ثعلبہ بن سعید ہیں جو مجھے ریحانہ کے اسلام لانے کی خوشخبری دینے آئے ہیں“۔ انہوں نے آپ ﷺ کو خوشخبری دی اور ان پر پیش کیا کہ انہیں آزاد کر کے نکاح کر لیں، ان پر حجاب لازم ہوا، اس نے آپ ﷺ سے کہا: یا رسول اللہ! مجھے اپنی ملک میں چھوڑ دیں، یہ میرے لیے اور آپ ﷺ کے لیے بہتر ہے۔ آپ ﷺ نے ایسا ہی کیا، وہ آپ ﷺ کی وفات سے سولہ ماہ پہلے وفات پا گئیں۔ بعض کا قول ہے: جب آپ حجۃ الوداع سے لوٹ کر آئے تو وفات پا گئیں۔

ابن سعد نے واقدی کے حوالے سے اپنی سند سے بحوالہ عمر بن حکم نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: حضرت ریحانہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر کے پاس تھیں جو ان سے محبت کرتا تھا، وہ صاحب جمال تھیں، جب بنوقریظہ قیدی بنائے گئے تو قیدی آپ ﷺ کے سامنے پیش کئے گئے، آپ ﷺ نے انہیں علیحدہ کر لیا پھر انہیں ام منذر بنت قیس کے گھر بھیج دیا، یہاں تک کہ قیدیوں کو قتل کر دیا گیا۔ آپ ﷺ کے قیدیوں کو الگ کر دیا گیا، آپ ان کے پاس آئے، وہ حیا کی وجہ سے چھپ گئیں، فرماتی ہیں: آپ ﷺ نے مجھے بلایا اور اپنے سامنے بٹھایا اور مجھے اختیار دیا، میں نے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو پسند کیا۔ آپ ﷺ نے مجھے آزاد کر کے نکاح کر لیا۔ وہ آپ کے پاس رہیں یہاں تک کہ وفات پا گئیں۔ آپ ﷺ ان سے پوچھتے رہتے کہ اور کچھ چاہیے؟ اور جو وہ کہتیں عطا کرتے۔ جب آپ ﷺ حج سے لوٹ کر آئے تو وفات پا گئیں، انہیں بقیع میں دفن کیا گیا۔

ابن سعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ہمیں محمد بن عمر نے بتایا، فرماتے ہیں: مجھ سے صالح بن جعفر نے بحوالہ محمد بن کعب بیان کیا، فرماتے ہیں: حضرت ریحانہ رضی اللہ عنہا ان لوگوں میں سے تھیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بطور مال فتنے (بغیر جنگ کئے جو مال غنیمت حاصل ہو) اپنے رسول کو عطا کیا تھا۔ وہ بڑی حسین جمیل تھیں۔ جب ان کے خاوند قتل ہو گئے تو وہ قیدیوں میں شامل ہو گئیں۔ رسول اللہ ﷺ نے انہیں اختیار دیا تو انہوں نے اسلام کو پسند کیا۔ آپ ﷺ نے انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا اور ان پر پردہ لازم کر دیا۔ وہ آپ کے بارے میں بہت غیرت کرنے لگیں، آپ نے انہیں طلاق دے دی۔ انہیں بڑی گرانی ہوئی، ہر وقت روتی رہتیں تو آپ ﷺ نے رجوع کر لیا۔ پھر وہ آپ ﷺ کی وفات سے پہلے تک آپ ﷺ کے پاس رہیں۔ اور بطریق زہری روایت کی ہے کہ آپ ﷺ نے جب انہیں طلاق رجعی دی تو وہ اپنے گھرانے والوں کے پاس تھیں۔

\* اسد الغابۃ (۶۹۳۴) تجرید (۲/۲۷۰) \* السیرۃ النبویۃ (۱۹۲/۳)

\* الطبقات الکبریٰ (۳۲/۸)

فرماتی تھیں: نبی کریم ﷺ کے بعد مجھے کوئی نہ دیکھے۔ واقدی فرماتے ہیں: یہ وہم ہے، اس لیے کہ وہ نبی کریم ﷺ کے پاس ہی فوت ہوئی ہیں۔ محمد بن حسن نے ”اخبار مدینہ“ میں ”دراوردی“ سے بحوالہ سلیمان بن بلال، یحییٰ بن سعید سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے بنی قیس بن فہد کی حویلی میں نماز پڑھی، نبی ﷺ کی بیوی ریحانہ قرظہ اس میں رہتی تھیں۔ ابوموسیٰ فرماتے ہیں: ابن مندہ نے ماریہ کے سواں میں ان کا ذکر کیا ہے، الگ سے ان کا عنوان نہیں قائم کیا۔ بقول بعض: ان کا نام ربیحہ ہے۔

میں کہتا ہوں: ان کا علیحدہ تذکرہ کیا ہے۔ جس کی وضاحت اس میں ہے کہ جب انہوں نے نبی کریم ﷺ کی آزاد ازواج کا ذکر کیا اس کے بعد فرمایا: غزوہٴ مرسیع میں جویریہ بنت حارث بن ابی ضرار قید ہوئیں اور بنی نضیر سے صفیہ بنت جہی بن اخطب، جو اللہ تعالیٰ نے بطور مال فتنے آپ کو عطا کی۔ آپ نے ان دونوں کے لیے باری مقرر فرمائی اور اپنی قبلی باندی کو اپنے لیے مخصوص کر لیا جن سے ابراہیم پیدا ہوئے اور بنی قریظہ سے ریحانہ کو اپنی خواہگاہ کے لیے مختص فرمایا پھر انہیں آزاد کر دیا تو وہ اچھے گھر چلی گئیں اور اپنے گھر میں ہی سب سے اوجھل رہنے لگیں۔ یہ فائدہ کیا کم تھا جس سے ابن الاثیر نے غافل رکھا۔

ابن سعد نے بحوالہ واقدی کئی طرق سے نقل کیا ہے کہ آپ نے ان سے شادی کر لی تھی اور ان پر پردہ لازم کر دیا تھا۔ پھر فرماتے ہیں: یہ قول اہل علم کے ہاں موجود ہے۔ بعض سے میں نے یہ روایت بھی سنی ہے کہ وہ آپ کی ملکیت میں تھیں۔ ابن سعد نے ایوب بن بشر معافری کے طریق سے لکھا ہے کہ انہیں اختیار ملا، وہ کہنے لگیں: یا رسول اللہ ﷺ! مجھے آپ اپنی ملکیت میں رکھیں اس میں میرے لیے اور آپ کے لیے آسانی ہے چنانچہ وہ وفات تک آپ کی ملکیت میں رہیں۔

#### ۱۱۱۹۵ رَیْطَہ بنت اُمیہ

بن عبد اللہ بن عمر بن مخزوم مخزومیہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی بہن ہیں، صہیب بن سنان کی زوجہ ہیں، بلاذری نے ان کا ذکر کیا ہے۔

#### ۱۱۱۹۶ رَیْطَہ بنت الحارث التیمیہ \*

اپنے شوہر حارث بن خالد تمیمی کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی، ان سے اولاد ہوئی، رائلہ میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

#### ۱۱۱۹۷ رَیْطَہ بنت حبان

ان کا ذکر بھی رائلہ کے سواں میں گزر چکا ہے۔ ابن اسحاق نے مغازی میں ہوازن کے قیدیوں میں ان کا ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں: علی نے اپنی باندی کو پاکدامن کر لیا اور اسے قرآن سکھایا۔

#### ۱۱۱۹۸ رَیْطَہ بنت اُبی رُہم القرشیہ التیمیہ

بعض کا قول ہے: یہ ام مسطح کا نام ہے۔

#### ۱۱۱۹۹ رَیْطَہ بنت سفیان \*

قدامہ بن مظعون کی زوجہ ہیں، رائلہ کے سواں میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

### ۱۱۲۰۰ ریٹھ بنت ابی طالب

بن عبدالمطلب، ام ہانی کی بہن ہیں۔ ابن سعد \* نے ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد کے سوانح میں ان کا ذکر کیا ہے۔ بعض کا قول ہے: ان کی کنیت ام طالب تھی، کنیتوں میں ان کا ذکر آئے گا۔

### ۱۱۲۰۱ ریٹھ بنت عبداللہ \*

بن معاویہ ثقفی، عبداللہ بن مسعود کی زوجہ ہیں، بعض کا قول ہے: ان کا نام رائٹھ ہے، اور بعض نے کہا ہے: ان کا نام زینب اور رائٹھ لقب ہے، بقول بعض: دو خواتین ہیں: ان کی حدیث ابن ابوالزناد نے بحوالہ اپنے والد، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے عبداللہ ثقفی سے، انہوں نے اپنی بہن رائٹھ سے روایت کی ہے، بعض نے کہا: بحوالہ عروہ، وہ ریٹھ سے بغیر واسطے سے روایت کرتے ہیں، ابن ابوعاصم \* کے ہاں ان کے الفاظ یہ ہیں: بحوالہ رائٹھ جو حضرت عبداللہ بن مسعود کی زوجہ ہیں اور ان کی اولاد کی والدہ ہیں، وہ کام کرتی تھیں اور عبداللہ بن مسعود کے پاس مال نہیں تھا، وہ ان پر اور ان کی اولاد پر خرچ کرتی تھیں۔ (الحدیث) یہی قصہ حضرت زینب بنت جحش جو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہیں ان کے لیے منقول ہے، اور وہ صحیح میں ہے، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔

### ۱۱۲۰۲ ریٹھ بنت عبداللہ

بن حارث بن مطلب، مطلبہ، ابن سعد نے ان کے والد کے سوانح میں ان کا ذکر کیا ہے، ان کی وفات ۲ھ میں ہوئی۔

### ۱۱۲۰۳ ریٹھ بنت منبہ \*

بن حجاج سمیہ، عبداللہ بن عمرو بن عاص کی والدہ ہیں۔ اسلام لائیں اور بیعت کی، ان کا ذکر ہے جبکہ روایت نہیں۔ یہ ابن مندہ کا قول ہے: ابن سعد \* نے ابوجہیمہ مولیٰ زبیر سے واقفی کی سند سے ذکر کیا ہے کہ وہ فتح کے دن اسلام لائیں اور بیعت کی، اور انہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کیا ہے۔

### القسم الثانی از حرف راء

### ۱۱۲۰۴ ریٹھ بنت ابی جندب

ان کی والدہ ہند بنت امامہ کے سوانح میں ان کا ذکر آئے گا۔

### القسم الثالث از حرف راء

### ۱۱۲۰۵ ریحانہ بنت معدی کرب الزبیدیہ

عمرو بن معدیکرب جو مشہور گھڑسوار ہیں ان کی بہن ہیں، انہوں نے نبوت کا زمانہ پایا، ان کے بھائی نے ان کے بارے

\* الطبقات الكبرى (۸۲۱۲) \* أسد الغابة (۶۹۳۵) تجرید (۲۷۰/۲)

\* الأحاد والمثنائی (۲۳۵/۶) \* أسد الغابة (۶۹۳۶) تجرید (۲۷۰/۲)

میں شعر کہے۔ ان کے مشہور قصیدے کے شروع میں یہی مراد ہیں:

”بلائے سننے والے کی خوشبو کی وجہ سے مجھے اور میرے ساتھیوں کو رات کی بیداری میں مبتلا کر رہی ہے۔“

بعض کا قول ہے: انہوں نے یہ اشعار ام ذرید بن صمہ کے بارے میں کہے تھے وہ ریحانہ دوسری خاتون ہیں۔ اسے صمہ بخشی نے جاہلیت میں قیدی بنا لیا تھا، اس کا ذکر ہے۔

ان سے ذرید بن صمہ مشہور گھڑ سوار پیدا ہوا، وہ جاہلیت میں وفات پا گئیں، اور ان کا بیٹا ذرید حنین کے دن مشہور قول کے مطابق قتل ہوا، رہی ریحانہ جو عمرو کی بہن ہیں تو وہ فتنہ ارتداد میں قید ہوئی تھی۔ خالد بن سعید بن عاص نے ان کا فدیہ دیا اور انہیں ان کے بھائی عمرو کو واپس کر دیا، تو عمرو نے انہیں تلوار دی۔

اس لیے وہ بنو امیہ میں شمار ہونے لگیں، ابو الفرج اصبہانی نے یہ ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۲۰۶ ریحانہ آخری

انہوں نے نبوت کا زمانہ پایا، عامر بن عبداللہ بن زبیر نے ان سے روایت کی، سعید بن منصور فرماتے ہیں: ہم سے عبدالعزیز بن محمد نے حدیث بیان کی اور وہ دروردی ہیں، فرماتے ہیں: انہوں نے محمد بن عجلان سے، انہوں نے عامر بن عبداللہ بن زبیر سے، انہوں نے ریحانہ سے روایت کی ہے، فرماتی ہیں: میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، اور کہا: کیا میں گھس آؤں؟ انہوں نے مجھ سے فرمایا: جب تم آؤ تو کہو: السلام علیکم۔ اگر وہ کہیں: علیکم السلام، تو کہو: کیا میں اندر آ جاؤں؟

### القسم الرابع از حرف راء

### ۱۱۲۰۷ رمیثہ بنت حکیم

بیعت کی اور مرسل حدیث روایت کی ہے، بعض نے ان کا شمار صحابہ رضی اللہ عنہم میں کیا ہے۔ ابوموسیٰ نے ذیل میں ان کا ذکر کیا ہے، اور فرماتے ہیں: لیث بن سعد نے یزید بن ابوجہیب کے حوالے سے ان سے حدیث نقل کی ہے، وہ رسول اللہ ﷺ سے مرسل روایت کرتے ہیں، یہ تابعیہ ہیں، جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں۔





## حرف الزاي المنقوطة

### القسم الاول از حرف زاء

۱۱۲۰۸ زائده ❖

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مولاۃ ہیں، ابوسعید نیشاپوری کی کتاب شرف المصطفیٰ میں ان کا ذکر ہے۔ ابوموسیٰ نے ذیل میں ان کی حدیث نقل کی ہے اور ان کا نام زیدہ لیا ہے۔ اسی طرح مستغفری نے ان کا ذکر کیا ہے، ان دونوں نے فضل بن یزید بن فضل کے طریق سے بحوالہ بشر بن بکر، انہوں نے اوزاعی سے، انہوں نے واصل سے روایت کیا ہے، مستغفری کی روایت میں یہ اضافہ ہے، مولیٰ ابوعتبہ نے ابوجح سے روایت کیا ہے، اسی طرح مستغفری کی روایت میں ام یحییٰ ہیں، فرماتی ہیں: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: میں نبی کریم ﷺ کے پاس بیٹھی تھی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی لونڈی زیدہ آئی، وہ عبادت میں بہت کوشش کرنے والی تھیں، اور نبی کریم ﷺ تشریف فرما تھے، کہنے لگیں: میں نے اپنے گھر والوں کے لیے آنا گوندھا، اور لکڑیاں لینے کے لیے چلی گئی، تو ایک صاف ستھرے کپڑوں اور عمدہ خوشبو والا شخص جس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح تھا، وہ ایسے گھوڑے پر سوار تھے جو ماتھے سے سفید اور سیاہ و سفید کھروں والا تھا، انہوں نے فرمایا: کیا تم میری طرف سے بات پہنچا دو گی؟ فرماتی ہیں: میں نے کہا: جی ہاں! اگر اللہ نے چاہا تو۔ انہوں نے فرمایا: جب تم محمد ﷺ سے ملو تو انہیں کہو، خضر علیہ السلام آپ کو سلام دے رہے تھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں، مجھے کسی نبی کے مبعوث ہونے کی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی آپ کے نبی ہونے پر خوشی ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی امت عطا فرمائی جس پر اللہ رحم کرے گا اور آپ کو قبولیت سے سرفراز ہونے والی دعا عطا فرمائی اور آپ کو جنت میں ایک نہر عطا فرمائی..... (الحدیث)

ابن سعد کی روایت میں ہے کہ ان کا نام زائده ہے، اور ان کی رضوان سے جو جنت کے نگران ہیں ان سے ملاقات ہوئی۔ ابوموسیٰ فرماتے ہیں: واصل جو مولیٰ ابوعتبہ ہے، انہیں ام یحییٰ کا سماع حاصل نہیں، ذیل میں ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: میرے خیال میں یہ روایت موضوع ہے۔

میں کہتا ہوں: بات ایسی ہے جیسا ان کا گمان ہے۔

۱۱۲۰۹ زجاء ❖

حرف راء میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

۱۱۲۱۰ زرینہ \* ان کا ذکر بھی حرف راء میں گزر چکا ہے۔

۱۱۲۱۱ زغیبہ ان کا ذکر بھی حرف راء میں گزر چکا ہے۔

۱۱۲۱۲ زغیبہ بنت زرارہ الأنصاریہ \*

اسعد بن زرارہ کی بہن ہیں، ان کی والدہ سعاد بنت رافع بن معاویہ بن عبید بن ابجر ہیں، بیعت کرنے والی صحابیات میں سے ہیں۔

۱۱۲۱۳ زئیرہ \*

(زا کی زیر، ن پر تشدید اور زیر، ی ساکن) رومیہ۔ استیعاب \* میں ہے زئیرہ (ن اور ب کے ساتھ، غبرہ کے وزن پر ہے) ابن فتحون نے اس کا تعاقب کیا ہے، اور مغازی انوی سے (زاورنون کی تصغیر کے ساتھ) روایت کیا ہے۔ ابتدائی دور میں اسلام لانے والیوں میں سے تھیں، انہیں اللہ کے راستے میں تکلیفیں دی گئیں، ابو جہل انہیں تکلیفیں دیتا تھا۔ ان کا ذکر ان سات لوگوں میں ہے جنہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خرید کر آزاد کر دیا تھا، اور انہیں عذاب سے بچا لیا، ام عیسیٰ کے سوانح میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔

واقدی رضی اللہ عنہ نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی حدیث سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: میں نے حج کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہے تھے، اور ان کے اصحاب کو ستایا جا رہا تھا، میں عمرو کے پاس ٹھہرا جو بنو عمرو بن موتل کی لونڈی کو ستا رہا تھا۔ پھر اچھل کر زئیرہ پر پاؤں رکھتا اسے بھی اسی طرح تکلیف دیتا اس کے ساتھ بھی ایسا کیا۔

فاکبی نے محمد بن عبد اللہ بن یزید مقری سے اور ابن مندہ نے دوسری سند سے بحوالہ ابن مقری، انہوں نے ابن عیینہ انہوں نے سعد بن ابراہیم سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: زئیرہ رومی تھیں، وہ اسلام لائیں تو ان کی بصارت چلی گئی، مشرک کہنے لگے: اسے لات اور عزری نے اندھا کر دیا ہے، وہ کہنے لگیں: میں لات اور عزری سے کفر کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہ ان کی طرف لوٹا دی۔

محمد بن عثمان بن ابوشیبہ نے اپنی تاریخ میں زیادہ بکائی کی روایت سے وہ حمید سے بحوالہ انس روایت کیا ہے، فرماتے ہیں: مجھ سے ام ہانی بنت ابوطالب کہنے لگیں: حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے زئیرہ کو آزاد کر دیا تو ان کی بصارت ختم ہو گئی، قریش کہنے لگے: لات اور عزری اس کی نگاہ لے گئے۔ انہوں نے کہا: یہ جھوٹ بولتے ہیں، لات اور عزری نہ کوئی فائدہ دے سکتے ہیں نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بصارت لوٹا دی۔

\* اسد الغابۃ (۶۹۳۹) تجرید (۲۷۱/۲) \* تجرید (۲۷۱/۲)

\* اسد الغابۃ (۶۹۴۰) \* الاستیعاب (۱۸۴۹/۴)

## زینب نامی خواتین کا ذکر

زینب بنت سید ولد آدم (اولاد آدم کے سردار کی بیٹی)

محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب قرشیہ ہاشمیہ، یہ آپ ﷺ کی بڑی بیٹی تھی، ان میں سے سب سے پہلے شادی ہوئی، بعثت سے بہت مدت پہلے پیدا ہوئیں، بعض کا قول ہے: وہ دس سال کی تھیں، اس میں اختلاف ہے کہ قاسم ان سے پہلے ہوئے یا بعد میں؟ ان کے خالہ زاد ابوالعاص بن ربیع عجمی نے ان سے نکاح کیا، ان کی والدہ ہالہ بنت خویلد ہیں۔ ابن سعد \* نے صحیح سند سے بحوالہ شععی نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اپنے والد کے ساتھ ہجرت کی، ان کے شوہر ابوالعاص نے اسلام لانے سے انکار کیا، اور نبی کریم ﷺ نے ان میں جدائی نہیں کرائی، اور واقدی کی سند سے بحوالہ عباد بن عبد اللہ بن زبیر اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا ہے کہ ابوالعاص بدر میں مشرکوں کے ساتھ حاضر ہوا، اور قید کر لیا گیا، اس کا بھائی عمرو اس کے ساتھ فدیہ لے کر آیا، حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے بھی سونے کا ہار بھیجا جو انہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ابوالعاص کے ساتھ شادی کے موقع پر دیا تھا۔ جب نبی کریم ﷺ نے اسے دیکھا تو پہچان لیا، اور آپ ﷺ پر رقت طاری ہو گئی، انہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا یاد آئیں۔ آپ ﷺ کو حضرت زینب رضی اللہ عنہا پر رحم آیا، آپ ﷺ نے لوگوں سے بات کی، انہوں نے ابوالعاص کو آزاد کر دیا اور انہیں ہار لوٹا دیا، اور ابوالعاص کو کہا کہ ان سے علیحدگی اختیار کرے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔

واقدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: یہ ہمارے نزدیک ثابت ہے، اور اس کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے، جسے ابن اسحاق نے یزید بن رومان سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: نبی کریم ﷺ نے صبح کی نماز پڑھی اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو پکارا، میں نے ابوالعاص بن ربیع کو امان دی۔

اس کے جانے کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تم لوگوں نے سنا جو میں نے سنا؟ کہنے لگے: جی ہاں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس ذات کی قسم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ مجھے اس کی کسی چیز کا پتہ نہیں چلا یہاں تک کہ میں نے سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ محمد ادنیٰ مسلمان کی وجہ سے بھی امان دے دیتے ہیں۔

واقدی نے محمد بن ابراہیم تمیمی کے طریق سے ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں: ابوالعاص قریش کے قافلے میں نکلے، آپ ﷺ نے حضرت زید بن حارثہ کو ایک سو ستر سواروں کے ساتھ بھیجا، انہوں نے قافلے کو عیمیں کے کونے میں پالیا، یہ ہجادی الاولیٰ ۷ھ کی بات ہے۔ انہوں نے سب سامان قبضہ میں لے لیا اور لوگوں کو قیدی بنا لیا۔ ان میں ابوالعاص بھی شامل تھے۔ وہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے پاس گئے، انہوں نے انہیں پناہ دے دی، پھر یہی قصہ بیان کیا، اس میں یہ اضافہ ہے، اس نے جسے پناہ دی ہم نے اسے پناہ دی۔ پھر حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے آپ ﷺ سے سوال کیا کہ ان سے لی گئی شے انہیں لوٹا دیں۔ آپ ﷺ نے ایسا ہی کیا۔

ابوالعاص مکہ چلے گئے اور اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کرتے تھے، پھر وہ محرم ۷ھ میں اسلام لے آئے، آپ ﷺ نے

پہلے نکاح کے ساتھ ان پر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو لوٹا دیا۔

عبداللہ بن ابوبکر بن حزم کے طریق سے ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا ۸ھ کے شروع میں وفات پا گئیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں ابو معاویہ کے طریق سے بحوالہ عاصم احول، انہوں نے حصہ بنت سیرین سے، انہوں نے ام عطیہ سے نقل کیا ہے، فرماتی ہیں: جب حضرت زینب بنت رسول اللہ ﷺ وفات پا گئیں تو آپ ﷺ نے فرمایا: اسے تین یا پانچ (طاق) مرتبہ غسل دو اور آخر میں کانور سے غسل دو..... (الحدیث) \* اور وہ صحیحین میں دوسرے طریق سے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نام لیے بغیر مذکور ہے، اور حضرا مکشوم رضی اللہ عنہا کے سوانح میں یہ بات آئے گی کہ ام عطیہ بھی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے غسل میں شریک ہوئیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ہاں ابوالعاص سے علی پیدا ہوئے جو بلوغت کے بعد وفات پا گئے، ان کی زندگی میں ہی وفات پا گئے۔ امامہ زندہ رہیں یہاں تک کہ ان سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا۔ حضرت ہمزہ میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔ ان کے شوہر ابوالعاص بن ربیع کے سوانح میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے بعد تھوڑا عرصہ وہ زندہ رہے۔

### ۱۱۲۱۵ زینب بنت اصرم

بن حارث بن السباق بن عبدالدار قرشیہ عبد ربیہ، زبیر بن بکار نے اس کا ذکر کیا ہے۔  
ہیں، ان سے معبد اور عبداللہ پیدا ہوئے، زبیر بن بکار نے اس کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۲۱۶ زینب بنت ابی امامہ \*

اسعد بن زرارہ انصاریہ، ان کے والد کے سوانح میں ان کا نسب گزر چکا ہے۔ ابوموسیٰ نے ذیل میں ان کا ذکر کیا ہے۔ قسم  
ٹالٹ میں زینب بنت جابر کے سوانح میں ان کا ذکر آئے گا۔

### ۱۱۲۱۷ زینب بنت ثابت \*

بن قیس بن شماس انصاریہ۔ ان کے والد کے سوانح میں ان کا نسب گزر چکا ہے۔ ابن حبیب نے نبی کریم ﷺ سے بیعت کرنے والوں میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۲۱۸ زینب بنت جحش الاسدیہ \*

ام المومنین ہیں، نبی کریم ﷺ کی زوجہ ہیں، ان کے بھائی عبداللہ کے سوانح میں ان کا نسب گزر چکا ہے، ان کی والدہ  
امیہ نبی کریم ﷺ کی پھوپھی ہیں، نبی کریم ﷺ نے ان سے ۳ھ میں نکاح کیا، بعض کا قول ہے: ۵ھ میں۔ ان کی وجہ سے آیت  
حجاب نازل ہوئی، اس لیے وہ آپ ﷺ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کی زوجہ تھیں، ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی:  
﴿جب زید نے اس سے اپنا کوئی سروکار نہیں رکھا تو ہم نے تم سے اس کا نکاح کر دیا﴾ \*

\* بخاری (۱۲۶۳) مسلم (۲۱۷۰) اسد الغابۃ (۱۹۴۲) تجرید (۲۷۱/۲)

\* اسد الغابۃ (۱۹۴۵) تجرید (۲۷۱/۲) اسد الغابۃ (۱۹۴۷) تجرید (۲۷۱/۲)

\* سورة الاحزاب الآية (۳۷)

حضرت زید بن عاصمؓ کو ابن محمدؓ کہا جاتا تھا، جب یہ آیت نازل ہوئی: ﴿وَأَنبِئْهُمْ أَنِ انْزِلَ إِلَيْكُمُ الْوَحْيُ فِي الْحَقِّ﴾ ان کے باپوں کے نام کے ساتھ پکارا یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے۔ ﴿۱﴾

نبی کریم ﷺ نے ان کے طلاق دینے کے بعد ان سے نکاح کیا۔ اہل جاہلیت جو یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ کسی کے بیٹے کو لے پالک بنانے سے حقیقی بیٹا بن جاتا ہے، اور وہ ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کئی باتوں کا خاتمہ ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے قصہ اکھ میں ان کی تعریف کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے تقویٰ کی وجہ سے انہیں بچالیا۔ فرماتی ہیں: یہ وہی ہیں جو نبی کریم ﷺ کی ازواج میں سے میرا مقابلہ کرتی تھی، اور ازواج النبی ﷺ میں سے اس بات پر فخر کرتی تھیں کہ وہ ان کی پھوپھی زاد ہیں۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ سے ان کا نکاح کر دیا، جبکہ باقی ازواج کا نکاح ان کے اولیاء نے کیا۔

ابن سعد ﴿۲﴾ کے ہاں مرسل سند سے واقدی کے طریق سے ان کے نکاح کی حدیث ہے: جبکہ رسول اللہ ﷺ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس باتیں کر رہے تھے۔ آپ ﷺ پر وحی کی کیفیت طاری ہوگئی جب وہ کیفیت دور ہوئی تو آپ ﷺ مسکرا رہے تھے، اور کہہ رہے تھے: ”کون ہے جو حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے پاس خوشخبری لے کر جائے۔“ پھر یہ آیت تلاوت کی: ﴿وَجَبَّ قَسَمٌ﴾ اس سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا اور تو نے اس پر احسان کیا، اپنی زوجہ کو اپنے پاس رکھ اور اللہ سے ڈر..... ﴿۳﴾۔ (الآیۃ) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: ”مجھے یہ فکر دامن گیر ہوئی کیونکہ ہمیں ان کے حسن و جمال کی اطلاعیں ملتی رہتی تھیں، اور دوسری بات بہت بڑی اور شرف والی ہے جو انہیں حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر ان کا نکاح کر دیا، میں دل میں یہ کہنے لگے کہ یہ اس وجہ سے ہم پر فخر کریں گی۔“

ضعیف سند سے بحوالہ ابن عباس رضی اللہ عنہما مروی ہے کہ جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو نبی کریم ﷺ سے نکاح کی خبر ملی تو جدے میں گر پڑیں، عبدالواحد بن ابی عون کے طریق سے روایت ہے، حضرت زینب رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: یا رسول اللہ ﷺ! اللہ کی قسم میں آپ کی باقی ازواج کی طرح نہیں ہوں، آپ کی ہر زوجہ کا نکاح اس کے والد، بھائی یا گھر والوں نے کیا، اور میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمان پر آپ سے کیا۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں متصل سند سے مروی ہے جس میں واقدی بھی ہیں۔ ﴿۴﴾ انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے رحمت کا سوال کیا، اور جو ان کے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے درمیان جو کچھ تھا اسے بیان کیا، اسی طرح اور باتیں ذکر کیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: وہ نیک، روزہ دار، قیام کرنے والی تھیں، اپنے ہاتھ سے کام کرتی تھیں اور سب مسکینوں پر خرچ کر دیتی تھیں۔

ابو عمر فرماتے ہیں: ان کا نام برہ تھا، جب نبی کریم ﷺ کے نکاح میں آئیں تو آپ ﷺ نے ان کا نام زینب رکھ دیا، انہوں نے نبی کریم ﷺ سے کئی احادیث روایت کی ہیں، ان سے ان کے بھانجے محمد بن عبد اللہ بن جحش، ام حبیبہ بنت ابوسفیان اور

﴿۵﴾ سورة الاحزاب (۵) الطبقات الطبري (۷۴/۸)

﴿۶﴾ سورة الاحزاب الآية (۳۷) السير والمغازي (۲۹۲)

نہیں بنت ابوسلمہ نے روایت کی، جنہیں شرف صحابیت بھی حاصل ہے، اس کے علاوہ کلثوم بنت مصطلق اور مذکور جو ان کا مولیٰ ہے اور دوسرے لوگوں نے روایت کی۔

واقدي رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ۲۰ھ میں وفات پائی، اور طبرانی رحمہ اللہ نے شعبي رحمہ اللہ کے طریق سے نقل کیا ہے کہ عبدالرحمن بن ابری نے انہیں خبر دی کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت نسیب بنت جحش رضی اللہ عنہا پر نماز جنازہ پڑھی، یہ آپ رضی اللہ عنہ کی ازواج میں سے پہلی تھیں، جنہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کے بعد وفات پائی، صحیحین میں ہے۔ اور مسلم کے الفاظ ہیں: حضرت عائشہ بن طلحہ کے طریق سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں: رسول اللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”تم میں سے سب سے پہلے مجھ سے وہ ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہیں۔“

فرماتے ہیں: وہ اپنے ہاتھ ناپتی تھیں کہ ان میں سے کس کے ہاتھ لمبے ہیں، فرماتی ہیں: ہم میں سے حضرت نسیب رضی اللہ عنہا کے ہاتھ لمبے تھے، کیونکہ وہ اپنے ہاتھ سے کام کرتی اور صدقہ کر دیتی تھیں۔

یحییٰ بن سعید کے طریق سے، انہوں نے عمرہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہی روایت مرفوع نقل کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: ہم ہاتھ پر اپنے ہاتھ ناپتی تھیں کہ ہم میں سے کس کے لمبے ہیں، ہم اسی طرح کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت نسیب بنت جحش رضی اللہ عنہا وفات پا گئیں، وہ پستہ قد خاتون تھیں اور ہم میں لمبی نہ تھیں، ہمیں اس وقت پتہ چلا کہ نبی کریم رضی اللہ عنہ کی ہاتھ کی لمبائی سے مراد صدقہ تھا۔ حضرت نسیب رضی اللہ عنہا اپنے ہاتھ سے کام کرتی تھیں، وہ چڑھ رکنتیں اور سیتی تھیں۔ اس کی قیمت کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتی تھیں۔ ہم نے قطعیات میں شہر بن حوشب کے طریق سے بحوالہ عبداللہ بن شداد روایت کیا ہے، وہ میمونہ بنت حارث سے روایت کرتے ہیں، فرماتی ہیں: رسول اللہ رضی اللہ عنہ مال فئے، مہاجرین کی ایک جماعت میں تقسیم کرتے تھے، حضرت نسیب بنت جحش رضی اللہ عنہا نے اس بارے میں اعتراض کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں ڈانٹا، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”اے عمر! انہیں چھوڑ دو، یہ نرم مزاج ہیں۔“

ابن سعد رحمہ اللہ نے واقدي کی سند سے بحوالہ قاسم بن محمد روایت کیا ہے، فرماتے ہیں: میں نے اپنا کفن تیار کر لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی میرے لیے کفن بھیجیں گے، تو ان میں سے ایک صدقہ کر دینا، اگر تم سے ہو سکے تو میرا ازاد صدقہ کر دینا۔ دوسری سند سے عمرہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پانچ کپڑے بھیجے اور انہیں ایک ایک حرائی کپڑا لینے کو کہا، میں نے اس سے کفن بنا لیا، اور ان کی بہن حمنہ نے ان کا تیار کیا ہوا کفن ان کی طرف سے صدقہ کر دیا۔ عمرہ فرماتی ہیں: میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو فرماتے ہوئے سنا: قابل تعریف، عبادت گزار، یتیموں اور یتیموں کی پناہ گاہ چلی گئیں۔

ایک سند سے جس میں واقدي بھی ہیں، بحوالہ محمد بن کعب نقل کیا ہے: حضرت نسیب رضی اللہ عنہا کا وظیفہ بارہ ہزار تھا۔ اسے انہوں نے صرف ایک برس لیا، وہ کہنے لگیں: اے اللہ! یہ مال مجھے آئندہ سال نہ ملے، وہ فتنہ ہے۔ پھر اسے اپنے ذی رحم اور حاجت مندوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات پہنچی انہوں نے فرمایا: یہ وہ خاتون ہیں جن سے بھلائی ہی ملتی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ

وہاں تھوڑی دیر ٹھہرے، اور ان کی طرف سلام بھیجا اور فرمایا: مجھے یہ بات پہنچی ہے، جو کچھ انہوں نے تقسیم کیا ہے مجھے اس کی اطلاع ملی ہے، چنانچہ ان کا خرچ باقی رکھنے کے لیے ایک ہزار درہم روانہ فرمائے، انہوں نے اس کو بھی تقسیم کر دیا۔ برہ بنت رافع کے سوانح میں جو قسم رابع حرف ب میں ہے۔ یہ طویل قصہ گزر چکا ہے۔

واقعی ﷺ فرماتے ہیں: نبی کریم ﷺ نے ان سے نکاح کیا اور وہ پینتیس (۳۵) سال کی تھیں۔ ۲۰ھ میں وفات پائی، اس وقت ان کی عمر پچاس برس تھی۔ عمر بن عثمان جمحی سے منقول ہے کہ وہ ترین برس زندہ رہیں۔

### ۱۱۲۱۹ زینب بنت جحش

موطا کی شرح میں یونس بن مغیث نے لکھا ہے کہ ان کا نام حمنہ بنت جحش ہے، اور حمنہ ان کا لقب ہے، اسی طرح یہ بھی خیال ہے کہ ان کا نام احیبہ یا ام حبیب ہے، فرماتے ہیں: جحش کی تمام بیٹیوں کا نام زینب تھا۔

### ۱۱۲۲۰ زینب بنت حارث

بن سلام اسرائیلیہ۔ عمر نے اپنی جامع میں زہری کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ یہ یہودیہ تھی جس نے زہر ملا کر بکری کا گوشت چھپا رکھا تھا کہ نبی کریم ﷺ کھائیں گے، پھر وہ اسلام لے آئیں اور نبی کریم ﷺ نے اسے چھوڑ دیا۔ ان کے علاوہ کا قول ہے کہ آپ ﷺ کے اسے قتل کرنے کا حکم دیا۔ بعض کا قول ہے کہ وہ بشر بن براء کے قصاص میں قتل کی گئی، کیونکہ اس نے آپ ﷺ کے ساتھ بکری کا گوشت کھایا تھا، اور سال بعد فوت ہو گئے۔

### ۱۱۲۲۱ زینب بنت الحارث

بن عامر بن نوفل قرشیہ، عقبہ بن حارث جو مشہور صحابی ہیں ان کی بہن ہیں، اطراف میں ہے کہ یہ وہی ہیں جن سے خبیب بن عدی نے اُسترا مانگا تھا، اس وقت وہ قریش کی قید میں تھے اور بخاری میں یہ الفاظ ہیں: ”انہوں نے بنت حارث سے (اُسترا) مانگا۔“

### ۱۱۲۲۲ زینب بنت ابی حازم

ابن الفرضی نے اسی طرح تجرید میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۲۲۳ زینب بنت الحباب

بن حارث بن عمرو بن عوف بن مذہول بن عمرو بن غنم بن مازن بن نجار انصاریہ، بنو مازن سے ہیں۔ ابن حبیب نے نبی کریم ﷺ سے بیعت کرنے والوں میں ان کا ذکر کیا ہے۔ ابن سعد رحمہ اللہ نے اسی طرح کہا ہے، اور یہ اضافہ کیا ہے۔ ان سے قیس بن عمرو بن سہل بن ثعلبہ نے نکاح کیا، جس سے سعید پیدا ہوئے۔

## ۱۱۲۲۲ زینب بنت حمید \*

بن زہیر بن حارث بن اسد بن عبد العزی بن قصی، عبد اللہ بن ہشام کی والدہ ہیں، صحیح، مسند احمد \* وغیرہ میں سعید بن ایوب کے طریق سے، بحوالہ ابو عقیل جو زہرہ بن معبد ہیں اور ان کے دادا عبد اللہ بن ہشام، ان کا ذکر ثابت ہے۔ انہوں نے نبی کریم ﷺ کا زمانہ پایا اور ان کی والدہ انہیں نبی کریم ﷺ کے پاس لے گئیں، اس وقت وہ چھوٹے تھے، آپ ﷺ نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعا دی۔ ابن مندہ نے لکھا ہے کہ وہ عبد اللہ بن ہشام کی داوی ہیں، ابن اثیر نے اس کا تعاقب کیا ہے اور فرمایا: عبد اللہ بن ہشام کی والدہ ہیں۔

## ۱۱۲۲۵ زینب بنت حنظلہ \*

بن قسامہ بن قیس بن عید بن طریف بن مالک بن جدعان بن ذہل بن رومان بن جندب بن خارجہ بن سعد بن فطرہ بن طی: ابو عمر \* فرماتے ہیں: وہ، ان کے والد اور پھوپھی جڑ بیاہ بنت قسامہ نبی کریم ﷺ کے پاس آئے۔ اسامہ بن زید نے زینب سے نکاح کیا پھر انہیں طلاق دے دی۔ جب ان کی عدت ختم ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: زینب بنت حنظلہ سے کون نکاح کرے گا اور میں ....

میں کہتا ہوں: زہیر بن بکار نے کتاب النسب میں ذکر کیا ہے کہ طریف بن مالک کے متعلق مشہور شاعر امرؤ القیس کہتے ہیں جب وہ ان کے پاس ٹھہرا تھا:

”مجھے اپنی زندگی کی قسم! طریف بن مالک کیا ہی بہترین شخص ہے کہ ہوا اور سبزے والی رات میں اس کی روشنی کا قصد کرتے ہیں۔“ \*

## ۱۱۲۲۶ زینب بنت خباب \*

بن الارث تمیمہ، حرف خاء میں ان کے والد کے سوانح میں ان کا نسب گزر چکا ہے۔ مستغفری نے ان کا ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں: بخاری رحمہ اللہ نے نبی کریم ﷺ سے روایت کرنے والوں میں ان کا نام لیا ہے، اور اعمش کے طریق سے، ابو اسحاق سے جو سیمی ہیں، بحوالہ عبد الرحمن قاسمی، انہوں نے حضرت زینب بنت خباب سے نقل کیا ہے، فرماتی ہیں: حضرت خباب بنی النجہ سریے میں گئے، تو نبی کریم ﷺ ہماری خبر گیری کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ہمارے دودھ دینے والے جانوروں کا دودھ ہمارے برتنوں میں دودھ دیا کرتے تھے۔ \*

\* اسد الغابۃ (۶۹۵۰) تجرید (۲۷۲/۲) مسند احمد (۲۳۳/۴)

\* اسد الغابۃ (۶۹۵۱) تجرید (۲۷۲/۲) الاستیعاب (۱۸۵۲/۴)

\* الاستیعاب (۱۸۵۲/۴) دیوان امرؤ القیس (۱۲۴)

\* اسد الغابۃ (۶۹۵۲) تجرید (۲۷۲/۲)

\* مسند احمد (۱۱۱/۵)



### ۱۱۲۲۷ زینب بنت خُزیمہ

بن عبد اللہ بن عمر بن عبد مناف بن ہلال بن عامر بن صعصعہ ہلالیہ، ام المؤمنین تھیں، نبی کریم ﷺ کی زوجہ تھیں انہیں ام المساکین کہا جاتا تھا، کیونکہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلاتی اور صدقہ کرتی تھیں۔ عبد اللہ بن جحش کی زوجہ تھیں جو احد میں شہید ہوئے، اس کے بعد نبی کریم ﷺ نے ان سے نکاح کیا، بعض کا قول ہے، ان کے پہلے شوہر طفیل بن حارث بن مطلب ہیں ان کے بعد ان کے بھائی، عبیدہ بن حارث، سے نکاح ہوا، وہ میمونہ بنت حارث کی ماں شریک بہن تھیں، حضرت حصہ بنت عمرو رضی اللہ عنہا کی رخصتی کے بعد ان کی رخصتی ہوئی۔ وہ آپ ﷺ کے پاس دو یا تین مہینے رہیں، اور وفات پا گئیں۔

ابن اثیرؒ فرماتے ہیں: ابن مندہ نے ان کے سوانح میں یہ حدیث ذکر کی ہے: ”تم میں سب سے پہلے مجھے وہ ملے گی جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہیں“..... (الحدیث)

یہ حدیث زینب بنت جحش کے سوانح میں گزر چکی ہے، جو ان کے زیادہ مناسب ہے، کیونکہ وہی آپ ﷺ کی وفات کے بعد سب سے پہلے ملیں، اور یہ آپ ﷺ کی زندگی میں وفات پا گئیں۔ یہ مضبوط تعقب ہے۔

ابن کلبیؒ کا قول ہے: طفیل بن حارث کے نکاح میں تھیں، انہوں نے انہیں طلاق دے دی پھر اس کے بھائی نے ان سے نکاح کیا۔ وہ بدر میں شہید ہوئے تو رسول اللہ ﷺ نے ان کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا انہوں نے آپ ﷺ کو اختیار دے دیا آپ ﷺ نے رمضان کے مہینے میں ۳ھ میں ان سے نکاح کیا، وہ آپ ﷺ کے پاس آٹھ (۸) مہینے رہیں۔ اور ربیع الاول ۴ھ میں وفات پا گئیں۔

میں کہتا ہوں: ابن سعد نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے سوانح میں ان سے منقطع سند سے نبی کریم ﷺ کے پیغام نکاح کی حدیث روایت کی ہے۔ فرماتے ہیں، وہ فرماتی ہیں: آپ ﷺ نے مجھ سے نکاح کیا اور مجھے زینب بنت خُزیمہ (ام المساکین) کی وفات کے بعد ان کے گھر میں لے گئے، واعدی کا قول ہے کہ ان کی عمر تیس (۳۰) برس تھی۔

ابن سعد رضی اللہ عنہ نے ان کے سوانح میں بحوالہ اسماعیل بن ابی اویس، عبد العزیز بن محمد، شریک بن ابی عمر، عطاء بن یسار نقل کیا ہے کہ وہ ہلالیہ سے جو نبی کریم ﷺ کے پاس تھیں کہ ان کی حبشی باندی تھیں۔ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں چاہتی ہوں کہ اسے آزاد کر دوں، آپ ﷺ نے ان سے فرمایا: ”کیا تم اس کے ذریعے اپنے بھانجوں اور بھتیجیوں کی بکریوں کی چرواہی سے جان کیوں نہیں چھڑواتی؟“

میں کہتا ہوں: یہ خطا ہے، کیونکہ یہ قصہ حضرت میمونہ بنت حارث کے ساتھ پیش آیا جو ہلالیہ ہیں، صحیح میں اسی طرح کی حدیث ہے۔ ابن سعد نے اسی طرح میمونہ کے سوانح میں دوسری سند سے نقل کیا ہے۔

### ۱۱۲۲۸ زینب بنت خُناص

ابن اسحاق نے ہوازن کے ان قیدیوں میں ان کا ذکر کیا ہے، جنہیں نبی کریم ﷺ نے اپنے اصحاب میں تقسیم فرما دیا تھا۔

آپ ﷺ نے انہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا تھا، جب نبی کریم ﷺ نے قیدیوں کو لوٹانے کا حکم دیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں ان کے گھر والوں کو لوٹا دیا، وہ اپنے شوہر کے پاس چلی گئیں۔

ابن اسحاق \* فرماتے ہیں: مجھ سے ابو جرحہ نے بیان کیا کہ ان کے چچا زاد ان کے شوہر تھے، وہ انہیں لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینہ آئے، ان سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ملے جب ان کے شوہر کو دیکھا تو فرمایا: تم پر افسوس! کیا یہ تمہیں مجھ سے زیادہ محبوب ہے؟ کہنے لگیں: جی ہاں! میرا شوہر اور میرا چچا زاد ہے۔

### ۱۱۲۲۹ زینب بن ابی رافع \*

جو رسول اللہ ﷺ کے غلام ہیں، فرماتی ہیں: میں نے آپ ﷺ کی مرض وفات میں فاطمہ بنت رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر نبی کریم ﷺ کے پاس آئیں۔ عرض کرنے لگیں: یا رسول اللہ ﷺ! یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں۔ انہیں وراثت دیجئے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”حسن کو میری ہیبت اور سرداری (نصیب ہو) اور حسین کو میری سخاوت اور جرأت مندی عطا ہو“۔

اسے ابن مندہ نے ابراہیم بن حمزہ زبیری کی روایت سے، \* ابراہیم بن حسن بن علی رافعی سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنی دادی زینب سے اسے روایت کیا ہے، ابراہیم ضعیف راوی ہیں۔

اسے ابو نعیم نے یعقوب بن حمید کے طریق سے، ابراہیم رافعی سے نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں: ایک روایت میں ہے: مجھ سے بنت ابورافع نے بحوالہ فاطمہ بنت رسول اللہ ﷺ حدیث بیان کی کہ وہ آئیں، فرماتے ہیں: یہی درست ہے۔

میں کہتا ہوں: زبیری، ابن حمید سے زیادہ حافظ ہے، اگر زینب نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا یہاں تک کہ ان سے حدیث سنی تو گویا اس نے نبی کریم ﷺ کا زمانہ پایا، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ ﷺ کے بعد تھوڑا عرصہ زندہ رہیں۔

### ۱۱۲۳۰ زینب بنت زید

بن حارثہ جو رسول اللہ ﷺ کے مولیٰ ہیں، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں، بلاذری نے صماء بن زید کے طریق سے بحوالہ خالد بن سلمہ نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو نبی کریم ﷺ ان کے گھر تشریف لائے، تو وہ آپ ﷺ کے سامنے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگیں اور آپ ﷺ بھی آبدیدہ ہو گئے۔

### ۱۱۲۳۱ زینب بنت ابی سفیان \*

صحرا بن حرب بن امیہ امویہ، حضرت ام المؤمنین ام حبیبہ کی بہن ہیں، عروہ بن مسعود ثقفی کی زوجہ تھیں، ابن مندہ فرماتے ہیں: ان سے علقمہ بن عبد اللہ نے روایت کی، پھر نصر بن محمد مروزی کے طریق سے بحوالہ ابواسحاق سلیمان شیبانی، محمد بن عبید اللہ ثقفی، عروہ بن مسعود ثقفی حدیث بیان کی کہ وہ ایمان لائے اور ان کے نکاح میں کئی عورتیں تھیں جن میں سے چار قریش سے تھیں،

\* السیرۃ النبویۃ (۱۰۵/۴) \* أسد الغابۃ (۶۹۵۵) تجرید (۲۷۲/۲)

\* جامع المسانید والسنن (۴۹۵/۱۵) \* أسد الغابۃ (۶۹۵۷) تجرید (۲۷۲/۲)

## الاصحاب في زينب بنت النعمان (الزور) (جلد ۲۰۴)

نبی کریم ﷺ نے انہیں حکم دیا کہ ان میں سے چار کو اختیار کر لیں، چار عورتیں جن کو انہوں نے اختیار کیا ان میں زینب بنت ابوسفیان قریشیہ شامل ہیں، اسے ابو نعیم نے ورقاء کے طریق سے بحوالہ سلیمان نقل کیا ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں، فرماتے ہیں: میں اسلام لایا، اور میرے نکاح میں دس عورتیں تھیں، ان میں سے چار قریشیہ تھیں، جن میں سے ایک بنت ابوسفیان تھیں.... (الحديث) \* فرماتے ہیں: اسے یحییٰ بن العلاء نے بحوالہ شیبانی اسی طرح روایت کیا ہے۔ اس میں بھی ان کا نام مذکور نہیں۔

### ۱۱۳۳۲ زینب بنت ابی سلمہ \*

عبداللہ بن عبدالاسد بن عمرو بن مخزوم مخزومیہ، نبی کریم ﷺ کی پرورش میں تھیں، ان کی والدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بنت ابوامیہ ہیں، بعض کا قول ہے: حبشہ کی سرزمین میں پیدا ہوئیں اور نبی کریم ﷺ نے ان کی رضاعت کے زمانے میں ان کی والدہ سے نکاح کیا۔

مسند بزار کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی پیدائش ابوسلمہ رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کے بعد ہوئی تھی۔ جب عدت ختم ہوئی تو نبی کریم ﷺ نے نکاح کا پیغام دیا اور ان سے نکاح کیا، اس وقت وہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو دودھ پلاتی تھیں، اس بارے میں ان کا قصہ طویل ہے اور ان کا نام بڑھ تھا، نبی کریم ﷺ نے بدل دیا۔ \*

ابن ابوشیبہ نے محمد بن عمرو بن عطاء کے طریق سے، ان سے مسند نقل کیا ہے۔ جو ان سے روایت کرتے ہیں، اسی طرح زینب بنت جحش کے سوانح میں بھی مذکور ہے، مسلم میں ان زینب اور جویریہ بنت حارث کے بارے میں یہ مذکور ہے۔

انہوں نے نبی کریم ﷺ سے احادیث یاد کیں، اور آپ ﷺ سے روایت کی، آپ ﷺ کی ازواج، اپنی والدہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام حبیبہ وغیرہ سے روایت کی، ان سے ان کے بیٹے ابوعبیدہ بن عبداللہ بن زعمہ، محمد بن عطاء عراق بن مالک حمید بن نافع، عروہ بن زبیر، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، زین العابدین علی بن حسین اور دوسرے لوگوں نے روایت کی۔

ابن سعد \* فرماتے ہیں: حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہا نے انہیں دودھ پلایا، زبیر رضی اللہ عنہ کی اولاد کی بہن تھیں۔ بکر بن عبداللہ مزی نے فرماتے ہیں: مجھے ابورافع نے یعنی صالح نے بتایا، فرماتے ہیں: میں نے جب بھی مدینہ کی فقیہہ خاتون کا ذکر کیا تو میں نے زینب بنت ابوسلمہ کا ذکر کیا۔

سلیمان تمیمی بحوالہ ابورافع فرماتے ہیں: مجھے میری بیوی غصہ ہوئی، تو زینب بنت ابوسلمہ رضی اللہ عنہا جو اس وقت مدینہ کی فقیہہ خاتون تھیں فرمایا.... پھر قصہ ذکر کیا۔

عجلی نے ثقات تابعین میں ان کا ذکر کیا ہے، یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک شرف صحابیت کے لیے بلوغت شرط ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے احادیث یاد نہیں کیں۔

ہم نے قطعیات میں عطف بن خالد کے طریق سے بحوالہ ان کی والدہ اور انہوں نے حضرت زینب بنت ابوسلمہ سے

\* اسد الغابۃ (۲۹۹/۵) \* اسد الغابۃ (۶۹۵۸) تجرید (۲۷۲/۲)

\* المعجم الكبير (۷۱۱/۲۴) الاحاد والمثنائی (۲۲/۶) \* الطبقات الكبرى (۳۳۸/۸)

روایت کیا ہے، فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ جب غسل کرنے گھر تشریف لاتے تو میری والدہ فرماتیں کہ آپ ﷺ کے پاس جاؤ، جب میں آپ ﷺ کے پاس پہنچی تو آپ ﷺ میرے چہرے پر پانی سے چھینٹا مارتے، اور وہ کہہ رہے تھے: ”واپس چلی جاؤ“۔ فرماتی ہیں: میں نے حضرت زینب بنت جحشؓ کو دیکھا کہ وہ بہت بوڑھی تھیں، اور ان کے چہرے میں کسی قسم کا عیب نہیں پیدا ہوا تھا۔ \* ایک روایت میں ابو عمرؓ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ جوانی کی رعنائی ان کے چہرے پر برقرار رہی، اگرچہ وہ بوڑھی عمر رسیدہ ہو گئیں۔

ابن سعد نے ان کا ذکر ان لوگوں میں کیا ہے جنہوں نے آپ ﷺ سے کچھ بھی روایت نہیں کیا اور آپ ﷺ کی ازواج سے روایت کیا۔

### ۱۱۲۳۳ زینب بنت سوید

بن صامت انصاریہ۔ ان کے والد کے سوانح میں ان کا نسب گزر چکا ہے۔ سعید بن زید بن عمرو بن نفیل جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں ان کی زوجہ ہیں۔ ان سے عاتکہ پیدا ہوئیں، زبیر بن بکار نے قریش کے نسب میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۲۳۴ زینب بنت سہل

بن مصعب بن قیس انصاریہ خزرجیہ، بنو حلی سے ہیں۔ ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ \*

### ۱۱۲۳۵ زینب بنت صیفی

بن صخر بن خضاء انصاریہ۔ نبی کریم ﷺ سے بیعت کی، یہ ابن حبیب کا قول ہے۔ \*

### ۱۱۲۳۶ زینب بنت عامر

بعض کا قول ہے: بنت عبداللہ، یہ ام رومان ہیں۔ کئیوں میں ان کا ذکر آئے گا۔

### ۱۱۲۳۷ زینب بنت عبداللہ

بن ابی بن سلول: ثابت بن قیس بن شماس کی زوجہ تھیں پھر ان سے خلع لے لی، سنن دارقطنی رحمہ اللہ میں اسی طرح مذکور ہے۔ حرف جیم میں گزر چکا ہے کہ ان کا نام جمیلہ ہے۔

### ۱۱۲۳۸ زینب بنت عبداللہ

بعض کا قول ہے: بنت معاویہ، عبداللہ بن مسعود کی زوجہ ہیں، ان کا ذکر آگے آئے گا۔ بعض نے کہا: ابو معاویہ کی بیٹی ہیں، ابن سکین نے اسی پر اعتماد کیا ہے۔

\* المعجم الكبير (۷۱۵/۲۴) \* الاستيعاب (۱۸۵۵/۴) \* اسد الغابۃ (۶۹۵۹) تجرید (۲۷۳/۲)

\* الطبقات الكبرى (۲۸۰/۸) \* اسد الغابۃ (۶۹۶۰) تجرید (۲۷۳/۲) \* الطبقات الكبرى (۲۹۱/۸)

\* تجرید (۲۷۳/۲) \* تجرید (۲۷۳/۲)

ابن فنحون کا قول ہے: شاید ان کا نام عبداللہ اور کنیت ابو معاویہ ہے، ابو عمر نے ان کے نام ربطہ میں اسی طرح بیان کیا ہے، جیسا کہ گزر چکا ہے۔

### ۱۱۲۳۹ زینب بنت عثمان

بن مظعون حنیہ، فرماتے ہیں..... ابن عمر نے نبی کریم ﷺ کے زمانے میں انہیں نکاح کا پیغام دیا اور مغیرہ نے بھی پیغام دیا، ان کے چچا قدامہ ابن عمر کی طرف مائل ہوئے کیونکہ وہ ان کی بہن زینب بنت مظعون کے بیٹے تھے اور زینب بنت عثمان کی والدہ کو مغیرہ زیادہ پسند آئے، جس کا قصہ مذکور ہے۔

میں کہتا ہوں: ابن سعد نے یہ اسماعیل بن ابواویس سے، انہوں نے عبدالعزیز بن مطلب سے، انہوں نے عمر بن حسین سے انہوں نے نافع سے یہ روایت کیا ہے، فرماتے ہیں: ابن عمر نے زینب بنت عثمان بن مظعون سے ان کے والد کی وفات کے بعد نکاح کیا۔ ابن عمر کا ان سے نکاح ان کے چچا قدامہ نے کیا، مغیرہ بن شعبہ نے انہیں مہر دینے کی ترغیب دی۔ تو لڑکی کی والدہ لڑکی سے کہنے لگی: اجازت نہ دینا۔

آپ ﷺ کو انہوں نے اور ان کی والدہ نے یہ بات بتائی تو آپ ﷺ نے نکاح رد کر دیا۔ پھر ان سے مغیرہ بن شعبہ نے نکاح کیا۔

### ۱۱۲۴۰ زینب بنت العوام

بن خویلد بن اسد قرشیہ اسدیہ، زبیر بن عوام کی بہن ہیں، زبیر بن بکار کا قول ہے: یہ خالد، یحییٰ، شیبہ، عبداللہ اور فاختہ کی والدہ ہیں جو حکیم بن حرام کی اولاد ہے۔ اسلام لائیں اور جنگ جمل میں اپنے بیٹے عبداللہ بن حکیم بن حرام کے شہید ہونے تک زندہ رہیں۔ اپنے بیٹے کا انہوں نے مرثیہ کہا، جس میں اپنے بھائی کا بھی ذکر کرتی ہیں:

”تم نے حواری رسول اور ان کے رشتہ دار اور آپ ﷺ کے صحابی کو قتل کیا ہے۔ جس کی پاداش میں تمہیں جہنم کی بشارت ہو، اس سے پہلے عثمان کے قتل (شہادت) نے مجھے ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اور اس پر میرے آنسوؤں کی جھڑی بہہ پڑی تو اے میری آنکھو! ایسے شخص پر کھل کر برسو، جو نبی اور شریف تھا عبداللہ جو حارث کے نام سے بلایا جاتا تھا، وہ ہم میں سے دوستی والا اور یتیم کی پرورش کرنے والا تھا، ابن اروی اور ابن ام حکیم کی شہادت کے بعد خدا ہی جانے ہمارا اور دین کا کیا بنے گا۔“

### ۱۱۲۴۱ زینب بنت قیس

بن شماس انصاریہ، ان کے بھائی ثابت بن قیس ابن خطیم کے سوانح میں ان کا نسب گزر چکا ہے۔ ابن سعد فرماتے

اسد الغابۃ (۶۹۶۶) تجرید (۲/۲۷۳) الطبقات الکبریٰ (۸/۱۹۷)

اسد الغابۃ (۶۹۶۲) تجرید (۲/۲۷۳) الطبقات الکبریٰ (۵/۳۰۷)

تجرید (۲/۲۷۳) الطبقات الکبریٰ (۸/۳۶۲)

ہیں: اسلام لائیں اور بیعت کی، ان کی والدہ خولہ بنت عمرو بن قیس خزرجیہ ہیں، ضعیب بن یساف سے ان کا نکاح ہوا، جس سے انیسہ پیدا ہوئیں۔

### ۱۱۲۳۲ زینب بنت قیس

بن مخرمہ بن عبد مناف قرشیہ مطلبیہ۔ طبرانی اور ابن مندہ نے اسماعیل بن عبد الرحمن سدی کے طریق سے بحوالہ ان کے والد نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: زینب بنت قیس بن مخرمہ نے مجھے دس ہزار میں مکاتب بنایا، جس میں سے ایک ہزار درہم کم کر دیئے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی۔

### ۱۱۲۳۳ زینب بنت کعب

بن عجرہ، صحابیہ تھیں۔ ان سے ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا، تجرید کے اضافے میں اسی طرح مذکور ہے۔ اس میں ابواسحاق بن امین پیشرو ہیں۔ انہوں نے استیعاب کے ذیل میں ان کا ذکر کیا ہے، ابن فتحون نے بھی ان کا تذکرہ کیا ہے۔ ان دونوں کے علاوہ نے تابعین میں ان کا ذکر کیا ہے۔ سنن اربعہ اور مسند احمد میں ان کی روایت ابوسعید اور ان کی بہن فریجہ سے ہے۔ ان کے دو بھتیجوں، سعد بن اسحاق اور سلیمان بن محمد اور کعب بن عجرہ کے دونوں بیٹوں نے ان سے روایت کی ہے۔ ابن حبان نے ثقات میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۲۳۴ زینب بنت کلثوم الحمیریہ

عکاف کے سوانح میں ان کا ذکر ہے، بعض کا قول ہے: ان کا نام کریمہ ہے، اور ان کا ذکر آگے آ رہا ہے۔

### ۱۱۲۳۵ زینب بنت مالک

بن سنان خدریہ، ابوسعید کی بہن ہیں۔ ان کے والد کے سوانح میں ان کا نسب گزر چکا ہے۔ ابوموسیٰ نے ذیل میں ان کا ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں: ابوضرہ نے سعد بن اسحاق بن کعب بن عجرہ سے روایت کیا، انہوں نے اپنی پھوپھی زینب بنت کعب سے، انہوں نے ابوسعید اور ان کی بہن زینب سے، انہوں نے نبی کریم ﷺ سے مرض کے کفارہ کے بارے میں روایت کیا۔ فرماتے ہیں: اسے یحییٰ بن سعید قطان نے بحوالہ سعد بن اسحاق روایت کیا ہے، اور ابوسعید کے ساتھ کسی کا ذکر نہیں کیا۔

### ۱۱۲۳۶ زینب بنت مصعب

بن عمیر عبد رییہ، ان کے والد کے سوانح میں ان کا نسب گزر چکا ہے۔ ابن اشیر نے ان کا ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں: ان کے والد اُحد میں شہید ہوئے، اس لیے انہیں شرف صحابیت حاصل ہے۔ یہ استنباط صحیح ہے۔ کیونکہ وہ نبی کریم ﷺ کے بعد مدت تک

اسد الغابۃ (۶۹۶۳) المعجم الكبير (۷۳۳/۲۴) تجرید (۷۷۴/۲)

اسد الغابۃ (۶۹۶۴) تجرید (۲۷۴/۲) مسند احمد (۲۳/۳)

اسد الغابۃ (۶۹۶۵) تجرید (۲۷۴/۲) اسد الغابۃ (۳۰۱/۵)

زندہ رہیں۔

زبیر بن بکار نے ذکر کیا ہے کہ ان کے والد نے ان کے اور ان کی والدہ حمہ بنت جحش کے علاوہ کسی کو اپنے پیچھے نہیں چھوڑا، ان کی والدہ نے مصعب کے بعد طلحہ سے نکاح کر لیا، زینب کا نکاح عبداللہ بن عبداللہ بن ابوامیہ مخزومی سے ہوا، جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا بھتیجا تھا۔ ان سے اولاد بھی ہوئی۔

### ۱۱۲۳۷ زینب بنت مضعون \*

بن حبیب حنظلہ، ان کے بھائی عثمان اور قدامہ کے سوانح میں ان کا نسب گزر چکا ہے۔ ابوعمر \* فرماتے ہیں: عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہیں، اور ان کی اولاد عبداللہ اور حفصہ کی والدہ ہیں، زبیر فرماتے ہیں کہ وہ ہجرت کرنے والی صحابیات میں سے ہیں، مجھے خوف ہے کہ یہ وہم نہ ہو، کیونکہ بعض کا قول ہے: وہ مکہ میں ہجرت سے قبل فوت ہوئیں۔

میں کہتا ہوں: بلکہ اس دوسرے قول میں وہم ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے اپنے بھتیجے عبداللہ کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ ہجرت کی۔

بخاری رضی اللہ عنہ نے اسے نافع رضی اللہ عنہ کے طریق سے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔ جب اسامہ کو عبداللہ بن عمر پر وظیفہ کی تقسیم میں فضیلت دی گئی۔ ابن قحون رضی اللہ عنہ نے ابوعمر کے اس قول کا تعاقب کیا ہے، اور ابوموسیٰ نے ذیل میں اس حدیث کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۲۳۸ زینب بنت معاویہ \*

بعض نے کہا: بنت ابومعاویہ، اس کا ابوعمر \* نے یقین کیا ہے۔ پھر ان کا نسب بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں: بنت معاویہ بن عتاب بن اسعد بن عامر بن حطیط بن شہم بن ثقیف، وہ ابومعاویہ، ثقیف کی بیٹی ہیں۔

انہوں نے نبی کریم ﷺ اور اپنے شوہر ابن مسعود اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، ان سے ان کے بیٹے ابوعبیدہ بن عبداللہ بن مسعود اور ان کے بھتیجوں جن کا نام نہیں لیا، عمرو بن حارث بن ابوضرار، بسر بن سعید اور عبید بن سباق وغیرہ نے روایت کی، کئی ایک نے ان کے درمیان اور رابطہ جن کا ذکر گزر چکا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے۔ صحیحین میں ان کی حدیث مذکور ہے، مسلم کے الفاظ یہ ہیں: \* اعمش کے طریق سے، شقیق بن سلمہ سے بحوالہ عمرو بن حارث انہوں نے زینب سے جو عبداللہ کی زوجہ ہیں روایت کیا ہے، فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے عورتوں کی جماعت! صدقہ کیا کرو، اگرچہ تمہارے زیور سے ہی ہو“۔ فرماتی ہیں: میں چلی تو انصار کی ایک عورت کی حاجت میری حاجت کی طرح تھی۔ آپ ﷺ کو خداداد ہیبت حاصل تھی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ باہر آئے، تو ہم نے کہا: رسول اللہ ﷺ کہاں ہیں؟ آپ ﷺ کو بتاؤ کہ دو عورتیں دروازے پر آپ ﷺ سے پوچھ رہی ہیں، کیا

\* اسد الغابۃ (۶۶۶۶) تجرید (۲/۲۷۴) \* الاستیعاب (۴/۱۸۵۷)

\* اسد الغابۃ (۶۶۶۷) تجرید (۲/۲۷۸۴) \* الاستیعاب (۴/۱۸۵۳)

\* مسلم (الحدیث: ۲۳۱۵)

## الْأَنْبَاءُ فِي مَنَاسِكَ الْفَضَائِلِ (رواه الإمام أحمد)

۲۰۹

جلد ۱

ان کا صدقہ اپنے شوہروں کے لیے درست ہے، اور یتیم ان کی پرورش میں ہیں۔ اور آپ ﷺ کو یہ نہ بتانا کہ ہم کون ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ گئے اور آپ ﷺ سے سوال کیا، آپ ﷺ نے پوچھا: ”وہ دونوں کون ہیں؟“ فرمایا: انصار کی ایک عورت اور زینب ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”کون سی زینب؟“ انہوں نے کہا: عبداللہ کی بیوی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ان کے لیے دواجر ہیں، ایک رشتہ داری کا اجر اور دوسرا صدقے کا اجر۔“

ابو عمرؒ فرماتے ہیں: علقمہ نے عبداللہ سے روایت کیا ہے کہ زینب انصاریہ جو ابوسعود کی زوجہ ہیں اور زینب ثقفیہ جو ابن مسعود کی زوجہ ہیں، نبی کریم ﷺ کے پاس آئیں اور آپ ﷺ سے اپنے شوہروں پر خرچ کرنے کے بارے میں سوال کر رہی تھیں..... (الحديث)

بسر بن سعید فرماتے ہیں: مجھے زینب ثقفیہ جو عبداللہ بن مسعود کی زوجہ ہیں نے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا: ”جب تم عشاء کی نماز کے لیے نکلو تو خوشبو نہ لگاؤ۔“ ابن سعد نے اسے نقل کیا ہے۔

### ۱۱۲۳۹ زینب الانصاریہ

ابوسعود کی زوجہ ہیں جو عقبہ بن عمرو بدری ہیں، زینب بنت معاویہ کے سوانح میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

### ۱۱۲۵۰ زینب الاسدیہ

مکہ، مجاہد کے پاس ان کی حدیث ہے ان سے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئیں اور کہنے لگیں: میرے والد فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے میراث میں ایک لونڈی چھوڑی ہے، جس سے ان کا لڑکا پیدا ہوا ہے، ہم اس پر اس بارے میں تہمت لگاتے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اسے میرے پاس لے آؤ۔“ وہ لوگ اس لڑکے کو نبی کریم ﷺ کے پاس لائے۔ آپ ﷺ نے اسے دیکھ کر فرمایا: ”اس کے لیے میراث ہے۔“ اور تم اس سے پردہ کرو، ابو عمر نے اسی طرح بغیر سند ان کا ذکر کیا ہے۔

اسے طبرانی رحمہ اللہ نے عنینہ بن سعید کے طریق سے، زکریا بن خالد سے انہوں نے ابو زبیر سے، انہوں نے مجاہد سے انہوں نے زینب اسدیہ سے مسنداً نقل کیا ہے، وہ فرماتی ہیں: میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آئی اور میں نے کہا: یا رسول اللہ! میرے والد فوت ہو گئے ہیں..... (الحديث)

### ۱۱۲۵۱ زینب الانصاریہ (بے نسبت)

ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مدینہ میں اشعار ترنم سے پڑھتی تھیں۔ ابن طاہر نے کتاب الصفوہ میں محاملی کے طریق سے نقل کیا ہے، ہم سے زبیر بن خالد نے حدیث بیان کی، وہ فرماتے ہیں، ہم سے صفوان بن ہبیرہ نے ابن جریج کے حوالے سے حدیث بیان کی، فرماتے ہیں: مجھ سے ابوالواضغ نے بیان کیا کہ جلیلہ نے انہیں بتایا کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ سے غناء کے بارے میں سوال کیا، انہوں نے فرمایا: انصار کے کسی گھرانے نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھرانے میں سے کسی سے نکاح کیا۔



ان سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کیا تم نے دہن کو ہدیہ دیا ہے؟“ کہنے لگیں: جی ہاں! فرماتے ہیں: ”اس کے ساتھ ترنم سے اشعار پڑھنے والی کو بھیجا ہے؟ کیونکہ انصار اسے پسند کرتے ہیں۔“ کہنے لگیں: نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس کے ساتھ زینب کو بھیجو۔“ یہ وہ خاتون تھیں جو مدینہ میں ترنم کے ساتھ اشعار پڑھا کرتی تھیں۔

### ۱۱۲۵۲ زینب التیمیہ

انہوں نے نبی کریم ﷺ سے حدیث روایت کی کہ آپ ﷺ نے اس بات کو ناپسند کیا کہ لڑکوں کو لڑکیوں پر عطیہ میں فضیلت دی جائے، ابو عمر نے اسے مختصر ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۲۵۳ زینب الطانیہ

ابن فتحون نے استیعاب کے حاشیے میں اس کا مختصر ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۲۵۴ زینب (بے نسبت)

ام سلیم ابوطول کی زوجہ کی خدمت کرتی ہیں، ان سے معجزات کے بارے میں احادیث مروی ہیں۔ طبرانی \* نے محمد بن زیاد برجی کے طریق سے نقل کیا ہے کہ ہم سے ابوطلال نے بحوالہ انس، انہوں نے اپنی والدہ سے روایت کی، فرماتی ہیں: میری ایک بکری تھی، میں نے اس کی چربی ایک برتن میں ڈالی اور اسے دے کر حضرت زینب کو بھیجا اور میں نے کہا: اے زینب! یہ رسول اللہ ﷺ کو پہنچا دو۔ اس نے پہنچا دیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس کے برتن کو خالی کر کے دو۔“ برتن خالی کیا گیا۔ وہ واپس آئیں اور انہوں نے اس ڈبے کو لٹکا دیا۔ ام سلیم آئیں، انہوں نے ڈبے کو دیکھا کہ بھرا ہوا ہے اور اس کا گھی ٹپک رہا ہے۔ انہوں نے کہا: اے زینب! کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ اس ڈبے کو رسول اللہ ﷺ کے پاس لے جاؤ جس سے وہ سالن بنائیں؟ کہنے لگیں: میں نے ایسا ہی کیا، اگر آپ مجھے سچا نہیں سمجھ رہے تو میرے ساتھ آئیں۔ میں انہیں لے کر نبی کریم ﷺ کے پاس آئی اور آپ ﷺ کو ساری بات بتائی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ اسے لے کر میرے پاس آئیں۔“ میں نے کہا: اس ذات کی قسم جس نے آپ ﷺ کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے، وہ کبھی گھی سے بھری ہوئی ہے اور اس کا گھی ٹپک رہا ہے۔ آپ ﷺ نے کہا: ”اے ام سلیم! کیا تمہیں تعجب ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھلایا ہے۔“ \*

میں کہتا ہوں: اس طرح کا قصہ ام مالک انصاریہ کے سوانح میں آئے گا، میرے خیال میں ان کا قول ”زینب“ لفظی

غلطی ہے، وہ روپیہ ہیں، جسے لکھ لیا جائے۔

\* اسد الغابہ (۶۹۴۴) تجرید (۲/۲۷۱)

\* تجرید (۲/۲۷۳)

\* اسد الغابہ (۶۹۶۹)

\* المعجم الكبير (۲۹۳/۲۵)

\* مجمع الزوائد (۳۰۹/۸) اسد الغابہ (۳۰۳/۵)

## القسم الثانی از حرف زاء

## ۱۱۲۵۵ زینب بنت الحارث \*

بن خالد تمیمہ، انہوں نے اور ان کی دونوں بہنوں نے ہجرت کی، جو یہ ہیں: عائشہ اور فاطمہ۔ ان کی والدہ راکلہ بنت حارث بن جلیلہ ہیں، جب وہ حبشہ سے لوٹے تو زینب اور ان کے بہن بھائی موسیٰ اور عائشہ راستے میں پانی پینے کی وجہ سے فوت ہو گئے اور راکلہ کے اولاد میں سے فاطمہ کے علاوہ کوئی باقی نہ رہا، ابن اسحاق نے یہ ذکر کیا ہے، بعض کا قول ہے: راکلہ رضی اللہ عنہا نے زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہجرت کی۔

## ۱۱۲۵۶ زینب بنت ابی رافع

قسم اول میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

## ۱۱۲۵۷ زینب بنت زبیر

بن عوام بن خویلد اسدیہ، ان کی والدہ ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط ہیں، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی ان کی والدہ سے شادی ہجرت کے بعد ہوئی تھی، اور نبی کریم ﷺ کے زمانے میں ان کی ولادت کے بعد جدائی ہوئی۔ ابن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: یزید بن ہارون نے عمرو بن میمون سے انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے ہمیں بتایا، فرماتے ہیں: ام کلثوم بنت عقبہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی زوجہ تھیں وہ عورتوں کے معاملے میں سخت تھیں، وہ انہیں ناپسند کرتی تھیں اور ان سے طلاق کا مطالبہ کرتی تھیں۔ وہ انکار کر دیتے تھے، یہاں تک کہ انہیں درِ زہ نے آلیا اور زبیر کو معلوم نہ تھا، انہوں نے اصرار کیا، وہ اس وقت نماز کے لیے وضو کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک طلاق دے دی، پھر وہ نکلیں اور بچے کی ولادت ہوئی، ان کے گھر والوں میں سے کسی نے انہیں دیکھ لیا اس نے آ کر انہیں خبر دی کہ ان کے ہاں ولادت ہوئی ہے، کہنے لگے: اس نے مجھے دھوکہ دیا، اللہ اسے اس کی سزا دے۔ وہ نبی کریم ﷺ کے پاس گئے اور یہ ذکر کیا، انہوں نے فرمایا: ”ان کے بارے میں اللہ کی تقدیر کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس سے رجوع کر لو“۔ انہوں نے کہا: میں ان سے کبھی رجوع نہ کروں گا۔

ام کلثوم کے سوا ان میں گزر چکا ہے کہ ابن اسحاق نے حضرت زبیر کی بیٹی کا نام زینب بتایا ہے۔

## ۱۱۲۵۸ زینب بنت علی بن ابی طالب \*

بن عبدالمطلب ہاشمیہ، رسول اللہ ﷺ کے خاندان سے ہیں، ان کی والدہ فاطمہ زہراء ہیں، ابن اثیر \* فرماتے ہیں: نبی کریم ﷺ کی زندگی میں پیدا ہوئیں، اور انتہائی عقلمند، ذہین اور فطین ہیں۔ ان کے والد نے اپنے بھتیجے عبداللہ بن جعفر سے ان کا نکاح کر دیا، اس سے اولاد ہوئی، جب ان کے بھائی کو شہید کیا گیا

تو وہ ان کے ساتھ تھیں، وہ دمشق لائی گئیں اور یزید بن معاویہ کے پاس حاضر ہوئیں اور جب ایک شامی نے اپنی بہن فاطمہ کا مطالبہ کیا تو یزید بن معاویہ سے ان کی گفتگو مشہور ہے، جو ان کی عقل، زیرکی پر دلالت کرتی ہے۔\*

### ۱۱۲۵۹ زینب بنت عمر بن الخطاب القرشیہ

زبیر بن بکار کتاب النسب میں فرماتے ہیں: ان کی والدہ فلیہ ام ولد تھیں، وہ عبدالرحمن بن عمر اصغر کی بہن تھیں جو مختار کا والد ہے۔

### القسم الثالث از حرف زاء

### ۱۱۲۶۰ زرعة بنت محرش

ان کے والد حمیر کے چار بادشاہوں میں سے ایک تھے، جو ایمان لائے پھر مرتد ہو گئے اور جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے مرتد ہونے والوں سے جہاد کیا تو وہ حالت کفر میں قتل کئے گئے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کے بعد ان زرعہ سے شادی کی، ان سے علی پیدا ہوئے جو خلفاء اور اس کے بھائیوں، عباس، فضل، محمد اور عبدالرحمن اور لبابہ کے والد تھے۔

### ۱۱۲۶۱ زینب بنت جابر الأحمسیہ\*

ابوموسیٰ نے ذیل میں ان کا ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں: نبی کریم ﷺ کے زمانے میں تھیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کی، ان سے عبداللہ بن جابر احسی نے روایت کی، اور یہ ان کی پھوپھی تھیں، ابوعبداللہ یعنی ابن مندہ نے تاریخ میں اسی طرح فرمایا ہے۔ بعض کا قول ہے، مہاجر بن جابر کی بیٹی ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ عبید بن جابر کی بیٹی ہوں جو حضرت انس بن مالک کی زوجہ ہیں، کیونکہ ایک قول کے مطابق وہ احس سے تھیں، ان کا کلام ختم ہوا۔

ابن اثیر\* نے ان کا تعاقب کیا ہے کہ ابن مندہ نے معرفہ میں ان کا ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں: زینب بنت جابر احسیہ، محمد بن عمارہ نے زینب بنت عبید بن جابر کے حوالے سے ان کی حدیث روایت کی ہے اور ان کے استدراک کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں: بلکہ اس کی ایک اور مناسب وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ یقین کرنا کہ زینب بنت جابر احسیہ ہی زینب بنت عبید بن جابر ہیں صحیح نہیں۔ بظاہر وہ دو ہیں، رہی زینب بنت جابر احسیہ کہ انہوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کی اور وہ حضرات میں سے ہیں اور ان سے مرفوع روایت نہیں اور زینب بنت عبید بن جابر وہ مبايعات (یعنی بیعت کرنے والی) میں سے ہیں۔ وہ احسیہ نہیں بلکہ انصاریہ، خزرجیہ ہیں، حرف نون میں ان کے والد کا ذکر گزر چکا ہے۔

حضرت انس بن مالک نے زینب بنت اسعد بن زرارہ سے نکاح کیا، جس سے یہ زینب پیدا ہوئیں، وہم اس وجہ سے ہوا کہ ابن مندہ کا قول ہے کہ وہ احسیہ ہیں۔

ابن سعد\* نے ان کا نسب بیان کیا ہے اور تابعیات کے اس طبقے میں ان کا ذکر کیا ہے، جنہوں نے نبی کریم ﷺ کی

\* مختصر تاریخ دمشق (۲۵۷۹) \* اسد الغابۃ (۶۹۶۶) تجرید (۲۷۱/۲)

\* اسد الغابۃ (۳۰۱/۵) \* الطبقات الکبریٰ (۳۵۱/۸)

ازواج اور ان جیسی دوسری عورتوں سے احادیث روایت کیں۔

ان میں زینب بنت عقیط بن جابر بن مالک بن عدی بن زید بن مناة بن ثعلبہ بن عمرو بن مالک بن نجار ہیں۔ وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہیں۔ پھر عبداللہ بن ادریس کے حوالے سے ان کی سند سے جو آگے آرہی ہے، حدیث بیان کی ہے۔ بعض نے صحابہ رضی اللہ عنہم میں ان کا ذکر کیا ہے، ابوعلی بن سکین فرماتے ہیں: زینب بنت عقیط بن جابر انصاریہ جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہیں۔ ان سے مرسل حدیث مروی ہے، بعض کا قول ہے، انہوں نے نبی کریم ﷺ کا زمانہ پایا اور آپ ﷺ سے کچھ بھی یاد نہ کیا۔

وہ حدیث جو ان سے محمد بن عمارہ نے روایت کی ہے اس پر دلالت کرتی ہے کہ وہ نبی کریم ﷺ کے زمانے کے بعد پیدا ہوئیں، کیونکہ ان کی والدہ نبی کریم ﷺ کی پرورش میں تھیں۔ ان کے اور ان کے بھائیوں کے متعلق ان کے والد ابوامامہ جو اسعد بن زرارہ ہیں وصیت کی۔

ابن سکین نے یہ ابوکریم کے طریق سے بحوالہ عبداللہ بن ادریس، انہوں نے محمد بن عمارہ سے، انہوں نے زینب بنت عقیط بن جابر زوجہ انس بن مالک سے روایت کیا ہے۔ فرماتی ہیں: ابوامامہ اسعد بن زرارہ نے میری والدہ اور میری خالہ کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کو وصیت کی، آپ ﷺ کے پاس سونے اور موتیوں کے زیور جنہیں رعاث کہا جاتا ہے لائے گئے۔ آپ ﷺ نے یہ زیور انہیں پہنا دیے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: میں نے اپنے گھر والوں کے پاس اس زیور میں سے کچھ پایا۔ میں کہتا ہوں: ابو عمر ؓ نے ان کا ذکر کیا ہے اور ابن سکین کے کلام کو مختصر کیا ہے، جو بہت بدنما کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں: زینب بنت عقیط بن جابر انصاریہ مدنیہ، ان سے ایک حدیث مروی ہے، بعض کا قول ہے: وہ مرسل ہے، اور اس میں تردد ہے۔

ابن مندہ نے اس حدیث کو دوسرے طریق سے بحوالہ ابن ادریس مختصر ذکر کیا ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں: ابوامامہ نے میری والدہ اور خالہ کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کو وصیت کی، آپ ﷺ کے پاس سونے اور موتیوں کے زیور لائے گئے، جنہیں رعاث کہا جاتا تھا، فرماتی ہیں: آپ ﷺ نے مجھے ان رعاث میں سے پہنائے، اسی طرح منقول ہے، اور وہ وہم ہے، درست وہی ہے جو گزر چکا ہے کہ آپ ﷺ نے انہیں پہنائے۔

ابن مندہ نے عبداللہ بن جعفر، بحوالہ محمد بن عمارہ اسی طرح نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں: انہوں نے زینب بنت عقیط سے انہوں نے اپنی والدہ سے روایت کی ہے، فرماتی ہیں: میں اور میری دو بہنیں رسول اللہ ﷺ کی پرورش میں تھیں۔ آپ ﷺ نے ہمیں سونے اور چاندی کے زیور پہنائے۔

یہ ابن سکین کے قول کی وضاحت کرتا ہے کہ وہ روایت جو انہوں نے مرسل ذکر کی ہے، اور جو حدیث ان سے مروی ہے حقیقت میں وہ ان کی والدہ سے روایت کی گئی ہے، اس سے ابن مندہ سے مروی الفاظ درست ہو جاتے ہیں، اور اس سے وہم دور ہو جاتا ہے، ان کا قول جو یہ ہے: مجھے زیور پہنائے، گویا ان کی روایت سے یہ الفاظ رہ گئے، میری والدہ فرماتی ہیں کہ مجھے زیور پہنائے۔ ابو نعیم نے اس روایت کو ابوکریم کی روایت کے مفہوم میں یحییٰ حمانی کے طریق سے بحوالہ عبداللہ بن ادریس نقل کرنے

کے بعد فرمایا: اسے ابو بکر بن ابوشیبہ نے ابودریس سے اسی طرح نقل کیا ہے، اور اسے محمد بن عمرو بن علقمہ نے محمد بن عمارہ سے، انہوں نے زینب بنت عیص سے روایت کیا ہے، فرماتی ہیں: مجھ سے میری والدہ اور خالہ نے بیان کیا کہ نبی کریم ﷺ نے انہیں سونے کے رعاٹ پہنائے تھے، ان کی والدہ حبیبہ اور خالہ کبشہ ہیں، اور ان کے والد ابوامامہ اسعد بن زرارہ ہیں اور ان کی والدہ فریبہ ہیں، اس سب سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ابن مندہ کا قول: زینب بنت عیص احسیہ ہیں وہم ہے، بلکہ وہ انصاریہ ہیں، اور انہیں شرف صحابیت اور دیدار حاصل نہیں، وہ اپنی والدہ سے روایت کرتی ہیں، اور ابوموسیٰ کا احسیہ کے بارے میں قول ہے: ہو سکتا ہے کہ غلطی سے وہ بنت عیص بن جابر ہوں، اس کا سبب ابن مندہ کا یقین کرنا ہے کہ وہ احسیہ ہیں۔

عنقریب قسم رابع میں زینب بنت عیص کے باقی سوانح کا میں ذکر کروں گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ

اور رہی احسیہ، تو ان کی حدیث بخاری\* میں قیس بن ابوحازم کے طریق سے ہے، فرماتے ہیں: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جس کی ایک عورت کے پاس گئے، اسے زینب کہا جاتا تھا، انہوں نے دیکھا کہ وہ بات نہیں کرتی.... پھر اسے مختصر ذکر کیا، اور اس کے باپ کا نام نہیں لیا۔

خطیب نے کریم بن حارث کے طریق سے بحوالہ سلمیٰ بنت جابر احسیہ نقل کیا ہے، فرماتی ہیں: میرا شوہر شہید ہو گیا تو میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، انہوں نے ان کے سامنے اپنا قصہ ذکر کیا، لوگ ان سے کہنے لگے: ہم نے آپ کو کسی عورت کے ساتھ ایسا کرتے نہیں دیکھا جو آپ نے اس عورت کے ساتھ کیا؟ انہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ”مجھ سے میری امت میں سے سب سے پہلے احس کی عورت ملے گی۔“\*

مجھے معلوم نہیں آیا یہ وہی ہیں جن کے نام کے بارے میں اختلاف ہے یا کوئی اور ہیں۔

ابن سعد نے ان کا عنوان قائم کیا ہے: زینب بنت مہاجر احسیہ۔ ابواسامہ سے بحوالہ جالد، انہوں نے عبد اللہ بن جابر احسی سے، انہوں نے اپنی پھوپھی زینب بنت مہاجر سے ان کی حدیث نقل کی ہے۔ فرماتی ہیں: میں حج کے ارادے سے نکلی اور میرے ساتھ ایک عورت تھی، اس نے میرے لیے خیمہ لگایا، میں نے نذر مانی تھی کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گی اتنے میں ایک آدمی آیا اور خیمہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا: السلام علیکم!، میرے ساتھ عورت نے اس کا جواب دیا۔ اس نے کہا: تمہاری سہیلی نے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا؟ اس نے کہا: اس نے خاموشی اختیار کی، کیونکہ اس نے نذر مانی ہے کہ وہ کسی سے بات نہیں کرے گی۔ اس نے کہا: تم بات چیت کرو کیونکہ یہ جاہلیت کا کام ہے۔ فرماتی ہیں، میں نے کہا: اللہ تم پر رحم کرے تم کون ہو؟ اس نے کہا: مہاجرین میں سے ایک آدمی۔ میں نے کہا: کون سے مہاجرین؟ اس نے کہا: قریش سے۔ میں نے کہا: قریش میں سے کون؟ اس نے کہا: تم بڑی سوالن ہو، میں ابو بکر ہوں۔ میں نے کہا: اے رسول اللہ ﷺ کے خلیفہ! جاہلیت سے ہمارا زمانہ قریب ہے کہ ہم میں سے بعض بعض سے امن میں نہیں۔ اللہ کا دین آچکا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ کب تک باقی رہے گا؟ انہوں نے کہا: تمہارے حکمران درست نہیں۔ میں نے کہا: امّہ (حکمران) کون ہیں؟ کہنے لگے: کیا تمہاری قوم میں ایسے اشراف نہیں جن کی بات مانی جاتی

ہے۔ میں نے کہا: کیوں نہیں، کہنے لگے بس وہی ائمہ ہیں۔

### ۱۱۲۶۲ زینب بنت ابی حازم \*

تیس بن ابو حازم کی بہن ہیں، ابن الفرغی نے ان کا ذکر کیا ہے۔

### النعم الرابع از حرف زاء

### ۱۱۲۶۳ زینب الاحمسیہ

ابوسعید بن اعرابی اور ابو محمد بن حزم نے کتاب حجۃ الوداع میں اپنے طریق سے اور اپنی سند سے بحوالہ زینب احمسیہ ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان سے ایسی عورت کے بارے میں کہا جس نے خاموشی سے حج کیا تھا: ”اسے کہو بات چیت کرے، اس لیے کہ جو بات چیت نہ کرے اس کا حج کامل نہیں، اس روایت میں ابن قطان نے طعن کیا ہے کہ اس کی سند میں کئی راوی مجہول ہیں۔ اور اس کا سیاق غلط ہے۔ صحیح وہ ہے جو اس سے پہلی قسم میں گزر چکا ہے۔ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا یہ قصہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا، اور ان کا آپس میں مکالمہ ہوا۔ انہیں الفاظ میں جو پہلے گزر چکے ہیں، جس میں نہ نبی ﷺ کا ذکر ہے نہ کسی اور عورت کا۔

### ۱۱۲۶۴ زینب بنت نبیط \*

بن جابر انصاریہ۔ زینب بنت جابر احمسیہ کے سوانح میں ان کا ذکر گزر چکا ہے، اور وہ وہم ہے۔ ابن سعد \* نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ ابن حبان نے ثقات تابعین میں ان کا ذکر کیا ہے، اور وہی صحیح ہے۔ انہوں نے اپنی والدہ بنت اسعد بن زرارہ سے روایت کی اور اپنے شوہر انس بن مالک، جابر بن عبد اللہ، ضباعہ بنت زبیر بن عبد المطلب وغیرہ سے بھی روایت کی، ان سے حمید طویل، کثیر بن زید اسلمی، محمد بن عمارہ بن عمرو بن حزم، عبد اللہ بن تمام وغیرہ نے روایت کی۔



\* تجرید (۲۷۱/۲)

\* اسد الغابۃ (۶۹۶۸) تجرید (۲۷۴/۲)

\* الطبقات الکبریٰ (۳۵۱/۸)

## حرف سین مہملہ

### القسم الاول از حرف سین

سارہ ۱۱۲۶۵

عمرو بن ہاشم بن مطلب کی مولاۃ ہیں، جن کے ساتھ حاطب کا خط تھا، جنہیں نبی کریم ﷺ نے امان دی تھی، تجرید

ساریہ الجمحیہ ۱۱۲۶۶

دلیبی نے فردوس میں ان کا ذکر کیا ہے، وہ تین سے ملیں: مہیص، جعد، کاہن۔  
میں کہتا ہوں: ان کے بیٹے نے اسے نقل نہیں کیا، نہ مجھے اس کی سند ملی ہے۔

سانبہ ۱۱۲۶۷

رسول اللہ ﷺ کی مولاۃ ہیں، انہوں نے لقطہ کے بارے میں نبی کریم ﷺ سے روایت کی، ان سے طارق بن عبدالرحمن نے تاریخ النساء میں روایت کی ہے۔

سبا بنت سفیان ۱۱۲۶۸

بعض کا قول ہے: بنت حلت کلابیہ، سنا (نون کے ساتھ) میں ان کے حالات آئیں گے۔

سُبَیْعَہ بنت الحارث الأسلمیہ ۱۱۲۶۸

صحیحین میں ان کا ذکر ثابت ہے۔ موطا میں ہے کہ اپنے شوہر کی وفات کے بعد ان کے ہاں ولادت ہوئی جس سے ان کی عدت پوری ہوئی۔ ابن عبدالبر فرماتے ہیں: ان سے مدینہ کے فقہاء اور کوفہ کے فقہاء نے روایت کی ہے، جس میں طویل قصہ اور مختلف الفاظ مروی ہیں، اس میں موطا کی روایت بھی ہے، جو عبد ربہ بن سعید کے طریق سے، بحوالہ ابوسلمہ بن عبدالرحمن مروی ہے۔ فرماتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے حاملہ عورت کے بارے میں جس کا خاندان فوت ہو چکا ہے، دریافت کیا گیا، حضرت امین عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: دونوں میں سے آخر مدت، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس کے ہاں جب وضع حمل ہو گیا تو اس کی عدت ختم ہو گئی، تو ابوسلمہ بن عبدالرحمن ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور ان سے اس بارے

تجرید (۲۷۴/۲) تجرید (۱۸۹) اسد الغابۃ (۶۹۷۰) تجرید (۲۷۴/۲)

جامع المسانید والسنن تجرید (۲۷۴/۲) اسد الغابۃ (۶۹۷۷) تجرید (۳۲۹۸)

میں پوچھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: سُبَّیْعَہ اسمیہ کے ہاں ان کے شوہر کی وفات کے نصف ماہ بعد ولادت ہوئی تو اسے دو آدمیوں نے نکاح کا پیغام دیا۔ ان میں سے ایک جوان اور دوسرا اُدھڑ عمر تھا، اس نے جوان کے پیغام کو قبول کیا تو بوڑھا کہنے لگا: اب تک تو حلال نہیں ہوئی، اس کے رشتہ دار موجود نہ تھے اور اس شخص کو یہ اُمید تھی کہ جب اس کے رشتہ دار آجائیں گے تو اسے ترجیح دیں گے۔ وہ نبی کریم ﷺ کے پاس آئیں، تو آپ ﷺ نے فرمایا: تمہاری عدت ختم ہو چکی ہے جس سے چاہو نکاح کرو۔ ابن مندہ نے اسے یحییٰ بن سعید کے طریق سے سلیمان بن یسار سے بحوالہ ابوسلمہ نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: میں ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کے پاس تھا، انہوں نے اس حاملہ عورت کی عدت کے بارے میں اختلاف کیا جس کا شوہر فوت ہو چکا ہو..... پھر حدیث ذکر کی۔

ابن مندہ نے اسے محمد بن اسحاق کے طریق سے بحوالہ محمد بن ابراہیم، انہوں نے ابوسلمہ سے، انہوں نے سُبَّیْعَہ بنت حارث سے نقل کیا ہے، فرماتی ہیں: میرا شوہر سعد بن خولہ وفات پا گیا اور وہ نبی کریم ﷺ کے ساتھ حجۃ الوداع میں تھا، مجھ سے ابوسناہل بن ہلک نے کہا: شاید تم نکاح کرنا چاہتی ہو، تو میں نبی کریم ﷺ کے پاس آئی تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”تمہاری عدت ختم ہو گئی ہے، اگر چاہو تو نکاح کر لو“۔

ابن مندہ نے اسے لیث کے طریق سے جعفر بن ربیعہ سے، انہوں نے اعرج سے انہوں نے ابوسلمہ سے، انہوں نے زینب بنت ابوسلمہ سے انہوں نے ام سلمہ سے روایت کیا ہے۔ اس میں زینب بنت ابوسلمہ کا اضافہ شاذ و نادر ہے۔ بخاری نے اسے یزید بن ابوجیب سے، انہوں نے کتاب البشہاب سے اسے نقل کیا ہے، اور اسے تعلیقاً نقل کیا ہے، ابوداؤد، نسائی اور مسلم نے اسے موصولاً نقل کیا ہے، یونس کے طریق سے بحوالہ زہری، انہوں نے عُبَید اللہ بن عبد اللہ سے نقل کیا ہے کہ ان کے والد نے عمر بن عبد اللہ بن ارقم کو لکھا کہ وہ سُبَّیْعَہ کے پاس جائیں، انہوں نے یہ بات لکھی کہ سُبَّیْعَہ نے انہیں بتایا کہ وہ سعد بن خولہ کی زوجہ تھیں..... پھر حدیث ذکر کی۔

سعد بن خولہ کے سوا بخاری اور ابوسناہل کے سوا بخاری میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔ سُبَّیْعَہ سے اسی طرح عبد اللہ بن عمر نے روایت کی جس میں اختلاف ہے اور زفر بن اوس بن عدنان، عمر بن عبد اللہ بن ارقم، مسروق بن اجدع، عمرو بن عتبہ بن فرقہ اور دوسرے لوگوں نے روایت کی ہے۔

### ۱۱۲۷۰ سُبَّیْعَہ بنت حبیب الضبعیہ

فرماتی ہیں: نبی کریم ﷺ کے پاس سے ایک آدمی کا گزر ہوا۔ تو ایک آدمی نے کہا: میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ حماد بن سلمہ کی حدیث میں جو ثابت سے مروی ہے، ان کا ذکر ہے، یہ ابن مندہ کا قول ہے۔ ابو عمرؒ فرماتے ہیں: بصریہ ہیں، ان سے ثابت بنانی نے روایت کی، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنے والوں کے بارے میں ان کی حدیث منقول ہے۔ گویا اس کی طرف

مسند احمد (۴۱۲/۶) مصنف عبد الرزاق (۱۱۷۲۲) المعجم الکبیر (۷۵۰/۲۴)

اسد الغابۃ (۶۹۷۲) تجرید (۲۷۴/۲) الاستیعاب (۱۸۵۶/۴)



اشارہ ہے۔

### ۱۱۲۷۱ سُبَيْعَةُ بِنْتُ أَبِي لَهَبٍ

حرف دال میں وزہ کے سوانح میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

### ۱۱۲۷۲ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ

جن سے ابو عمر نے روایت کیا، عقیلی نے ان کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا: یہ سعد بن خولہ کی زوجہ بنت الحارث کے علاوہ کوئی اور ہیں۔ ابن عبد البر نے اسے رد کیا ہے، اور فرمایا: میرے نزدیک یہ صحیح نہیں۔

میں کہتا ہوں: ابن عمر کی مذکورہ حدیث ابن مندہ نے سُبَيْعَةُ بنت حارث کے سوانح میں نقل کی ہے، اور وہ یحییٰ حمانی کی مسند میں درآوردی سے بحوالہ اسامہ بن زید مروی ہے۔ انہوں نے عبد اللہ بن عمر سے، انہوں نے عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے سُبَيْعَةُ اسلمیہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے کہ مدینہ میں فوت ہو، اسے چاہیے کہ ایسا کرے، جو اس میں فوت ہوگا میں قیامت کے دن اس کا سفارشی ہوں گا۔“ ابن فتحون نے عقیلی کا ساتھ دیا ہے۔ کہتے ہیں: فاکہی نے یہ ذکر کیا ہے کہ سُبَيْعَةُ بنت حارث پہلی خاتون ہیں جو صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہونے کے بعد اسلام لائیں جبکہ تحریر لیسٹی نہیں گئی اور سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی، آیت امتحان نازل ہوئی تو نبی کریم ﷺ نے انہیں پرکھا اور ان کے شوہر کا مہر مٹا لونا دیا، اور ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا۔

ابن فتحون فرماتے ہیں۔ ابن عمر نے سُبَيْعَةُ سے یعنی اپنے والد کی زوجہ سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ علامہ مہد اللہ نے ناخ منسوخ کتاب میں ذکر کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ جب حدیبیہ سے لوٹ کر آئے تو آپ ﷺ کے ساتھ قریش کی ایک خاتون سُبَيْعَةُ بنت حارث آملیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اسلمیہ نہیں ہیں۔

### ۱۱۲۷۳ سُبَيْعَةُ الْقُرَشِيَّةُ

ابن مندہ نے ان کا ذکر کیا ہے اور عمر بن قیس کی کے طریق سے بحوالہ عطا، انہوں نے عُبَید بن عمر سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: مجھ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا، فرماتی ہیں: میں نے سُبَيْعَةُ قرشیہ سے سنا، فرماتی ہیں: یا رسول اللہ! مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے، مجھ پر اللہ کی حد قائم کیجئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جاؤ، یہاں تک کہ بچے کی ولادت ہو جائے۔“ جب اس کے ہاں ولادت ہوئی تو آپ ﷺ کے پاس آئی، اگر وہ نہ آتی تو آپ ﷺ اس سے پوچھ گچھ نہ کرتے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”جاؤ اور اسے دودھ پلاؤ یہاں تک کہ اس کا دودھ چھڑاؤ۔“ جب اس نے دودھ چھڑا لیا تو آپ ﷺ کے پاس آئی، اس نے کہا: ”اس بچے کا کون گمران ہوگا؟“ تو انصار میں سے ایک شخص نے کہا: میں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اسے لے جاؤ اور سنگسار کرو۔“

میں کہتا ہوں: اس کی سند ضعیف ہے۔ اگر یہ روایت ثابت ہو جائے تو یہ مناسب ہے کہ اس سے پہلے والی ہی ہیں۔

اسد الغابۃ (۶۹۷/۲) تجرید (۲۷۵/۲) تجرید (۲۷۵/۲)

المعجم الکبیر (۳۰۴/۵) اسد الغابۃ (۶۹۷/۲) تجرید (۲۷۵/۲)

### ۱۱۲۷۳ سخبہ

عخبہ کے وزن پر ہے۔ بنت تمیم اسدیہ، ابن اسحاق نے مغازی میں بنو تمیم بن زودان بن اسد بن خزیمہ میں سے ہجرت کرنے والوں میں ان کا ذکر کیا ہے، اور ابوعلی الغسانی نے اپنے استدراک میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۲۷۵ سُخْطی بنت اسود

بن عباد بن عمرو بن سواد بن غنم۔ ابن سعد نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں: ان کی والدہ حمیمہ بنت عبید بن ابی بکر بن القین بن کعب ہیں۔ ان سے ماعص بن قیس بن غلہ نے نکاح کیا، اس کے بعد عبید بن معطی بن لوزان نے نکاح کیا۔

### ۱۱۲۷۶ سُخْطی بنت قیس

بن ابی کعب بن قین، انصاریہ سلمیہ، سہل بن قیس شقیقہ کی بہن ہیں۔ نائلہ بنت سلامہ بن قش ان کی والدہ ہیں۔ ابن سعد نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں: ان سے حارث بن سراقہ بن خُثَء بن سنان نے نکاح کیا۔

### ۱۱۲۷۷ سخیلہ

بنت عبیدہ بن حارث، عمرو بن امیہ ضمری کی زوجہ ہیں۔ ابو عمر کی کتاب پر ابن دباغ نے اپنے استدراک میں ان کا ذکر کیا ہے اور مسند علی بن عبدالعزیز سے بحوالہ قعنبی حاتم بن اسماعیل سے انہوں نے یعقوب بن عمرو سے، انہوں نے زبرقان بن عبداللہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے عمر بن امیہ سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: حضرت عثمان یا عبدالرحمن بن عوف کے سامنے سے چادر گزاری گئی، انہوں نے اسے مہنگا سمجھا تو اسے عمرو بن امیہ نے خرید لیا، ان سے عثمان یا عبدالرحمن نے کہا: اس چادر کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا: میں نے اسے خلیلہ بنت عبیدہ کو بطور صدقہ دے دیا، انہوں نے فرمایا: کیا تم نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ جو کچھ کیا وہ صدقہ ہے؟ عمر فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، پھر انہوں نے ذکر کیا کہ عمرو نے رسول اللہ ﷺ سے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا: سچ ہے۔ ابن سعد نے ان کے والد کے سوانح میں ان کا ذکر کیا ہے۔ ان کی وفات ۲ھ میں ہوئی۔

### ۱۱۲۷۸ سدرہ

ضباعہ بنت زبیر کی مولاہ ہیں، ابو ربیع بن سالم نے معجزات میں کریمہ بنت مقداد کے طریق سے، بحوالہ ان کی والدہ ضباعہ بنت زبیر بن عبدالطلب روایت کیا ہے کہ انہوں نے اپنی باندی سدرہ کو نبی کریم ﷺ کے پاس ایک چھوٹے برتن میں کھانا دے کر

اسد الغابہ (۶۹۷۵) تجرید (۲۷۵/۲) تجرید (۲۷۵/۲) الطبقات الکبریٰ (۲۹۸/۸)

تجرید (۲۷۵/۲) الطبقات الکبریٰ (۲۹۹/۸) اسد الغابہ (۶۹۷۶) تجرید (۲۷۵/۲)

الاستیعاب (۱۸۵۹/۴)

بھیجا، سدرہ نے آپ ﷺ کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں پایا..... (الحدیث) واقدی رضی اللہ عنہ کے مغازی میں وفد نجران میں ان کا ذکر ہے۔

### ۱۱۲۷۹) سدوس بنت بطنہ

بن عبد عمرو بن مسعود، بنو دینار بن نجار سے ہیں۔ ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۲۸۰) سدوس بنت خالد

سندوس میں ان کا ذکر آئے گا۔

### ۱۱۲۸۱) سدیسه الأنصاریہ

بعض کا قول ہے، حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ کی باندی ہیں: اکثر نے اسے سین کے زبر کے ساتھ لکھا ہے، ابن فحون رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے ابن مفرج کی تحریر میں تصغیر کے ساتھ دیکھا ہے، اور ابن مندہ نے اسحاق بن یسار کے طریق سے، بحوالہ فضل بن مؤثق انہوں نے اسرائیل سے، انہوں نے اوزاعی سے، انہوں نے سالم سے، انہوں نے سدیسه مولاۃ حفصہ سے روایت کیا ہے۔ فرماتی ہیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”شیطان جب بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے اسلام لانے کے بعد دیکھتا ہے تو چہرے کے بل گر پڑتا ہے۔“

ابن مندہ فرماتے ہیں: سالم سے بحوالہ سدیسه اور انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے۔ طبرانی رضی اللہ عنہ نے بھی اوسط میں عبد الرحمن بن فضل بن مؤثق کے طریق سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے اسرائیل نے بحوالہ نعمان، انہوں نے اوزاعی سے اسے نقل کیا وہ اس میں فرماتے ہیں کہ بحوالہ سدیسه انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا اور اس کا سیاق زیادہ مکمل ہے، اس کے بعد فرماتے ہیں: اسے اوزاعی سے نعمان کے علاوہ کسی نے نقل نہیں کیا اور وہ ابو حنیفہ ہیں، اور ابو حنیفہ سے اسرائیل کے علاوہ کسی نے روایت نہیں کیا، اور فضل ان سے روایت کرنے میں تباہ ہیں۔

ابن سکین نے اسے عبد الرحمن بن فضل بن مؤثق کے طریق سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اسرائیل سے اس سند سے نقل کیا ہے۔ اور اس کے سیاق میں فرمایا: انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا فرماتے ہیں: اور اسے احمد رضی اللہ عنہ بن یونس سلمی نے بحوالہ فضل بن مؤثق روایت کیا ہے، اور اس کے سیاق میں فرماتے ہیں: بحوالہ سدیسه انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔ اس کی طرف ابن مندہ نے اشارہ کیا ہے۔

### ۱۱۲۸۲) سُرَا

رامقصورہ کی تشدید کے ساتھ، ابن اشیر نے اسے لکھا ہے، فرماتے ہیں: بعض نے کہا کہ مد کے ساتھ ہے، بنت نبھان بن

اسد الغابۃ (۶۹۷۷) تجرید (۲/۲۷۵) \* اسد الغابۃ (۶۹۷۸) تجرید (۲/۲۷۵)

المعجم الكبير (۷۷/۲۴) مجمع الزوائد (۷۰/۹) \* اسد الغابۃ (۶۹۷۹) تجرید (۲/۲۷۵)

عمر و غنویہ، ابن حبان فرماتے ہیں: انہیں شرف صحابیت حاصل ہے۔ ابوداؤد وغیرہ نے ان کی حدیث، ابوعاصم کے طریق سے بحوالہ ربیعہ بن عبدالرحمن غنوی، انہوں نے ستر اہل بیت نبھان سے روایت کی ہے، اور وہ جاہلیت میں ایک گھر کی مالکن تھیں، فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع میں رؤوس کے دن ہمیں خطبہ دیا اور پوچھا: ”یہ کون سا دن ہے؟“ ہم نے کہا: اللہ اور اس کا رسول ﷺ زیادہ جانتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا یہ ایام تشریق کا درمیانہ دن نہیں؟“..... (الحدیث) اس کے آخر میں ہے، آپ ﷺ جب مدینہ تشریف لائے تو تھوڑے دنوں بعد وفات پا گئے۔

ابو عمر فرماتے ہیں: ان سے ساکنہ بنت جعد نے بھی روایت کی، ابن سعد نے بحوالہ احمد بن حارث غسانی، انہوں نے ساکنہ بنت جعد سے، انہوں نے ان سے حدیث نقل کی ہے، اور فرمایا: انہوں نے ان اسناد کے ساتھ احادیث روایت کیں۔

### ۱۱۲۸۳ سعد بنت رافع

بن ابوعمر بن عائد بن ثعلبہ انصاریہ، بنو مالک بن نجار سے ہیں، ان کی کنیت ام سلمہ ہے۔ ابن سعد \* نے ان کا، اور ان کی بہن کبشہ کا بیعت کرنے والی صحابیات میں ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں: ان سے اسلم بن حریش بن عدی بن سہل بن ثعلبہ نے نکاح کیا، اس سے سلمہ کی ولادت ہوئی۔

### ۱۱۲۸۴ سعد بنت سلمہ

بن زہیر بن ثعلبہ بن عبید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمہ انصاریہ، ابن سعد \* نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ اور فرمایا: یہ وہی ہیں جنہوں نے نبی کریم ﷺ سے سوال کیا کہ ان کے پیٹ کے بچے کی ان کی طرف سے بیعت لیں، اس وقت وہ حاملہ تھیں، ان سے نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”تم آزاد عورتوں کی طرح آزاد ہو“۔ فرماتے ہیں: ام قیس بن حرام بن لؤذان ان کی والدہ ہیں، ان سے حسہ بن صحر بن امیہ بن خنساء بنت عبید نے نکاح کیا۔

### ۱۱۲۸۵ سعدی بنت اوس الخطمیه

انہوں نے اور ان کی دونوں بہنوں کبشہ اور لیلیٰ نے نبی کریم ﷺ سے بیعت کی، ابن سعد نے ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۲۸۶ سعدی بنت عمر المریہ

طلحہ بنت عبید اللہ کی زوجہ ہیں۔ ابو عمر \* نے اسی طرح فرمایا، لیکن ابن مندہ فرماتے ہیں: سعدی بنت عوف بن خارجہ بن سنان بن ابو حارثہ، اور یہ اولیٰ ہے، انہوں نے نبی کریم ﷺ اپنے شوہر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، ان سے ان کے بیٹے یحییٰ اور پوتے طلحہ بن یحییٰ، اور اس کے علاوہ محمد بن عمران طحی نے روایت کی۔ ابویعلیٰ \* ان کی حدیث اسماعیل بن ابو خالد کے

\* اسد الغابۃ (۶۹۷۹) تجرید (۲/۲۷۵) \* الطبقات الکبریٰ (۸/۲۶۹)

\* اسد الغابۃ (۶۹۸۱) تجرید (۲/۲۷۵) \* الطبقات الکبریٰ (۸/۲۵۸)

\* تجرید (۲۷۵/۲) \* اسد الغابۃ (۶۹۸۳) تجرید (۲/۲۷۶)

\* الاستیعاب (۴/۱۸۶) \* مسند ابویعلیٰ (۲/۶۴۰)

## الْاِسْلَامُ فِي تَنْبِيْهِ الصَّحَابَةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ (اور) جلد ۲۲۲

طریق سے، بحوالہ شعی، انہوں نے یحییٰ بن طلحہ سے، انہوں نے اپنی والدہ سعدیہ المریہ سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد گزرے اس وقت وہ پریشان تھے، انہوں نے پوچھا: تمہیں کیا ہوا؟ کیا تمہاری چچا زاد کی بیوی نے کچھ کہا ہے، اس نے کہا: نہیں، لیکن میں نے رسول اللہ ﷺ سے فرماتے ہوئے سنا: ”میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جو شخص اپنی موت کے وقت اسے کہے گا تو وہ اس کے نامہ اعمال میں نور ہوگا، اور اس کا جسم اور روح موت کے وقت اس سے سکون پائیں گے۔“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں اسے جانتا ہوں، یہ وہی کلمہ تھا جو آپ ﷺ نے اپنے چچا کو سکھانا چاہا تھا، اگر آپ ﷺ اس سے زیادہ نجات دینے والی کسی چیز کے متعلق جانتے تو اس کا حکم فرماتے۔ ابن حبان نے اس کی مخالفت کی ہے اور ثقات تابعین میں ان کا ذکر کیا ہے، اور جنہوں نے نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد یہ حدیث سنی وہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہیں، اور وہ صحابیہ ہیں۔

### ۱۱۴۸۷ سعدی بنت کرز

بن ربیعہ بن عبد شمس عشمیہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جو امیر المومنین ہیں، ان کی خالہ ہیں۔ ابوسعید نیشاپوری نے کتاب شرف المصطفیٰ میں محمد بن عبد اللہ بن عمرو بن عثمان کے طریق سے جو دیباچ کے لقب سے مشہور ہیں، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا سے روایت کی ہے۔ فرماتے ہیں: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا اسلام لانے کا سبب یہ بنا وہ فرماتے ہیں: میں کعبہ کے صحن میں بیٹھا تھا جب ہم آئے اور ہم سے کہا گیا: محمد (ﷺ) نے اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح عتبہ بن ابولہب سے کیا ہے۔ وہ بہت حسن و جمال والی تھیں۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ عورتوں کے بارے میں مشہور تھے، خود بھی وہ حسین و جمیل تھے، سفید رنگت والے اور زرد رنگ کی مونچھیں تھیں، گھنگھر یا لے بال اور کانوں سے نیچے لنگتی زلفیں، مضبوط پنڈلیاں، لمبے بازو، خوبصورت ٹھٹھی ناک والے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جب میں نے یہ سنا تو میرے دل میں حسرت پیدا ہوئی کہ میں نے اس معاملے میں سبقت کیوں نہ کی، پھر میں اپنے گھر ہی پہنچا تھا، میں نے دیکھا کہ میری خالہ میرے گھر والوں کے ساتھ بیٹھی ہیں، فرماتے ہیں: ان کی والدہ اُروی بنت کرز ہیں، اور ان کی والدہ بیضاء بنت عبد المطلب ہیں۔ اور وہ خالہ ان کے گھر والوں کے پاس تھیں، سعدی بنت کرز ہیں، وہ جادو منتر اور اپنی قوم کے لیے کہانت کا کام کرتی تھیں۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو کہنے لگیں: ”تین بار تمہیں خوشخبری اور سلامتی ہو، پھر تین مرتبہ پھر تین مرتبہ اور پھر دوسری بار تاکہ دس پورے ہو جائیں، تمہیں خبر ملی اور برائی سے بچائے گئے۔ اللہ کی قسم! انی نو ملی جو ان عورت سے نکاح کیا، تم بھی کنوارے تھے اور تمہیں کنواری ہی ملی۔“

فرماتے ہیں: مجھے ان کی بات سے تعجب ہوا، اور میں نے کہا: اے خالہ! تم کیا کہہ رہی ہو؟ انہوں نے کہا: ”عثمان! اے عثمان! تیرے لیے جمال اور شان ہے، یہ نبی جن کے پاس برہان (دلائل) ہے، اللہ نے انہیں حق دین دے کر بھیجا ہے، ان کے پاس تنزیل اور برہان آئے، ان کی پیروی کرو، جن کی گندگی تمہارے ساتھ نہ چسے۔“

فرماتی ہیں: بے شک محمد بن عبد اللہ، اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، وہ انہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ ان کا چراغ ہی چراغ ہے، اور ان کی بات درست، ان کا دین فلاح والا اور ان کے حکم میں نجات

## الْكَذِبُ فِي تَلْبِيسِ الشَّيْطَانِ (الرو) (جلد ۲۲۳)

ہے، ان سے ٹکرانے والا سنگ ٹوٹنے والا ہے، زمین ان کے لیے تابع ہوگئی، چیخ و پکار کا کوئی فائدہ نہیں اگرچہ تیر گریں اور تلواریں نکلیں اور نیزے پھینکے جائیں۔“

پھر وہ واپس چلی گئیں، اور ان کی باتیں میرے دل پر نقش ہو گئیں، اور میں اس کے بارے میں غور و فکر کرتا رہا، میرا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس اٹھنا بیٹھنا تھا، میں ان کے پاس دو دنوں کے بعد آیا، اور ان کی مجلس میں بیٹھا اس وقت ان کے پاس کوئی نہ تھا، میں ان کے اور قریب ہو گیا تو انہوں نے میری پریشانی بھانپ لی اور مجھ سے اس بارے میں دریافت کیا، وہ نرم دل انسان تھے، میں نے جو کچھ اپنی خالہ سے سنا تھا انہیں بتایا، انہوں نے مجھ سے کہا: واہ رے عثمان! اللہ کی قسم! تم عقلمند انسان ہو تم پر باطل کے مقابلہ میں حق مخفی نہیں۔ دیکھو! یہ بت جن کی تیری قوم عبادت کرتی ہے، کیا بہرے پتھر نہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ نقصان دیتے ہیں نہ نفع دیتے ہیں؟ میں نے کہا: کیوں نہیں، اللہ کی قسم! اسی طرح ہے۔ انہوں نے کہا: اللہ کی قسم! تیری خالہ نے سچ کہا، یہ محمد بن عبد اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام مخلوق کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، کیا تم ان کے پاس آؤ گے اور ان کی بات سنو گے، میں نے کہا: جی ہاں، اللہ کی قسم! جلد ہی رسول اللہ ﷺ گزرے ان کے ساتھ حضرت علی بن ابوطالب تھے جو آپ ﷺ کی چادر اٹھائے ہوئے تھے، جب ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھا تو کھڑے ہوئے اور ان کے کان میں چپکے سے کوئی بات کہی، نبی کریم ﷺ تشریف لائے اور بیٹھ گئے، پھر میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا: اے عثمان! اللہ تعالیٰ کی جنت قبول کرو۔

میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور تمام مخلوق کی طرف بھی، انہوں نے کہا: اللہ کی قسم! مجھے اپنے آپ پر قابو نہ رہا، جب میں نے ان کی بات سنی تو اسلام لے آیا، میں نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور یہ کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، پھر تھوڑا عرصہ ہی گزرا تھا کہ میرا نکاح حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا سے ہوا، انہیں جب کوئی دیکھتا تو کہتا، بہترین جوڑا رقیہ اور ان کے خاوند عثمان ہیں، اور ان کے اسلام لانے کے بارے میں ان کی خالہ سعدی کہتی ہیں: ”اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو چن لیا گیا ہے اپنے حکم سے ہدایت دے دی۔“

اللہ نے اسے ہدایت دی اور اللہ تعالیٰ ہی حق کا راستہ دکھاتا ہے۔ اس نے درست رائے سے محمد ﷺ کا اتباع کیا۔ اروی کا بیٹا حق سے نہیں روکا جاتا۔ اور نبی پاک ﷺ نے ان سے اپنی ایک بیٹی کا نکاح کیا، جس سے وہ اس بدر کی طرح ہو گیا جو آسمان میں سورج سے جا ملا ہو، اے ہاشمی کے بیٹے! تجھ پر میری روح فدا ہو۔

سعدی ۱۱۲۸۸

بے نسبت۔ ابن مندہ نے ان کا ذکر کیا ہے اور فرمایا: عبد الواحد بن زیاد نے بحوالہ ابوبکر بن عبد اللہ، انہوں نے اپنی دادی سعدی یا اسماء سے حدیث روایت کی ہے کہ نبی کریم ﷺ انبساط کے پاس تشریف لائے اور فرمایا: ”جج کرو اور جہاں تم رکی تھیں وہیں سے حلال ہونے کی شرط باندھو۔“

طبرانی نے عبد الواحد کے طریق سے اسے موصولاً ذکر کیا ہے۔

## سعيدہ بنت بشر

۱۱۲۸۹

بن عبید انصاریہ، ابن سعد \* نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔

## سعيدہ بنت رفاعہ

۱۱۲۹۰

بن عمرو بن عبید بن امیہ انصاریہ اشہلیہ، ابن حبان نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔

## سعيدہ بنت عبد عمرو

۱۱۲۹۱

بن مسعود بن عبد الاشہل بن حارثہ بن دینار بن التجار انصاریہ خزرجیہ، ابوالسرکعب بن عمرو بن عبادہ بن عمرو بن سواد بن غنم کی زوجہ ہے۔

ابن سعد \* فرماتے ہیں: ان سے کعب بن عمرو نے نکاح کیا، ان کے بعد کعب بن زید بن قیس بن مالک نے نکاح کیا، جس سے عبد اللہ اور جلیلہ پیدا ہوئے، وہ نعمان اور ضحاک کی سگی بہن ہیں جو عبد عمرو کے بیٹے ہیں۔ ان کی کنیت ام الریاح ہے۔ ان کی والدہ سمیرا بنت قیس بن کعب بن عبد اشہل، ان کی داوی مضبوطہ تغیر کے ساتھ ہے۔

## سعيدہ

۱۱۲۹۲

بے نسبت۔ ابوصنی راہب کی زوجہ ہیں، انصار میں سے تھیں، ابوصنی اپنے اہل مدینہ پر غصے کی حالت میں مدینہ سے نکلے کہ وہ اسلام میں داخل ہوئے تھے تو مکہ میں کچھ عرصہ ٹھہرے، اسی اثناء میں ان کی بیوی سعیدہ نے صلح کے ایام میں مدینہ کی طرف ہجرت کی، لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ انہیں مکہ والوں کی طرف لوٹا دیا جائے گا جیسا کہ ان کی شرط ہے کہ ان میں سے کوئی آئے تو اسے لوٹا دیا جائے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ شرط عورتوں کے علاوہ مردوں کے بارے میں ہے۔“ تو اللہ تعالیٰ نے امتحان کی آیت فرمائی: ”ان سے امتحان لو“۔ \* حضرت مقاتل بن حیان نے اپنی تفسیر میں اس کا ذکر کیا ہے، ابوموسیٰ نے اسے نقل کیا ہے۔

## سُعیرہ

۱۱۲۹۳

تغیر کے ساتھ ہے، مستغفری نے اسے لکھا ہے اور عطاء خراسانی کی طریق سے، بحوالہ عطاء بن ابورباح، انہوں نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا: کیا میں تمہیں اہل جنت میں سے ایک خاتون نہ دکھاؤں؟ تو انہوں نے ایک حبشی خاتون دکھائیں، فرمایا: یہ سُعیرہ اسدیہ ہیں، وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئیں اور کہنے لگیں: یا رسول اللہ ﷺ! میرے ساتھ یہ بیماری ہے، ان کی مراد ہوائی، اللہ سے دعا کریں کہ مجھے اس بیماری سے شفا دے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا

\* تجرید (۲۷۶/۲) الطلاقات الکبریٰ (۲۵۴/۸) \* اسد الغابۃ (۵۹۸۵) تجرید (۲۷۶/۲)

\* تجرید (۲۷۶/۲) الطلاقات الکبریٰ (۳۲۰/۸) \* اسد الغابۃ (۶۹۸۶) تجرید (۲۷۶/۲)

\* سورة الممتحنة الآية (۱۰) \* اسد الغابۃ (۶۹۸۷) تجرید (۲۷۶/۲)

کروں اور اللہ تمہیں عافیت دے گا، اور تمہاری نیکیاں اور برائیاں برقرار رکھے گا۔ اور اگر تم چاہو تو صبر کرو تمہارے لیے جنت ہے۔“ انہوں نے صبر اور جنت کو پسند کر لیا۔

ابوموسیٰ نے مستغفری کے طریق سے ان کا قصہ نقل کیا ہے، پھر محمد بن اسحاق بن خزیمہ کی روایت سے بحوالہ مقدمہ بن داؤد، انہوں نے علی بن مہدی سے، انہوں نے بشر بن میمون سے، انہوں نے عطاء خراسانی سے اسے روایت کیا ہے، بشر فرماتے ہیں: یہ آیت سعیرہ کے بارے میں نازل ہوئی: ”تم لوگ اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے سوت کا تنے کے بعد اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔“

وہ اون، بال اور کھجور کے درخت کی چھال جمع کیا کرتی تھیں، جسے کات کر بڑا گولہ بناتی تھیں، جب اس کا ٹھکانا دشوار ہو جاتا تو اسے ٹوڑ دیتی تھیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا فرمایا: اے قریش کی جماعت! سعیرہ کی طرح نہ ہونا، کہ کہیں اپنی قسموں کو پکا کرنے کے بعد توڑ ڈالو، پھر ابن خزیمہ فرماتے ہیں: میں اللہ تعالیٰ کے حضور اس سند کی ذمہ داری سے برأت کا اعلان کرتا ہوں، مستغفری نے اپنی کتاب میں فرمایا: سعیرہ شین کے ساتھ ہے، اور صحیح سین ہے۔

میں کہتا ہوں: ابن مندہ نے شین اور قاف کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے۔ ان کی یہ حدیث زید بن ابوزید کے طریق سے بحوالہ بشر بن میمون مروی ہے، ابونعیم نے اس کی پیروی کی ہے۔

### سَفَانَةُ بِنْتُ حَاتِمِ الطَّائِي \* (۱۱۲۹۳)

ان کے بھائی عدی بن حاتم کے سوانح میں ان کا نسب گزر چکا ہے، محمد بن اسحاق \* نے مغازی میں ان کا ذکر کیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے سواروں کو طی کے قیدیوں میں حاتم کی بیٹی ملیں، وہ انہیں رسول اللہ ﷺ کے پاس لے آئے، تو وہ مسجد کے دروازے کے پاس ایک مقام میں ٹھہرا دی گئیں، وہ بھاری بھر کم جسم والی تھیں، رسول اللہ ﷺ ان کے پاس سے گزرے تو وہ آپ ﷺ کی طرف لپک کر بولیں: یا رسول اللہ! میرے والد فوت ہو گئے اور نگہبان غائب ہو گئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تمہارا نگہبان کون ہے؟ انہوں نے کہا: عدی بن حاتم۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اچھا وہ اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) سے بھاگنے والا“ اور چلے گئے یہاں تک کہ تین دن گزر گئے۔ فرماتی ہیں: ایک آدمی نے جو ان کے پیچھے تھا مجھے مشورہ دیا کہ اٹھ کر ان سے بات کرو، انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! والد فوت ہو گئے اور نگہبان غائب ہو گیا، مجھ پر احسان کیجئے، اللہ آپ پر احسان کرے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں نے تم پہ احسان کر دیا، تم جلدی نہ کرو یہاں تک کہ تم ایسے قابل اعتماد شخص کو پاؤ جو تمہیں تمہارے ملک پہنچا دے، پھر مجھے اطلاع کر دینا۔“ میں نے اپنی طرف اشارہ کرنے والے شخص کے بارے میں پوچھا، تو کسی نے کہا: علی بن ابوطالب ہیں۔

بلی کا ایک قافلہ آیا تو میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آ کر عرض کرنے لگی: میری قوم میں سے ایک جماعت آئی ہے۔ فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ نے مجھے کپڑے دیئے اور سواری دی اور خرچ عطا کیا۔ وہاں سے روانہ ہو کر اپنے بھائی کے پاس آ گئی، اس نے

\* سورة النحل الآية (۹۲) \* اسد الغابة (۶۹۸۸) تجرید (۲/۲۷۶)

\* السيرة النبوية (۱/۷۲۴)



کہا: اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا: میرا خیال ہے کہ اس سے تمہیں ملنا چاہیے۔

ابن اثیر \* فرماتے ہیں: یونس نے اسی طرح روایت کیا ہے اور سقانہ کا نام نہیں لیا، دوسرے راویوں نے ان کا نام لیا ہے، اور عبدالعزیز بن ابی رواد نے اسی طرح روایت کیا ہے، اس میں یہ اضافہ ہے: وہ اسلام لائیں اور ان کا اسلام سنو گیا۔ ابو نعیم نے اسے اپنے طریق سے نقل کیا ہے اور طبرانی رحمہ اللہ نے اس قصے کو نقل کیا ہے اور ان کا نام لیا ہے۔ خرائطی نے مکارم اخلاق میں حدیث علی بن ابوطالب سے اسے نقل کیا ہے، اس کا سیاق زیادہ مکمل ہے۔

### ۱۱۲۹۵ سکینہ بنت ابی وقاص الزہری \*

سعد کی بہن ہیں، ابو عروبہ نے صحابہ رضی اللہ عنہم میں ان کا ذکر کیا ہے، انہوں نے اور فاکہی رحمہ اللہ نے کتاب مکہ میں ہاشم بن ہاشم کے طریق سے بحوالہ ام الحکم سکینہ بنت ابوقاص اسے نقل کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے جہاد کا ذکر کیا، میں نے پوچھا: یا رسول اللہ! ہمارا جہاد کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تمہارا جہاد حج ہے“۔ \*

### ۱۱۲۹۶ سکینہ \*

بے نسبت۔ ان سے ان کے مولا ابوصالح نے روایت کی ہے۔ ابن مندہ فرماتے ہیں: ان کی حدیث سلیمان بن عبدالرحمن نے حکم بن یعلیٰ سے، انہوں نے کامل ابوالعلاء سے انہوں نے ابوصالح سے روایت کی ہے، ابو نعیم نے اس سند کو موصولاً نقل کیا ہے، اور متن بھی بیان نہیں کیا۔

### ۱۱۲۹۷ سلاف الأنصاریہ

براء بن معرور کی والدہ ہیں۔ زبیر بن بکار کی کتاب ”اخبار مدینہ“ میں ان کا ذکر ہے، جو محمد بن حسن مخزومی کی روایت سے، عبدالعزیز بن محمد سے، بحوالہ یحییٰ بن عبداللہ بن ابوقادہ انہوں نے اپنے شیوخ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ مقام سلاف میں ام البراء بن معرور کے ہاں مسجد میں جسے مسجد حرمہ کہا جاتا تھا، نماز کے بعد تشریف لاتے تھے، آپ ﷺ نے اس میں کئی نمازیں ادا فرمائیں۔

### ۱۱۲۹۸ سلافہ بنت البراء

بن معرور انصاریہ، ابوقادہ بن ربیع کی زوجہ ہیں، بعض کا قول ہے: ام بشر بن براء ہیں۔

### ۱۱۲۹۹ سلافہ بنت سعد الانصاریہ \*

عثمان بن طلحہ کی والدہ ہیں، واقدی کے مغازی میں فتح مکہ میں ان کا ذکر ہے۔ واقدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ہم سے معاذ

\* اسد الغابۃ (۳۰۸/۵) \* اسد الغابۃ (۶۹۸۹) تجرید (۲۷۶/۲)

\* جامع المسانید والسنن (۵۲۴/۱۵) \* اسد الغابۃ (۶۹۹۰) تجرید (۲۷۶/۲)

\* تجرید (۲۷۶/۲)

بن محمد نے بحوالہ عاصم بن عمر، انہوں نے علقمہ بن وقاص لیشی سے نبی کریم ﷺ سے فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہونے کا قصہ ذکر کیا ہے۔ اس میں ہے: آپ ﷺ نے نماز پڑھی، پھر مسجد میں بیٹھ گئے، پھر بلال کو عثمان بن طلحہ کی طرف بھیجا کہ وہ ان سے کعبہ کی چابیاں لے آئیں، عثمان نے اپنی والدہ سلافہ بنت سعد انصاریہ اوسہ سے چابیاں مانگیں انہوں نے ان سے طویل جھگڑا کیا، پھر انہیں چابیاں دے دیں، وہ انہیں لے کر نبی کریم ﷺ کے پاس آئے، سلافہ بعد میں اسلام لے آئیں۔

### ۱۱۳۰۰ سلامہ بنت الخزازیہ

بعض کا قول ہے: الازدیہ، بعض نے کہا: جعفیہ۔ ابن سعد \* اور ابن ابوعاصم \* نے ام غراب مولاۃ بنو فزارہ کے طریق سے بحوالہ ان کی مولاۃ عقیلہ انہوں نے سلامہ بنت خز جو خرشہ بن خرقہ زوجہ ہیں، فرماتی ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ”لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ ایک گھڑی کھڑے رہیں گے، انہیں نماز پڑھانے کے لیے امام نہیں ملے گا۔“ ابو عمر \* نے ان کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا: ان کی احادیث اہل کوفہ کی خواتین سے مروی ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے، ان میں ایک یہ ہے کہ ثقیف میں ایک خون ریزی کرنے والا اور ایک جھوٹا ہوگا۔ ایک حدیث ام داؤد راسبیہ کی ہے، فرماتی ہیں: میں نے سلامہ بنت خز جو خرشہ بن خرقہ بہن ہیں، فرماتے ہوئے سنا..... پھر وہ حدیث ذکر کی جو سلامہ ضبیہ کے بارے میں ہے، جب خرشہ کی بہن نے وضاحت کی کہ وہ فزاریہ ہیں۔

### ۱۱۳۰۱ سلامہ بنت سعید

بن شہید، بنو عمرو بن عوف سے ہیں، ابن حبان نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۳۰۲ سلامہ بنت مسعود

بن کعب بن عامر بن عدی بن مجدعہ بن حارثہ، حویصہ اور محیصہ کی بہن ہیں۔ ابن سعد \* نے آپ ﷺ سے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے اور فرماتے ہیں: ان کی والدہ اداہ بنت جموح ہیں، ان سے مرثدہ بن غنم بن مالک بن جویریہ بن حارثہ نے نکاح کیا۔

### ۱۱۳۰۳ سلامہ بنت معقل

جو الخزاعیہ ہیں معاہدے کی وجہ سے، بعض کا قول ہے: قیسہ ہیں۔ بعض نے کہا: وہ انصاریہ ہیں، ان سے محمد بن اسحاق نے بحوالہ خطاب بن صالح، انہوں نے اپنی والدہ سے نقل کیا، فرماتی ہیں: مجھ سے سلامہ بنت معقل نے جو خارجہ قیس بن غیلان کی

\* اسد الغابۃ (۶۹۹۲) تجرید (۲۷۶/۲) \* الطبقات الکبریٰ (۲۶۶/۸)

\* الاحاد والمثنائی (۱۸۸/۶) \* الاستیعاب (۱۸۶/۴)

\* اسد الغابۃ (۶۹۹۳) تجرید (۲۷۷/۲) \* تجرید (۲۷۷/۲)

\* الطبقات الکبریٰ (۲۴۴/۸) \* اسد الغابۃ (۶۹۹۵) الاستیعاب (۳۴۲۶) تجرید (۲۷۷/۲)

زوجہ ہیں، بیان کیا فرماتی ہیں: جاہلیت میں میرا چچا مجھے ساتھ لایا اور حباب بن عمر کے ہاتھوں بیچ دیا۔۔۔۔۔ (الحذیث) \* حاء مہملہ میں حباب بن عمرو کے سوانح میں ان کے حالات گزر چکے ہیں۔

میں کہتا ہوں: تاریخ بخاری میں ان کے والد کے نام لکھنے میں اختلاف منقول ہے کہ آیا وہ عین اور قاف کے ساتھ ہے یا عین اور ف کے ساتھ ہے؟ یعقوب بن ابراہیم بن سعد نے بحوالہ اپنے والد، انہوں نے ابن اسحاق سے نقل کیا ہے کہ عین کے ساتھ ہے، اور محمد بن سلمہ اور یونس بن کبیر سے مروی ہے کہ عین کے ساتھ ہے، خارجہ کا نام جن کی طرف یہ خاتون منسوب ہیں یہ ہے: عوف بن بکر بن یثگر بن عدنان بن حارث بن عمرو بن قیس بن غیلان، اور ام خارجہ وہ ہیں جن کی مثال بیان کی جاتی تھی، کہا جاتا: ام خارجہ کے نکاح سے زیادہ سرج، انہوں نے چالیس سے زائد آدمیوں سے نکاح کیا، وہ عرب کے عام قبائل میں پیدا ہوئیں، اکثر مردوں سے خلع لے لیتی تھیں، پھر کچھ عرصہ نہ گزرتا کہ وہ نکاح کر لیتیں، یہاں تک کہ کہا جانے لگا: مرد جب ان کے قریب آتا تو ان سے کہتا کہ پیام دیا ہے، تو وہ کہتیں: نکاح کیا ہے، پھر ان سے ہم آغوش ہوتا۔

۱۱۳۰۳ سلامہ بنت وہب وہ ام اسید ہیں۔

۱۱۳۰۵ سلامہ الضبیہ \*

ان سے ام داؤد راسبیہ نے روایت کی، عبد اللہ بن داؤد مزینی اور ابو عمر \* کے ہاں ان کی حدیث ہے۔ میں کہتا ہوں: ابن مندہ نے سلامہ ضبیہ کے بارے میں نقل کیا ہے اور عبد اللہ بن داؤد کے طریق سے اسے بیان کیا ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں: اسلام کے ابتدائی زمانے میں رسول اللہ ﷺ میرے پاس سے گزرے اور میں اپنے گھر والوں کی بکریاں چرا رہی تھی، آپ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: ”اے سلامہ! تم کس چیز کی گواہی دیتی ہو؟“ میں نے کہا: ”میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں پھر گواہی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔“ آپ ﷺ مسکرائے، اللہ کی قسم! آپ ﷺ بنے۔ \* ابو نعیم نے یقین کیا ہے کہ وہ سلامہ بنت خزیمہ اور یہ کہ بنو خزیمہ، بنو فزارہ سے ہیں۔

۱۱۳۰۶ سلمی بنت اسلم \*

بن حریش بن عدی بن مجدہ انصاریہ، سلمہ بن اسلم بن حریش کی بہن ہیں، ان کی کنیت ام عبد اللہ ہے، ان سے نہیک بن اساف نے نکاح کیا، ابن سعد فرماتے ہیں: اسلام لائیں اور بیعت کی، ان کا نکاح نہیک بن اساف بن عدی انصاری اوسی سے ہوا۔

۱۱۳۰۷ سلمی بنت حمزہ \*

بن عبد المطلب، ان سے تمام نے وہ قتادہ سے اور وہ ان سے روایت کرتے ہیں کہ ان کا مولا وفات پا گیا، اور اس نے

\* اسد الغابۃ (۳۱۰/۵) \* اسد الغابۃ (۶۹۹۴) الاستیعاب (۳۴۲۷) تجرید (۲۷۷/۲) \* الاستیعاب (۱۸۶۱/۴)

\* الأحاد والمثنائی (۲۴۴/۶) معرفة الصحابة (۳۵۴/۲) المعجم الكبير (۷۸۱/۲۴) مجمع الزوائد (۲۶۴/۹)

جامع المسانید والسنن (۵۵۱/۱۵) \* تجرید (۲۷۷/۲) \* اسد الغابۃ (۶۹۹۸) تجرید (۲۷۷/۲)

ایک بیٹی چھوڑی، نبی کریم ﷺ نے ان کی بیٹی کو نصف کا، اور نصف مال کا وارث یعلیٰ کو بنایا اور وہ ابن سلیم ہیں، جیسا کہ احمد نے مسند میں نقل کیا ہے۔ اسی طرح جریر بن حازم نے عبد اللہ بن شداد سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: بنت حمزہ نے نبی کریم ﷺ کے زمانے میں غلام آزاد کیا، اور وہ مال چھوڑ گیا، تو نبی کریم ﷺ نے میت کی بیٹی کو نصف اور حمزہ کی بیٹی کو نصف وارث بنایا۔ سلمیٰ بنت عثمیس کے سوانح میں ان کا ذکر آئے گا۔

www.KitaboSunnat.com

### ۱۱۳۰۸ سلمیٰ بنت حفصہ

ثنیٰ بن حارثہ شیبانی جو عراق کی فتوحات کا مشہور شہسوار ہے ان کی زوجہ ہیں، ثنیٰ کی وفات کے بعد ان سے سعد بن ابوقاص نے نکاح کیا، وہ قادیسیہ وغیرہ کی لڑائیوں میں ان کے ساتھ شریک تھیں، اتفاق سے ان کے جسم میں کوئی ایسا پھوڑا نکلا جس کی وجہ سے سوار نہیں ہو سکتے تھے، ایک دن لڑائی سخت تھی، سلمیٰ نے محل سے جھانکا اور کہا: ہائے ثنیٰ، آج کے دن دوست کے لیے ثنیٰ نہیں، انہیں سعد نے طمانچہ مارا اور کہا: ثنیٰ کہاں ہے؟ کہنے لگیں: کیا غیرت اور بزدلی آپ کو مانع ہے؟ حضرت سعد نے فرمایا: مجھے کوئی نہیں کہے گا جب تم نے میرا عذر قبول نہیں کیا، تم دیکھ رہی ہو میری جو حالت ہے۔

ابوحنن ثقفی کے سوانح میں ان کا ذکر گزر چکا ہے، جب انہیں آزاد کیا پھر فارسیوں کی شکست کے بعد واپس لوٹے، اور قید سے لوٹنے کے بعد ان سے کئے ہوئے وعدے کو پورا کیا، ان کے خاوند صحابی تھے، جیسا کہ ابوحنن کے حالات میں گزر چکا ہے، اور احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ان کے ساتھ ہجرت نہ کی ہو، میں نے اس احتمال کی وجہ سے ان کا ذکر قسم ثالث میں پھر ان کا ذکر ہے۔

### ۱۱۳۰۹ سلمیٰ بنت ابی ذؤیب

سعدیہ، حلیمہ جو نبی کریم ﷺ کو دودھ پلانے والی تھیں، ان کی بہن ہیں۔ بعض کا قول ہے: نبی کریم ﷺ کے پاس آئیں، آپ ﷺ نے ان کے لیے اپنی چادر بچھا دی، اور انہیں کہا: ”اے میری ماں! خوش آمدید۔“ ابوموسیٰ نے ذیل میں مستغفری کے حوالے سے بغیر سند سے ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۳۱۰ سلمیٰ بنت ابی رُہم

قرشہ، تیمیہ۔ بعض کا قول ہے: یہ ام مسطح کا نام ہے۔ کئیوں میں ان کا ذکر آئے گا۔

### ۱۱۳۱۱ سلمیٰ بنت زید

بن تیم بن امیہ بن بیاضہ بن خفاف بن سعد بن مرہ بن مالک بن اوس انصاریہ، جعادہ سے ہیں، بنو عبد الاشہل میں ان کا شمار ہے۔ ابن سعد فرماتے ہیں: ان سے عمرو بن عباد بن عمرو بن سواد خزرجی نے نکاح کیا، سلمیٰ اسلام لائیں اور بیعت کی۔

✽ مسند احمد (۴۰۵/۶) ✽ اسد الغابہ (۶۹۹۹) تجرید (۲۷۷/۲)

✽ اسد الغابہ (۷۰۰۱) تجرید (۲۷۷/۲) ✽ الطبقات الکبریٰ (۲۶۰/۸)

## ۱۱۳۱۲ سلمیٰ بنت صخر التیمیہ \*

ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں، ان کی کنیت ام الخیر ہے۔ کنیتوں میں ان کے سوا خائیں گے، وہ اپنی کنیت سے مشہور ہیں۔

## ۱۱۳۱۳ سلمیٰ بنت عمرو \*

بن جیش بن لوزان بن عبدوہ، منذر بن عبدالانصاری ساعدی کی بہن ہیں۔ ابن اثیر \* نے اپنے استدراک میں ان کا ذکر کیا ہے۔ اور تذکرہ نگاروں میں سے کسی کی طرف منسوب نہیں کیا۔

## ۱۱۳۱۴ سلمیٰ بنت عمیس الخثعمیہ \*

اسماء کی بہن ہیں، ان کی بہن کے سوا خائیں ان کا نسب گزر چکا ہے، یہ ان اخوت میں سے ایک ہیں جن کے بارے میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”مومن نہیں“۔ \*

یہ ابن عبدالبر \* کا قول ہے، فرماتے ہیں: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی زوجہ تھیں، ان سے امۃ اللہ بنت حمزہ پیدا ہوئیں پھر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کے بعد شداد بن ہادلیثی سے نکاح ہوا، جس سے عبداللہ اور عبدالرحمن پیدا ہوئے۔ بعض کا قول ہے: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی زوجہ اسماء بنت عمیس ہیں، ان کے بعد شداد نے ان سے شادی کی، اور پہلا قول صحیح ہے۔

میں کہتا ہوں: ابن مندہ نے عبداللہ بن مبارک کے طریق سے، جریر بن حازم سے، انہوں نے محمد بن عبداللہ بن ابویعقوب اور ابوفزارہ دونوں سے، انہوں نے عبداللہ بن شداد سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی میری ماں شریک بہن تھی اور ہماری والدہ سلمیٰ بنت عمیس تھیں۔

صحیحین میں حدیث براء سے بنت حمزہ کے قصے میں منقول ہے: جب ان کے بارے میں حضرت علی، جعفر، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم میں بحث ہوئی تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں ان کا زیادہ حقدار ہوں، ان کی خالہ میری زوجہ ہیں۔

ابن سعد \* فرماتے ہیں: ان سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا، وہ اپنی بہن اسماء کے ساتھ اسلام کے ابتدائی زمانے میں اسلام لے آئیں، ان سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی عمارہ پیدا ہوئیں، یہ وہی ہیں جن کی پرورش کے بارے میں حضرت علی، جعفر، زید بن حارثہ کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ سلمیٰ نے حمزہ سے طلاق لے لی، پھر ان سے حضرت شداد نے نکاح کیا جس سے عبداللہ پیدا ہوئے، آپ ﷺ نے ان کا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے حق میں فیصلہ فرمایا، اور کہا: ”خالہ ماں کے درجے میں ہے“۔ \*

حضرت اسماء رضی اللہ عنہا جعفر کی زوجہ تھیں، یہ متعین ہو گیا کہ ان کی والدہ سلمیٰ ہیں۔

ابن اثیر \* نے اس شخص کی تردید میں پوری کوشش کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی زوجہ تھیں۔

\* اسد الغابۃ (۷۰۰/۲) تجرید (۲۷۸/۲) \* اسد الغابۃ (۷۰۰/۳) تجرید (۲۷۸/۲)

\* اسد الغابۃ (۳۲۱/۵) \* اسد الغابۃ (۷۰۰/۴) الاستیعاب (۳۴۲۸) تجرید (۲۷۸/۲)

\* المعجم الكبير (۷۶۷/۲۴) \* الاستیعاب (۱۸۶۱/۴) \* الطبقات الكبير (۲۰۹/۸)

\* بخاری (۲۶۹۹) ابوداؤد (۲۲۸۰) (۲۲۷۸) \* اسد الغابۃ (۳۱۲/۵)

### ۱۱۳۱۵ سلمی بنت قیس \*

بن عمرو بن عبید بن مالک بن عدی بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار انصاریہ نجاریہ، ان کی کنیت ام منذر ہے، وہ اپنی کنیت سے زیادہ مشہور ہیں، وہ سلیط بن قیس کی بہن ہیں، ابن اسحاق \* نے مغازی میں نقل کیا ہے: مجھ سے سلیط بن ایوب بن حکم نے بحوالہ اپنے والد، انہوں نے اپنی دادی سلمی بنت قیس، جو ام منذر ہیں، اور نبی کریم ﷺ کی خالائوں میں سے ہیں، نقل کیا ہے، انہوں نے آپ ﷺ کے ساتھ دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی، فرماتی ہیں: میں نے بیعت کرنے والی خواتین کے ساتھ نبی کریم ﷺ سے بیعت کی اس بات پر کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گی۔ (الحدیث) اس میں ہے: اور ہم اپنے خاندانوں کو دھوکہ نہ دیں گی ہم نے اس پر آپ ﷺ سے بیعت کی، جب ہم لوٹے تو میں نے اپنے ساتھ ایک عورت سے کہا: واپس جاؤ اور آپ ﷺ سے سوال کرو: اپنے شوہروں کو دھوکہ دینا کیا ہے؟ اس نے آپ ﷺ سے پوچھا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”عورت اس کا مال لے اور کسی اور کو دے۔“ \*

ابن سعد نے یعلیٰ اور محمد سے جو عبید کے بیٹے ہیں بحوالہ ابن اسحاق، انہوں نے انصار کے ایک شخص سے، انہوں نے اپنی والدہ سلمی بنت قیس سے نقل کیا ہے..... اور اس کے آخر میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”یعنی تحابین یا تہادین یعنی کسی اور مرد کو ہدیہ یا تحفہ دو۔“

ابن مندہ نے عالی سند سے یونس بن بکیر سے، بحوالہ ابن اسحاق اور ابو نعیم دوسری سند سے بحوالہ ابن اسحاق اسے نقل کیا ہے۔ ابن مندہ نے ان کے سوانح میں ایوب حکم کے طریق سے، انہوں نے اپنی دادی سلمی سے ایک حدیث نقل کی ہے۔ اور وہ وہم ہے، کیونکہ سلمی جو ایوب کی دادی ہیں وہ ام رافع ہیں اور ابورافع کی زوجہ ہیں، ان کا ذکر آگے آئے گا۔

### ۱۱۳۱۶ سلمی بنت مالک

بن حذیفہ بن بدر فزاریہ، قرقہ صغریٰ کی والدہ ہیں۔ عیینہ بن حصن کی چچا زاد ہیں، اپنی دادی ام قرقہ کبریٰ سے عزت و شرف میں شائبہ تھیں، جن کو زید بن حارثہ نے اس وقت قتل کر دیا تھا جب بنو فزارہ قیدی بنائے گئے تو سلمی قیدیوں میں شامل تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں آزاد کر دیا، نبی کریم ﷺ تشریف لائے تو وہ آپ رضی اللہ عنہا کے پاس تھیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے کوئی ایک ادھاب کے کتوں کو بھونکنے پر مجبور کرے گی۔“ وہ کہنے لگی: ام قرقہ کے گھر میں پچاس آدمیوں کی پچاس تلواریں لٹکی ہوئی تھیں، وہ سب ان کے محرم تھے، مجھے معلوم نہیں، وہ یہی ہیں یا قرقہ کبریٰ کی والدہ ہیں۔

### ۱۱۳۱۷ سلمی بنت محرز

بن عامر انصاریہ، بنو عدی بن نجار سے ہیں، ابن حبیب نے نبی کریم ﷺ سے بیعت کرنے والوں میں ان کا نام لیا ہے۔

\* اسد الغابۃ (۷۰۰۵) الاستیعاب (۳۴۲۹) تجرید (۲۷۸/۲) \* السیرۃ النبویۃ (۱۹۲/۳)

\* مسند احمد (۳۷۹/۶، ۳۸۰) المعجم الكبير (۳۵۱/۲۴) مجمع الزوائد (۳۱۱/۴)

جامع المسانید والسنن (۵۲۷، ۵۲۶/۱۵)

### ۱۱۳۱۸ سلمی بنت نصر المحاربية

طبرانی رحمہ اللہ کا قول ہے، \* بعض نے کہا: انہیں شرف صحابیت حاصل ہے۔ پھر محمد بن اسحاق کے طریق سے، عاصم بن عمر سے، بحوالہ سلمی بنت نصر محاربہ حدیث بیان کی، فرماتی ہیں: میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ولد زنا کے آزاد کرنے کے بارے میں سوال کیا، آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: اسے آزاد کر دو۔

### ۱۱۳۱۹ سلمی بنت یعار

ی کے ساتھ ہے۔ بعض کا قول ہے ت اور عین کے ساتھ ہے، اور تہیہ کی بہن ہیں جن کا ذکر گزر چکا ہے۔ ابن اثیر اور بیض نے ان کا ذکر کیا ہے، اور تجرید میں فرمایا: ان کے حالات معلوم نہیں، یہ درست نہیں وہ معروف ہیں، سالم مولی ابو حذیفہ کے سوانح میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے انہیں آزاد کیا یا ان کی بہن تہیہ نے آزاد کیا۔

### ۱۱۳۲۰ سلمی الأنصارية

بے نسبت۔ محمد بن اسحاق نے ان کی حدیث انصار کے ایک آدمی سے، انہوں نے اپنی والدہ سلمی سے نقل کی، فرماتی ہیں: میں نبی کریم ﷺ کے پاس آئی تاکہ انصار کی عورتوں کے ساتھ آپ ﷺ سے بیعت کروں، آپ ﷺ نے ہم سے جو عہد لیا، اس میں یہ بھی تھا کہ ہم اپنے خاوندوں کو دھوکہ نہ دیں۔ \*

ابن مندہ نے ابن اسحاق کے طریق سے اس کا ذکر کیا ہے، اور یہ جواز پیش کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہی بنت قیس ہوں جن کا بھی ذکر گزر رہا ہے، کیونکہ حدیث ایک ہے، لیکن بنت قیس کے سوانح میں راوی سلیط بن ایوب ہیں، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنی دادی سے حدیث نقل کی۔ اور یہاں انصار کا ایک آدمی ہے جس نے اپنی والدہ سے حدیث نقل کی ہے۔

### ۱۱۳۲۱ سلمی الأودیہ

اہل کوفہ کے ہاں ان کی حدیث ہے، ابو عمر \* نے اسے مختصر ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۳۲۲ سلمی أم رافع

ابورافع کی زوجہ ہیں جو نبی کریم ﷺ کے مولیٰ تھے، بعض کا قول ہے: وہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کی مولاہ ہیں، ان کے بارے میں یہ بھی منقول ہے کہ وہ بھی نبی کریم ﷺ کی مولاہ اور خادمہ تھیں، میں نے ابو یعقوب بختری کی تحریر سے، ان کے

\* اسد الغابہ (۷۰۰۸) تجرید (۲۷۸/۲) \* المعجم الكبير (۳۰۲/۲۴)

\* اسد الغابہ (۷۰۰۹) تجرید (۲۷۸/۲) \* اسد الغابہ (۶۹۹۶) تجرید (۲۷۷/۲)

\* مسند احمد (۴۲۲/۶) (۳۷۹/۶) مسند ابویعلیٰ (۷۰۷۰/۱۲) \* المعجم الكبير (۲۴/۱۲)

الاحاد والمثنائی (۱۷۶/۶) مجمع الزوائد (۳۱۱/۴)

\* اسد الغابہ (۶۹۹۷) الاستیعاب (۳۴۳۱) تجرید (۲۷۷/۲) \* الاستیعاب (۱۸۶۳/۴)

\* اسد الغابہ (۷۰۰۰) تجرید (۲۷۷/۲) (۲۷۸/۲)

ایک ادبی مجموعہ میں پڑھا، وہ خاتون جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جب وہ شکار سے لوٹے کہا: اگر آپ ابو جہل کا اپنے بھتیجے کے ساتھ کیا گیا رویہ دیکھ لیتے تو آپ سے برداشت نہ ہوتا۔ یہاں تک کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نہایت غصے میں ابو جہل کے پاس گئے اور اس کے سر میں کمان ماری، یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا سبب بنا۔

یہ وہی سلمیٰ مولاۃ صفیہ بنت عبدالمطلب تھیں، اور ترمذی \* میں فائدہ مولیٰ ابورافع کے طریق سے، علی بن عبید اللہ بن ابورافع سے بحوالہ ان کی دادی منقول ہے، وہ نبی کریم ﷺ کی خدمت کیا کرتی تھیں۔ فرماتی ہیں: جب بھی نبی کریم ﷺ کو کوئی پھوڑا ہوتا تو آپ ﷺ مجھے حکم فرماتے کہ اس پر مہندی رکھوں۔ مسند میں ابن اسحاق کے طریق سے، ہشام بن عروہ سے بحوالہ ان کے والد، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے، فرماتی ہیں: سلمیٰ زوجہ ابورافع جو نبی کریم ﷺ کے مولیٰ ہیں، ابورافع کی شکایت کرنے آئیں اور کہنے لگیں: وہ مجھے مارتا ہے۔ آپ ﷺ نے ان سے فرمایا: ”تمہیں کیا مسئلہ ہے؟“ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! یہ مجھے ایذا دیتی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے سلمیٰ کیسے تو نے ایذا دی؟“ کہنے لگیں: میں نے انہیں کسی شے سے ایذا نہیں دی، لیکن باوجود بے وضو ہونے کے وہ نماز پڑھتے رہے، میں نے کہہ دیا: اے ابورافع! رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ جب ان میں سے کوئی بے وضو ہو تو وضو کر لیا کرے، وہ کھڑے ہوئے اور مجھے مارنے لگے۔ آپ ﷺ ہنس کر بولے: ”اے ابورافع! وہ تمہیں بھلائی کا حکم دیتی ہے۔“ \*

ابن مندہ نے لیث کے طریق سے بحوالہ زید بن اسلم، انہوں نے عبید اللہ بن وہب سے، انہوں ام رافع سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! مجھے بتائیں کس چیز سے میں اپنی نماز شروع کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم نماز کے لیے کھڑی ہو تو آہستہ آواز میں تکبیر کہو.....“۔ (الحدیث)

اسے عطف بن خالد نے زید سے، انہوں نے ام رافع نقل کیا ہے اور زید اور ام رافع کے درمیان کسی اور کا ذکر نہیں کیا۔

۱۱۳۲۳ سلمیٰ \*

ام سطح، حدیث ائک میں ان کا ذکر مشہور ہے، وہ اپنے نام سے زیادہ کنیت سے معروف ہیں، کنیتوں میں ان کا ذکر آئے گا۔

۱۱۳۲۴ سلمیٰ \*

بے نسبت۔ حکیم بن امیہ بن اقص سلمیٰ کی مولاۃ ہیں، ہشام بن کلثبی نے کتاب المثالب میں ذکر کیا ہے کہ سلمہ بن امیہ بن خلف نے ان سے استماع کیا اس سے اولاد ہوئی انہوں نے انکار کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات پہنچی تو آپ نے متعہ سے منع کیا۔

۱۱۳۲۵ سلمیٰ \*

بے نسبت۔ محمد بن عقبہ کی روایت میں ان کا ذکر ہے، بحوالہ وہب بن عبد اللہ بن کعب، انہوں نے سلمیٰ سے نقل کیا، فرماتی

\* ترمذی (۲:۵۴) مسند احمد (۲۷۲/۶) المعجم الكبير (۷۶۵/۲۴) مجمع الزوائد (۲۴۳/۱) مسند بزار (۲۸۰)

\* اسد الغابۃ (۷۰۰۷) تجرید (۲۷۸/۲) اسد الغابۃ (۷۰۱۱) تجرید (۲۷۸/۲)



ہیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ عزوجل نے چار ہزار انبیاء بھیجے....“ \* طویل حدیث ہے جسے ابن مندہ نے ذکر کیا ہے۔

۱۱۳۲۶ سلمیٰ \*

رسول اللہ ﷺ کی خادمہ ہیں، طبقات ابن سعد میں زینب بنت جحش کے سوانح میں ایک حدیث میں ان کا ذکر مذکور ہے۔  
واقدی سے روایت ہے، وہ عبداللہ بن عامر اسلمی سے روایت کرتے ہیں، وہ محمد بن یحییٰ بن حبان سے نقل کرتے ہیں، پھر حضرت  
نسب بنی النضر کے نکاح کا طویل قصہ ذکر کیا، اس کے آخر میں ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”حضرت زینب بنی النضر کی طرف کون  
جائے گا جو انہیں خوشخبری دے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مجھ سے نکاح کر دیا ہے۔“ فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ کی خادمہ سلمیٰ دوڑتی ہوئی  
گئیں اور انہیں یہ بتایا، انہوں نے انہیں زمین عطا کی، اور میرا خیال یہ ہے ام رافع ابورافع کی زوجہ ہیں جن کا ذکر گزر چکا ہے۔

۱۱۳۲۷ سلمیٰ \*

حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی مولاۃ ہیں۔ واقدی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی رسول اللہ ﷺ کی اولاد کی دائی تھیں۔

۱۱۳۲۸ سمراء بنت قیس الأنصاریہ \*

ابن مندہ فرماتے ہیں: ابوامامہ بن سہل بن حنیف کی حدیث میں ان کا ذکر ہے، واقدی کی حدیث میں ہے، اور ابو عمر \*  
فرماتے ہیں: سمیرا القیس کے ساتھ ہے۔ بنت قیس الأنصاریہ، مدنیہ، ان سے ابوامامہ بن سہل نے روایت کی۔ ابن سعد \* نے تصغیر کے  
ساتھ ان کا ذکر کیا ہے، اور ان کا نسب بیان کیا ہے، فرماتے ہیں: بنت قیس بن مالک بن کعب بن عبدالاشہل بن حارثہ بن دینار بن  
نجم، ان سے عبد عمرو بن مسعود بن عبدالاشہل نے نکاح کیا، ان سے نعمان، ضحاک، قطبہ اور ام الزریاع پیدا ہوئے، وہ صحابی ہیں،  
ان کے بعد عمرو بن غزیہ بن عمرو بن ثعلبہ بن مبدول نے ان سے نکاح کیا، جس سے اولاد ہوئی، اس کے بعد حارث بن ثعلبہ بن  
کعب بن عبدالاشہل بن حارثہ بن دینار بن نجم نے نکاح کیا، جس سے سلمیٰ پیدا ہوئیں، یہ سب بھی صحابہ تھے۔

۱۱۳۲۹ سمراء بنت نہیک \* قسم ثالث میں ان کا ذکر آئے گا۔

۱۱۳۳۰ سمیراء بنت قیس ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

۱۱۳۳۱ سمیرہ القرشیہ

فتوحات میں ان کا ذکر ہے۔ ۲۱ھ میں ہمدان کی فتح ہوئی، لوگوں نے گھائی پر بھیڑ کی، وہ جھکے ہوئے پہاڑ پر سے گزرے  
تو قریش کے ایک آدمی نے کہا: گویا وہ سیمرہ کے دانت کی طرح ہے، یہ مہاجرین میں سے وہ خاتون تھیں جن کا ایک دانت دوسرے  
دانتوں کے مقابلے میں آگے نکلا ہوا تھا، یوں اس شخص نے پہاڑ کو سیمرا کے دانت سے تشبیہ دی۔

\* جامع المسانید والسنن (۵۳۳/۱۵) \* اسد الغابہ (۷۰۰) تجرید (۷۷۷/۲)

\* ان کا حوالہ گزر چکا ہے۔ \* اسد الغابہ (۷۰۱۲) تجرید (۲۷۸/۲)

\* الاستیعاب (۱۸۶۳/۴) \* الطبقات الکبریٰ (۳۲۰/۸) \* الاستیعاب (۳۴۳)

### ۱۱۳۳۲ سمیکہ بنت جبار

بن صخر بن امیہ بن خنساء بن عبید بن عدی بن غنم انصاریہ۔ بیعت کرنے والی صحابیات میں سے ہیں۔ یہ ابن سعد کا بحوالہ واقدی قول ہے، فرماتے ہیں: ان کی والدہ حارث بنت مالک بن خنساء بن سنان ہیں، ان سے نعمان بن جبیر بن امیہ نے نکاح کیا۔

### ۱۱۳۳۳ سمیہ بنت خُباط

بعض کا قول ہے: آپ کے ساتھ ہیں، فاکہی کا قول ہے، سمیہ بنت خُبط۔ ابو حذیفہ بن مغیرہ بن عبد اللہ بن عمرو بن مخزوم کی مولاہ ہیں اور عمار بن یاسر کی والدہ ہیں۔ پہلے سات اسلام لانے والوں میں ساتویں تھیں۔ ابو جہل انہیں ایذا دیتا تھا، اس نے انہیں سامنے سے نیزہ مارا وہ شہید ہو گئیں، اسلام میں پہلی شہیدہ ہیں۔ یاسر ابو حذیفہ کے حلیف تھے، ان سے سمیہ نے نکاح کیا، جس سے عمار پیدا ہوئے، انہوں نے انہیں آزاد کر دیا، یاسر، ان کی زوجہ اور اولاد ان لوگوں میں سے تھے، جنہوں نے اسلام کی طرف سبقت کی۔

ابن اسحاقؒ مغازی میں فرماتے ہیں: مجھ سے آل عمار بن یاسر کے گھرانے کے لوگوں نے بیان کیا کہ سمیہ ام عمار کو آل بنی مغیرہ اسلام لانے کی وجہ سے ایذا کیں دیتے تھے، اور وہ غیر اللہ کا انکار کرتی تھیں یہاں تک کہ انہوں نے انہیں قتل کر دیا۔ نبی کریم ﷺ عمار ان کی والدہ اور ان کے والد کو مکہ کے بچے صحراء میں اٹھ مقام پر ایذا کیں دیتے دیکھتے تھے، آپ ﷺ فرماتے: اے آل یاسر! صبر کرو، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔

مجاہد فرماتے ہیں: سب سے پہلے مکہ میں جن سات آدمیوں نے اسلام قبول کیا، وہ یہ ہیں: رسول اللہ ﷺ، ابوبکر، بلال، خباب، صہیب، عمار، سمیہ رضی اللہ عنہا، رہے رسول اللہ ﷺ اور ابوبکر رضی اللہ عنہما تو وہ لوگ ان کی قوم کی وجہ سے رُکے رہے، اور دوسرے لوگوں کو لوہے کی زر ہیں پہناتے پھر سورج کے سامنے ڈال دیتے، ابو جہل حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور نیزے سے انہیں مارا تو وہ شہید ہو گئیں۔

ابوبکر بن ابوشیبہ نے اسے بحوالہ جریر، انہوں نے منصور سے انہوں نے مجاہد سے اسے نقل کیا ہے، وہ مرسل حدیث ہے، اس کی سند صحیح ہے۔

ابو عمرؒ فرماتے ہیں، تنبیہ کا قول ہے: سمیہ سے یاسر کے بعد حارث بن کلدہ کے غلام ازرق نے نکاح کیا، وہ رومی تھا، اس سے سلمہ پیدا ہوئے جو عمار کے ماں شریک بھائی تھے، اسی طرح فرمایا: وہ صریح وہم ہے کہ ازرق نے سمیہ سے شادی کی جو زیاد کی والدہ ہیں، اور سلمہ بن ازرق سمیہ کے ماں شریک بھائی ہیں، ابن قتیبہ کو اس پر اشتباہ ہوا ہے۔

تجريد (۲۷۸/۲) الطبقات الكبرى (۲۹۷/۸) اسد الغابة (۷۰۱۳) تجريد (۲۷۸/۲)

اسد الغابة (۳۱۶/۵) مصنف ابن أبي شيبة (۷۶/۱۴) السيرة النبوية (۲۵۴/۱)

الاستيعاب (۱۸۶۴/۴) معارف قتيبة (۲۵۶)

ابن سعد نے صحیح سند سے بحوالہ مجاہد نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: اسلام میں پہلی شہادت عمار بن یاسر کی والدہ کی ہے، وہ بہت بوڑھی اور ضعیف تھیں، جب ابو جہل بدر کے دن قتل ہوا تو نبی کریم ﷺ نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے تیری والدہ کے قاتل کو مارا۔“

### ۱۱۳۳۳ سمیہ والدہ زیاد

ان سے پہلی صحابیہ میں ان کا ذکر گزر چکا ہے، حارث بن کلدہ کی مولاہ تھیں، قسم ثالث میں ان کا ذکر آئے گا۔

### ۱۱۳۳۵ سنا

بنت اسماء بنت صلت سلمیہ، ابو عبیدہ معمر بن شمی نے ذکر کیا ہے کہ یہ وہ ہیں جن سے نبی کریم ﷺ نے نکاح کیا، وہ رخصتی سے قبل وفات پا گئیں اور حفص بن نصر اور عبدالقاہر بن سری سلمیٰ سے یہ روایت کیا ہے، اور فرماتے ہیں: عبداللہ بن خازم کی پھوپھی ہیں۔ ابن اسماء بن الصلت جو خراسان کے اسیر ہیں۔

میں کہتا ہوں: ابن ابوشیمہ نے ابو عبیدہ بن عبدالقاہر سے ذکر کیا ہے، ان کا نام سنا لیا ہے، جیسا یہاں مذکور ہے۔ دوسرے راویوں نے ان کا نام وسنا لیا ہے (اس کے شروع میں واؤ زیادہ ہے) حرف الف میں گزر چکا ہے کہ حضرت قتادہ نے ان کا نام اسماء بنت صلت لیا ہے، احمد بن صالح مصری نے اسی طرح فرمایا ہے۔

ابن اسحاق \* کا قول ہے: سنا بنت اسماء، بعض نے کہا: وسنا، یہ ابو عمر \* سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں: اسناد سے اس میں سے کچھ ثابت نہیں اور ابن اسحاق کا قول رائج ہے۔

ابن سعد فرماتے ہیں: سنا۔ بعض نے کہا: سنا۔ ابن حبیب نے انہیں ان کے دادا کی طرف منسوب کیا ہے، اور ان کے نسب کو بنو سلیم کی طرف لے گئے ہیں، اور فرمایا: سنا بنت صلت بن حبیب بن حازم بن ہلال بن حرام بن سماک بن عقیف بن امرئ القیس بن بھڑ بن سلیم، اور ذکر کیا کہ اسماء ان کے بھائی ہیں والد نہیں، اور رخصتی سے قبل ہی وفات پا گئیں۔ رشاطی نے بعض سے بیان کیا ہے کہ ان کی موت کا سبب یہ ہوا کہ جب انہیں یہ خبر ملی کہ نبی کریم ﷺ نے ان سے نکاح کیا ہے تو بہت خوش ہوئیں یہاں تک کہ خوشی سے ان کا دل پھٹ گیا اور وفات پا گئیں۔

### ۱۱۳۳۶ سنا بنت سفیان الکلابیہ \*

بعض کا قول ہے: یہ نبی کریم ﷺ کی ان ازواج میں سے ہیں جن کی رخصتی نہیں ہوئی، ابن سعد نے ان کا ذکر کیا ہے اور کلابیہ کے نام میں اختلاف ہے۔ حرف اول عین میں اس بارے میں ذکر کروں گا۔

### ۱۱۳۳۷ سنا بنت مخنف سدیہ (تصغیر کے ساتھ) میں ان کا ذکر آئے گا۔

\* اسد الغابہ (۷۰۱۴) الاستیعاب (۳۴۳۵) تجرید (۲۷۸/۲) \* السیر والمغازی (۲۶۷)

\* الاستیعاب (۱۸۶۵/۴) \* تجرید (۲۸۷/۲)

### ۱۱۳۳۸ سنبہ بنت ماعز

ادامع بن قیس بن خلدہ انصاریہ، بنو زریق سے ہیں، ابن حبیب نے بیعت کرنے والی خواتین میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۳۳۹ سندوس

بعض کا قول ہے: سندوس، بنت خالد بن سوید بن ثعلبہ بن عمرو بن حارثہ بن امرئ القیس بن مالک اغر۔ ابن سعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: واقدی رحمہ اللہ نے ان کا ذکر کیا، وہ اسلام لائیں اور بیعت کی، کسی اور نے ان کا ذکر نہیں کیا۔

### ۱۱۳۴۰ سنیہ بنت حارث

ابن عباس رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ یہ ان خواتین میں سے تھیں جنہوں نے صلح کے زمانے میں ہجرت کی، اور ان کا امتحان لیا گیا۔ انہوں نے فرمایا: میں اسلام کی طرف رغبت کی وجہ سے آئی ہوں۔

### ۱۱۳۴۱ سنینہ

دونوں کی تصغیر کے ساتھ (بنت مخنف بن زید، النکریہ) نون کے ضمہ (پیش) کے ساتھ، بعض کا قول ہے ب کے فتح (زبر) کے ساتھ، ابن ماکولا کا قول ہے۔ انہیں شرف صحابیت اور روایت حاصل ہے، ان سے حدیث بنت شامخ نے روایت کی ہے، ابن شاپین اور ابن سکین نے مخنف کے سوانح میں روایت گزر چکی ہے، ان کا نام سنا تھا، اور ابن شاپین نے سیاق کے آخر میں سنینہ لکھا ہے، جیسا کہ یہاں مذکور ہے۔ اور عبدالرحمن بن عمرو بن جبہ کے طریق سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: ہم سے جبہ بنت شامخ النکریہ نے بیان کیا، فرماتی ہیں، مجھ سے ہم میں سے ایک خاتون نے بیان کیا، جنہیں سنینہ بنت مخنف بن زید النکریہ کہا جاتا ہے، فرماتی ہیں: ”جب لوگ اسلام کی طرف جلدی کر رہے تھے..... الخ“۔

### ۱۱۳۴۲ سہلہ بنت سعد الساعدیہ

سہل جو مشہور صحابی ہیں ان کی بہن ہیں، ابن مندہ نے ان کا ذکر کیا ہے اور ابن لہیعہ کے طریق سے بحوالہ عبداللہ بن ہبیرہ انہوں نے سہلہ بنت سعد الساعدیہ سے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتی ہیں: یا رسول اللہ! جو ہارنگھار عورت اپنے شوہر کے لیے کرتی ہے تاکہ اسے اپنی طرف مائل کرے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس میں دنیا کا فائدہ ہے، آخرت میں اس کا حصہ نہیں۔“ منصور بن عمار اس کو روایت کرنے میں متفرد ہیں، اسی طرح ابن لہیعہ سے روایت ہے کہ یہ سہلہ بنت سہل ہیں۔

طبرانی رحمہ اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے اور ابن لہیعہ کے طریق سے بحوالہ عبداللہ بن ہبیرہ انہوں نے سہلہ بنت سہل سے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتی ہیں: یا رسول اللہ! کیا ہم میں سے کسی کو احتلام ہو تو وہ غسل کرے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں! جب وہ

اسد الغابہ (۷: ۱۶) تجرید (۲/ ۲۷۸)

اسد الغابہ (۷: ۱۵) تجرید (۲/ ۲۷۸)

اسد الغابہ (۷: ۱۷) تجرید (۲/ ۲۷۹)

الإکمال (۲۶۵، ۲۶۶/ ۴)

مجمع الزوائد (۲۶۷/ ۱) جامع المسانید والسنن (۵۴۶/ ۱۵) المعجم الكبير (۷۴۳/ ۲۴)

تری دیکھے۔ اسے عبدالملک بن یحییٰ بن بکیر کے طریق سے بحوالہ ان کے والد انہوں نے ابن لہیعہ سے روایت کیا ہے، مستغفری نے محمد بن معاویہ نیشاپوری کے طریق سے ابن لہیعہ سے اسے روایت کیا ہے، انہوں نے اس کا ذکر کیا اور یہ اضافہ فرمایا، میں نے کہا: یا رسول اللہ! ظاہر ہو گیا۔ لیکن انہوں نے فرمایا: سہیلہ بنت سہیل تغیر کے ساتھ ہے۔ ابوموسیٰ نے اس بات کا جواز پیش کیا ہے کہ وہ سہیلہ بنت سہیل بن عمرو ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ بعید ہے، کیونکہ انہیں نے روایت حاصل نہیں۔

ابن اثیر \* فرماتے ہیں: زیادہ صحیح یہ ہے کہ وہ سہیلہ بنت سعد ہیں، راوی کے اس قول میں خطا ہے کہ وہ بنت سہیل ہیں، صحیح یہ ہے کہ وہ اخت سہیل ہیں، کیونکہ سند دونوں حدیثوں میں ایک ہے۔

میں کہتا ہوں: اس میں احتمال ہے، اور بہت سے احتمال بعید نہیں، ان کے اس قول کے اعتبار سے کہ عمار اس کی روایت کرنے میں متفرد ہیں، ان کا متفرد ہونا، نام میں ہے۔

### ۱۱۳۳۳ سہیلہ بنت سہیل \*

بن عمرو قرشیہ، عامریہ، ان کے والد کے سواخ میں ان کا نسب گزر چکا ہے۔ ابتدائی دور میں اسلام لائیں۔ اور اپنے شوہر ابو حذیفہ بن عتبہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی، وہاں محمد بن ابو حذیفہ پیدا ہوئے، ابن اسحاق \* نے اس کا ذکر کیا ہے۔ ابن سعد \* فرماتے ہیں: ان کی والدہ فاطمہ بنت عبدالعزیٰ بن ابوقیس ہیں، جو اپنے شوہر سہیل بن عمرو کے خاندان سے تھیں۔ مکہ میں ابتدائی دور میں اسلام لائیں، اور بیعت کی، پھر شاخ بن سعید بن قائف بن اقص سلمیٰ سے نکاح ہوا جس سے عامر پیدا ہوئے، پھر عبداللہ بن اسود بن عمرو نے نکاح ہوا جو بنو مالک بن جسل سے ہیں، ان سے سلیط پیدا ہوئے، پھر عبدالرحمن بن عوف سے نکاح ہوا جس سے سالم پیدا ہوئے، یہ سب محمد بن ابو حذیفہ کے ماں شریک بھائی تھے۔

حدیث عائشہ میں ان کا ذکر ہے۔ ابوداؤد \* نے محمد بن اسحاق کے طریق سے بحوالہ عبدالرحمن بن قاسم بن محمد بن ابوبکر، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کیا ہے کہ سہیلہ بنت سہیل کو استخاضہ کا مرض تھا، وہ نبی کریم ﷺ کے پاس آئیں آپ ﷺ نے انہیں ہر نماز کے وقت غسل کرنے کا حکم دیا، جب یہ ان پر دشوار ہوا تو آپ ﷺ نے انہیں حکم دیا کہ وہ ظہر اور عصر کو ایک غسل کے ساتھ اکٹھا کر کے پڑھیں..... (الحدیث)

سالم مولیٰ ابو حذیفہ کے سواخ میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔ ابن سعد فرماتے ہیں: انہوں نے سالم مولیٰ ابو حذیفہ کو دودھ پلایا، پھر بڑی عمر والے کو دودھ پلانے کا قصہ ذکر کیا۔ پھر خالد بن مخلد کے طریق سے بحوالہ سلیمان بن بلال، انہوں نے یحییٰ بن سعید سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: مجھ سے عمرہ بنت عبدالرحمن نے روایت کیا کہ ابو حذیفہ کی نوجوانی نے سالم کے گھر آنے کا ذکر کیا، آپ ﷺ نے انہیں حکم دیا کہ اس کو دودھ پلائیں، انہوں نے دودھ پلایا اور وہ بڑے تھے، بدر میں شریک ہوئے تھے۔ پھر واقدی رضی اللہ عنہ سے بحوالہ محمد بن عبداللہ جوزہری کے بھتیجے ہیں، انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں: وہ ایک ڈبیا میں یا برتن

\* اسد الغابۃ (۳۱۶/۵) \* اسد الغابۃ (۷۰۱۹) الاستیعاب (۳۴۳۷) تجرید (۲۷۹/۲)

\* السیرۃ النبویۃ (۲۵۵/۲) \* الطبقات الکبریٰ (۱۹۷/۸) \* ابوداؤد (۲۹۵)

## الْأَنْصَارِيَّةُ فِي تَنْبِيْهِ الصَّحَابَةِ (جلد ۸)

۲۳۹

میں بچے کو دودھ پلانے کی مقدار دودھ نکالتی تھیں اور اسے سالم ہر روز پنی لیتے یہاں تک کہ پانچ روز گزر گئے، اس کے بعد وہ ان کے گھر جاتے تو کبھی ننگے سر ہوتیں، یہ رسول اللہ ﷺ کی طرف سے سہلہ کے لیے رخصت تھی۔

### ۱۱۳۳۳ سہلہ بنت عاصم \*

بن عدی انصاریہ۔ ان کے والد کے سوانح میں ان کا نسب گزر چکا ہے۔ ابو عمر \* کا قول ہے: ان سے عبدالرحمن بن عوف نے نکاح کیا، نبی کریم ﷺ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے ان کے لیے خیبر کے دن حصہ مقرر کیا۔ \*  
میں کہتا ہوں: ابن مندہ نے اسے عبدالعزیز بن عمران کے طریق سے بحوالہ سعید بن زیاد، انہوں نے حفص بن عمر بن عبدالرحمن بن عوف انہوں نے اپنی دادی سہلہ بنت عاصم سے روایت کیا ہے، فرماتی ہیں: میں خیبر کے دن پیدا ہوئی، تو رسول اللہ ﷺ نے میرا نام سہلہ رکھا اور فرمایا: ”اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو آسان کرے“۔ اور میرے لیے حصہ مقرر کیا، جس دن میں پیدا ہوئی میرا نکاح عبدالرحمن بن عوف سے کر دیا۔ واقندی رحمہ اللہ کے نزدیک ایسا ہی ہے۔

### ۱۱۳۳۵ سہیمہ بنت اسلم \*

بن حریش، سلمہ بن اسلم کی سگی بہن ہیں، ان کی والدہ سعاد بنت رافع نجاریہ ہیں، ان سے محییہ بن مسعود نے نکاح کیا، سہیمہ اسلام لائیں اور بیعت کی، یہ ابن سعد \* کا قول ہے، ابن حبیب نے بیعت کرنے والی خواتین میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۳۳۶ سہیمہ بنت عمیر المزنیہ \*

رکانہ بن عبدیزید مطلبی کی زوجہ ہیں۔ مسند شافعی رحمہ اللہ میں ان کا ذکر ہے، فرماتے ہیں: ہم سے میرے چچا محمد بن علی نے بحوالہ عبداللہ بن سائب، انہوں نے نافع بن عجمیر بن عبدیزید سے روایت کیا ہے کہ رکانہ بن عبدیزید نے اپنی زوجہ سہیمہ کو طلاق بائنہ دی، پھر نبی کریم ﷺ کے پاس آئے اور کہا: میں نے اپنی بیوی سہیمہ کو طلاق بائنہ دی ہے، اللہ کی قسم! میرا ارادہ ایک طلاق کا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تمہارا ارادہ ایک طلاق کا تھا“۔ تو حضرت رکانہ نے کہا: اللہ کی قسم! میں نے ایک طلاق کا ارادہ کیا تھا۔ نبی کریم ﷺ نے ان کو لوٹا دیا، انہوں نے دوسری طلاق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دی اور تیسری طلاق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دی۔ ابن مندہ نے عالی سند کے ساتھ اسے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے۔ \*

### ۱۱۳۳۷ سہیمہ بنت عمیر الأنصاریہ

عبداللہ بن حارث بن عمیر یا عمرو یا عومیر کی پھوپھی ہیں۔ ابن مندہ نے عبداللہ بن حارث کے طریق سے ذکر کیا ہے، نبی کریم ﷺ نے میری پھوپھی سہیمہ بنت عمیر کے بارے میں ایسا فیصلہ کیا جو اس سے پہلے مسلمانوں میں سے کسی خاتون کے بارے

\* اسد الغابہ (۷۰۲۰) الاستیعاب (۳۴۳۷) تجرید (۲۷۹/۲) \* الاستیعاب (۱۸۶۶/۴)

\* المعجم الكبير (۷۴۴/۲۴) مجمع الزوائد (۲۵۹/۴) جامع المسانيد والسنن (۵۴۹/۱۵)

\* اسد الغابہ (۷۰۲۱) تجرید (۲۷۹/۲) \* الطبقات الكبير (۲۴۴/۸) \* المعجم (۴/۲)

\* اسد الغابہ (۷۰۲۳) تجرید (۲۷۹/۲) \* مسند شافعی (الحديث: ۴۳۲)

میں نہیں کیا تھا، اس کا مفصل ذکر عبداللہ بن حارث کے سوانح میں گزر چکا ہے۔

### ۱۱۳۳۸ سہیمہ بنت مسعود ❁

بن اوس بن مالک بن سواد انصاریہ ظفریہ، جابر بن عبداللہ کی زوجہ ہیں، اور ان کے بیٹے عبدالرحمن کی والدہ ہیں۔ ابن حبیب ❁ نے بیعت کرنے والی خواتین میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۳۳۹ سہیمہ ❁

رفاعہ قرظی کی زوجہ ہیں، تمیمہ میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

### ۱۱۳۵۰ سوادہ ❁

بعض کا قول ہے: سوادہ بنت عاصم بن خالد بن شداد بن عبداللہ بن قریظ بن رزاح بن عدی بن کعب قرشیہ عدویہ، بعض کا قول ہے: سوادہ ابوعمر فرماتے ہیں: سوادہ اسدیہ، بقول بعض: بنت عاصم، خضاب کے بارے میں ان کی حدیث ہے۔ میں کہتا ہوں: اسے ابن ابوعاصم اور ابن مندہ نے ابن ابوسحاق ازدی کے طریق سے بحوالہ نائلہ مولا ابوعیزار کوفیہ، انہوں نے ام عاصم سے، انہوں نے سوادہ سے نقل کیا ہے، فرماتی ہیں: میں نبی کریم ﷺ کے پاس بیعت کرنے کے لیے آئی، تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”جاؤ خضاب لگا کر آؤ، پھر میں تم سے بیعت لیتا ہوں۔“

### ۱۱۳۵۱ سوادہ ❁

بعض کا قول ہے: سوادہ بنت مسرج، میم کی زیر کے ساتھ، سین کے سکون اور راء کے زبر کے ساتھ، بعض کا قول ہے: مشرح کنندیہ، ان کی حدیث حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں ولادت کے بارے میں ہے۔ میں کہتا ہوں: ابن مندہ نے اسے عروہ بن فیروز کے طریق سے ان سے روایت کیا ہے، فرماتی ہیں: جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں ولادت کا وقت آیا تو میں وہاں موجود تھی، نبی کریم ﷺ تشریف لائے اور فرمایا: ”ان کا کیا حال ہے؟“ میں نے کہا: وہ تکلیف میں ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جب ان کے ہاں ولادت ہو جائے تو کسی سے بات چیت نہ کرنا۔“ فرماتی ہیں: ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جس میں نے آپ ﷺ کو چپکے سے بتایا، اور انہیں زرد کپڑے میں رکھا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اسے میرے پاس لے آؤ۔“ میں نے اسے سفید کپڑے میں لپیٹا، آپ ﷺ نے ان کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور پوچھا: ”تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟“ انہوں نے کہا: ”جعفر۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”نہیں! بلکہ اس کا نام حسن ہے۔“ ❁

ابوعمر ❁ نے حضرت سوادہ رضی اللہ عنہا کے سوانح میں ان کا دوبارہ ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں: ان سے ایک حدیث مجہول سند سے

❁ اسد الغابۃ (۷۰۲۵) تجرید (۲۷۹/۲) ❁ المحبر (۴۱۵، ۴۱۳)

❁ اسد الغابۃ (۷۰۲۲) تجرید (۲۷۹/۲) ❁ اسد الغابۃ (۷۰۲۵) تجرید (۲۷۹/۲)

❁ المعجم الكبير (۷۸۶/۲۴) مجمع الزوائد (۱۷۵/۹) جامع المسانید والسنن (۵۴۴، ۵۴۳/۱۵)

❁ الاستیعاب (۱۸۶۸/۴)

مروی ہے، جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی تو وہ دائی تھیں۔

### ۱۱۳۵۲ سودا (بے نسبت)

ابن سعد نے نبی کریم ﷺ سے بیعت کرنے والوں میں ان کا ذکر کیا ہے اور عبدالعزیز بن خطاب اور اسماعیل بن ابان الوزاق سے بحوالہ ناکملہ کوفیہ، انہوں نے ام عاصم سے انہوں نے سوداء سے نقل کیا ہے، فرماتی ہیں: میں بیعت کرنے کے لیے نبی کریم ﷺ کے پاس آئی تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”خضاب لگاؤ“۔ فرماتی ہیں: میں نے خضاب لگایا پھر میں آئی اور آپ ﷺ سے بیعت کی۔

### ۱۱۳۵۳ سودہ بنت حارثہ

بن نعمان انصاریہ۔ ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔  
میں کہتا ہوں: یہ عمرو بن حزم کی زوجہ ہیں۔ ابن سعد فرماتے ہیں: اسلام لائیں اور بیعت کی، ان سے عبداللہ بن ابی حرام بن قیس بن مالک بن کعب بن عبدالاشہل بن حارث بن دینار بن نجار نے نکاح کیا، ان کی والدہ ام خالد بنت خالد بن عیش ہیں۔

### ۱۱۳۵۴ سودہ بنت زمعہ

بن قیس بن عبد شمس قرشیہ عامریہ، ان کی والدہ شمس بنت قیس بن زید انصاریہ ہیں، جو بنو عدی بن نجار تھیں، ان سے سکران بن عمرو نے نکاح کیا جو سہیل بن عمرو کے بھائی تھے، وہ وفات پا گئے تو رسول اللہ ﷺ نے ان سے نکاح کیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد یہ پہلی خاتون ہیں جن سے آپ ﷺ نے نکاح کیا، اسے ابن اسحاق نے روایت کیا ہے۔ اور ابن سعد نے مرسل سند سے جس کے رجال ثقاہت ہیں، اسے روایت کیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سوانح میں گزر چکا ہے کہ خولہ بنت حکیم کہنے لگیں: کیا میں آپ کی طرف سے نکاح کا پیغام نہ دوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیوں نہیں!“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے عورتو! تم اس کے زیادہ مناسب ہو“۔ میں نے حضرت سودہ بنت زمعہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر والوں کو نکاح کا پیغام دیا، آپ ﷺ نے ان سے نکاح کیا، حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی مکہ میں ہوئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس وقت چھ سال کی لڑکی تھیں، جب آپ ﷺ مدینہ تشریف لائے تو ان کی رخصتی ہوئی۔

ابن ابوعاصم نے اسے موصولاً نقل کیا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سوانح میں اس کا ذکر آئے گا۔  
ترمذی رحمہ اللہ نے اسے بحوالہ ابن عباس سند حسن سے نقل کیا ہے کہ حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کو خوف ہوا کہ رسول اللہ ﷺ انہیں طلاق دے دیں گے، کہنے لگیں: مجھے طلاق نہ دیں، اور مجھے اپنے پاس رہنے دیجئے اور میری باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے دیجئے۔ آپ ﷺ نے ایسا ہی کیا، تو یہ آیت نازل ہوئی: ﴿ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں صلح کر لیں اور صلح بہتر ہے﴾۔

اسد الغابۃ (۷۰۲۶) تجرید (۲۷۹/۲) \* تجرید (۲۸۰/۲) \* الطبقات الکبریٰ (۳۲۳/۸)

اسد الغابۃ (۷۰۲۷) تجرید (۲۸۰/۲) \* (۴۱۸/۳) \* السیر والمغازی (۲۵۵، ۲۵۴)

الطبقات الکبریٰ (۳۹/۸) \* ترمذی (۳۰۴۰) \* سورة النساء الآیۃ (۱۲۸)



ابن سعد نے اسے حدیث عائشہ سے کئی طرق سے روایت کیا ہے، بعض طرق میں ہے کہ آپ ﷺ نے ان کی طرف طلاق کا پیغام بھیجا، اور بعض طرق میں ہے کہ آپ ﷺ نے ان سے فرمایا: ”عدت گزارو“۔ دونوں طریق مرسل ہیں، ان دونوں میں ہے کہ وہ آپ ﷺ کے راستے میں بیٹھیں اور آپ ﷺ کو واسطہ دیا کہ آپ ﷺ ان سے رجوع کر لیں، اور اپنی باری کا دن اور رات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے دیا۔

معر کے طریق سے ہے، فرماتے ہیں: مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ انہوں نے آپ ﷺ سے بیان کی، اور کہنے لگیں: مجھے شوہر کی ضرورت نہیں لیکن مجھے پسند ہے کہ قیامت کے دن میں آپ ﷺ کی ازواج میں سے ہو جاؤں۔ صحیح میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت سودہ رضی اللہ عنہا نے مزدلفہ کی رات نبی کریم ﷺ سے اجازت چاہی کہ لوگوں کے ہجوم سے پہلے نکلنے کا ارادہ رکھتی ہیں وہ چونکہ فربہ اندام خاتون تھیں آپ نے اجازت مرحمت فرمادی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: اگر میں آپ سے اجازت طلب کرتی تو مجھے سوار کرائے جانے سے زیادہ پسند ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی صحیح حدیث میں ہے: ”کسی کو دیکھ کر مجھے یہ رشک نہیں ہوا کہ اس کے قالب میں میری روح ہوتی سوائے سودہ کے البتہ وہ بہت جلد غصہ سے بھڑک اٹھتی تھیں۔“

ابن سعد رضی اللہ عنہ کا قول ہے: ہم سے ابو معاویہ نے اعمش سے، انہوں نے ابراہیم سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں: حضرت سودہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا، میں نے رات آپ کے ساتھ نماز پڑھی، اور رکوع کیا یہاں تک کہ میں نے اپنی ناک پکڑ لی، مجھے خوف ہوا کہ خون نہ بہنے لگے، آپ ﷺ ہنسنے لگے، حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کبھی کبھار آپ ﷺ کو ہنساتی تھیں، یہ روایت مرسل ہے، البتہ اس کے رجال صحیح والے ہیں۔

ابن سعد رضی اللہ عنہ صحیح سند سے بحوالہ محمد بن سیرین روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کے پاس دراہم کی ایک تھیلی بھیجی، قاصد سے آپ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا: یہ دراہم ہیں، کہنے لگیں: کھجوروں کی طرح اتنے زیادہ دراہم، پھر انہیں تقسیم کر دیا۔

ابن مبارک رضی اللہ عنہ کتاب الزہد میں ابوالاسود دیم عروہ کی مرسل روایت سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت سودہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم ﷺ سے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! جب ہم فوت ہو جائیں تو عثمان بن مظعون ہماری نماز پڑھے پھر آپ ﷺ تشریف لائے گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”بنت زمعہ، اگر تمہیں موت کا علم ہوتا تو تمہیں یہ بھی پتہ چل جاتا کہ وہ تمہارے گمان سے زیادہ سخت ہے۔“

ابن ابی شیمہ کا قول ہے کہ حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کا انتقال عہد فاروقی کے اواخر میں ہوا، بقول بعض ۵۴ھ میں فوت ہوئیں، اسی کو واقدی رضی اللہ عنہ نے راجح قرار دیا ہے۔

ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ، یحییٰ بن عبد الرحمن بن اسعد بن زرارہ روایت کرتے ہیں۔

## ۱۱۳۵۵ سودہ بنت ابی حبیش الجہنیہ \*

ابن سعد رحمہ اللہ کا قول ہے: \* انہیں اور ان کے والد کو شرف صحابیت اور ہجرت کی سعادت حاصل ہے، اسلام لائیں اور ہجرت کے بعد بیعت کی، پھر ان سے بحوالہ ام صبیہ الجہنیہ کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آمدہ قصہ مندرجہ ہے۔

## ۱۱۳۵۶ سودہ القرشیہ \*

ابن مندہ وغیرہ نے عبد الحمید بن بھرام کے طریق سے بحوالہ شہر بن حوشب، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سودہ قرشیہ سے نکاح کا ارادہ فرمایا، ان کی اولاد تھی، کہنے لگیں: پوری مخلوق میں سے آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، چونکہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ وہ آپ کے سر پر چڑھے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”بہترین عورتیں قریش کی \* وہ عورتیں ہیں جو انٹوں پہ سوار ہو لیتی ہیں۔“ بخاری میں دوسرے طریق سے اس کی اصل ہے، لیکن ان کا نام نہیں لیا گیا۔

## ۱۱۳۵۷ سیرین \*

حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ام ولد ہیں۔ اسماعیل بن ابوالیس نے اپنی اسناد سے حدیث الکف کے طرق میں سے حضرت عروہ وغیرہ کے طریق سے نقل کیا ہے، قصہ الکف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ صفوان بن معطل حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے لیے تلوار لے کر بیٹھ گئے، پھر ان پہ ایک وار کیا تو صفوان نے حسان سے کہا:

”مجھ سے تلوار کی نوک برداشت کر کیونکہ میں ایسا لڑکا ہوں جب مست ہو جاتا ہوں تو شاعر نہیں رہتا۔“

تو حضرت حسان رضی اللہ عنہ چیخ کر لوگوں کو مدد کے لیے پکارنے لگے، اتنے میں صفوان وہاں سے بھاگ نکلے۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے آ کر حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کے خلاف شکایت کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: ”صفوان کے وار کے بدلے وہ بہہ کریں۔“ چنانچہ انہوں نے بہہ کر دیا تو انہوں نے اس کے عوض کھجوروں کا ایک باغ اور سیرین نامی قبلی باندی دے دی، جن سے حضرت حسان رضی اللہ عنہ کا بیٹا عبدالرحمن پیدا ہوا۔

بشر بن مہاجر کی حدیث میں عبداللہ بن بُریدہ سے بحوالہ ان کے والد روایت ہے، قبط کے امیر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو باندیاں ہدیہ کیں، جو آپس میں بہنیں تھیں، ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہگاہ کے لیے مخصوص کر لیا، جن سے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، اور دوسری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو عطا کیا۔

عبدالرحمن بن حسان نے اپنی والدہ سیرین سے روایت کیا ہے۔ فرماتی ہیں: جب ابراہیم رضی اللہ عنہ صاحبزادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان کنی کے عالم میں تھے تو میں اور میری بہن جب بھی چینیٹ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چیننے سے منع فرمادیتے..... (الحدیث) \*

\* اسد الغابہ (۷۰۲۸) تجرید (۲۸۰/۲) \* الطبقات الكبرى (۲۱۷/۸)

\* اسد الغابہ (۷۰۳۰) تجرید (۲۸۰/۲) \* مسند احمد (۳۱۹/۱) حلیۃ الاولیاء (۶/۶)

\* اسد الغابہ (۷۰۳۲) تجرید (۲۸۰/۲) \* اسد الغابہ (۳۲۰/۶)

ابوقیم نے بسر بن محمد مؤدب کے طریق سے، بحوالہ ابو اویس انہوں نے حسین بن عبد اللہ سے انہوں نے عکرمہ سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں، رسول اللہ ﷺ حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے، آپ ﷺ کے ساتھ آپ ﷺ کے صحابہ دو قطاریں باندھے کھڑے تھے اور آپ ﷺ کی باندی سیرین بھی تھیں، آپ ﷺ دونوں قطاروں میں سے گزرنے لگے، تو وہ ان لوگوں کو اشعار سن رہی تھیں، آپ ﷺ نے نہ انہیں حکم دیا اور نہ منع کیا اسے ابن وہب نے بحوالہ اویس انہی الفاظ میں نقل تو کیا ہے لیکن یوں کہا ہے کہ ایک گلوکارہ باندی ان کے سامنے گارہی تھی۔

**القسم الثانی از حرف سین، خالی ہے۔**

**القسم الثالث از حرف سین**

**۱۱۳۵۸ سجاح بنت الحارث تمیمیہ**

یہ وہی ہیں جنہوں نے ارتداد میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، کچھ لوگوں نے اس کی پیروی کر لی، پھر مسیلہ سے صلح کر کے شادی کر لی، اس کے قتل ہونے کے بعد اسلام کی طرف لوٹ آئیں، اسلام لائیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت تک زندہ رہیں، تاریخ مظفری کے مصنف نے اس کا ذکر کیا ہے۔

**۱۱۳۵۹ سعدہ بنت قمامہ**

ابو عمر کا قول ہے: \* ان سے قدامہ نے روایت کی، یہ عورتوں کی امامت کرتی تھیں اور ان کے درمیان کھڑی ہوتی تھیں، بعض کا قول ہے: انہوں نے نبی کریم ﷺ کا زمانہ پایا۔

**۱۱۳۶۰ سلمیٰ بنت جابر الأحمسیہ**

حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے سوانح میں ان کے حالات گزر چکے ہیں۔

**۱۱۳۶۱ سلمیٰ بنت مالک**

بن حذیفہ بن بدر فزاریہ، ان کا ذکر قسم اول میں گزر چکا ہے۔

**۱۱۳۶۲ سمیہ**

حارث بن کلدہ کی مولاہ ہیں، ان کی شرعی باندی تھیں جن سے نافع، نفع پیدا ہوئے۔ لیکن جب انہیں دیکھا کہ وہ رنگ کے سیاہ قام ہیں تو انکار کر دیا، بعد میں انہوں نے اپنی زوجہ صفیہ بنت ابوعبید بن اسید بن ابوعلان ثقفیہ کو بہہ کر دیں، انہوں نے اپنے رومی غلام جسے عبید کہا جاتا تھا، اس سے ان کا نکاح کر دیا، جس سے زیاد پیدا ہوئے تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے انہیں آزاد کر دیا، بلاذری نے یہ بحوالہ عوانہ ذکر کیا ہے کہ گواء یشکری روم سے حضرت سمیہ کو قیدی بنا کر لائے اور حارث بن کلدہ کو بہہ کر دیا۔ پھر ان

\* اسد الغابۃ (۶۹۸۲) تجرید (۲/۲۷۵) \* الاستیعاب (۴/۱۸۶۰)

کا تذکرہ کیا ہے۔ انہوں نے نبی کریم ﷺ کا زمانہ پایا، ایسی کوئی روایت نہیں جو دلالت کرے کہ انہوں نے حالت اسلام میں نبی کریم ﷺ کو دیکھا ہو، ممکن ہے وہ اس قول کے عموم میں داخل ہوں۔  
حجۃ الوداع کے موقع پر قریش اور ثقیف کے باقی ماندہ تمام لوگ اسلام لائے اور حاضر تھے۔

### القسم الرابع از حرف سین

۱۱۳۶۳ سلامہ بنت سعد

بن شہید، بنو طلحہ کی والدہ ہیں۔ ابن اثیر \* نے بحوالہ ابن حبیب نقل کیا ہے کہ یہ سلافہ میم کے بدلے فاء کے ساتھ ہے۔

۱۱۳۶۴ سلمیٰ، غیر منسوبہ \*

ان سے ان کے پوتے عبید اللہ بن علی نے روایت کیا۔ ابن مندہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اسحاق نے قائد بن عبد الرحمن سے جو مولیٰ عبید اللہ بن علی ہیں، وہ اپنی دادی سلمیٰ سے روایت کرتے ہیں، فرماتی ہیں: ہمارے پاس رسول اللہ ﷺ اشریف لائے، ہم نے آپ ﷺ کے لیے حریرہ تیارہ کیا..... (الحدیث) \*

ابو نعیم نے اس کا تعاقب کیا ہے کہ وہ ابورافع کی زوجہ ہیں، ان کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، عبید اللہ بن علی بن ابورافع سے بحوالہ ان کی دادی موصولاً حدیث نقل کی ہے کہ ان کی دادی نے اسے بیان کیا، پھر اسے ذکر کیا، وہ پہلی روایت کی طرح ہے۔

۱۱۳۶۵ سودہ \*

ابو طفیل کی زوجہ ہیں، تابعیہ ہیں، ان سے مرسل روایت ہے۔ ابو نعیم نے صحابہ رضی اللہ عنہم میں ان کا ذکر کیا ہے اور عبید اللہ بن عثمان بن عثیم کے طریق سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: میں ابو طفیل کے پاس گیا، تو وہ انتہائی خوش تھے، میں نے کہا: موقع اچھا ہے کچھ پوچھ لیتا ہوں، میں نے کہا: اے ابو طفیل، وہ لوگ جن پر نبی کریم ﷺ نے لعنت کی ہے، وہ کون ہیں؟ وہ مجھے بتانے ہی لگے تھے کہ ان کی زوجہ سودہ نے کہا: کیا تمہیں یہ حدیث پہنچی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بے شک میں انسان ہوں، میں نے اگر کسی کے لیے کوئی بد دعا دی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے لیے پاکیزگی اور رحمت بنا دے۔“ \*



\* اسد الغابۃ (۶۹۳) تجرید (۲/۲۷۷) \* اسد الغابۃ (۳۱۰/۵)

\* اسد الغابۃ (۷۰۱۰) تجرید (۲/۲۷۸) \* المعجم الکبیر (۲۴/۷۶۱، ۷۶۲) مجمع الزوائد (۵/۲۳)

\* اسد الغابۃ (۷۰۲۹) تجرید (۲/۲۸۰) \* جامع المسانید والسنن (۱۵/۵۴۵) \*

## حرف شین مجمر

### القسم الاول از حرف شین

۱۱۳۶۶ شراف

وجہ بن خلیفہ کلبی کی بہن ہیں، طبرانی \* نے اور ابو نعیم نے ان سے جابر جعفی کے طریق سے بحوالہ ابن ابی ملیکہ نقل کیا ہے، فرماتے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے بنو کلب کی ایک خاتون کو نکاح کا پیغام دیا۔ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اسے دیکھنے کے لیے بھیجا آپ دیکھ کے واپس آ گئیں۔ کہنے لگیں: مجھے کوئی انوکھی بات تو معلوم نہیں ہوئی۔ تو رسول اللہ ﷺ ان سے فرمانے لگے: تم نے جب اس کا قل دیکھا تو تمہارا ایک ایک روٹلا کھڑا نہیں ہوا؟ آپ نے عرض کیا: کوئی راز بھی رہنے دیا کریں۔

ابوموسیٰ نے ذیل میں شراف کے سوانح میں نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: بعض کا قول ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ان سے نکاح کیا لیکن رخصتی نہیں ہوئی۔ ابن عبد البر \* نے اس پر یقین کیا ہے۔

میں کہتا ہوں: ابن سعد کے ہاں ان کا ذکر تصریحاً ہے، بحوالہ ہشام بن کلبی، انہوں نے شرقی بن قحطامی سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں: جب خولہ بنت ہذیل وفات پا گئیں تو رسول اللہ ﷺ نے شراف بنت خلیفہ سے جو حضرت وجہ کی بہن ہیں ان سے نکاح کیا، اور رخصتی نہیں ہوئی، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ حدیث روایت کی ہے، بحوالہ محمد بن عمر، انہوں نے ثوری سے، انہوں نے جابر جعفی سے اسے روایت کیا ہے۔

### ۱۱۳۶۷ شرفہ الدار بنت الحارث

بن قیس بن پیشہ انصاریہ، بنو معاویہ سے ہیں۔ ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۳۶۸ شزیرہ

تغیر کے ساتھ ہے، بنت حارث بن عوف بن مرہ، سعید بن عفیر نے ذکر کیا ہے کہ وہ حارث بن سلامہ بن حارث نخعی کی زوجہ ہیں اور حکم بن حارث کی والدہ ہیں، انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔ \*

\* المعجم الكبير (۸۰۳/۲۴)

\* اسد الغابة (۷۰۳۴) تجرید (۲۸۰/۲)

\* اسد الغابة (۷۰۳۵) تجرید (۲۸۰/۲)

\* الاستيعاب (۱۸۶۸/۴)

\* اسد الغابة (۷۰۳۶) تجرید (۲۸۱/۲)

\* المعبر (۴۱۵، ۴۱۳)

\* اسد الغابة (۳۲۱/۵)

### ۱۱۳۶۹ الشفاء

حضرت حسان بن ثابت کی زوجہ ہیں جن کے بارے میں انہوں نے اپنے قصیدوں کے شروع میں تلمیح کی ہے۔ سہیلی نے بیان کیا ہے کہ ان کی زوجہ تھیں اور ان سے ایک بیٹی ہوئی جسے ام فراس کہا جاتا تھا، بعض کا قول ہے: سلام بن معکم کی بیٹی ہیں، جو یہود مدینہ کے رئیس تھے، جن کے بارے میں حضرت ابوسفیان بن حرب فرماتے ہیں، جب یہ وہاں اپنی آمد کے دوران اس کے پاس ٹھہرے تھے: ”مجھے پیاس کی حالت میں سلام بن معکم نے شراب پلا کر سیراب کر دیا۔“

رشاطی نے خزعرج کے نسب میں کہا ہے: ام فراس بنت حسان بن ثابت، شعفاء بنت ہلال خزاعیہ ان کی والدہ ہیں۔ اسی طرح ابن اعرابی نے اپنے نوادر میں لکھا ہے کہ شعفاء، خزاعیہ ہیں۔

### ۱۱۳۷۰ الشفاء بنت عبد اللہ

بن عبد شمس بن خلف بن شداد بن عبد اللہ بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب قرشیہ عدویہ، بعض کا قول ہے: خلف کے بجائے خالد ہیں، بعض نے کہا: شداد کی جگہ صداد ہیں، بعض نے کہا: ضرار، سلیمان بن ابو حمزہ کی والدہ ہیں، بقول بعض: ان کا نام لیلیٰ ہے، یہ احمد بن صالح مصری کا قول ہے۔

ابو عمر فرماتے ہیں: \* ابن سعد کا قول ہے، \* ان کی والدہ فاطمہ بنت وہب بن عمرو بن عائد بن عمران مخزومیہ ہیں۔ شفاء ہجرت سے پہلے اسلام لائیں یہ اولین صحابیات میں سے ہیں، نبی کریم ﷺ سے بیعت کی، وہ عورتوں میں عقلمند اور فضل والی تھیں، نبی کریم ﷺ ان کے ہاں جاتے اور ان کے گھر قبولہ فرماتے تھے، انہوں نے آپ ﷺ کے لیے بستر اور ازار مخصوص کیا تھا، جس میں آپ ﷺ آرام فرماتے تھے، یہ ان کی اولاد کے پاس رہا، یہاں تک کہ اسے مروان بن حکم نے لے لیا، ان سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”حفصہ کو پھنسی کا دم سکھاؤ جیسا کہ تم نے اسے لکھنا سکھا یا ہے۔“

نبی کریم ﷺ نے مدینہ میں حکاکین کے مقام میں انہیں ایک حویلی دی وہ اس میں اپنے بیٹے سلیمان کے ساتھ فروکش ہوئیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی رائے کو مقدم رکھتے تھے، اور ان کی رعایت کرتے اور فضیلت دیتے۔ اور بعض دفعہ کوئی بازاری ذمہ داری بھی انہیں سونپ دیتے۔ \*

ان سے ان کے دونوں پوتوں ابو بکر اور عثمان نے، جو سلیمان بن ابو حمزہ کے بیٹے ہیں، روایت کی ہے۔ اسی طرح ان سے ان کے بیٹے سلیمان اور ابوسلمہ بن عبد الرحمن، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا اور ان کے مولا ابواسحاق نے روایت کی۔

مند \* میں مسعودی کے طریق سے، عبد الملک بن عمیر سے بحوالہ آل ابو حمزہ کے کسی آدمی سے، انہوں نے شفاء بنت عبد اللہ سے روایت کی ہے، وہ ہجرت کرنے والوں میں شامل تھیں کہ آپ ﷺ سے افضل اعمال کے بارے میں سوال کیا گیا، آپ ﷺ

\* اسد الغابۃ (۷۰۳۷) تجرید (۲۸۱/۲) \* الاستیعاب (۱۸۶۸/۴) (۱۸۶۹)

\* الطبقات الکبریٰ (۱۹۶/۸) \* نسب قریش (۳۶۸) \* مسند احمد (۳۷۲/۶)

نے فرمایا: ”اللہ پر ایمان، اس کی راہ میں جہاد اور حج مبرور۔“

ابن مندہ نے پھوڑے پھنسی کی حدیث ثوری کے طریق سے نقل کی ہے، جو انہوں نے ابن منذر سے، انہوں نے ابوبکر بن سلیمان بن ابوشمہ سے، انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ قریش کی شفاء نامی خاتون پھوڑے پھنسی کا دم کرتی تھیں، آپ ﷺ نے ان سے فرمایا: ”حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو یہ سکھا دو۔“ ثوری رحمہ اللہ سے اس کے موصول اور مرسل ہونے میں اختلاف ہے۔

ابن مندہ اور ابونعیم نے طویل حدیث نقل کی ہے جو عثمان بن عمر بن عثمان بن سلیمان بن ابوشمہ سے بحوالہ ان کے والد عثمان منقول ہے جو انہوں نے حضرت شفاء سے روایت کی ہے کہ وہ جاہلیت میں جھاڑ پھونک کرتی تھیں، جب انہوں نے نبی کریم ﷺ کی طرف ہجرت کی حالانکہ آپ ﷺ کی ہجرت سے پہلے وہ مکہ میں آپ ﷺ سے بیعت کر چکی تھیں، پھر وہ آپ ﷺ کے پاس آئیں اور کہنے لگیں: یا رسول اللہ! میں جاہلیت میں جھاڑ پھونک کرتی تھی اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کو سناؤں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”سناؤ!“ انہوں نے اس دم کو آپ ﷺ کو سنایا، وہ پھوڑے پھنسی کا دم کرتی تھیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس سے دم کرو اور حفصہ رضی اللہ عنہا کو سکھا دو۔“

یہاں تک ابن مندہ کی روایت ہے، اور ابونعیم نے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے: ”اللہ کے نام سے، پیٹھ کا درمیانی حصہ سخت ہوتا ہے، خیر جو ان کے مونہوں سے لوتی ہے، جو کسی کو نقصان نہیں دیتی، اے لوگوں کے رب، بیماری کو ختم کر دے۔“ فرماتے ہیں: وہ یہ دم زعفران کی لکڑی پر سات مرتبہ کرتیں، پھر اسے کسی پاک جگہ رکھ دیتیں، بعد میں شراب کے صاف سرکے سے پتھر پر گھس لیتیں اور پھر پھوڑے پھنسی پر اسے لگا دیتیں۔

ابونعیم نے طبرانی سے صالح بن کیسان کے طریق سے، بحوالہ ابوبکر بن سلیمان بن ابوشمہ نقل کیا ہے کہ شفاء بنت عبد اللہ فرماتی ہیں، نبی کریم ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے اور میں حفصہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم یہ پھوڑے پھنسی کا دم حفصہ کو کیوں نہیں سکھا دیتی، جیسا کہ تم نے اسے لکھنا سکھایا ہے۔“

ابن ابوعاصم \* نے اور ابونعیم نے اپنے طریق سے ان کی سند کے ساتھ بحوالہ زہری نقل کیا ہے، انہوں نے ابوسلمہ سے انہوں نے شفاء بنت عبد اللہ سے روایت کیا ہے، فرماتی ہیں: میں نبی کریم ﷺ کے پاس آئی تاکہ آپ ﷺ سے کچھ سوال کروں، آپ ﷺ میرے سامنے معذرت کرنے لگے اور میں نے کہا اس کی کیا ضرورت ہے؟ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا، میں یہاں سے نکل کر اپنی بیٹی کے پاس گئی جو شرییل بن حسنہ کی زوجہ تھیں، میں نے دیکھا کہ شرییل گھر میں ہیں، میں نے اسے کہا: نماز کا وقت ہو گیا ہے اور تم گھر میں بیٹھے ہو، میں اسے ملامت کرنے لگی، اس نے کہا: اے میری خالہ! مجھے ملامت نہ کرو، ہمارے پاس ایک کپڑا تھا جسے نبی کریم ﷺ نے مجھ سے مانگ لیا، میں نے کہا: میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان، میں انہیں ملامت کر رہی تھی، اور ان کا

\* مسند احمد (۲۸۶/۶) مستدرک حاکم (۴۱۴/۴) المعجم الكبير (۷۸۹/۲۴) (۷۹۵/۲۴)

الأحاد والمثنائی (۳/۶) ہیثمی فی مجمع الزوائد (۳۲۴/۱۰) جامع المسانید والسنن (۵۶۲، ۵۶۱/۱۵)

\* الأحاد والمثنائی (۴۱۶)

یہ حال ہے مجھے معلوم بھی نہیں۔ شرحیں فرماتے ہیں: ہماری ایک قیس تھی جس پہ ہم نے پیوند لگا رکھا تھا۔ اس کی سند میں عبد الوہاب بن ضحاک ہیں جو بہت کمزور راوی ہیں، عاتکہ بنت اسید بن ابوالعیس کے سوانح میں ان کا تذکرہ ہے۔

### ۱۱۳۷۱ الشفاء بنت عوف

بن عبد بن حارث بن زہرہ، زبیر فرماتے ہیں: ام عبد الرحمن بن عوف ہیں، اپنی ماں شریک بہن ضیزہ بنت ابوقیس بن مناف کے ساتھ ہجرت کی، ابو عمرؓ فرماتے ہیں: اس قول کے مطابق عبد عوف، عبد الرحمن کے دادا ہوئے، اور عوف ان کے نانا ہوئے، جو دونوں آپس میں بھائی ہیں اور عبد الرحمن بن حارث بن زہرہ کے بیٹے ہیں، ان کے والد عوف کا نام، ان کے چچا کے نام پر رکھا گیا۔

ابن اثیرؒ فرماتے ہیں، ابن ابی عاصمؒ نے عبد الرحمن بن عوف کے سوانح میں ذکر کیا ہے کہ ان کی والدہ عتقاء ہیں، انہیں شفاء بنت عوف بن عبد حارث بن زہرہ کہا جاتا تھا، اس قول کے مطابق یہ ان کے والد کی چچا زاد ہیں۔ اردو بنت گریز کے سوانح میں ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کی والدہ اسلام لائیں۔ ابن سعدؒ فرماتے ہیں: شفاء بنت عوف کی والدہ سلمیٰ بنت عامر بن بیاضہ بن سکنج خزاعی ہیں، حضرت شفاءؓ مہاجر خواتین میں سے ہیں، ان کے بارے میں میت کی طرف سے غلام آزاد کرنے کی سنت جاری ہوئی، وہ نبی کریم ﷺ کی زندگی میں وفات پا گئیں، تو حضرت عبد الرحمن نے پوچھا: یا رسول اللہ ﷺ! کیا میں اپنی والدہ کی طرف سے غلام آزاد کر سکتا ہوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں“۔ انہوں نے ان کی طرف سے غلام آزاد کیا۔

### ۱۱۳۷۲ الشفاء بنت عوف

عبد الرحمن بن عوف کی بہن ہیں، زبیر کا قول ہے: اپنی بہن عاتکہ کے ساتھ ہجرت کی، عاتکہ، ام مسور ہیں۔ بعض کا قول ہے: شفاء، ام مسور ہیں، ابواحمد عسکری نے یہ بیان کیا۔

### ۱۱۳۷۳ شقیہ بنت مالک

بن قیس بن محرث بن حارث بن ثعلبہ، بنو مازن بن نجار سے ہیں، شمس کی بہن ہیں، ابن حبیبؒ نے بھی بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا شمار کیا ہے۔ صاحب تجرید کا قول صحیح نہیں کہ ان کے حالات معلوم نہیں ہیں۔ ابن سعدؒ نے بھی

اسد الغابۃ (۷۰۳۹) تجرید (۲۸۱/۲) ❖ الاستیعاب (۱۸۷/۴)

ابن اثیر فی اسد الغابۃ (۳۲۳/۵) ❖ الاحاد والمثنائی (۱۷۳/۱)

الطبقات الکبریٰ (۱۸۰/۸) ❖ اسد الغابۃ (۷۰۴۱) تجرید (۲۸۱/۲)

اسد الغابۃ (۷۰۴۲) تجرید (۲۸۱/۲) ❖ المحبر (۴۲۸)

الطبقات الکبریٰ (۳۰۵/۸) ❖



ان کا ذکر کیا ہے۔ اور فرمایا: ان کی والدہ سیمہ بنت عمیر مازنی ہیں، ان سے حارث بن سراقہ بن حارث بن عدی نے نکاح کیا، جس سے عبداللہ اور ام عبید پیدا ہوئے، فرماتے ہیں: شقیقہ اسلام لائیں اور بیعت کی۔

### ۱۱۳۶۳ الشَّامُ

تشدید کے ساتھ، ان کا ذکر شیماء میں آئے گا۔

### ۱۱۳۶۵ الشُّمُوسُ بِنْتُ أَبِي عَامِرٍ

بن صلی بن زید بن امیہ انصاریہ، بنو عمرو بن عوف سے ہیں۔ عاصم اور جمیلہ جو ثابت بن ابوالفتح کی اولاد ہے، ان کی والدہ ہیں۔ ابن حبیب نے بیعت کرنے والی خواتین میں ان کا ذکر کیا ہے، جمیلہ بنت ثابت بن ابوالفتح کے سوانح میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

### ۱۱۳۶۶ الشُّمُوسُ بِنْتُ عَمْرٍو

بن حرام بن زید انصاریہ، مسعود بن اوس ظفیری کی زوجہ ہیں۔ ابن حبیب نے بیعت کرنے والوں میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۳۶۷ الشُّمُوسُ بِنْتُ مَالِكٍ

ان کی بہن شقیقہ کے سوانح میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔ ابن حبیب اور ابن سعد نے بیعت کرنے والوں میں ان کا ذکر کیا ہے۔ ابن سعد کا قول ہے: یہ شقیقہ کی سگی بہن ہیں۔

### ۱۱۳۶۸ الشُّمُوسُ بِنْتُ النُّعْمَانِ

بن عامر بن مجع انصاریہ، مدنیہ۔ ان سے عبید بن ذویہ نے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے جب مسجد بنائی تو جبرائیل علیہ السلام کعبے کی جانب آپ ﷺ کی امامت کرتے، اور آپ ﷺ کو مسجد کے قبلے کی جانب کھڑا کرتے۔

ابو عمرو نے مختصر ان کا ذکر کیا ہے، ابن ابوعاصم نے موصولاً ان کا ذکر کیا ہے، مذکورہ حدیث یعقوب بن محمد زہری کے طریق سے، عاصم بن سوید سے بحوالہ عقبہ مروی ہے۔ اور اسے زبیر بن بکار نے اخبار مدینہ میں محمد بن حسن مخزومی سے بحوالہ عاصم طویل حدیث روایت کی ہے۔ اسی طرح حسن بن سفیان اور ابن مندہ نے سلمہ کے طریق سے بحوالہ عاصم بن سوید نقل کیا ہے، لیکن شیخ عاصم کی مخالفت کی ہے۔ فرماتے ہیں: بحوالہ اپنے والد، انہوں نے شمس بنت نعمان سے روایت کی ہے، فرماتی ہیں: گویا میں نبی کریم ﷺ کو دیکھ رہی ہوں جب آپ ﷺ تشریف لائے اور اس مسجد قباء کی بنیاد رکھی، میں نے آپ ﷺ کو دیکھا کہ بڑا پتھر

اسد الغابۃ (۷۰۴۹) تجرید (۲۸۱/۲) \* اسد الغابۃ (۷۰۴۳) تجرید (۲۸۱/۲)

المحبر (۴۲۶) \* اسد الغابۃ (۷۰۴۴) تجرید (۲۸۱/۲)

المحبر (۴۲۶) \* الطبقات الکبریٰ (۲۸۷/۸)

اسد الغابۃ (۷۰۴۶) تجرید (۲۸۱/۲) \* الاستیعاب (۱۸۷۰/۴)

اٹھاتے یہاں تک کہ وہ پھر آپ کو جھکا دیتا اور میں آپ ﷺ کے شکم مبارک پر مٹی کی سفیدی دیکھ رہی تھی، اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا: یا رسول اللہ ﷺ! مجھے دے دیجئے، میں اٹھاؤں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”نہیں! اس جیسا ایک اور پھر اٹھاؤ۔“ یہاں تک کہ اس کی بنیاد رکھ دی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”بے شک جبرائیل کعبے کی جانب امامت کرتے ہیں، لوگوں کا کہنا ہے، قبلہ کی سیدھ میں یہی مسجد تھی۔“

محمد بن حسن کی روایت میں مذکورہ سند سے جو وہ عتبہ تک لے گئے ہیں، مروی ہے کہ شمس بنت نعمان نے انہیں بتایا، اور وہ بیعت کرنے والی صحابیات میں سے ہیں، پھر انہوں نے حدیث نقل کی، جس میں ہے: قریش یا انصار کا ایک شخص آیا اس میں ہے، لوگ کہتے ہیں: آپ ﷺ کو جبرائیل علیہ السلام نظر آئے جنہوں نے آپ ﷺ کی قبلہ رخ امامت کرائی، عتبہ فرماتے ہیں: ہم کہتے ہیں: اس سے زیادہ درست قبلہ کی جانب کوئی مسجد نہیں ہے۔

ابن اثیر \* کو شبابہ کی روایت میں اشکال ہے کہ وہ کعبہ کی طرف امامت کر رہے تھے، کیونکہ اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا، پھر کعبہ کو بنا دیا گیا، اس کا جواب میرے دل میں یہ آیا کہ انہوں نے مطلق کعبہ کہا اور قبلہ مراد تھی، یا حقیقت میں کعبہ ہی ہے، جب اس کی سمت واضح کر دی گئی، جب اس کی طرف پیٹھ کریں تو بیت المقدس سامنے ہوتا، اس میں یہ نکتہ ہے کہ جلد ہی کعبہ، قبلہ قرار دیا جائے گا، لہذا کسی اور نقشے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر مجھے محمد بن حسن والی روایت کا سیاق ملا، جس سے پہلے احتمال کو ترجیح ہوتی ہے۔

### ۱۱۳۷۹ الشموس الانصاریہ

خلافت فاروقی رضی اللہ عنہ میں ابوحنن کے ساتھ ان کا ایک قصہ پیش آیا جس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ شرط مذکورہ میں سے ہوں اس لیے کہ جو خاتون اس طور پر شادی شدہ ہو کہ جس کے دیکھنے کے لیے کسی حیلے اور کسی سازش کی ضرورت پڑے اور اس کا خاوند اس کے خلاف شکایت کرے تو اس نے دور نبوی پایا ہوگا اور قصہ بھی فتح قادسیہ سے پہلے کا ہے۔ اس قصے کو میں مردوں کی کنتیوں میں ابوحنن کے حالات کے دوران ذکر کر چکا ہوں۔

### ۱۱۳۸۰ شمیلہ بنت الحارث \*

بن عمرو بن حارث بن شیم الانصاریہ ظفریہ، ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۳۸۱ الشیماء بنت الحارث \*

بن عبد العزی بن رفاعہ۔ ابو نعیم کا قول ہے: ان کا تذکرہ ہے اور ابوسلیمان یعنی طبرانی نے ان کا ذکر کیا ہے، ان کی کوئی حدیث مروی نہیں۔ یہ نبی کریم ﷺ کی رضاعی بہن ہیں۔ ابو عمر \* فرماتے ہیں: الشیماء یا شماء ان کا نام حذافہ ہے۔

## الکتاب النبی فی السیرۃ النبیؐ (اردو) جلد ۲

۲۵۲

ابن اسحاق \* نے بروایت یونس بن مکیمر وغیرہ بحوالہ ان کے ذکر کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ کے رضاعی بہن بھائی یہ ہیں: عبداللہ، اُنیسہ، حذیفہ، بنو حارث اور حذافہ یہی شیماء ہیں۔ ان کا یہ نام مشہور ہو گیا، فرماتے ہیں: انہوں نے ذکر کیا کہ شیماء نبی ﷺ کو اپنی والدہ کے ساتھ گود لیتی تھیں۔

ابن اسحاق بحوالہ ابو جزہ سعدی فرماتے ہیں کہ شیماء جب رسول اللہ ﷺ کے پاس لائی گئیں تو انہوں نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! میں آپ کی رضاعی بہن ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس کی کیا نشانی ہے؟“ انہوں نے کہا: میں آپ کو اپنے کندھے پہ اٹھائے ہوئے تھی کہ آپ نے مجھے دانتوں سے کاٹا تھا۔

آپ ﷺ نے وہ نشانی پہچان لی، اور اپنی چادر ان کے لیے پھیلا دی، پھر ان سے فرمایا: ”یہاں بیٹھو!“ انہیں یہاں بٹھا دیا اور اختیار دیا: ”اگر تم چاہو تو میرے پاس عزت و احترام سے رہو اور اگر چاہو تو میں تمہیں مال و اسباب دوں اور اپنی قوم کے پاس چلی جاؤ۔“ کہنے لگیں: بلکہ مجھے مال و اسباب دے کر اپنی قوم کی طرف بھیج دیجئے۔“ آپ ﷺ نے اسے مال عطا کیا اور انہیں ان کی قوم کی طرف لوٹا دیا، بنو سعد بن بکر کا قول ہے کہ آپ ﷺ نے انہیں کھول نامی غلام اور ایک لونڈی دی۔ انہوں نے ان کا آپس میں نکاح کر دیا۔ تو یوں ان کے پاس غلام لونڈی کی نسل برقرار رہی۔

مستغفری نے سلمہ بن فضل کے طریق سے بحوالہ ابن اسحاق اسی طرح نقل کیا ہے۔ ابن سعد \* فرماتے ہیں: شیماء اپنی والدہ کے ساتھ نبی کریم ﷺ کو گود لیتیں اور کندھے پر بٹھاتی تھیں۔

ابو عمر کا قول ہے: رسول اللہ ﷺ کے شہسواروں نے ہوازن پر شب خون مارا، یہ قیدیوں میں شامل تھیں۔ انہوں نے کہا: میں تمہارے ساتھی کی بہن ہوں، جب وہ انہیں لے کر آئے، تو کہنے لگیں: اے محمد (ﷺ)! میں آپ کی بہن ہوں۔ آپ ﷺ نے انہیں علامت سے پہچان لیا، اور انہیں مرحبا کہا، اپنی چادر بچھا کر انہیں بٹھایا اور آپ ﷺ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آپ ﷺ نے ان سے فرمایا: ”اگر تمہیں پسند ہے کہ تم اپنی قوم کے پاس لوٹ جاؤ تو میں تمہیں پہنچا دوں، اور اگر تمہیں پسند ہے تو میرے پاس عزت و احترام سے رہو۔“ کہنے لگیں: بلکہ مجھے لوٹا دیجئے۔ وہ اسلام لائیں اور رسول اللہ ﷺ نے انہیں چوپائے، بکریاں، تین غلام اور ایک لونڈی دی۔ محمد بن مغلّٰی ازدی نے کتاب الترقیص میں ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں، حضرت شیماء فرماتی ہیں: بچپن میں نبی ﷺ کو جھولا جھلاتے کہہ رہتی تھیں: ”اے ہمارے رب! ہمارے لیے محمد (ﷺ) کو سلامت رکھنا، تاکہ ہم انہیں جوان اور رعنا دیکھ سکیں، پھر ہم انہیں دیکھیں کہ وہ سردار اور قابل اتباع بن چکے ہیں، اور ان کے دشمنوں اور حاسدین کو تباہ فرما اور انہیں ایسی عزت عطا فرما جو ہمیشہ رہے۔“

ابو عمرو ازدی جب یہ اشعار پڑھتے تو فرماتے: اللہ تعالیٰ نے کس احسن انداز سے ان کی دعا قبول کی ہے۔

نوٹ: قسم ثانی اور قسم ثالث خالی ہے، ان دونوں میں کسی صحابیہ رضاعی کا تذکرہ نہیں۔

## التسم الرابع از حرف شین

۱۱۳۸۲ شخبیره \*

بنویم بن اُسد سے ہیں، مستغفری نے ان کا ذکر کیا ہے، اور ابو موسیٰ نے اپنے استدراک میں ان کا ذکر کیا ہے، وہ لفظی غلطی ہے۔ صحیح یہ ہے کہ شخبیرہ سین کے ساتھ ہے جیسا کہ گزر چکا ہے۔

۱۱۳۸۳ الشفاء بنت عبد الرحمن الأنصاریہ \*

مدنیہ، ان سے ابوسلمہ بن عبد الرحمن نے روایت کی، ابو عمر \* نے ان کا مختصر ذکر کیا ہے۔ ابن مندہ نے بھی ان کا ذکر کیا ہے، لیکن یہ نہیں لکھا کہ انصاریہ ہیں، نہ مدینہ لکھا ہے، اور یہ اضافہ کیا ہے کہ میرے خیال میں یہ پہلی والی ہیں یعنی شفاء بنت عبد اللہ بن سلیمان بن ابوشمہ ایسا ہی ہے جیسے انہوں نے خیال کیا، اور حدیث جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، وہی ہے جو شفاء بنت عبد اللہ کے سوانح میں ذکر کی گئی ہے، زہری کے طریق سے، بحوالہ ابوسلمہ بن عبد الرحمن انہوں نے ان سے شرمیل بن حسنہ کے قصے میں روایت کی ہے، گویا بعض راویوں نے ان کے والد کے نام میں غلطی کی۔ فرماتے ہیں: عبد الرحمن، جنہوں نے انہیں انصاریہ کہا ہے، انہیں وہم ہوا ہے۔

۱۱۳۸۴ شقیرہ الأسدیہ \*

حشیہ، ابن مندہ نے ان کا ذکر کیا ہے اور فرمایا: حشیہ ہیں، اور وہ روایت جو سفیرہ کے بارے میں گزری ہے بیان کی ہے۔ یہی صحیح ہے۔ اس کی طرف ابو نعیم نے اشارہ کیا ہے۔ ابو موسیٰ نے جو ان سے روایت کیا ہے، اس میں مستغفری نے ان کا نام لیا ہے۔ ام زفر کے سوانح میں شکیرہ کاف کے ساتھ ہے صحیح یہ ہے کہ وہ قاف کے ساتھ ہے۔

۱۱۳۸۵ شمیمہ

ان سے مرسل حدیث مروی ہے۔ حماد نے بحوالہ ثابت ان سے اور انہوں نے نبی کریم ﷺ سے روایت کی۔ اسے دوسری مرتبہ روایت کیا اور ان کے اور نبی کریم ﷺ کے درمیان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا راویہ ہیں، امام احمد رحمہ اللہ نے اسے اپنی مسند میں نقل کیا ہے اور دو طرق سے بحوالہ عفان، انہوں نے حماد سے مسند عائشہ رضی اللہ عنہا میں نقل کیا ہے۔

۱۱۳۸۶ شہیدہ \*

ام ورقہ انصاریہ، ابن مندہ نے اسماء اعلام میں ان کا ذکر کیا ہے، وہ وہم ہے، کیونکہ یہ ان کا وصف ہے۔ اس بارے میں ان کی صریح حدیث ہے، جو کئیوں میں آئے گی۔ اس میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب انہیں ان کے مدبر غلام نے شہید کیا، رسول اللہ ﷺ نے سچ فرمایا: ”ہمارے ساتھ چلو تا کہ ہم شہیدہ سے ملاقات کریں“۔ \*

\* اسد الغابۃ (۷۰۳۳) تجرید (۲۸۰/۲) \* اسد الغابۃ (۷۰۳۷) الاستیعاب (۳۴۴۶) تجرید (۲۸۱/۲)

\* الاستیعاب (۱۸۷/۴) \* اسد الغابۃ (۷۰۴۰) تجرید (۲۸۱/۲) \* اسد الغابۃ (۷۰۴۸) تجرید (۲۸۱/۲)

\* السنن الکبریٰ (۴۰۶/۱) (۱۳۰/۳) جامع المسانید والسنن (۵۶۴/۱۵)

## حرف صاد مہمل

## القسم الاول از حرف صاد

## ۱۱۳۸۷ صغره بنت ابی جہل

اس کا نام عمرو بن ہشام بن مغیرہ مخزومی ہے۔ ان سے ابوسعید بن حارث بن ہشام نے نکاح کیا، جس سے اولاد ہوئی پھر ان سے خالد بن عاص بن ہشام نے نکاح کیا جس سے ام حارث بن خالد پیدا ہوئے۔ زبیر بن بکار رضی اللہ عنہ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ فاکہی رضی اللہ عنہ نے کتاب مکہ میں ان کا قصہ نقل کیا ہے، یہ اس قسم سے ہیں کیونکہ ان کے والد بدر کے دن مقتول ہوا، یہ فتح کے دن حاضر ہونے والوں میں تھیں۔ یہ ممتاز ہیں، پھر حیزہ الوداع میں شریک تھیں، نبی کریم ﷺ کے بعد زندہ رہیں، نکاح کیا اور اولاد ہوئی۔

## ۱۱۳۸۸ اصعبہ بنت جبَل

بن عمرو بن اوس، معاذ کی بہن ہیں، جن کے سوانح میں ان کا نسب گزر چکا ہے۔ ابن سعد \* نے بیعت کرنے والوں میں ان کا ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں: ان سے ثعلبہ بن عبید بن ثعلبہ نے نکاح کیا، جس سے عبید پیدا ہوئے۔

## ۱۱۳۸۹ الصَّغْبَةُ بنت الحضرمی

علاء بن حضرمی کی بہن ہیں، جن کے سوانح میں ان کا نسب مذکور ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کی والدہ ہیں۔ واقدی رضی اللہ عنہ کا قول ہے: نبی کریم ﷺ کے زمانے میں وفات پا گئیں، بعض آل طلحہ نے مجھے بتایا کہ وہ اسلام لائیں۔ بخاری رضی اللہ عنہ \* نے تاریخ صغیر میں محمد بن یعقوب کے طریق سے، عبد اللہ بن رافع سے بحوالہ ان کی والدہ نقل کیا ہے، فرماتی ہیں، حضرت صعبہ بنت حضرمی باہر نکلیں، میں نے سنا وہ اپنے بیٹے طلحہ سے کہہ رہی تھیں: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مجاہدہ سخت ہو گیا ہے، اگر تم ان سے بات کرو تا کہ اس گھیرے کو توڑ دو۔

میں کہتا ہوں: یہ واقدی رضی اللہ عنہ کے قول سے زیادہ صحیح ہے۔

ابن اثیر \* جیسا کہ ان کی عادت ہے اہل سیر و نسب کے اقوال کو جید اسناد والوں پر مقدم کرتے ہیں۔

\* تجرید (۲۸۲/۲) \* الطبقات الکبریٰ (۳۰۰/۸)

\* اسد الغابۃ (۷۰۵۰) تجرید (۲۸۲/۲)

\* التاريخ الصغير (۱۰۸/۱) \* اسد الغابۃ (۳۲۶/۵)

۱۱۳۹۰ الصَّعْبَةُ بِنْتُ رَافِعِ بْنِ أَمْرِئِ الْقَيْسِ الْنَّصَارِيَةِ أَشْهَلِيَّةٌ، حَوَاءٌ فِيهَا أَنْ كَاذِرُكَرْزِرْچَا هُـ۔

۱۱۳۹۱ الصَّعْبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ \*

بن زید بن عامر بن عمرو بن جشم النصاریه، ابن حبیب نے بیعت کرنے والوں میں ان کا ذکر کیا ہے۔ ابن سعد \* فرماتے ہیں: اسلام لائیں اور بیعت کی، یہ محمد بن عمر سے مروی ہے۔

۱۱۳۹۲ صَفِيَّةُ بِنْتُ بُجَيْرِ الْهَذَلِيَّةِ \*

انہوں نے ماء زمزم پینے کے بارے میں نبی کریم ﷺ سے روایت کی۔ ابو عمر \* نے مختصر ان کا تذکرہ کیا ہے۔

۱۱۳۹۳ صَفِيَّةُ بِنْتُ صَفِيحِ

بن حارث بن ابی صعب بن ہبہ بن سعد بن ثعلبہ دوسرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں۔ ابن قحون نے ان کا ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں: طبری اور بغوی رحمہما نے ان کا نام لیا ہے اور نسب بیان کیا ہے۔  
میں کہتا ہوں: ان کے اسلام لانے کی روایت حرف الف میں امیمہ کے سوانح میں گزر چکی ہے۔

۱۱۳۹۴ صَفِيَّةُ بِنْتُ بَشَامَةَ \*

اعور کی بہن ہیں جو بنو مخزوم بن قیس سے ہیں۔ ابن حبیب \* نے مخبر میں ایسی خواتین میں ان کا ذکر کیا ہے جنہیں نبی کریم ﷺ نے نکاح کا پیغام دیا اور ان کی رخصتی نہیں ہوئی۔  
میں کہتا ہوں: ابن سعد نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایسی سند سے جس میں کلبی رضی اللہ عنہ بھی ہیں اسے مندرج نقل کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے انہیں نکاح کا پیغام دیا تھا، وہ قیدی ہو کر آئی تھیں، نبی کریم ﷺ نے انہیں اختیار دیا، فرمایا: ”اگر تم چاہو تو مجھے اختیار کرلو، اور اگر چاہو تو اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ۔“ کہنے لگیں: ”میں اپنے شوہر کو اختیار کرتی ہوں۔“ نبی کریم ﷺ نے انہیں واپس بھیج دیا تو بنو قیس نے ان پر لعنت کی۔

۱۱۳۹۵ صَفِيَّةُ بِنْتُ ثَابِتٍ \*

بن فاکہ بن ثعلبہ انصاریہ، بنو خطمہ سے ہیں: ابن حبیب نے بیعت کرنے والوں میں ان کا ذکر کیا ہے۔

۱۱۳۹۶ صَفِيَّةُ بِنْتُ الْحَارِثِ

بن طلحہ بن ابوطالبہ عبد ربیعہ، ان کا باپ بدر کے دن حالت کفر میں مارا گیا، اس کے بعد ان سے عبداللہ بن خلف خزاہی نے

\* اسد الغابۃ (۷۰۵۱) الطبقات الکبریٰ (۲۳۸/۸)

\* اسد الغابۃ (۷۰۵۲) الاستیعاب (۳۴۵۱) تجرید (۲۸۲/۲) \* الاستیعاب (۱۸۷۱/۴)

\* اسد الغابۃ (۷۰۵۳) تجرید (۲۸۲/۲) \* المحبر (۹۶)

\* اسد الغابۃ (۷۰۵۴) تجرید (۲۸۲/۲)

نکاح کیا، اس سے طلحہ بن عبد اللہ نے نکاح کیا جو طلحہ طلحات کے نام سے معروف ہیں، ان کی بہن رملہ ہیں، زبیر نے ان کا ذکر کیا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں شرف صحابیت حاصل ہے کیونکہ اہل مکہ حجۃ الوداع میں حاضر تھے اور مکہ میں اس وقت صرف مسلمان ہی تھے، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت بحوالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سنن میں ہے۔ وہ ان کے پاس واقعہ جمل میں قصر بنو خلف میں آئی تھیں، ان سے محمد بن سیرین وغیرہ نے روایت کی۔

### ۱۱۳۹۷ صَفِيَّةُ بِنْتُ الْحَارِثِ

بن کلدہ ثقفیہ۔ مشہور صحابی عتبہ بن غزو ان جو امیر بصرہ تھے، ان کی زوجہ ہیں، عمر بن خطاب نے اخبار بصرہ میں ان کا بحوالہ ابوجسن مدائنی ذکر کیا ہے۔ ان کی بہن اردہ بنت حارث بن کلدہ کے سوا ان میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

### ۱۱۳۹۸ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ

بن اخطب بن سعنہ بن ثعلبہ بن عُیَیْد بن کعب بن ابو جیب، بنو نضیر سے ہیں، اور لاوی بن یعقوب کی اولاد سے ہیں، پھر حضرت ہارون بن عمران جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، کی اولاد سے ہیں، سلام بن مشکم کی زوجہ تھیں، اس کے بعد کنانہ بن ابو حقیق کی زوجیت میں آئیں، خیبر کے دن کنانہ مارا گیا، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا قیدی بنالی گئیں اور وحیہ کے حصہ میں آئیں۔ آپ رضی اللہ عنہا نے ان سے واپس لے کر آزاد کر کے نکاح کر لیا۔ صحیحین میں یہ حدیث انس سے مختصر اور طویل ثابت ہے۔ ابن اسحاق \* نے یونس بن کبیر کی روایت سے جو ان کے حوالے سے مروی ہے، فرماتے ہیں: مجھ سے میرے والد اسحاق بن یسار نے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں: جب رسول اللہ ﷺ نے ابو حقیق کے قلعہ غموس کو فتح کیا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ صفیہ بنت نجی اور ان کی چچا زاد کو لے کر یہودی لاشوں کے پاس سے گزرے، جب انہیں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ عورت نے دیکھا تو اپنا چہرہ پیٹنے اور چیخنے چلانے لگی اور منیٰ اپنے چہرے پر ڈالنے لگی، آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: ”اس شیطان کو مجھ سے دور کرو“۔ اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں حکم دیا وہ آپ رضی اللہ عنہا کے پیچھے بٹھا دی گئیں اور ان پر کپڑا ڈال دیا گیا، تو لوگوں نے جان لیا کہ آپ رضی اللہ عنہا نے انہیں اپنے لیے پسند فرمالیا ہے، \* اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ”کیا تمہارے دل سے رحمت نکال لی گئی تھی جب تم نے ان عورتوں کو ان کے مقتولوں کے پاس سے گزرا؟“

حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے ان سے پہلے دیکھا کہ چاند ان کی گود میں آگرا ہے، انہوں نے اپنی والدہ سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے ان کے چہرے پر طمانچہ مارا اور کہا: ”تمہارے اندر اتنی خود سری آگئی ہے، تم یہ چاہتی ہو کہ عرب کے بادشاہ کی بیوی بنو!“ اس کا نشان ان کے چہرے پر بانی رہا، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس لائی گئیں، آپ رضی اللہ عنہا نے ان سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے اپنے خواب کے بارے میں بتایا۔

ابن سعد رضی اللہ عنہ نے بحوالہ واقدی رضی اللہ عنہ ان کی اسناد سے قصہ خیبر میں نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں: آپ رضی اللہ عنہا خیبر میں رہے،

\* اسد الغابۃ (۷۰۵۵) الاستیعاب (۳۴۵۲) تجرید (۲۸۲/۲) بخاری (۳۷۱) مسلم (۳۴۸۲، ۴۶۴۱)

\* السیرۃ النبویۃ (۲۶۱، ۲۶۰/۳) شرح السنۃ (۲۰۰/۶) البدایۃ والنہایۃ (۳۷۲/۳)

یہاں تک کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا حیض سے پاک ہو گئیں۔ آپ ﷺ نے انہیں اپنے پیچھے سوار کر لیا، جب خیبر سے چھ میل دور منزل پر پہنچے تو آپ ﷺ نے اپنے اہل کے ساتھ رات گزارنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ آپ ﷺ نے اپنے دل میں یہ بات محسوس کی، جب صہباء مقام آیا جو خیبر سے بارہ میل کی مسافت پر ہے، آپ ﷺ وہاں اترے، ام سلیم نے انہیں گنگھی کی اور عطر لگایا۔ ام سنان اسلمیہ فرماتی ہیں، وہ نہایت خوبصورت تھیں، آپ ﷺ اپنی ہونے والی بیوی کے پاس گئے، جب صبح ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا، نبی کریم ﷺ نے ان سے کیا فرمایا تھا، انہوں نے کہا مجھ سے فرمایا: ”پہلی مرتبہ پڑاؤ پر تم کیوں رکی رہیں؟“ میں نے کہا: ”مجھے خوف ہوا کہ آپ یہودیوں کے قریب ہیں، اس سے آپ ﷺ کے ہاں ان کا مرتبہ اور بڑھ گیا۔“

ابن سعد نے یہی فرمایا کہ ہمیں عفان نے خبر دی کہ ہم سے حماد نے ثابت سے، انہوں نے سمیہ سے، بحوالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کی، رسول اللہ ﷺ سفر میں تھے، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا اونٹ بیمار پڑ گیا، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے پاس زائد اونٹ تھا، آپ ﷺ نے ان سے فرمایا: ”صفیہ کا اونٹ بیمار ہو گیا ہے، تم اسے اونٹ دے دو۔“ کہنے لگیں: کیا میں اس یہودیہ کو اونٹ دوں؟ آپ ﷺ نے انہیں ذی الحجہ اور محرم دو یا تین مہینے چھوڑ دیا کہ ان کے پاس تشریف نہ لاتے تھے، حضرت زینب رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: یہاں تک کہ وہ آپ ﷺ سے ناامید ہو گئیں۔

ابن ابوعاصم نے قاسم بن عوف کے طریق سے بحوالہ ابوہریرہ نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: جب نبی کریم ﷺ خیبر کے مقام پر اترے تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا شادی کے کپڑوں میں ملبوس تھیں۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ سورج اتر کر ان کے سینے پر آ گیا ہے، انہوں نے اپنے شوہر سے یہ بیان کیا، تو اس نے کہا: تم یہ چاہتی ہو کہ اس سردار کی زوجہ بنو جو یہاں اترتا ہے۔ فرماتے ہیں: آپ ﷺ نے اس قلعے کو فتح کیا اور ان کے شوہر کو گرفتار کر کے قتل کر دیا۔۔۔۔۔ (الحديث) اس روایت میں ہے: آپ ﷺ نے چوتھے پر کھجوریں پھیلا دیں، اور کہا: کھاؤ یہ رسول اللہ ﷺ کا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کا ولیمہ ہے۔

ابن سعد رحمہ اللہ نے عطاء بن یسار کے طریق سے ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں: جب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا خیبر سے آئیں، تو حارثہ بن نعمان کے گھرانہ کی گئیں، انصار کی خواتین نے سنا تو آئیں اور ان کے حسن و جمال کو دیکھنے لگیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی نقاب اوڑھے آئیں، جب وہ باہر نکلیں تو آپ ﷺ ان کے پیچھے آئے اور فرمایا: ”اے عائشہ! کیسی لگیں؟“ انہوں نے کہا: مجھے ایک یہودیہ نظر آئی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس طرح نہ کہو، وہ اسلام لایچکی ہیں اور ان کا اسلام سنور گیا ہے۔

ام سنان اسلمیہ اور امیہ بنت ابوقیس کے سوانح میں ان کا ذکر کیا ہے۔ عبد اللہ بن عمر عمری کے طریق سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: جب رسول اللہ ﷺ نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا تو وہاں خواتین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو نقاب کئے دیکھا، آپ ﷺ نے انہیں پہچان لیا اور ان کے کپڑے کا ایک کونہ پکڑا اور فرمایا: ”اے سرخ رنگت والی، تمہیں یہ کیسی لگیں؟“

صحیح سند سے حضرت سعید بن مسیب سے مرسل حدیث سے نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں: حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آئیں اور ان کے کانوں میں سونے کی بالیاں تھیں، انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ان کے ساتھ دوسری خواتین کو دے دیں۔

ترمذی \* نے کنانہ کے طریق سے جو صفیہ کے مولیٰ ہیں نقل کیا ہے، کہ انہوں نے ان سے بیان کیا، فرماتی ہیں: نبی کریم ﷺ



## الاصحاب فی سبیل اللہ (۱۲۸)

میرے پاس تشریف لائے اور مجھے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما کی طرف سے کوئی بات پہنچی تھی، میں نے آپ ﷺ سے بیان کیا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم نے یہ کیوں نہیں کہا: تم دونوں مجھ سے بہتر کیسے ہو جسکے محمد میرے شوہر، ہارون میرے والد اور موسیٰ میرے چچا ہیں؟“ انہیں یہ بات پہنچی تھی کہ انہوں نے کہا ہے: ہم ان سے رسول اللہ ﷺ کے نزدیک زیادہ عزت والی ہیں، ہم آپ ﷺ کی ازواج ہیں اور آپ ﷺ کے چچا کی بیٹیاں ہیں۔

ابو عمر فرماتے ہیں: حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا عقل مند، بردبار اور صاحب فضیلت تھیں، ہم نے روایت کیا کہ ان کی لونڈی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی: حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ہفتے کے دن کو پسند کرتی ہیں اور یہودیوں سے صلہ رحمی کرتی ہیں، آپ رضی اللہ عنہا نے ان کی طرف آدمی بھیجا اور اس بارے میں سوال کیا، کہنے لگیں: رہا ہفتے کا دن تو جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جمعہ کا دن عطا کیا ہے میں ہفتے کے دن کو پسند نہیں کرتی، اور رہے یہود تو میرے ان میں رشتہ دار ہیں، میں ان سے صلہ رحمی کرتی ہوں، پھر لونڈی سے پوچھا: تمہیں اس پر کس نے آمادہ کیا: کہنے لگیں: شیطان نے آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: جاؤ تم آزاد ہو۔

ابن سعد نے حسن سند سے بحوالہ زید بن اسلم نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: نبی کریم ﷺ کی ازواج مرض وفات میں آپ ﷺ کے پاس جمع ہوئیں تو حضرت صفیہ بنت حُصیٰ کہنے لگیں: اللہ کی قسم! اے اللہ کے نبی کاش میں آپ (ﷺ) کی جگہ ہوتی تو ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن ان کو دیکھنے لگیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”کلی کرو“۔

وہ کہنے لگیں: کس چیز سے؟

آپ ﷺ نے فرمایا: ”تمہارا اس کی طرف اشارہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی قسم وہ سچی ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم ﷺ سے روایت کی اور ان سے ان کے بھتیجے اور مولیٰ کنانہ اور دوسرے مولیٰ یزید بن مَعْبُوب نے، زید العابد بن علی بن حسین، اسحاق بن عبد اللہ بن حارث اور مسلم بن صفوان نے روایت کی۔

بعض کا قول ہے: ۳۶ھ میں وفات پائی، یہ ابن حبان نے روایت کی ہے اور ابن مندہ نے اسی پر اعتماد کیا ہے، وہ غلط ہے۔ کیونکہ حضرت علی بن حسین رحمۃ اللہ اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے۔ جبکہ ان کا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے حدیث روایت کرنا صحیحین میں ثابت ہے۔ واقدی رضی اللہ عنہ کا قول ہے: ۵۰ھ میں وفات پائی، یہ زیادہ صحیح ہے۔

ابن سعد نے امیہ بنت ابوقیس غفاریہ کی روایت سے نقل کیا ہے۔ اس سند میں واقدی ہیں: فرماتے ہیں: میں ان خواتین میں سے تھی، جنہوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو تیار کیا تھا، میں نے انہیں فرماتے ہوئے سنا: میرا نکاح جب رسول اللہ ﷺ سے ہوا تو میں تقریباً سترہ برس کی تھی، فرماتے ہیں، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا خلافت معاویہ میں ۵۰ھ میں وفات پا گئیں۔

ابن سعد نے بھی حسن سند سے بحوالہ کنانہ مولیٰ صفیہ نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ایک خچر پر سوار ہو کر آئیں تاکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے دشمنوں کو دور کریں، انہیں اشتر ملا جس نے خچر کے منہ پر چھڑی ماری، انہوں نے کہا: مجھے واپس لے چلو ایسا نہ ہو کہ میری رسوائی کرے، فرماتے ہیں: انہوں نے حضرت حسن کو اپنے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کے درمیان ٹھہرایا یوں وہ ان کی طرف کھانا اور پانی بھیجتی تھیں۔

### ۱۱۳۹۹ صَفِيَّة بنت الخطاب \*

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سوانح میں ان کا نسب گزر چکا ہے، دارقطنی رحمہ اللہ نے کتاب اخوة میں ان کا ذکر کیا ہے فرماتے ہیں: ان سے سفیان بن عبدالاسد نے نکاح کیا، جس سے أسود پیدا ہوئے۔  
قدامہ بن مطعون کے سوانح میں گزر چکا ہے کہ انہوں نے ان سے نکاح کیا، ابوعلی غسانی نے اپنے استدراک میں ان کا ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں: ابو عمر \* نے قدامہ کے حالات میں ان کا ذکر کیا ہے اور علیحدہ ذکر نہیں کیا۔

### ۱۱۴۰۰ صَفِيَّة بنت الزبير \*

بن عبدالمطلب بن ہاشم حاشیہ، ابن سعد \* نے بنو ہاشم کے ان لوگوں میں کیا ہے جنہیں رسول اللہ ﷺ کے خیرک کھجوریں کھانے کو دیں، ان کے چالیس وق تھے، فرماتے ہیں: ان کی والدہ عاتکہ بنت ابوصہب مخزومیہ ہیں، جو ضباعہ کی سگی بہن ہیں۔

### ۱۱۴۰۱ صَفِيَّة بنت شيبة \*

بن عثمان عبد ربه، ان کے والد کے سوانح میں ان کا نسب ذکر ہو چکا ہے، ان کے صحابی ہونے میں اختلاف ہے، یہ قول بعید ہے کہ انہیں دیدار حاصل نہیں، صحیح بخاری میں ان کی حدیث تعلیقاً ثابت ہے، فرماتے ہیں: ابان بن صالح نے بحوالہ حسن بن مسلم، انہوں نے صفیہ بنت شیبہ روایت کی، فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا: \* ابن مندہ نے محمد بن جعفر بن زبیر کے طریق سے، عبید اللہ بن عبد اللہ بن ابو ثور، انہوں نے صفیہ بنت شیبہ سے نقل کیا ہے۔ فرماتی ہیں: اللہ کی قسم! گویا میں آپ ﷺ کو دیکھ رہی ہوں جب آپ ﷺ کعبہ میں داخل ہوئے.... الحدیث۔

انہوں نے ازواج مطہرات حضرت عائشہ، ام حبیبہ اور ام سلمہ اس کے علاوہ اسماء بنت ابوبکر، ام عثمان بنت سفیان شیبہ کی ام ولد وغیرہ سے روایت کیا، ان سے ان کے بیٹے منصور بن صفیہ، جو عبد الرحمن حبیبی کے بیٹے ہیں اور جعتجہ عبد الحمید بن جہیر بن شیبہ، حسن بن مسلم، قتادہ، مغیرہ بن حکیم، عبید اللہ بن عبد اللہ بن ابو ثور، میمون بن مهران اور دوسرے لوگوں نے روایت کی۔  
ابن معین فرماتے ہیں: ابن جریج نے ان کا زمانہ پایا، لیکن ان سے سنا نہیں۔ ابن حبان نے ثقات تابعین میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۴۰۲ صَفِيَّة بنت عبدالمطلب \*

بن ہاشم قرشیہ ہاشمیہ، رسول اللہ ﷺ کی پھوپھی اور زبیر بن عوام کی والدہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ حضرت حمزہ

\* اسد الغابۃ (۷۰۵۶) الاستیعاب (۳۴۵۳) \* الاستیعاب (۱۸۷۲/۴)

\* تجرید (۲۸۲/۲) \* الطبقات الکبریٰ (۳۲/۸)

\* اسد الغابۃ (۷۰۵۸)، الاستیعاب (۳۴۵۴)، تجرید (۲۸۳/۲)

\* السیرۃ النبویۃ (۴۲/۴)، اسد الغابۃ (۳۲۹/۵) \* اسد الغابۃ (۵۰۵۹)، الاستیعاب (۳۴۵۵)، تجرید (۲۸۳/۲)

نبی اللہ کی سگی بہن ہیں، ان کی والدہ ہالہ بنت وہب ہیں جو رسول اللہ ﷺ کی خالہ ہیں۔ ان سے سب سے پہلے حارث بن حرب بن امیہ نے نکاح کیا وہ وفات پا گئے تو ان سے عوام بن خویلد بن اسد بن عبد العزی نے نکاح کیا، ان سے زبیر اور سائب پیدا ہوئے، اسلام لائیں اور روایت کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت تک زندہ رہیں، یہ ابو عمر کا قول ہے۔

میں کہتا ہوں: اپنے بیٹے زبیر کے ساتھ ہجرت کی، ابن ابوشیثمہ اور ابن مندہ نے ام عروہ بنت جعفر بن زبیر کی روایت سے بحوالہ ان کے والد انہوں نے اپنی وادی صفیہ سے روایت کیا ہے: جب نبی کریم ﷺ خندق کی طرف نکلے تو اپنی ازواج کو فارغ نامی قلعے میں ٹھہرا دیا، ان کے ساتھ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حفاظت کے لئے مقرر کیا۔ فرماتے ہیں: یہود میں سے ایک آدمی آیا اور قلعے پر چڑھنے لگا یہاں تک کہ جھانک کر ہمیں دیکھ لیا۔

میں نے حضرت حسان رضی اللہ عنہ سے کہا: جاؤ اسے قتل کرو، انہوں نے کہا: اگر میں یہ کر سکتا تو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ہوتا، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: میں اس کی طرف بڑھی اور اسے تلوار ماری یہاں تک کہ اس کا سر کاٹ لیا، میں نے حضرت حسان رضی اللہ عنہ سے کہا: اٹھو، اس کا سر یہودیوں پر پھینک دو، وہ قلعے سے نیچے ہیں، انہوں نے کہا: اللہ کی قسم! میں یہ بھی نہیں کر سکتا، وہ فرماتی ہیں: میں نے اس کا سر یہودیوں پر پھینک دیا، وہ کہنے لگے: ہم جانتے ہیں، وہ اپنے گھر والوں کو اکیلا چھوڑنے والا نہیں ہے، پھر وہ منتشر ہو گئے۔

ابن اسحاق نے یونس بن بکیر کی روایت میں جو ان سے مروی ہے، بحوالہ ان کے والد، انہوں نے یحییٰ بن عباد بن عبد اللہ بن زبیر سے، انہوں نے اپنے والد سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا فارغ نامی قلعے میں تھیں..... پھر قصہ بیان کیا، اس میں ہے: میں نے نقاب کیا اور ایک کھونٹا اٹھا کر قلعے سے اتر کر اس کی طرف آئی اور کھونٹے سے اسے مارا، بالآخر اسے قتل کر دیا۔

یونس نے بحوالہ ہشام، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے صفیہ سے اسی طرح روایت کیا، اور یہ اضافہ کیا: یہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے مشرکین میں سے ایک آدمی کو قتل کیا۔

ابن سعد <sup>۱۲</sup> نے اسے اپنے والد اسامہ سے، انہوں نے ہشام سے، بحوالہ اپنے والد نقل کیا ہے: جب نبی کریم ﷺ دشمنوں سے جنگ کرنے تشریف لے گئے تو ازواج مطہرات کو حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے قلعے میں چھوڑا، کیونکہ وہ سب سے محفوظ قلعہ تھا، حضرت حسان رضی اللہ عنہ غزوہ خندق سے پیچھے رہ گئے تھے، ایک یہودی آیا اور قلعے کے ساتھ باتیں سننے کے لئے کھڑا ہو گیا، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے حضرت حسان رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اس کی طرف جاؤ اور اسے قتل کر دو۔

حماد کے طریق سے ہشام سے بحوالہ ان کے والد روایت ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا احد کے دن آئیں، لوگوں کو شکست ہو چکی تھی، ان کے ہاتھوں میں نیزہ تھا، جس سے ان کے چہروں پر مار رہی تھیں، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اے زبیر، عورت ہے“ ابن سعد فرماتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں وفات پائی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم ﷺ سے روایت کی، ان سے..... <sup>۱۳</sup>

طبرانی نے حفص بن غیاث کے طریق سے بحوالہ جعفر بن محمد انہوں نے ان کے والد سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں: جب نبی کریم ﷺ وفات پا گئے تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اپنی چادر سے اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہی تھیں: آپ ﷺ کے بعد کئی واقعات اور مصیبتیں پیش آئیں۔ آپ ﷺ اگر موجود ہوتے تو حوادث کم ہوتے۔

ابن اسحاق نے سیرت میں ابراہیم بن سعد وغیرہ کی روایت سے ان کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کے مرثیہ میں شعر کہے: ”رسول اللہ ﷺ کی وفات کی وجہ سے جب ان کا دن قریب آ گیا، اے میری آنکھ! تو لگاتار آنسو بہا۔“

سیرت میں یونس بن کبیر کی روایت سے بحوالہ ابن اسحاق مروی ہے: مجھ سے زہری اور عاصم بن عمر بن قتادہ، محمد بن یحییٰ وغیرہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں روایت کی، فرماتے ہیں: حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب اپنے بھائی کو دیکھنے آئیں، ان سے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ملے اور فرمایا: امی! رسول اللہ ﷺ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ واپس لوٹ جائیں۔ ٹھہر کر انہوں نے کہا: کس وجہ سے، مجھے خبر ملی ہے کہ میرے بھائی کا مثلہ ہوا ہے۔ یہ اللہ کے راستے میں ہوا ہے تو اس میں ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ میں ضرور صبر کروں گی اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتی ہوں، ان شاء اللہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ آئے اور رسول اللہ ﷺ کو خبر دی، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے جانے دو“ وہ ان کے پاس آئیں، اور اللہ سے ان کے لئے مغفرت طلب کی، پھر آپ ﷺ نے حکم دیا تو وہ دفن کئے گئے۔

حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم ﷺ کے مرثیے میں یہ اشعار کہے: ص  
”آج کا دن جو آپ ﷺ پہ گزرا ہے، اس کا سورج اگرچہ روشن تھا یوں لگتا ہے وہ بے نور ہو گیا۔“

### ۱۱۳۰۳ صفیہ بنت عبیدہ

بن حارث بن مطلب بن عبدمناف مطلبیہ، ابن سعد نے ان کے والد کے سوانح میں ان کا ذکر کیا ہے۔ ۲ھ میں ان کی وفات ہوئی۔

### ۱۱۳۰۴ صفیہ بنت عبید

بن اسد بن ابوعلان ثقفیہ، حارث بن کلدۃ کی زوجہ ہیں، ان کے سوانح میں گزر چکا ہے کہ اسلام لائیں اور انہیں شرف صحابیت حاصل ہے۔ زیاد کی والدہ سمیہ کے سوانح میں گزر چکا ہے کہ حارث نے انہیں حضرت صفیہ کو بہہ کر دیا، انہوں نے اپنے غلام عبید سے ان کا نکاح کر دیا۔

### ۱۱۳۰۵ صفیہ بنت عبید

بن ربیعہ بن عبد شمس عشمیہ، شمس بن عثمان بن شریک کی زوجہ ہیں، بلاذری نے اس کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۳۰۶ صفیہ بنت عطیہ

ان سے غیاث بن عبدالعزیز نے روایت کی، یہ ان کی دادی ہیں؛ ابو داؤد کے ہاں ابو بکر برادری کی روایت سے ان کی حدیث ہے، جو ان سے مروی ہے، وہ ان سے روایت کرتے ہیں: میں عبدالقیس کی خواتین کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی، ہم نے ان سے کھجور اور کشمش کے بارے میں سوال کیا..... الحدیث بخاری فرماتے ہیں: اسے عبدالواحد بن واصل نے غیاث سے انہوں نے اپنی دادی سے روایت کیا ہے، فرماتی ہیں: کبھی کبھار ہم رسول اللہ ﷺ کی غیظ میں مٹھی بھر کشمش ڈال دیتے ہیں، فرمایا: پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔

### ۱۱۳۰۷ صفیہ بنت عمر

بن خطاب قرشیہ عدویہ: طبرانی نے ان کا ذکر کیا ہے، ابو نعیم، پھر ابو موسیٰ نے ان کی پیروی کی ہے۔ محمد بن سہل اسدی کے طریق سے، شریک سے بحوالہ عبدالکریم، انہوں نے عمرہ سے، انہوں نے ابن عباس سے نقل کیا ہے: کہ صفیہ بنت عمر بن خطاب خیبر کے دن نبی کریم ﷺ کے ساتھ تھیں۔

### ۱۱۳۰۸ صفیہ بنت عمرو

بن عبدوہ عامریہ: خندق کے دن ان کا باپ مارا گیا، اس کے قتل کا قصہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مشہور ہے۔ سہل بن عمرو کی زوجہ ہیں، جن سے عمرو بن سہل پیدا ہوئے، لوگ کہنے لگے تم نیک بخت ہو، پھر انس بن سہل پیدا ہوئے تو لوگوں نے کہا: تم نے نجات اور شرافت کو جمع کر لیا ہے۔ ہشام بن کلبی نے ابو عوانہ سے یہ ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۳۰۹ صفیہ بنت مخیمہ

حارث بن مخیمہ کی بہن اور عبداللہ بن حارث کی پھوپھی ہیں۔ ان دونوں کا ذکر گزر چکا ہے۔ فضل بن عباس بن عبدالمطلب نے ان سے نکاح کیا، ابن اثیر فرماتے ہیں: مسلم میں ربیعہ بن حارث بن عبدالمطلب کی حدیث میں ان کا ذکر ہے۔ جب انہوں نے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ سے گورنری کا مطالبہ کیا، آپ ﷺ نے مخیمہ سے فرمایا: اپنی بیٹی کا فضل سے نکاح کر دو لیکن اس کا نام نہیں لیا۔

### ۱۱۳۱۰ صفیہ

رسول اللہ ﷺ کی خادمہ ہیں، ان سے امۃ اللہ بنت رزینہ نے کسوف کے بارے میں مرفوع حدیث روایت کی ہے، یہ ابو عمر کا قول ہے۔

اسد الغابۃ (۷۰/۶۱)، تجرید (۲۸۳/۲) اسد الغابۃ (۷۰/۶۲)، الاستیعاب (۳۴۵۷)، تجرید (۲۸۳/۲)

اسد الغابۃ (۳۳۰/۵) مسلم (۲۴۷۸) (۲۴۷۹)

اسد الغابۃ (۷۰/۵)، الاستیعاب (۳۴۵۸)، تجرید (۲۸۲/۲) الاستیعاب (۱۸۷۳/۷)

### ۱۱۳۱۱ صفیہ

بے نسبت، صحابیہ ہیں، ان سے اسحاق بن عبداللہ بن حارث نے روایت کی، فرماتی ہیں، میرے پاس رسول اللہ ﷺ تشریف لائے، میں نے آپ ﷺ کے سامنے کندھے کا گوشت پیش کیا، آپ ﷺ نے کھایا اور نماز پڑھی، وضو نہیں کیا۔ ابو عمر نے اسی طرح مختصر ذکر کیا ہے۔ تہذیب میں مزی کی کاوش کا تقاضا یہ ہے کہ وہ صفیہ بنت جحی ہیں۔

### ۱۱۳۱۲ صفیہ آخری

بے نسبت۔ صحابہ میں سے ایک خاتون ہیں، اہل کوفہ کے پاس ان کی حدیث ہے، ان سے مسلم بن صفوان نے روایت کی، ابن عبدالبر نے اسی طرح روایت کیا ہے۔ ابن مندہ کو یقین ہے کہ یہ وہی صفیہ ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ ابو نعیم نے ان کی بیرونی کی ہے کہ وہ نبی کریم ﷺ کی زوجہ بنت جحی ہیں۔ اور یس مرہبی کے طریق سے بحوالہ مسلم بن صفوان، انہوں نے حضرت صفیہ سے حدیث نقل کی ہے، فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”لوگ بیت اللہ پر حملہ کرنے سے نہیں رکیں گے یہاں تک کہ جب وہ بیدار مقام پر ہوں گے تو شروع سے لے کر آخر تک دھنسا دیئے جائیں گے..... الحدیث“

### ۱۱۳۱۳ صفیہ

بے نسبت۔ ابو منصور دیلمی نے مسند فردوس میں حسن بن ابو جعفر سے انہوں نے محمد بن عبدالرحمن سے انہوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے انہوں نے نبی کریم ﷺ سے روایت کیا ہے، فرمایا: ”زحزم کا پانی ہر بیماری کی شفا ہے“ حسن میں ضعف ہے۔ اور ان کے شیخ کو میں نہیں پہچانتا، مجھے معلوم نہیں کہ اس نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے سنایا نہیں؟

### ۱۱۳۱۴ الصماء بنت بسر المازنیہ

انہیں، ان کے والدین اور بھائی عبداللہ بن بسر کو شرف صحابیت حاصل ہے، ہفتے کو روزے کی مانعت کے بارے میں نبی کریم ﷺ سے روایت کی۔ بعض کا قول ہے: عبداللہ کی پھوپھی ہیں، بعض نے کہا: ان کی خالہ ہیں، ابن مندہ نے ولید بن مسلم وغیرہ کے طریق سے بحوالہ ثور بن یزید، انہوں نے خالد بن معدان سے، انہوں نے عبداللہ بن بسر سے انہوں نے اپنی بہن صماء سے روایت کیا ہے۔

اور عالی سند سے ابو عاصم سے بحوالہ ثور، معاویہ بن صالح کے طریق سے، انہوں نے ابو عبداللہ بن بسر سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنی پھوپھی صماء سے نقل کیا ہے، اور فضیل بن فضالہ سے بحوالہ عبداللہ بن بسر انہوں نے اپنی خالہ صماء

اسد الغابۃ (۷۰۶۴)، الاستیعاب (۳۴۵۹)، تجرید (۲۸۳/۲)، الاستیعاب (۱۸۷۴/۴)

اسد الغابۃ (۷۰۶۳)، الاستیعاب (۳۴۶۰)، تجرید (۲۸۳/۲)، الاستیعاب (۱۸۷۴/۴)

مسند احمد (۳۳۶/۶)، اسد الغابۃ (۷۰۵۲)، تجرید (۲۸۲/۲)

اسد الغابۃ (۷۰۶۵)، الاستیعاب (۳۴۶۱)، تجرید (۲۸۳/۲)

ابوداؤد (۲۴۲۱)، ترمذی (۷۴۴)

## الکتاب فی التبیان فی التفسیر (جلد ۸) ۲۶۳

سے نقل کیا ہے، اصحاب سنن نے ان کی حدیث ثور کے طریق سے نقل کی ہے، نسائی نے ان کے طرق کی تخریج اور ان کے راویوں کے بیان اختلاف کا ذکر زیادہ کیا ہے۔ انہوں نے دُجیم اول کو ترجیح دی، ابو ذر عد دمشقی فرماتے ہیں: مجھ سے دُجیم نے فرمایا: اہل بیت چار ہیں، جنہیں شرف صحابیت حاصل ہے، بُسر اور اس کے دونوں بیٹے عبداللہ اور عطیہ اور ان کی بہن صماء۔

### ۱۱۳۱۵ الصمیۃ

لیثیہ، بعض کا قول ہے: داریہ، نسائی اور ابن ابوعاصم نے ان کی حدیث عقیل کے طریق سے، بحوالہ زہری انہوں نے عبید اللہ سے، انہوں نے عبداللہ بن عتبہ سے، انہوں نے صمیۃ سے نقل کی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی پرورش میں تھیں، فرماتی ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا: ”تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینہ میں مرے تو ضرور ایسا کرے، کیونکہ جو اس میں مرے گا، قیامت کے دن میں اس کا سفارشی اور گواہ ہوں گا۔“

ابن مندہ فرماتے ہیں: اسے صالح نے ابواخضر سے بحوالہ زہری رحمہ اللہ نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: وہ یتیمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پرورش میں تھیں۔

میں کہتا ہوں: دونوں روایتوں میں بعد نہیں، کیونکہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پرورش میں ہوں گی وہ نبی کریم ﷺ کی پرورش میں ہیں۔ اور صالح بن ابواخضر ضعیف ہے۔

اسے یونس نے زہری رحمہ اللہ سے انہوں نے عبید اللہ سے انہوں نے صمیۃ سے جو بنو لیث کی خاتون ہیں روایت کیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سنا..... پھر حدیث ذکر کی۔

اس میں یہ اضافہ ہے: زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: پھر میں عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر سے ملا اور ان کی حدیث کے بارے میں سوال کیا، انہوں نے مجھ سے صمیۃ کے حوالے سے حدیث بیان کی، یہ ابن وہب کی بحوالہ یونس روایت ہے، جو عقیل کی روایت کے موافق ہے، اسے عتبہ نے بحوالہ یونس روایت کیا ہے عبید اللہ اور صمیۃ کے درمیان صفیہ بنت ابوعبید کا ذکر کیا ہے۔ اسے ابن ابوزب کے بحوالہ زہری روایت کیا فرماتے ہیں: بحوالہ عبید اللہ، انہوں نے ایک یتیم عورت سے انہوں نے صفیہ بنت ابوعبید، انہوں نے نبی کریم ﷺ سے حدیث ذکر کی۔

### القسم الثانی از حرف واد

### ۱۱۳۱۶ صفیہ بنت ابی عبید الثقفیہ

عبداللہ بن عمر بن خطاب کی زوجہ ہیں، ان کے والد کے سوانح میں ان کا نسب گزر چکا ہے۔ ابو عمر نے ان کا ذکر کیا ہے اور فرمایا: انہیں روایت حاصل ہے، ان سے مولیٰ ابن عمر نے روایت کی، اسی طرح فرمایا:

اسد الغابۃ (۷۰۶۶)، الاستیعاب (۳۴۶۲)، تجرید (۲۸۳/۲)

اسد الغابۃ (۷۰۶۰)، الاستیعاب (۳۴۵۶)، تجرید (۲۸۳/۲)

الاستیعاب (۸۷۳/۴)

انہوں نے روایت کی، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے روایت کی، یہ ابن سعد رحمہ اللہ کے قول کے خلاف ہے۔ انہوں نے ان راویوں میں ان کا ذکر کیا ہے جنہوں نے نبی کریم ﷺ سے روایت نہیں کی اور آپ ﷺ کی ازواج سے روایت کی، ابن سعد کا اسی طرح قول ہے: ان کی والدہ علیہ بنت اسید بن ابوعاص ہیں، جو عتاب امیر مکہ کی بہن ہیں۔ ابن مندہ کا قول ہے: انہوں نے نبی کریم ﷺ کا زمانہ پایا اور حضرت عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے نبی کریم ﷺ سے حدیث نہیں سنی۔

دارقطنی کا قول ہے: انہوں نے نبی کریم ﷺ کا زمانہ نہیں پایا، یہ انہوں نے سنن میں کتاب الوتر میں عبداللہ بن نافع کے طریق سے جو مولیٰ ابن عمر ہیں، ان کی والدہ سے بحوالہ ام سلمہ وتر کی قضا کے بارے میں مرفوع حدیث نقل کرنے کے بعد فرمایا، ایک روایت میں ہے: بحوالہ عبداللہ بن نافع، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے صفیہ بنت ابوعبید سے روایت کیا ہے، پھر حدیث ذکر کی، اس میں یہ اضافہ ہے: نافع کا ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے حدیث کا سماع درست نہیں، اور سند میں پے در پے تین راوی ضعیف ہیں۔

واقدی رحمہ اللہ نے موسیٰ بن ضمیرہ بن سعید سے بحوالہ ان کے والد ذکر کیا ہے: ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے خلافت عمر میں نکاح کیا، یہ اس قول کے زیادہ قریب ہے کہ ان کی ولادت نبی کریم ﷺ کے زمانے میں ہوئی۔ لہذا ادراک کی نفی کے قول کو ادراک سماع پر محمول کیا جائے گا، گویا وہ نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد بالغ ہوئیں۔

ان سے ان کے شوہر کے بیٹے سالم، ان کے خاوند کے مولیٰ نافع، عبداللہ بن دینار، موسیٰ بن عقبہ نے روایت کی، عجلی اور ابن حبان نے ثقات میں ان کا ذکر کیا ہے۔

ابن سعد نے خالد بن مخلد سے، انہوں نے عبداللہ بن عمری سے، انہوں نے نافع سے بحوالہ ابن عمر روایت کیا ہے: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میری طرف سے چار سو دینار حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے مہر میں دیئے، میں نے چپکے سے اس میں دو سو درہم کا اضافہ کر دیا۔

صحیح سند کے ساتھ ان سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فجر کی نماز میں سورہ کہف پڑھتے ہوئے سنا۔ ابن سعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ہاں ان سے واقد، ابوبکر، ابوعبیدہ، عبداللہ، عمر، حفصہ اور سودہ رضی اللہ عنہما پیدا ہوئے۔ پھر جید سند سے بحوالہ نافع نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بوزھی ہو گئی تھیں اور سواری پر کعبہ کا طواف کرتی تھیں۔ صحیحین میں ہے: حضرت عمر رضی اللہ عنہ جتہ الوداع سے لوٹ کر آئے تو انہیں کہا گیا: حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سواری پر پیچھے آ رہی ہیں، انہوں نے چلنے میں جلدی کی اور دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھا..... (الحدیث) اس کا مطلب ہوا، یہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا واقعہ ہے۔



### القسم الثالث از حرف صاد

#### ۱۱۳۱۷ الصهباء بنت ربيعة

بن بجير بن عبد بن علقمة بن حارث بن عتبة ثعلبية، ان کی کنیت ام حبیب ہے، انہوں نے نبی کریم ﷺ کا زمانہ پایا، عین نمر کے قیدیوں میں سے تھیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے انہیں دوسرے قیدیوں کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئیں جن سے عمر اکبر اور زقیہ پیدا ہوئے۔

### القسم الرابع از حرف صاد

#### ۱۱۳۱۸ صفیہ (بے نسبت)

ان سے اسحاق بن عبد اللہ نے روایت کی۔

#### ۱۱۳۱۹ صفیہ (بے نسبت) \*

ان سے مسلم بن صفوان نے روایت کی، پہلی قسم میں ان دونوں کا ذکر گزر چکا ہے۔ ہم نے ان دونوں کے بارے میں قول ذکر کیا ہے کہ یہ صفیہ بنت جحی ہیں، مسلم بن صفوان نے ان سے جو روایت کی ہے، غالب گمان ہے کہ صفیہ بنت جحی ہیں، اور دوسری کا احتمال ہے۔ واللہ اعلم!



## حرف ضاد معجم

### القسم الاول از حرف ضاد

#### ۱۱۳۲۰ ضباعہ بنت الزبیر \*

بن عبدالمطلب ہاشمیہ، نبی کریم ﷺ کی چچا زاد ہیں، مقداد بن اسود کی زوجہ ہیں، ان سے عبد اللہ اور کریمہ پیدا ہوئے، زبیر کا قول ہے: زبیر بن عبدالمطلب کی ضباعہ سے نسل چلی، ام حکم ان کی بہن ہیں، یہ ابن سعد \* کا قول ہے۔ فرماتے ہیں: عاتکہ بنت ابو وہب بن عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم ان کی والدہ ہیں، ان کے بیٹے عبد اللہ یوم جمل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ساتھ دیتے ہوئے شہید ہوئے، ضباعہ نے نبی کریم ﷺ سے اور اپنے شوہر مقداد سے روایت کی۔

ان سے ابن عباس، عائشہ اور ان کی بیٹی کریمہ بنت مقداد ابن المسیب، عروہ، اعرج وغیرہ نے روایت کی۔

ابوداؤد، نسائی، ترمذی میں حج میں شرط لگانے کے بارے میں ان کی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ضباعہ بنت زبیر نبی کریم ﷺ کے پاس آئیں اور کہنے لگیں: میں حج کرنا چاہتی ہوں، کیا میں شرط لگاؤں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں“۔ انہوں نے عرض کیا: ”میں کیا کہوں؟“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم کہو: میں حاضر ہوں! اے اللہ میں حاضر ہوں! جس جگہ تم محصور ہوئی وہاں سے احرام کھول دینا۔“ \*

ابن مندہ کا قول ہے: یہ روایت عکرمہ سے مشہور ہے۔ اسے عبد الکرم نے روایت کیا ہے: مجھ سے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سننے والے نے روایت کیا، فرماتے ہیں: مجھ سے ضباعہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے انہیں حکم دیا کہ اپنے احرام باندھنے میں شرط لگائیں، فرماتے ہیں: اسے عروہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے اور زہری رضی اللہ عنہ نے اور ہشام نے ان سے روایت کیا ہے۔ پھر حجاج بن نصر کے طریق سے بحوالہ ہشام، انہوں نے ابو زبیر سے انہوں نے جابر سے حدیث بیان کی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ضباعہ سے فرمایا: ”حج کرو اور شرط لگاؤ“۔ پھر موسیٰ بن خلف کے طریق سے بحوالہ قتادہ، انہوں نے اسحاق بن عبد اللہ ہاشمی سے انہوں نے ام عطیہ سے، انہوں نے ان کی بہن ضباعہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کو کندھے کا گوشت کھاتے دیکھا پھر نماز کے لیے اٹھے اور وضو نہیں فرمایا، فرماتے ہیں: اسے ہمام نے قتادہ سے بحوالہ اسحاق بن عبد اللہ، انہوں نے اپنی دادی ام حکیم سے، انہوں نے اپنی بہن ضباعہ سے روایت کیا ہے اور وہ موسیٰ بن خلف کی روایت سے زیادہ رائج ہے۔ ابو عمر کو موسیٰ بن خلف کی روایت سے دھوکا ہوا ہے۔ انہوں نے ضباعہ بنت حارث انصاریہ کا عنوان قائم کیا ہے، ج۔

\* اسد الغابۃ (۷۰/۶۸) الاستیعاب (۳۴۶۴) تجرید (۲۸۴/۲) \* الطبقات الکبریٰ (۳۱/۸)

\* الاستیعاب (۱۸۷۴/۴)

ام عطیہ کی بہن ہیں، اس بناء پر کہ ام عطیہ انصاریہ ہیں۔ ابن اثیر \* نے اشارہ کیا ہے کہ وہ ہم ہے۔

### ۱۱۴۲۱ ضباعہ بنت عامر \*

بن قرط بن سلمہ بن قُثَیر بن کعب بن ربیعہ بن عامر بن صعصعہ، ابو نعیم نے ان کا ذکر کیا ہے اور عبد اللہ بن جراح کے طریق سے بحوالہ کلبی نقل کیا ہے، مجھے عبد الرحمن عامری نے اپنی قوم کے شیوخ کے حوالے سے بتایا، وہ فرماتے ہیں: ہمارے پاس رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور ہم عکاظ بازار میں تھے، آپ ﷺ نے ہمیں اپنی مدد و حمایت کے لیے بلایا، ہم آپ ﷺ کی مدد کے لیے گئے، اتنے میں بنو نضر بن فُثَیر آیا، اس نے رسول اللہ ﷺ کی اذنی کو چھیڑا جس نے آپ ﷺ کو نیچے گرا دیا۔ ہمارے پاس ان دنوں ضباعہ بنت عامر بن قرط تھیں، یہ ان خواتین میں سے تھیں جو مکہ میں رسول اللہ ﷺ پر ایمان لائیں اور اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے آئی تھیں، کہنے لگیں: اے آل عامر، مجھے عامر کا کیا فائدہ، تمہاری موجودگی میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے، اور اسے تم میں سے کوئی روکنے والا نہیں۔ اس کے تین چچا زاد بچہ کی طرف بڑھے، ان میں سے ہر ایک نے ایک ایک آدمی کو پکڑا اور زمین پر دے مارا، پھر اس کے سینے پر بیٹھ کر ان کے چہروں پر طمانے مارنے لگے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے اللہ! ان لوگوں کو برکت دے۔“ یہ لوگ اسلام لائے اور شہید ہوئے۔ \* یہ سند کے منقطع ہونے کے ساتھ ضعیف ہے۔ مجھے ضباعہ کا ذکر دوسری روایت میں ملا ہے۔

ہشام بن کلبی نے انساب میں ان کا ذکر کیا ہے۔ بحوالہ ان کے والد، انہوں نے ابوصالح سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں: ضباعہ قشیریہ ہوذہ بن علی حنفی کی زوجہ تھیں، وہ وفات پا گیا تو اس کے مال کی وارث بن گئیں، ان کے چچا زاد اور عبد اللہ بن جدعان نے انہیں نکاح کا پیغام دیا، ان کے والد نے مال کو پسند کیا اور ابن جدعان سے ان کا نکاح کر دیا، جب وہ ان کی طرف لے جاتی جا رہی تھیں تو ان کا چچا زاد ان کے پیچھے گیا اور کہا: اے ضباعہ! سمندر جیسے مرد تمہیں زیادہ پسند ہیں یا وہ مرد جو دیواروں پر نیزہ مارتے ہیں؟ انہوں نے کہا: وہ مرد جو دیواروں پر نیزہ مارتے ہیں۔

وہ عبد اللہ بن جدعان کے پاس آئیں اور ان کے پاس ہشام بن مغیرہ نے جو قریش کے آدمیوں میں سے تھے، پسند کیا اور ضباعہ سے کہا: کیا تم اپنے حسن و جمال کے ساتھ اس بوڑھے کینے پر راضی ہو؟ اس سے طلاق مانگو میں تم سے شادی کروں گا۔ انہوں نے ابن جدعان سے طلاق مانگی، اس نے کہا: مجھے معلوم ہوا ہے کہ ہشام تم میں رغبت رکھتا ہے، میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا یہاں تک کہ تم قسم کھاؤ اگر تم نے شادی کی تو سو (۱۰۰) سیاہ اونٹنیاں جن کی آنکھیں کالے ڈوروں والی ہوں اساف اور نائلہ کے درمیان ذبح کرو گی، اور تم سوت کا تاجو مکہ کے دونوں کناروں کے درمیان پورا ہو جائے اور تم بیت اللہ کا طواف بے لباس ہو کر کرو۔

اس نے کہا: مجھے سوچنے کی مہلت دو۔ اس شخص نے انہیں چھوڑ دیا اور ان کے پاس ہشام آیا، اس نے اسے بتایا، اس نے

\* اسد الغابۃ (۳۳۳/۵) \* اسد الغابۃ (۷۰۶۹) الاستیعاب (۳۴۶۵) تجرید (۲۸۴/۲)

\* السیرۃ النبویۃ (۱۶۴/۸) الطبقات الکبریٰ (۱۱۰، ۱۰۹/۸)

کہا: سو اونٹنیوں تمہاری طرف سے ذبح کرنا تو میرے لیے اتنا ہی آسان ہے جتنا ایک اونٹ، اور رہا دھاگہ تو بنو مغیرہ کی عورتیں تمہارے لیے سوت کات دیں گی، اور رہا بیت اللہ کا طواف کرنا تو میں قریش سے کہوں گا، وہ تمہارے لیے بیت اللہ کو ایک گھڑی کے لیے خالی کر دیں، اس سے طلاق مانگو۔ انہوں نے طلاق مانگی تو اس نے طلاق دے دی۔ انہوں نے اس کے لیے قسم کھائی۔

ان سے ہشام نے نکاح کیا، جس سے سلمہ پیدا ہوئے، وہ بہترین مسلمان تھے۔ ہشام نے جو ان سے وعدہ کیا تھا پورا کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: مجھے مطلب بن ابودادہ سہمی نے بتایا: جو رسول اللہ ﷺ کی ولادت کے وقت کے تھے، جب قریش نے ضباعہ کے لئے بیت اللہ خالی کیا میں اور محمد باہر نکلے اس وقت ہم چھوٹے لڑکے تھے، ہمیں چھوٹا سمجھ کر کسی نے ہمیں منع نہیں کیا، ہم نے اسے دیکھا جب آئی، تو ایک ایک کر کے کپڑے اتارنے لگی، وہ کہہ رہی تھی: ”آج کے دن بعض یا سارا ظاہر ہوا، جو ظاہر ہوا میں اسے حلال نہ کروں گی۔“

اس نے اپنے کپڑے اتارے، پھر اپنے بال نکھیرے اور اپنے پیٹ اور پیٹھ پر کڑھانپ لیا یہاں تک کہ اس کی پاؤںوں تک چلے گئے اور اس کے جسم سے کچھ ظاہر نہ تھا، وہ طواف کرنے لگی اور یہ شعر پڑھنے لگی۔

جب ہشام بن مغیرہ وفات پا گئے، تو اسلام لائیں اور ہجرت کی، نبی کریم ﷺ نے ان کے بیٹے سلمہ کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا، انہوں نے کہا: یا رسول اللہ! اس میں کوئی رکاوٹ نہیں لیکن میں ان سے پوچھ لوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ٹھیک ہے۔“ وہ ان کے پاس آئے، وہ کہنے لگیں: اِنَّا لِلّٰہ! کیا رسول اللہ ﷺ کے بارے میں تم مجھ سے اجازت طلب کر رہے ہو؟ میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ ﷺ کی ازواج میں میرا حشر ہو، ان کی طرف جاؤ اور ان سے کہو: اس سے پہلے کہ کوئی چیز ظاہر ہو، ہاں کہہ دو۔

حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا واپس لوٹے اور آپ ﷺ کو یہ بات بتائی، نبی کریم ﷺ خاموش ہو گئے، اور کچھ بھی نہ فرمایا، حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کے سپرد یہ معاملہ کرنے کے بعد لوگوں نے آپ ﷺ سے یہ کہہ دیا تھا کہ ضباعہ پہلے جیسی نہیں رہیں، ان کے چہرے پر جھریاں بڑھ گئی ہیں، اور ان کے منہ سے دانت گر گئے ہیں۔

ابن سعد رضی اللہ عنہ نے اس میں سے کچھ ان کے سوانح میں بحوالہ ہشام بن کلبی ذکر کیا ہے، ان سے اس سند سے مروی ہے: ضباعہ عرب کی عورتوں میں خوبصورت ترین تھیں، ذیل ڈول والی تھیں، جب زمین پر بیٹھتی تو بہت سی جگہ لے لیتیں ان کے بالوں سے ان کا جسم ڈھانپا جاتا تھا۔

### ۱۱۳۲۲ ضباعہ بنت عمرو \*

بن حصن بن عمرو بن عتیک انصاریہ، بنو نجار سے ہیں، ابن سعد \* نے بیعت کرنے والی خواتین میں ان کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا: ان کی والدہ عمرہ بنت ہزال بن عمرو بن قریبوس ہیں، ان کے شوہر کا نام عبید بن عمیر بن وہب ہے۔

### ۱۱۳۲۳ ضبیعہ بنت حذیم السہمیہ \*

عبداللہ بن حذافہ کی والدہ ہیں، صحیح کی روایت سے ان کے صحابیہ ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ صحیح مسلم کی کتاب فضائل میں ہے

## الْأَسْلَمُ فِي تَقْبِيلِ الصَّحَابَةِ (جلد ۲۰)

کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے اس پر نکیر کرتے ہوئے کہا، جب اس نے پوچھا: میرا باپ کون ہے؟ انہوں نے کہا: تمہارا باپ حذافہ ہے، اگر تیری ماں جاہلیت کے کسی کام سے آلودہ ہوئی ہے۔

### ۱۱۳۲۳ ضمرہ زوج ابی قیس بن الأسلت

طبری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ آیت ان کے بارے میں اتری: ”تمہارے باپوں نے جن عورتوں سے نکاح کیا تم ان سے نکاح نہ کرو۔“ ❀

### ۱۱۳۲۵ الصَّيْرَنَةُ بنت ابی قیس ❀

اسلام لائیں اور ہجرت کی، شفاء بنت عوف میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔  
نوٹ: قسم ثانی اور قسم ثالث خالی ہیں، ان میں کسی کا ذکر نہیں۔

### القسم الرابع از حرف ضاد

### ۱۱۳۲۶ ضباعہ بنت الحارث ❀

انصاریہ۔ ام عطیہ کی بہن ہیں۔ ابو عمر ❀ نے ایک حدیث ❀ میں ان کا ذکر کیا ہے، جو قسم اول میں ضباعہ بنت زبیر کے سوانح میں گزر چکی ہے۔

### ۱۱۳۲۷ الضحاک بنت مسعود ❀

حویصہ کی بہن ہیں، ابن مندہ نے ان کا ذکر کیا ہے، وہ وہم ہے۔ ابو نعیم نے ان کا تعاقب کیا ہے کہ وہ ام ضحاک ہیں، صحیح بیان کنیتوں میں آئے گا۔



❀ سورة النساء الآية (۲۲) ❀ الاستيعاب (۳۴۶۶) تجريد (۲۸۴/۲)

❀ اسد الغابة (۷۰۶۷) الاستيعاب (۳۴۶۳) تجريد (۲۸۳/۲) ❀ الاستيعاب (۱۸۷۴/۴)

❀ مسند احمد (۴۱۹/۶) المعجم الكبير (۸۳۹/۲۴) مجمع الزوائد (۲۵۳/۱) جامع المسانيد والسنن (۵۹۳/۱۵)

❀ اسد الغابة (۷۰۷۰) تجريد (۲۸۴/۲)

## حرف طاء مہملہ

### القسم الاول از حرف طاء

#### ۱۱۳۲۸ طاهرہ بنت خویلد

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو نبی کریم ﷺ کی زوجہ ہیں، ان کی بہن ہیں، زبیر بن بکار نے ان کا ذکر کیا ہے۔

#### ۱۱۳۲۹ طریہ

حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی مولاہ ہیں، حرف سین مہملہ میں حضرت سیرین رضی اللہ عنہا کے سواں میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

#### ۱۱۳۳۰ طقیمہ

ان کا ذکر ہے، جبکہ حدیث مذکور نہیں، ابن مندہ نے اسی طرح ذکر کیا ہے۔

#### ۱۱۳۳۱ طیبہ

ابوموسیٰ اشعری کی والدہ ہیں، حرف خاء معجمہ میں ان کا ذکر ہے۔

#### ۱۱۳۳۲ طیبہ بنت النعمان

حرف خاء معجمہ میں ان کا ذکر آئے گا۔

### القسم الثانی از حرف طاء، خالی ہے۔

### القسم الثالث از حرف طاء

#### ۱۱۳۳۳ طلیحہ بنت عبد اللہ

ابو عمرؓ نے بحوالہ لیث، انہوں نے زہری رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ وہ زشید ثقفی کے نکاح میں تھیں، انہوں نے طلاق دے دی، تو انہوں نے اپنی عدت میں نکاح کر لیا۔  
میں کہتا ہوں: انہوں نے نبوت کا زمانہ پایا۔

اسد الغابۃ (۷۰۷۱) تجرید (۲۸۴/۲) \* اسد الغابۃ (۷۰۷۲) تجرید (۲۸۴/۲)

اسد الغابۃ (۷۰۷۴) الاستیعاب (۳۴۶۷) تجرید (۲۸۴/۲) \* الاستیعاب (۱۸۷۵/۴)

۱۱۳۳۳ طغیہ \*

بنت وہب، ابو موسیٰ اشعری کی والدہ ہیں، طبرانی نے ان کا ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں: اسلام لائیں اور مدینہ میں وفات پائی۔ مستغفری نے بحوالہ ابن قتیبہ ذکر کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا، اسلام لائیں اور ہجرت کی۔ \* ہشام بن کلبی اور ابواحمد عسکری نے ذکر کیا ہے کہ وہ ظبیہ ہیں جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔

۱۱۳۳۵ طعیہ بنت جر

تجرید کے استدراک میں ان کا تذکرہ ہے، طعیہ بنت جرج کے سوانح میں ان کا تذکرہ ہے۔ ان کے آباء واجداد میں سے کسی کا نام رہ گیا ہے۔



## حرف ظاء مجمر

### القسم الاول از حرف ظاء

#### ۱۱۳۳۶ ظبیہ بنت البراء بن معرور \*

ابوققادہ انصاری کی زوجہ ہیں۔ مصعب بن ثابت بن عبداللہ بن ابوققادہ نے بحوالہ ان کے دادا، انہوں نے ابوققادہ سے ان کی حدیث روایت کی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ظبیہ بنت براء بن معرور جو ابوققادہ کی زوجہ ہیں، فرمایا: ”تم پر نماز جمعہ اور جہاد فرض نہیں۔“ انہوں نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ ﷺ! مجھے شیع جہاد سکھا دیجئے۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”کہو! اللہ پاک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے لیے ہی تمام تعریف ہے۔“

#### ۱۱۳۳۷ ظبیہ بنت النعمان

بن ثابت بن ابوالفتح، ان کی پھوپھی جمیلہ بنت ثابت کے سوانح میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

#### ۱۱۳۳۸ ظبیہ بنت وہب \*

بنو عتک سے ہیں، اسلام لائیں، مدینہ میں وفات پائی، یہ ہشام بن کلثی کا قول ہے، ابوالاحمد عسکری فرماتے ہیں: ام ابوموسیٰ اشعری ہیں۔ واقدی رحمہ اللہ نے اسی پر یقین کیا ہے۔

#### ۱۱۳۳۹ ظمیا بنت اشرس تمیمیہ

بنو ہذلہ بن عوف بن سعد بن زید مناة بن تمیم سے ہیں، صحابیہ ہیں، ایک طویل حدیث میں ان کا ذکر ہے، فاکہی نے کتاب مکہ میں اسے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: محمد بن اسماعیل بن ابوزرین نے مجھ سے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں: ہم سے حجاج بن محمد نے بحوالہ حفص بن عبدالرحمن اموی بیان کیا، فرماتے ہیں: وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب مدینہ تشریف لائے تو لوگ اسلام لے آئے، اور آپ کے پاس اپنے چشموں اور گھروں سے آنے لگے، بنو سعد بن زید مناة بن تمیم نے بنو ہذلہ بن عوف سے ایک عورت جسے ظمیا بنت اشرس کہا جاتا تھا، کو اس پانی کے چشمے پر روانہ کیا، جو گھروں میں تھا، جس کا جاہلیت میں قبیلہ عبدالقیس نے دعویٰ کر رکھا تھا کہ یہ ہمارا ہے، جس کی وجہ سے ان کے درمیان جنگ ہوئی، عبدالقیس نے بنو حارث میں سے کسی شخص کو سفیر بنا کر بھیجا، جو چل کر مقام جرف کے پانی پر اترا، اس نے پانی پر ایک عورت دیکھی جو اسے عبور کر چکی تھی وہ بنو سعد کی ایلچی تھی، اس عذری نے اس سے سوال کیا: اس کا کہاں کا ارادہ ہے؟ وہ کہنے لگی: میں اس نبی کے پاس جانے کا ارادہ رکھتی ہوں جو یثرب میں فروکش ہوا ہے،



لیکن میں پھر گئی ہوں، وہ شخص اس سے شرمانے لگا۔

اس نے کہا: ہمارے پاس زائد اونٹ ہے، انہوں نے اسے سوار کرا لیا اور اس سے آنے کا سبب نہیں پوچھا، یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آ گئے، وہ عورت آگے بڑھی اور بولی: یا رسول اللہ ﷺ! بنو بھدلہ بن عوف نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ پھر حارث بن حسان کے عورت کے ساتھ قصے کی طرح ذکر کیا، کہنے لگی: اگر عبدالقیس کا ان گھروں پر قبضہ ہو گیا تو قبیلہ مضر ہلاک ہو جائے گا۔

عبدری نے کہا: اللہ کی پناہ کہ میں عاد کے اپنی کی طرح ہوں، پھر اس کا طویل قصہ ذکر کیا۔  
نوٹ: قسم ثانی، ثالث اور رابع خالی ہیں، ان میں کسی کا ذکر نہیں۔



## حرفِ عین مہملہ

### القسم الاول از حرف عین

#### ۱۱۳۳۰ عاتکہ بنت ابی ازیہر

بن انیس بن حنن بن مالک دؤسی، ان کے والد بدر میں حالت کفر میں قتل ہوئے۔ ان سے پھر ابوسفیان بن حرب نے نکاح کیا وہ ان کے بیٹے محمد اور عوسہ کی والدہ ہیں۔

#### ۱۱۳۳۱ عاتکہ بنت اسید

بن ابو عیص بن امیہ امویہ، عتاب بن اسید امیر مکہ کی بہن ہیں۔ ابن سعد رحمہ اللہ کا قول ہے: فتح کے دن اسلام لائیں، ابو عمر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: انہیں شرف صحابیت حاصل ہے، مجھے معلوم نہیں کہ ان سے کوئی روایت مروی ہو، زبیر بن بکار نے کتاب المنسب میں محمد بن سلام سے ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت شفاء بنت عبد اللہ عدویہ کی طرف پیغام بھیجا کہ میرے پاس آؤ، فرماتی ہیں: میں گئی، میں نے دیکھا، عاتکہ بنت اسید بن ابوالعیص ان کے دروازے پر کھڑی ہیں، ہم دونوں اندر گئیں، انہوں نے ہم سے تھوڑی دیر بات کی، اتنے میں ایک چادر منگوائی اور انہیں عطاء کی، پھر دوسری چادر منگوائی اور مجھے عطا کی، فرماتی ہیں، میں نے کہا: اے عمر! میں اس سے پہلے اسلام لائی اور میں آپ کی چچا زاد ہوں، مجھے آپ نے بلوایا ہے اور یہ از خود آئیں حضرت عمر فرمانے لگے: میں نے یہ چادر تمہارے لیے ہی رکھی تھی لیکن جب تم دونوں اکٹھی ہو گئیں تو مجھے یاد آیا کہ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم سے زیادہ رشتہ داری ہے۔

#### ۱۱۳۳۲ عاتکہ بنت خالد الخزاعیہ

ام معبد ہیں، اور اپنی کنیت سے مشہور ہیں، کنبہوں میں ان کا ذکر آئے گا۔

#### ۱۱۳۳۳ عاتکہ بنت زید

بن کمر و بن نفیل عدویہ، سعید بن زید کی بہن ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ان کے والد کے سوانح میں ان کا نسب گزر چکا ہے، ان کی والدہ ام کریمہ بنت عبد اللہ بن عمار بن مالک حضرمیہ ہیں۔ ابو نعیم نے حدیث عائشہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت عاتکہ عبد اللہ بن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زوجہ تھیں۔ ابو عمر رحمہ اللہ کا قول

اسد الغابۃ (۷۰۷۷) الاستیعاب (۳۴۶۹) تجرید (۲۸۵/۲) السیرۃ النبویۃ (۴۳/۳)

اسد الغابۃ (۷۰۷۹) تجرید (۲۸۵/۲) الاستیعاب (۱۸۷۷/۴) السیرۃ النبویۃ (۴۳/۳)

ہے: مہاجرہات میں سے ہیں۔ ان سے عبداللہ بن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا، وہ بہت حسین و جمیل تھیں، ان پر اس کے حسن کا جادو چل گیا، جس نے انہیں جہادی مہموں میں شرکت سے غافل کر دیا۔ صورت حال دیکھ کر ان کے والد نے انہیں طلاق دینے کا حکم دیا، جس کے متعلق وہ یہ اشعار کہتے ہیں:

”لوگ کہتے ہیں اسے طلاق دے دو اور اس کی جگہ خیمہ لگا کر مقیم ہو جاؤ، نفس کو سوتے شخص کے خوابوں کی تمنا دکھاؤ، ان گھر والوں کو جنہیں میں نے اپنی کثرت کے باوجود جمع کیا، انہیں جدا کرنا، بڑے کاموں میں سے ایک ہے۔“

پھر ان کے والد نے اصرار کیا، تو انہوں نے طلاق دے دی، لیکن وہ دل سے نہ دی، ایک دن ان کے والد نے انہیں یہ اشعار پڑھتے سنا:

”مجھے نہیں لگتا کہ مجھ جیسے شخص نے اس جیسی عورت کو طلاق دی ہو اور نہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی عورت اس جیسی ہو اسے بغیر جرم کے طلاق مل گئی ہو۔“

تو ان کے والد کا دل نرم پڑ گیا، انہیں اجازت دے دی تو ان سے رجوع کر لیا۔ بعد میں طائف کے محاصرہ کے دوران انہیں تیر لگا جس میں زخمی ہوئے اور مدینہ میں آ کے فوت ہو گئے۔ تو عاتکہ نے ان اشعار میں ان کا مرثیہ کہا:

”میں نے قسم کھائی ہے کہ میری آنکھ ہمیشہ تیرے لیے غمگین رہے گی اور میرا جسم ہمیشہ غبارِ آلود رہے گا۔“

ایک قول ہے کہ پھر ان سے زید بن خطاب نے نکاح کیا، وہ یمامہ میں شہید ہوئے، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کیا، پھر ان کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ قصہ پیش آیا کہ آپ نے انہیں ان کا یہ قول یاد دلایا: ”میں نے قسم کھائی ہے کہ میری آنکھ ہمیشہ غمگین رہے گی۔“

پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے، انہوں نے مشہور اشعار سے ان کا مرثیہ کہا۔

ابن سعد رحمہ اللہ نے حسن سند سے یحییٰ بن عبدالرحمن بن حاطب نقل کیا ہے، حضرت عاتکہ رضی اللہ عنہا حضرت عبداللہ بن ابوبکر سے محبت کرتی تھیں۔ انہوں نے اپنے مال میں سے ایک حصہ ان کے لیے مقرر کیا کہ وہ ان کے بعد نکاح نہ کریں، وہ وفات پا گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عاتکہ رضی اللہ عنہا کی طرف پیغام بھیجا کہ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے تو نہ حرام کر رکھا ہے، ان کے گھر والوں کو وہ مال واپس دے دو جو تم نے ان سے لیا ہے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا، اور ان سے نکاح کر لیا۔ بعض کا قول ہے: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں نکاح کا پیغام دیا تھا، انہوں نے کہا: میں نہیں چاہتی کہ آپ قتل ہوں، بعض نے کہا: حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضرت زبیر سے انہیں ملنے والی میراث پر اُستی (۸۰) ہزار درہم پر صلح کر لی تھی۔

ابو عمر رحمہ اللہ نے تمہید میں ذکر کیا ہے، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں نکاح کا پیغام دیا تو انہوں نے شرط لگائی کہ انہیں نہ ماریں گے، نہ حق بات سے اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے روکیں گے، پھر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے سامنے بھی یہی شرط رکھی، انہوں نے

نے یہ حیلہ کیا، جب وہ عشاء کی نماز کے لیے نکلیں تو وہ چھپ گئے۔ جب وہ ان کے پاس سے گزریں، تو انہوں نے چھیڑا۔ جب واپس لوٹیں تو کہنے لگیں: إِنَّا لِلّٰہِ لوگوں میں فساد آ گیا ہے! اس کے بعد کبھی باہر نہ نکلیں۔

میں کہتا ہوں: ابن مندہ نے ابن ابوزناد کے طریق سے، موسیٰ بن عقبہ سے انہوں نے سالم سے نقل کیا ہے کہ عاتکہ بنت زید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زوجہ تھیں، اور مسجد نبوی میں بہت آنا جانا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ ناپسند کرتے تھے۔ انہیں کہا گیا تو فرمایا: میں اسے ترک نہیں کروں گی جب تک مجھے منع نہ کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں منع کرنا پسند نہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد ان سے ایک اور شخص نے نکاح کیا، اس نے انہیں منع کیا، میں نے سالم سے پوچھا: وہ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا: زبیر بن عوام۔

### ۱۱۳۴۳ عاتکہ بنت ابوسفیان

بن حارث بن عبدالمطلب ہاشمیہ، معتب بن ابولہب کی زوجہ ہیں، ان سے خالدہ پیدا ہوئیں ان سے عبداللہ بن حارث بن نوفل بن حارث بن عبدالمطلب نے جو بہ کے لقب سے مشہور تھے، نکاح کیا۔ زبیر بن بکار نے ان کا ذکر کیا ہے۔ اور ابن سعد \* نے ام عمرو بنت مقوم بن عبدالمطلب کے سوانح میں ان کا ذکر کیا ہے کہ ابوسفیان بن حارث نے ان سے نکاح کیا، جس سے عاتکہ پیدا ہوئیں۔

### ۱۱۳۴۵ عاتکہ بنت ابی الصلت الثقفیہ

امیہ کی بہن ہیں، سہیلی نے مہمات القرآن میں سورۃ اعراف کی تفسیر کے آخر میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۳۴۶ عاتکہ بنت عبدالمطلب \*

بن ہاشم، نبی کریم ﷺ کی چھوٹی بہن ہیں۔ ابوامیہ بن مغیرہ کی زوجہ ہیں، جو ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے والد ہیں، وہ رسول اللہ ﷺ کی زوجہ ہیں، ان سے عبداللہ اور قریبہ وغیرہ پیدا ہوئے۔

ابو عمر \* کا قول ہے: ان کے اسلام لانے میں اختلاف ہے۔ اکثر نے اس کا انکار کیا ہے۔

اروی کے سوانح میں ہے: عقیلی نے صحابہ میں ان کا اور عاتکہ کا ذکر کیا ہے۔ رہے ابن اسحاق تو وہ فرماتے ہیں: نبی کریم ﷺ کی چھوٹی بہنوں میں سے صرف حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ہی ایمان لائی تھیں۔ ابن فتحون نے استیعاب کے حاشیے میں ان کا ذکر کیا ہے، اور ان کے اسلام لانے پر ان کا وہ شعر دلالت کرتا ہے، جس میں انہوں نے نبی کریم ﷺ کی مدح اور نبوت کی تعریف بیان کی ہے۔

دارقطنی نے کتاب الاخوة میں فرمایا: ان کے ایک شعر میں ان کی تصدیق کا ذکر ہے، اور ان سے روایت نہیں، ابن مندہ نے صحابہ رضی اللہ عنہم میں ان کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا: ان سے ام کلثوم بنت عقبہ \* نے روایت کی۔ پھر محمد بن عبدالعزیز بن عمر بن

\* الطبقات الکبریٰ (۱۹۳/۸) \* اسد الغابۃ (۷۰۸۰) تجرید (۲۸۵/۲)

\* الاستیعاب (۱۸۷۶/۴، ۱۸۸۰) \* نسب قریش (۱۸)

## الْأَنْصَارِيَّةُ فِي تَنْبِيْهِ النَّاسِ عَلَى مَا فِيهِمْ مِنْ عُرْوَةٍ (اردو)

۲۷۸

جلد ۸

عبدالرحمن بن عوف کے طریق سے بحوالہ زہری انہوں نے حمید بن عبدالرحمن بن عوف سے، انہوں نے ام کلثوم بنت عقبہ سے انہوں نے عاتکہ بنت عبدالمطلب سے حدیث بیان کی، انہوں نے واقعہ بدر کے بارے میں مختصر خواب بیان کیا ہے، ابن اسحاق نے سیرۃ نبویہ میں اسے یونس بن بکر کی ان سے روایت میں مختصر ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں: مجھ سے حسین بن عبداللہ بن عبید اللہ بن عباس نے بحوالہ عکرمہ انہوں نے ابن عباس اور یزید بن رومان بن عروہ سے روایت کی، دونوں فرماتے ہیں: عاتکہ بنت عبدالمطلب نے ابوسفیان کے بارے میں ضمضم بن عمرو کے اطلاع لانے سے تین رات پہلے خواب دیکھا، فرماتی ہیں: میں نے ایک شخص کو اپنے اونٹ پر آتے دیکھا، وہ اٹھ مقام پر ٹھہر گیا، اور کہا: اے آل بدر، تین دن کے اندر اپنی قتل گاہوں پر پہنچو، پھر انہوں نے خواب بیان کیا۔ اس میں ہے: پھر اس نے ایک چٹان لی، اور اسے پہاڑ کی چوٹی سے گرا دیا، وہ نیچے آیا، اور ریزہ ریزہ ہو گیا۔ کوئی گھریا عمارت ایسی نہ بچی جس میں اس کا کوئی ریزہ نہ گیا ہو۔ اس قصے میں ابوجہل کی حضرت عباس رضی اللہ عنہ پر تکبیر ہے، اس نے کہا: تم میں یہ عورت نبی کب سے بن گئی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ انہیں کھری کھری سنائیں۔ ابوجہل، ضمضم بن عمرو کے آنے کی وجہ سے غافل ہو گیا، وہ قریش کو جنگ کے لیے آمادہ کرنے لگا، تاکہ مسلمانوں کو اس قافلے پر حملہ کرنے سے روکے جو ابوسفیان کی معیت میں تھا، انہوں نے تیاری کی اور بدر کی طرف نکلے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عاتکہ رضی اللہ عنہا کے خواب کو سچا کر دکھایا۔ \*

زبیر بن بکار نے ذکر کیا ہے کہ وہ ابوطالب اور عبداللہ کی سگی بہن ہیں۔ ابن سعد \* کا قول ہے: عاتکہ مکہ میں اسلام لائیں اور مدینہ کی طرف ہجرت کی، وہ قصہ بدر کے بارے میں مشہور خواب دیکھنے والی ہیں۔

### ۱۱۳۳۷ عاتکہ بنت عوف \*

عبدالرحمن کی بہن ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں، ان کے بھائی کے سوانح میں ان کا نسب گزر چکا ہے۔ ابن سعد \* کا قول ہے: شفاء بنت عوف بن عبدالمحارث بن زہرہ ان کی بہن ہیں۔ ان سے محرمہ بن نوفل نے نکاح کیا، جس سے مسور صفوان اکبر اور صلت اکبر اور ام صفوان پیدا ہوئے۔

عاتکہ بنت عوف اور ان کی بہن شفاء بنت عوف دونوں اسلام لائیں اور رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔ ابو عمر \* فرماتے ہیں: انہوں نے اور ان کی بہن شفاء نے ہجرت کی، حرف شین معجمہ میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

### ۱۱۳۳۳ عاتکہ بنت نعیم الأنصاریہ \*

ابو عمر \* کا قول ہے: حمید بن نافع کے پاس ان کی حدیث ابن لہیعہ سے بحوالہ ابوالاسود مروی ہے، انہوں نے زینب بنت ابوسلمہ سے انہوں نے عاتکہ بنت نعیم سے جو عبداللہ بن نعیم کی بہن ہیں روایت کیا ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئیں اور کہنے

\* المعجم الكبير (۸۵۹/۲۴) مجمع الزوائد (۷۱/۶) السيرة النبوية (۱۸۸/۲، ۱۸۹)

\* الطبقات الكبرى (۳۰، ۲۹/۸) \* اسد الغابة (۷۰۸۱) الاستيعاب (۳۴۷۳) تجرید (۲۸۵/۲)

\* الطبقات (۱۸۰/۸) \* الاستيعاب (۱۸۸۰/۴) \* اسد الغابة (۷۰۸۲) الاستيعاب (۳۴۷۴) تجرید (۲۸۵/۲)

\* الاستيعاب (۱۸۸۰/۴)

لگیں: ان کی بیٹی کا شوہر وفات پا گیا ہے، اس نے نوحہ کیا ہے، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں خراب ہو گئی ہیں، مجھے اس کی بینائی جانے کا خوف ہے۔ کیا وہ سرمہ لگا سکتی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”نہیں یہ (عدت) چار مہینے اور دس دن ہے۔ تم میں سے عورت ایک سال تک نوحہ کرتی تھی پھر باہر آتی اور ایک میٹھی پھینکتی کہ ایک سال گزر گیا ہے۔“ \*

میں کہتا ہوں: ابن مندہ نے عثمان بن صالح سے بحوالہ ابن لہیع یہی حدیث روایت کی ہے، لیکن زینب بنت ابوسلمہ اور عاتکہ کے درمیان ام سلمہ کا ذکر کیا، اور عاتکہ انصاریہ کا نسب بیان کیا۔ ابو نعیم عدویہ نے ان کا نسب بیان کیا ہے اور یہی صحیح ہے۔ طبرانی رحمہ اللہ نے اسے دوسرے طریق سے بحوالہ ابن لہیع ذکر کیا ہے۔ انہوں نے حمید بن نافع کے بدلے قاسم بن محمد کا ذکر کیا ہے۔ ابو نعیم نے ان کے درست ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے، اس کے سیاق میں ہے: بحوالہ ام سلمہ، بنت نعیم بن عبداللہ عدوی نبی کریم ﷺ کے پاس آئیں.... پھر حدیث ذکر کی۔

### ۱۱۴۳۹ عاتکہ بنت الولید \*

بن مغیرہ مخزومیہ، خالد بن ولید کی بہن ہیں، جو صفوان بن امیہ کی زوجہ ہیں، مستغفری نے صحابہ رضی اللہ عنہم میں ان کا ذکر کیا ہے۔ محمد بن ثور سے بحوالہ ابن جریج مسنداً ذکر کیا ہے۔ اسلام آیا اور ابوسفیان بن حرب کے پاس چھ بیویاں تھیں اور صفوان بن امیہ کے پاس بھی چھ بیویاں تھیں۔ ام وہب بنت ابوامیہ بن قیس، جو خوبصورت دراز قد خواتین میں سے تھیں فاختہ بنت اسود بن مطلب، امیہ بنت ابوسفیان بن حرب، عاتکہ بنت مغیرہ، برزہ بنت مسعود بن عمرو، بنت ملاعب الاسنہ عاصہ بن مالک۔ انہوں نے ام وہب کو طلاق دے دی، وہ اسلام لا چکی تھیں۔ اسلام نے ان کے اور فاختہ بنت اسود کے درمیان تفریق کرا دی۔ ابوسفیان کے والد نے ان سے نکاح کیا تھا، بعد میں انہوں نے ان سے نکاح کیا۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت میں عاتکہ کو طلاق دے دی۔

### ۱۱۴۵۰ عاصیہ

حرف جیم میں جمیلہ کے سوانح میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

### ۱۱۴۵۱ العالیہ بنت ظبیان \*

بن عمرو بن عوف بن عبداللہ بن ابوبکر بن کلاب کلابیہ۔ ان سے رسول اللہ ﷺ نے نکاح کیا، وہ آپ ﷺ کے پاس کچھ عرصہ رہیں پھر آپ نے انہیں طلاق دے دی۔ ابو عمر \* کا یہی قول ہے، ابن مندہ نے جب ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کا ذکر کیا تو فرمایا: آپ ﷺ نے عالیہ بنت ظبیان کو طلاق دے دی، ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے لیے دوسرے نکاح کی حرمت سے پہلے انہوں نے اپنے چچا زاد سے نکاح کر لیا، اور اولاد ہوئی۔

\* بخاری (۱۲۸۰) مسلم (۳۷۰۹) ابوداؤد (۲۲۹۹) ترمذی (۱۱۹۵) نسائی (۳۵۰۰)

\* اسد الغابۃ (۷۰۸۳) تجرید (۲۸۶/۲) \* اسد الغابۃ (۷۰۸۴) الاستیعاب (۳۴۷۵) تجرید (۲۸۶/۲)

\* الاستیعاب (۱۸۸۱/۴)

میں کہتا ہوں: اسے عبدالرزاق نے اپنی تفسیر میں معمر سے بحوالہ زہری رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا ہے کہ عالیہ بنت ظلمیان وہ خاتون ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دی، انہوں نے نکاح کیا، انہیں ام المساکین کہا جاتا تھا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پر دوسرے نکاح کی حرمت سے پہلے نکاح کیا۔

ابونعیم نے اسے لیث کے طریق سے، عقیل سے بحوالہ زہری اسی طرح نقل کیا ہے، جس میں یہ قول نہیں: انہیں ام المساکین کہا جاتا تھا۔

معمر کے طریق سے بحوالہ یحییٰ بن ابوکثیر مروی ہے، فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوربیعہ کی ایک خاتون جنہیں عالیہ بنت ظلمیان کہا جاتا تھا، ان سے نکاح کیا، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلاق دے دی۔

### ۱۱۳۵۲ عائشہ بنت ابی بکر الصدیق \*

ان کے والد عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہ کے سوانح میں ان کا نسب گزر چکا ہے۔ ان کی والدہ رومان بنت عامر بن عؤیمر کنانیہ \* ہیں۔ بعثت کے چار یا پانچ برس قبل پیدا ہوئیں، صحیح میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا وہ چھ برس کی تھیں، ایک قول ہے، سات برس کی تھیں، ان دونوں کو اس طرح جمع کیا جائے گا کہ انہوں نے چھنا سال مکمل کر لیا تھا اور ساتویں برس میں تھیں، جب ان کی رخصتی ہوئی تو نو برس کی تھیں، ہجرت کا پہلا برس اور شوال کا مہینہ تھا، جیسا کہ ابن سعد نے واقدی رحمۃ اللہ علیہ سے بحوالہ ابورجال، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنی والدہ سے انہوں نے ان سے روایت کیا ہے، فرماتی ہیں: آٹھواں ماہ شروع تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دہن بنایا۔

بعض کا قول ہے: ہجرت کے دوسرے برس، زبیر بن بکار فرماتے ہیں: ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد ان سے نکاح کیا، بعض نے کہا: تین برس بعد، ابو عمر \* فرماتے ہیں: جبیر بن مطعم کی طرف منسوب تھیں۔

میں کہتا ہوں: ابن سعد نے اسے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے نقل کیا ہے، جس میں کبھی بھی ہیں، اسی طرح ابن نمیر سے بحوالہ جاح، انہوں نے ابن ابوملیکہ سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں مطعم سے اس کے بیٹے جبیر کے لیے اس کی زبان کر چکا ہوں، مجھے اس بارے میں ان سے پوچھ لینے دیں، پھر ان سے کہا: کچھ عرصہ ٹھہری رہیں۔

صحیح میں ابو معاویہ کی روایت سے بحوالہ اعمش، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے اسود سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے، فرماتی ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا اور میں چھ برس کی تھی جب میری رخصتی ہوئی تو میں نو برس کی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو میں اٹھارہ برس کی تھی۔

ابن ابوعاصم \* نے یحییٰ قطان کے طریق سے محمد بن عمرو سے انہوں نے یحییٰ بن عبدالرحمن بن حاطب سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے، فرماتی ہیں: جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وفات پا گئیں تو خولہ بنت حکیم بن اوقص جو عثمان بن

منظوعن کی زوجہ تھیں، کہنے لگیں: آپ ﷺ اس وقت مکہ میں تھے، کیا آپ شادی نہیں کرنا چاہتے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”کس سے؟“ کہنے لگیں: اگر آپ چاہیں تو کنواری اور اگر چاہیں تو شادی شدہ، آپ ﷺ نے پوچھا: ”کنواری کون ہے؟“ انہوں نے کہا: اللہ کی مخلوق میں سے آپ کے محبوب ترین شخص کی بیٹی عائشہ بنت ابوبکر۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اور بیوہ کون؟“ انہوں نے کہا: سودہ بنت زمعہ، جو آپ ﷺ پر ایمان لائیں اور آپ کی پیروی کی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جاؤ، اور ان دونوں کے لیے نکاح کا پیغام دو۔“ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر آئیں، وہاں ام رومان تھیں، انہوں نے کہا: اللہ تعالیٰ نے تمہیں خیر اور برکت عطا فرمائی۔ انہوں نے پوچھا: وہ کیا؟ کہنے لگیں: رسول اللہ ﷺ نے مجھے آپ کے پاس عائشہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کا پیغام دے کر بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا: میں یہی چاہتی ہوں، ابوبکر کو آنے دو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، میں نے ان سے ذکر کیا، انہوں نے کہا: اس کا آپ ﷺ سے رشتہ ہو سکتا ہے؟ جبکہ وہ آپ ﷺ کی بھتیجی لگتی ہے؟ میں واپس گئی اور نبی کریم ﷺ سے اس کا ذکر کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ان سے کہو، تم میرے اسلامی بھائی ہو، اور تمہاری بیٹی میرے رشتہ میں آ سکتی ہے۔“

انہوں نے ان کا نکاح آپ ﷺ سے کر دیا، وہ اس وقت چھ برس کی تھیں، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، پھر حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کا قصہ بیان کیا۔

صحیح میں یہ بھی ہے کہ آپ ﷺ نے ان کے سوا اور کسی کنواری سے نکاح نہیں کیا۔ اس پر تمام راویوں کا اتفاق ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کنیت ام عبد اللہ ہے، بعض کا قول ہے: ان کے ہاں نبی کریم ﷺ سے بچہ ہوا جو فوت ہو گیا تھا، بہر حال یہ بات ثابت نہیں۔ بعض کا قول ہے: انہوں نے اپنے بھانجے عبد اللہ بن زبیر پر یہ کنیت رکھی، یہ دوسرا قول ان سے کئی طرق سے منقول ہے، اس میں سے یہ ہے: ابن سعد نے یزید بن ہارون سے انہوں نے حماد سے، انہوں نے ہشام بن عروہ سے انہوں نے عبادہ بن حمزہ سے، انہوں نے عائشہ سے روایت کیا ہے۔

شعیب بن عبد اللہ فرماتے ہیں: حضرت مسروق رضی اللہ عنہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے تو فرماتے: مجھ سے صدیق کی بیٹی صدیقہ نے جو اللہ کے حبیب ﷺ کی محبوبہ ہیں حدیث بیان کی۔

ابوالضحیٰ نے بحوالہ مسروق فرمایا: میں نے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم کو ان سے فرائض کے بارے میں سوال کرتے ہوئے دیکھا، عطاء بن ابی رباح فرماتے ہیں: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تمام لوگوں میں فقیہہ، عالمہ تھیں اور عام لوگوں میں اچھی رائے کی مالک تھیں۔ ہشام بن عروہ بحوالہ اپنے والد فرماتے ہیں: ”فقہ، طب، شعر و شاعری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ (خواتین میں سے) کسی کو دستگاہ حاصل نہ تھی۔“

ابو بردہ بن ابوموسیٰ بحوالہ اپنے والد فرماتے ہیں: جب ہمیں کسی معاملے میں کوئی مشکل پیش آتی تو ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کرتے، انہیں اس کا علم ہوتا۔

زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا علم جمع کیا جائے اور تمام امہات المؤمنین اور صحابیات رضی اللہ عنہن کا علم ان کے مقابلے میں جمع کیا جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا علم زیادہ ہوگا۔ زبیر بن بکار نے ابو زناد سے مسنداً روایت کیا ہے، فرماتے ہیں: میں نے عروہ سے زیادہ شعر روایت کرنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ انہیں کہا گیا: آپ کو شعر کی روایت میں اتنی قدرت کیسے ہوئی؟



انہوں نے کہا: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں میری روایت ایسے ہی ہے انہیں جب بھی کوئی بات پیش آتی تو اس کے متعلق شعر کہہ دیتیں۔

صحیح میں ابو موسیٰ اشعری سے مرفوعاً روایت ہے: ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خواتین پر ایسی فضیلت ہے جیسی شید کی باقی کھانوں پر۔“ ❀

صحیح میں حماد کے طریق سے، ہشام بن عروہ سے بحوالہ اپنے والد مروی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری کے دن لوگ اپنے ہدیے بھیجنے کی کوشش کرتے تھے، فرماتی ہیں: باقی تمام ازواج حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں جمع ہوئیں.... پھر حدیث ذکر کی، اس میں ہے: آپ ﷺ نے تیسری مرتبہ فرمایا: ”مجھے عائشہ کے بارے میں ایذا نہ دو، اللہ کی قسم! تم میں سے اس کے بستر کے سوا مجھ پر وحی نازل نہیں ہوئی۔“ ❀

ترمذی نے ثوری کے طریق سے، ابواسحاق سے بحوالہ عمرو بن غالب نقل کیا ہے کہ کسی نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان میں نازیبا الفاظ کہے تو فرمایا: بکواس بند کرو! کیا تم رسول اللہ ﷺ کی محبوبہ کو ایذا دیتے ہو؟ اسے ابن سعد نے دوسرے طریق سے ابواسحاق سے بحوالہ حمید بن عریب اسی طرح نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: ”بکواس اور یہودہ بات“ اور یہ اضافہ نقل کیا ہے: وہ آپ ﷺ کی جنت میں زوجہ ہیں۔

مسلم میں بطین سے مرسل روایت ہے، فرماتے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”عائشہ رضی اللہ عنہا جنت میں میری زوجہ ہے۔“ ابو محمد مولیٰ غفاری نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: یا رسول اللہ ﷺ! جنت میں آپ کی بیوی کون سی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم ان میں سے ہو۔“

ابواسحاق کے طریق سے بحوالہ سفیان بن سعد روایت ہے، فرماتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ کی ازواج میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے وظیفے میں دو ہزار درہم کا اضافہ کیا، کیونکہ وہ رسول اللہ ﷺ کی محبوبہ ہیں۔

صحیح بخاری رحمہ اللہ میں ابن عون کے طریق سے بحوالہ قاسم بن محمد روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیمار ہوئیں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ آئے اور کہا: اے ام المؤمنین! بے حد سچائی کی بناء پر آپ مجھ سے آگے بڑھ گئیں۔ (حدیث)

ابن سعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ہمیں ہشام نے اور وہ ابن عبد الملک طرابلسی ہیں، خبر دی کہ ہم سے ابو عوانہ نے عبد الملک بن عمیر سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا، فرماتی ہیں: مجھے آپ ﷺ نے اپنی سواک دی جو کسی اور زوجہ کو نہیں دی، جب رسول اللہ ﷺ سے میرا نکاح ہوا تو میں سات سال کی تھی، اور آپ ﷺ کے پاس فرشتہ ہاتھ میں میری تصویر لے کر آیا، تاکہ آپ اسے دیکھ لیں۔ میری رخصتی ہوئی تو میں نو برس کی تھی، میں نے جبرائیل کو دیکھا ہے، میں آپ ﷺ کی ازواج میں آپ ﷺ کو سب سے زیادہ محبوب تھی۔ میں نے آپ ﷺ کی تیمارداری کی ہے جب آپ ﷺ کی وفات ہوئی تو آپ ﷺ کے پاس میرے اور فرشتوں کے علاوہ کوئی موجود نہ تھا۔

دوسرے طریق سے مروی ہے اس میں صیسیٰ بن میمون ہیں جو بہت کمزور راوی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: مجھے دس چیزوں سے فضیلت دی گئی.... پھر انہوں نے ذکر کیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی تصویر لے کر آئے۔

فرماتی ہیں: آپ ﷺ نے میرے سوا کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں کیا اور میرے سوا کسی عورت کے ماں باپ دونوں نے ہجرت نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے میری براءت نازل فرمائی، جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ ﷺ میرے ساتھ ہوتے۔ میں اور آپ ﷺ ایک برتن میں غسل کرتے تھے، وہ نماز پڑھتے اور میں آپ ﷺ کے سامنے سوئی ہوتی۔ میرے حجرے اور میری باری میں آپ ﷺ نے میری ٹھوڑی اور سینے کے درمیان سر رکھے ہوئے وفات پائی، اور آپ ﷺ میرے حجرے میں دفن ہوئے۔ ابن سعد نے ام ذرہ کے طریق سے نقل کیا ہے، فرماتی ہیں: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک لاکھ درہم آئے، انہوں نے سارے تقسیم کر دیئے، وہ اس وقت روزہ سے تھیں، میں نے ان سے عرض کی، آپ اپنے افطار کے لیے ایک درہم کا گوشت خرید سکتی تھیں؟ کہنے لگیں: اگر تم مجھے یاد دلاتی تو ایسا کر لیتی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم ﷺ سے بہت سی احادیث مبارکہ روایت کیں، اسی طرح اپنے والد، حضرت عمر، حضرت فاطمہ، حضرت سعد بن ابودقاص، اسید بن خضیر، جذامہ بنت وہب، حمزہ بنت عمر رضی اللہ عنہا سے احادیث روایت کیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ان صحابہ رضی اللہ عنہم نے روایت کیا، حضرت عمر اور ان کے بیٹے عبداللہ، ابو ہریرہ، ابوموسیٰ، زید بن خالد، ابن عباس، ربیعہ بن عمرو جرشی، سائب بن یزید، صفیہ بنت شیبہ، عبداللہ بن عامر بن ربیعہ، عبداللہ بن حارث بن نوفل وغیرہ رضی اللہ عنہم ان کے گھروالوں میں سے ان لوگوں نے روایت کیا۔ ان کی بہن ام کلثوم، ان کے رضاعی بھائی عوف بن حارث، ان کے بیٹے قاسم اور عبداللہ بن محمد بن ابوبکر، ان کے دوسرے بھائی کی بیٹی حفصہ اور اسماء بنت عبدالرحمن بن ابوبکر اور ان کا پوتا عبداللہ بن ابوعقیق، محمد بن عبدالرحمن، ان کے دونوں بھانجوں عبداللہ اور عروہ جو زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں، جو اسماء بنت ابوبکر سے ہیں، اسماء کے دونوں پوتے عباد اور حبیب جو حضرت عبداللہ بن زبیر کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ کے پوتے عباد بن حمزہ بن عبداللہ بن زبیر، ان کی بھانجی عائشہ بنت طلحہ جو ام کلثوم بنت ابوبکر سے ہیں، ان کے موالی ابوعمر، ذکوان، ابویونس، ابن فروخ، اکابر تابعین میں سے ان سے سعید بن مسیب، عمرو بن میمون، علقمہ بن قیس، مسروق، عبداللہ بن حکیم، اسود بن یزید، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، ابوداؤد اور دوسرے بہت سے لوگوں نے روایت کی۔

اکثر کے نزدیک \* سترہ رمضان کو منگل کے دن ۵۸ھ میں وفات پا گئیں۔ بعض کا قول ہے: ۵۷ھ میں۔ یہ علی بن مدینی کا ابن عیینہ سے بحوالہ ہشام بن عروہ قول ہے، بقیع میں دفن کی گئیں۔

### عائشہ بنت جریج \*

بن عمرو بن رزاح انصاریہ، بنو سلمہ سے ہیں، ابن حبیب نے بیعت کرنے والی خواتین میں ان کا ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں: ابومنذر یزید بن عامر بن حدیدہ کی زوجہ تھیں۔

### ۱۱۳۵۲ عائشہ بنت سعد

بن ابووقاص زہریہ، ان کے والد کے سوانح میں ان کا نسب گزر چکا ہے۔ صحیحین میں سعد بن ابووقاص سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے فرمایا، جب آپ ﷺ تشریف لائے، فتح کے سال یا حجۃ الوداع میں وہ مکہ میں بیمار تھے، میری ایک بیٹی کے علاوہ کوئی وارث نہیں۔

نودی رحمہ اللہ نے مبہمات میں فرمایا: ان کا نام عائشہ ہے، تجرید میں اس کا تعاقب کیا گیا ہے کہ عائشہ بنت سعد تابعیہ ہیں، وہ اتنا عرصہ زندہ رہیں کہ حضرت مالک رحمہ اللہ کی ان سے ملاقات ہوئی، یہ تعاقب ناپسندیدہ ہے۔ کیونکہ جن کا حضرت سعد نے ذکر کیا ہے، بڑی ہیں، وہ جن سے مالک کی ملاقات ہوئی صغریٰ ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ اور اہل علم میں سے کسی نے حضرت عائشہ بنت سعد کبریٰ کے طبقہ کا زمانہ نہیں پایا، اور ربیع صغریٰ تو وہ نبی کریم ﷺ کے بہت عرصے بعد پیدا ہوئیں، انہوں نے ان کا عنوان قائم نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے بعض امہات المؤمنین کا زمانہ پایا۔

### ۱۱۳۵۵ عائشہ بنت ابی سفیان

بن حارث بن زید انصاریہ، بنو عبدالاشہل سے ہیں، ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۳۵۶ عائشہ بنت شبیبہ

بن ربیعہ بن عبد شمس۔ ان کے والد بدر میں قتل ہوئے، ان کا ذکر ہے، ابو زناد فقیہ مدنی کی مولاہ ہیں۔

### ۱۱۳۵۷ عائشہ بنت عبدالرحمن

بن عتیک نصریہ، ان کے شوہر رفاعہ کے سوانح میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔ یہ ابو موسیٰ کا قول ہے۔

### ۱۱۳۵۸ عائشہ بنت عمیر

بن حارث بن ثعلبہ انصاریہ، بنو حرام سے ہیں: ابن حبیب نے بیعت کرنے والی خواتین میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۳۵۹ عائشہ بنت قدامہ

بن مظعون قرشیہ جمحیہ۔ ان کے چچا عثمان بن مظعون کے سوانح میں ان کا نسب گزر چکا ہے۔ ابو عمر کا قول ہے: بیعت کرنے والوں میں سے ہیں، اہل مدینہ میں ان کا شمار ہے۔

میں کہتا ہوں: مکہ میں اور مذکورہ بیعت مکہ میں ہوئی۔

امام احمد رحمہ اللہ نے ان کی حدیث عبدالرحمن بن عثمان بن ابراہیم بن محمد بن طالب کے طریق سے روایت کی ہے، وہ

تجرید (۲۸۶/۲) \* اسد الغابۃ (۷۰۸۸) \* تجرید (۲۸۶/۲) \* اسد الغابۃ (۷۰۸۹) \* تجرید (۲۸۶/۲)

اسد الغابۃ (۷۰۹۱) \* اسد الغابۃ (۷۰۹۲) \* الاستیعاب (۳۴۷۸) \* تجرید (۲۸۶/۲)

الاستیعاب (۱۸۸۶/۴) \* مسند احمد (۳۶۵/۶)

فرماتے ہیں: مجھ سے میرے والد نے بحوالہ اپنی والدہ عائشہ بنت قدامہ روایت کیا، فرماتی ہیں: میں اپنی والدہ راطہ بنت سفیان کے ساتھ تھی اور نبی کریم ﷺ عورتوں سے بیعت لے رہے تھے۔ فرمایا: ”کیا تم اس بات پر بیعت کرتی ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گی؟“۔۔۔۔ (الحديث) اس میں ہے: ”تم بھلائی کے کاموں میں میری نافرمانی نہ کرو گی“۔ انہوں نے سر جھکا لیا۔ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا: ”جہاں تک ہم سے ہو سکا“۔ وہ یہ الفاظ کہہ رہی تھیں اور میں بھی ان کے ساتھ کہہ رہی تھی، میری والدہ نے مجھے تلقین کی، اس لیے جیسا وہ کہہ رہی تھیں میں بھی وہی کہنے لگی۔

ہم نے عالی سند سے ابن مندہ کی کتاب معرفۃ میں دوسرے طریق سے اسے روایت کیا ہے۔ بحوالہ عبدالرحمن بن عثمان، اس میں ہے: اپنی والدہ راطہ بنت سفیان جو خزاعہ کی خاتون ہیں۔ ابو نعیم نے دوسرے طریق سے اس سند کے ساتھ دو احادیث بحوالہ عائشہ بنت قدامہ نقل کی ہیں۔ وہ ان دونوں میں فرماتی ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا، اور وہ ابن سعد کے اس قول پر رد ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے روایت نہیں کی، ان کی روایت میں ہے: ان کی والدہ فاطمہ بنت سفیان ہیں، شائد یہ اس نسخے سے ہو، صحیح یہ ہے، راطہ بنت سفیان بن حارث بن امیہ بن فضل بن مہذ خزاعیہ، فرمایا: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ابراہیم بن محمد بن حاطب سے ہوا، ان سے اولاد ہوئی۔

### ۱۱۳۶۰ عائشہ بنت معاویہ \*

بن مغیرہ بن ابو عاص بن امیہ، عبدالملک بن مروان کی والدہ ہیں: ان کے والد اُحد میں حالت کفر میں قتل ہوئے، ان کی والدہ فاطمہ بنت عامر تھی ہیں، ابن اسحاق کا قول ہے: جب نبی کریم ﷺ اور آپ ﷺ کے اصحاب واقعہ اُحد کے بعد حراء الاسد کی طرف روانہ ہوئے اس اندیشے سے کہ ابوسفیان اور اس کے حواری لوٹ نہ آئیں، انہیں ابو عزمہ تھی اور معاویہ بن مغیرہ جن کا ذکر ہے، ملے۔ آپ ﷺ نے عاصم بن ثابت کو ابو عزمہ کے قتل کا حکم دیا اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے معاویہ کو اس شرط پر امان دی کہ وہ تین دن کے بعد نظر نہ آئے۔ نبی کریم ﷺ نے اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ اور عمار بن یاسر کو بھیجا، اور انہیں فرمایا: ”تم دونوں اسے فلاں مقام پر مقتول پاؤ گے“۔

میں کہتا ہوں: ان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم ﷺ کی زندگی میں سات برس کا زمانہ پایا۔ پہلے گزر چکا ہے کہ مکہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر قریش کے تمام لوگ اسلام لا چکے تھے اور حاضر تھے۔

### ۱۱۳۶۱ عبادہ بنت ابی نائلہ \*

بن سلامہ بن قش النصاریہ۔ ان کے والد کے سوانح میں ان کا نسب گزر چکا ہے۔ ابن حبیب نے بیعت کرنے والوں میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۳۶۲ عتبہ بنت زرارہ \*

بن عدس انصاریہ، ابن حبیب نے بیعت کرنے والوں میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۳۶۳ عجلہ بنت عجلان اللیثیہ \*

بنو لیث بن سعد بن بکر بن عبدمنافہ بن کنانہ سے ہیں۔ رکانہ بن عبد یزید اور ان کے بھائیوں کی والدہ ہیں، یہ وہی ہیں جنہیں ابو رکانہ نے طلاق دی اور نبی کریم ﷺ نے انہیں ان پر لوٹا دیا تھا، عبد یزید کے سوا خ میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

### ۱۱۳۶۴ العجماء الأنصاریہ \*

ابو امامہ بن اہل بن حنیف کی خالہ ہیں، ابو امامہ نے اپنی خالہ عجماء سے روایت کیا، فرماتی ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ”بوڑھا اور بوڑھیا جب زنا کریں تو انہیں یقیناً رجم کیا جائے، اس لیے کہ انہوں نے لذت اٹھائی۔“ طبرانی رحمہ اللہ اور ابن مندہ نے اسے نقل کیا ہے۔

### ۱۱۳۶۵ عدیہ بنت سعد \*

بن خلیفہ بن اشرف انصاریہ۔ بنو حارث بن خزرج بن ساعدہ سے ہیں۔ ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۳۶۶ عزہ بنت الحارث الہلالیہ \*

میمونہ کی بہن ہیں۔ ابو عمر \* نے مختصر ان کا ذکر کیا ہے۔ اور فرمایا: میرے خیال میں کسی نے صحابہ رضی اللہ عنہم میں ان کا ذکر نہیں کیا۔

میں کہتا ہوں: ابن سعد نے غرائب میں صحابیہ خواتین میں ان کی ماں شریک بہنوں کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے، اور کہا ہے وہ حضرت میمونہ ام المؤمنین کی بہن ہیں۔ ان کا نکاح عبداللہ بن مالک بن ہزم سے ہوا جس سے زیادہ، عبدالرحمن، برزہ پیدا ہوئے۔ برزہ سے اصم جو یزید کے والد ہیں پیدا ہوئے۔ بعض کا قول ہے: یزید بن اصم کی والدہ ہیں، فرماتے ہیں، بعض کا قول ہے: برزہ، عزہ کی ماں شریک بہن ہیں۔ فرماتے ہیں، بعض نے کہا: عزہ بنو کلاب کے ایک شخص کے نکاح میں تھیں، ان سے اولاد ہوئی۔

### ۱۱۳۶۷ عزہ بنت خابل \*

ابو عمرہ \* نے ذکر کیا ہے کہ عزہ بنت کامل، پہلا قول صحیح ہے۔ ابن ابوعاصم اور طبرانی نے اوسط میں موسیٰ بن یعقوب کے

\* اسد الغابۃ (۷۰۹۴) تجرید (۲۸۷/۲) \* اسد الغابۃ (۷۰۹۵) تجرید (۲۸۷/۲)

\* المعجم الكبير (۸۱۷/۲۴) \* اسد الغابۃ (۷۰۹۹) الاستیعاب (۳۴۷۹) تجرید (۲۸۷/۲)

\* الاستیعاب (۱۸۸۶/۴) \* اسد الغابۃ (۷۱۰۰) الاستیعاب (۳۴۸۱) تجرید (۲۸۷/۲)

\* الاستیعاب (۱۸۸۶/۴)

طریق سے، عطاء بن مسعود کبھی سے بحوالہ ان کی پھوپھی عذہ بنت خاہل نقل کیا ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئیں، اور ان سے اس بات پر بیعت کی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گی، نہ چوری کریں گی، نہ زنا کریں گی، نہ یہ اذیت دیں گی، نہ کسی بچی کو زندہ درگور کریں گی نہ چھائیں گی۔ عذہ فرماتی ہیں: مجھے معلوم ہے داد تو اولاد کا قتل کرتا ہے، رہا خفی، تو وہ مجھے معلوم نہیں، میں نے رسول اللہ ﷺ سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا، میرے دل میں آیا کہ اس سے مراد بچے کو ضائع کرنا ہے۔ اللہ کی قسم! میں نے اپنا کوئی بچہ ضائع نہیں کیا۔ ابو عمر فرماتے ہیں: ان سے ایک حدیث مروی ہے، جس کی سند درست نہیں۔

### ۱۱۳۶۸ عذہ بنت ابی سفیان \*

بن حرب امویہ، ام حبیبہ جو نبی کریم ﷺ کی زوجہ ہیں، ان کی بہن ہیں۔ یہ ثابت ہے کہ یہ وہی ہیں جنہیں ام المومنین نے نبی کریم ﷺ پر نکاح کے لیے پیش کیا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ میرے لیے حلال نہیں۔“ وہ کہنے لگیں: ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ ابوسلمہ کی بیٹی سے نکاح کریں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ اگر میری پرورش میں نہ ہوتی جب بھی حلال نہ تھی، کیونکہ وہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے، مجھ پر اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو نکاح کے لیے پیش نہ کرو۔“

لیث کی روایت میں بحوالہ یزید بن ابی حبیب، انہوں نے زہری سے انہوں نے نہنب بنت ابوسلمہ سے، انہوں نے ام حبیبہ سے ان کا نام عذہ ذکر کیا ہے، جو مسلم اور نسائی میں ہے۔ \*

حرف دال میں ان کا نام دزہ گزر چکا ہے، ہو سکتا ہے کہ ان دونوں ناموں میں سے ایک ان کا لقب ہو، محفوظ روایت یہ ہے کہ ابوسلمہ کی بیٹی کا نام دزہ ہے۔ صحیح میں بھی ان کا نام مذکور ہے۔

### ۱۱۳۶۹ عذہ بنت ابی لہب

بن عبدالمطلب ہاشمیہ۔ دارقطنی رحمہ اللہ نے کتاب الاخوة میں ان کا ذکر کیا ہے۔ اور فرمایا: ان سے حدیث مروی نہیں۔ ابن سعد فرماتے ہیں: ان سے اونی بن حکیم بن امیہ بن جارش بن اقص سلمی نے نکاح کیا جس سے عبیدہ، سعید اور ابراہیم پیدا ہوئے جو اونی کے بیٹے ہیں۔

### ۱۱۳۷۰ عذہ الاشجعیہ \*

ابوحازم کی مولاہ ہیں، جنہوں نے انہیں آزاد کیا۔ ابو عمر \* کا قول ہے۔ اشعث بن سوار کے پاس بحوالہ منصور ان کی حدیث ہے، انہوں نے ابوحازم اشجعی سے روایت کیا انہوں نے اپنی مولاہ عذہ سے روایت کیا، فرماتی ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ”تمہارے لیے دوسرخ چیزوں میں ہلاکت ہے: سونا اور زعفران۔“ \*

\* اسد الغابۃ (۷۱۰/۱) الاستیعاب (۳۴۸۰) مسلم (۳۵۷۱)

\* اسد الغابۃ (۷۰۹۸) الاستیعاب (۳۴۸۲) تجرید (۲۸۷/۲) الاستیعاب (۱۸۸۶/۴)

\* جامع المسانید والسنن (۶۱۱/۱۵)

### عزیزہ بنت ابی تجراہ (۱۱۳۶۱)

عبد ریحہ، برہ کی بہن ہیں۔ بلا ذری نے ان کا ذکر کیا ہے، اور ابن سعد اور ولید بن صالح دونوں سے بحوالہ واقدی نقل کیا ہے۔ انہوں نے عمیرہ بنت عبد اللہ بن کعب سے، انہوں نے عزیزہ بنت ابی تجراہ سے روایت کیا ہے۔ فرماتی ہیں: قریش چاشت کی نماز سے واقف نہیں تھے، اور مسلمان پانچ نمازوں کے فرض ہونے سے پہلے چاشت اور عصر کی نماز پڑھتے تھے۔ نبی کریم ﷺ اور آپ کے اصحاب جب دن کے آخری حصے میں نماز پڑھنا ہوتی تو گھائیوں میں چلے جاتے اور تنہا نماز ادا کرتے۔

### عصماء بنت الحارث الہلالیہ (۱۱۳۶۲)

ام خالد بن ولید ہیں، انہیں لبابہ صغریٰ کہا جاتا ہے، ابن کلبی نے یہ ذکر کیا ہے، حرف لام میں اس کا ذکر آئے گا۔

### عصہ بنت حَبَّان (۱۱۳۶۳)

بن صخر بن خضاء انصاریہ، بنو حرام سے ہیں۔ ابن حبیب نے بیعت کرنے والوں میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### عُصَيْمَہ (۱۱۳۶۴)

تغیر کے ساتھ ہے، بنت فلاح، ابن سعد نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### عفراء بنت السکن (۱۱۳۶۵)

بن رافع بن معاویہ بن عبید، بنو خزرج سے ہیں، اسعد بن زرارہ کی والدہ ہیں۔ ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### عفراء بنت عبید (۱۱۳۶۶)

بن ثعلبہ بن سواد بن غنم، بعض کا قول ہے: ثعلبہ بن عبید بن ثعلبہ بن غنم بن مالک بن نجار۔ ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ معاذ اور معوذ اور عوف جو بنو حارث کے بیٹے ہیں ان کی والدہ ہیں۔ بعض کا قول ہے: ان میں سے ہر ایک عفراء کا بیٹا ہے۔

ابن سعد رحمہ اللہ کا قول ہے: ان کی والدہ رعاۃ بنت عدی بن معاذ ہیں۔ ان سے حارث بن رفاعہ بن حارث بن سواد نے نکاح کیا، جس سے اولاد ہوئی۔

ابن کلبی فرماتے ہیں: معاذ اور معوذ شہید ہوئے تو ان کی والدہ نبی کریم ﷺ کے پاس آئیں اور کہنے لگیں: یا رسول اللہ ﷺ! عوف بن حارث کے بیٹوں میں سے یہ شریر تو نہیں ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”نہیں۔“

اسد الغابۃ (۷۱، ۲) تجرید (۲۸۷/۲) \* اسد الغابۃ (۷۱، ۳) تجرید (۲۸۷/۲)

اسد الغابۃ (۷۱، ۴) تجرید (۲۸۷/۲) \* الطبقات الکبریٰ (۳۲۵/۸)

ابن اثیر \* کا قول ہے: ابن کلبی کو اس قول سے اتفاق نہیں کہ معاذ بدر کے دن شہید ہوئے۔

میں کہتا ہوں: ان عفراء کو ایسی خصوصیت حاصل ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں۔ انہوں نے حارث کے بعد عکبر بن یاسیل یعنی سے نکاح کیا، ان سے چار بیٹے پیدا ہوئے: ایاس، عاقل، خالد، عامر، سب بدر میں شہید ہوئے۔ ان کے ماں شریک بھائی جو حارث کے بیٹے ہیں، شہید ہوئے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ وہ صحابیہ خاتون ہیں جن کے سات بیٹے ہیں اور سب نبی کریم ﷺ کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔

### ۱۱۳۷۷ عقرب بنت السکن \*

بن رافع۔ ابن سعد \* نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے، مجھے معلوم نہیں، یہ عفراء ہیں جن کے نام میں لفظی غلطی ہو گئی یا ان کی بہن ہیں۔

### ۱۱۳۷۸ عقرب بنت سلامہ \*

بن وقش، ابن سعد \* نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں: ان کی والدہ سہیمہ بنت عبد اللہ واقعہ ہیں، ان کا نکاح رافع بن یزید اشہلی سے ہوا، جس سے اسید پیدا ہوئے۔

### ۱۱۳۷۹ عقرب بنت معاذ \*

بن نعمان بن امرئ القیس بن زید بن عبد الاشہل، ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں: قیس بن خثیم کی زوجہ ہیں، یزید بن قیس اور ان کے بھائی ثابت بن قیس کی والدہ ہیں۔ ابن سعد \* کا قول ہے: سعد بن معاذ کی سگی بہن ہیں، اسلام لائیں اور بیعت کی، ان کا نکاح یزید بن گرز بن زعوراء بن عبد الاشہل سے ہوا، جن سے رافع اور حواء پیدا ہوئے، ان کے بعد قیس بن خثیم سے نکاح ہوا، جس سے ثابت اور یزید پیدا ہوئے، اسی سے ان کی کنیت ہے، حجر کے دن شہید ہوئے۔

### ۱۱۳۸۰ عقیلہ بنت عتیک \*

بن حارث عتورایہ، ابو عمر کا قول ہے: ہجرت کرنے والی اور بیعت کرنے والی خاتون ہیں۔ مدینے کی رہنے والی ہیں۔ ان کی حدیث موسیٰ بن عقبہ کے ہاں ہے۔

میں کہتا ہوں: طبرانی نے اسے بکار بن عبد اللہ بن عبیدہ عبدی کے طریق سے بحوالہ ان کے چچا موسیٰ بن عبیدہ روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں: مجھ سے زید بن عبد الرحمن بن ابوسلامہ نے بحوالہ اپنی والدہ حجتہ بنت قریط انہوں نے ان دونوں کی والدہ عقیلہ

\* اسد الغابۃ (۳۴۶/۵) تجرید (۲۸۸/۲) الطبقات الکبریٰ (۲۷۰/۸)

\* اسد الغابۃ (۷۱۰/۵) تجرید (۲۸۸/۲) الطبقات الکبریٰ (۲۳۵/۸)

\* اسد الغابۃ (۷۱۰/۶) تجرید (۲۸۸/۲) الطبقات الکبریٰ (۱۳۱/۸)



بنت عتیک بن حارث سے نقل کیا ہے، فرماتی ہیں: میں اور میری والدہ بڑیرہ بنت حارث بخوار یہ مہاجر خواتین کے ساتھ آئیں، انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی، آپ ﷺ نے مقام اٹح میں ایک خیمہ لگایا ہوا تھا۔  
 آپ ﷺ نے ہم سے یہ شرط رکھی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گی، نہ چوری کریں گی..... (الحديث) اس میں ہے: ہم نے اپنے ہاتھ بیعت کرنے کے لیے بڑھائے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا“۔ آپ ﷺ نے ہمارے لیے بخشش کی دعا کی، یہ ہماری بیعت تھی۔

طبرانی رحمہ اللہ نے اسی طرح زید بن حباب کے طریق سے بحوالہ موسیٰ بن عبیدہ روایت کیا ہے، اور ان سے مروی روایت میں فرمایا: زید بن عبد اللہ، حدیث میں ان کی جو یہ بات ہے کہ آپ ﷺ..... یہ بات دلالت کرتی ہے کہ وہ مکہ میں تھے۔  
 ابو موسیٰ ذیل میں فرماتے ہیں: بخاری اور طبرانی رحمہما اللہ نے اسے عقیلہ ذکر کیا ہے، اور ابن مندہ نے غفیلہ ذکر کیا ہے۔  
 میں کہتا ہوں: ابو نعیم نے درست کہا، اسی طرح خطیب نے مؤلف میں فرمایا، اور ان کی حدیث زید بن حباب کے طریق سے نقل کی ہے، اور اپنی روایت میں فرمایا: میں اور میری والدہ فروہ دونوں اکٹھی ہوئیں (یہ نام ف اور واؤ سے پہلے راسا کن کے ساتھ ہے) یہ وہم ہے۔

#### عُكْنَاءُ (۱۱۳۸۱)

نون یا ث کے ساتھ، بنت ابوصفرہ اسدیہ، مہلب کی بہن ہیں۔ ابن مندہ کا قول ہے: ہمیں محمد بن محمد بن یعقوب نے بتایا، وہ فرماتے ہیں: ہمیں ابن صاعد نے بتایا وہ فرماتے ہیں: ہم سے محمد بن یحییٰ ازدی نے روایت کی، انہوں نے فرمایا: ہم سے ہشام بن سفیان نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے عبید اللہ بن عبد اللہ نے، بحوالہ ابوشعنا روایت کی، فرمایا: عکنا یا عکنا بنت ابوصفرہ، مہلب کی بہن فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ نے دس تاریخ کو عاشوراء کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، میں نے ان سے ابوشعنا کے بارے میں دریافت کیا، انہوں نے فرمایا: ”وہ مجہول شیخ ہیں اور جابر بن زید نہیں۔“

میں کہتا ہوں: ابواحمد حاکم نے کئیوں میں ان ابوشعنا کا ذکر نہیں کیا، ابن حبان نے ثقات میں ہشام بن سفیان کا ذکر کیا، اور چوتھے طبقے میں فرماتے ہیں: ہشام بن سفیان محدثی وہ عبید اللہ بن عبد اللہ عتکی سے بحوالہ ابو بریدہ روایت کرتے ہیں: ان کی ابوشعنا سے روایت کا ذکر نہیں کیا، اور تابعین کی کئیوں میں ابوشعنا کے ذکر پر اعتناء نہیں کیا۔

#### عُلَيْيَّةُ (۱۱۳۸۲)

بنت شریح حضری، سائب بن زید کی ماں شریک بہن ہیں۔ خرمہ بن شریح کی بہن ہیں جن کا ذکر نبی ﷺ کے سامنے ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ ایسا شخص ہے جو قرآن کو ٹکیر نہیں بناتا۔“

اسد الغابۃ (۷۱۰۸) تجرید (۲/۲۸۸) جامع المسانید والسنن (۱۱۳/۱۵)

اسد الغابۃ (۷۱۱۰) تجرید (۲/۲۸۸) نسائی (۱۷۸۲) احمد (۴۴۹/۳) طبرانی (۷/۶۶۵۴)

### ۱۱۳۸۳ عمارہ بنت حباشہ

بن جبیر، ابن سعد نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۳۸۴ عمارہ بنت حمزہ

بن عبدالمطلب، سلمی بنت عمیس کے سوانح میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

### ۱۱۳۸۵ عمارہ بنت ابی ایوب

خالد بن زید انصاری۔ ابن حبیب نے نبی کریم ﷺ سے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ ابن سعد نے بھی ان کا ذکر کیا اور فرمایا: ان سے صفوان بن اوس بن جابر بن قُطُ نے جو بنو معاویہ بن مالک بن نجار سے ہیں، نکاح کیا، ان سے خالد بن صفوان پیدا ہوئے۔

### ۱۱۳۸۶ عمرہ بنت البرصاء

بنت حارث ہیں، جن کا ذکر آ رہا ہے۔

### ۱۱۳۸۷ عمرہ بنت الحارث

بن ابوضرار نخوعیہ، مصطلقیہ۔ ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کی بہن ہیں۔ محمد بن عمرو بن ابوضرار سے بحوالہ ان کی پھوپھی عمرہ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے روایت کی ہے: ”دنیا میٹھی اور سرسبز ہے، جس نے اس سے حلال طریقے سے کوئی شے حاصل کی، اسے اس میں برکت دی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے مال میں ملوث ہوتے ہیں جن کے لیے قیامت کے روز جہنم ہے۔“

ابن ابوعاصم اور عبد اللہ بن احمد نے اسے زیادات زہد میں اور ابن مندہ نے خالد بن سلمہ کی روایت سے بحوالہ محمد بن عمرو بن حارث نقل کیا ہے۔

### ۱۱۳۸۸ عمرہ بنت الحارث

بن ابی عوف، قرصاف کی بہن ہیں۔ مرزبانی نے ان کی بہن اور والدہ برصاء کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے۔ بعض کا قول ہے: ان کا نام امامہ ہے۔

### ۱۱۳۸۹ عمرہ بنت حارثہ

بن نعمان انصاریہ، بنو مالک بن نجار سے ہیں۔ ابن سعد فرماتے ہیں: ان سے قیس بن عمرو بن سہل بن ثعلبہ نے نکاح کیا

تجريد (۲۸۸/۲) \* اسد الغابۃ (۷۱۱) \* تجريد (۲۸۸/۲)

اسد الغابۃ (۷۱۱) الاستيعاب (۳۴۸۶) تجريد (۲۸۹/۲) \* الاحاد والمثنائى (۸۵/۶)

جو بنو عمرو بن عوف سے ہیں، اسلام لائیں اور بیعت کی۔

www.KitaboSunnat.com

### ۱۱۳۹۰ عمرہ بنت حزام ❊

بعض کا قول ہے: بنت حزم، انصاریہ۔ سعد بن ربیع کی زوجہ ہیں۔ حدیث جابر میں ان کا ذکر ہے جسے ابن ابوعاصم ❊ اور طبرانی ❊ وغیرہ نے یحییٰ بن ایوب کے طریق سے بحوالہ محمد بن ثابت بنانی، انہوں نے محمد بن منکدر سے، انہوں نے جابر سے، انہوں نے عمرہ بنت حزم سے روایت کیا ہے۔

آپ ﷺ کے لیے بکری ذبح کی گئی، آپ ﷺ نے اس سے کھایا اور وضو کیا پھر ظہر کی نماز پڑھی، پھر آپ ﷺ کے سامنے یہ گوشت پیش کیا گیا، آپ ﷺ نے تناول فرمایا اور عصر کی نماز ادا کی، پھر دوبارہ وضو نہیں کیا۔ طبرانی رحمہ اللہ نے بنت حرام اور دوسرے راویوں نے بنت حزم لکھا ہے۔ ابو عمر ❊ نے اسی کا یقین کیا ہے اور اسے مختصر ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۳۹۱ عمرہ بنت حزم الانصاریہ

جابر نے ان سے آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو نہ کرنے کے بارے میں حدیث ذکر کی ہے، ابن مندہ کا قول ہے: اسے عبداللہ بن محمد بن عقیل نے بحوالہ جابر روایت کیا ہے اور ان کا نام نہیں لیا۔ ابن سعد نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں: عمرہ بنت حزم بن زید بن لؤذان بن عمرو بن عبد بن عوف بن غنم بن مالک بن نجار، فرماتے ہیں: عمرو بن حزم کی بہن اور ان کے دونوں بھائیوں عمارہ اور معمر کی سگی بہن ہیں، ان کی والدہ خالدہ بنت ابوانس ہیں۔

### ۱۱۳۹۲ عمرہ بنت الربیع ❊

بن نعمان بن یساف انصاریہ، بنو مالک بن نجار سے ہیں۔ ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں: ان کا نام عمیرہ ہے۔

### ۱۱۳۹۳ عمرہ بنت رواحہ الانصاریہ ❊

ان کے بھائی عبداللہ بن رواحہ کے سوانح میں ان کا نسب گزر چکا ہے۔ بشیر بن سعد کی زوجہ ہیں جو نعمان کے والد ہیں۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے بشیر سے سوال کیا کہ ان کے بیٹے کو اس کے دوسرے بھائیوں سے علیحدہ خاص عطیہ دے۔ نبی کریم ﷺ نے اسے رد کر دیا، صحیحین ❊ میں حدیث ہے۔

یہ وہی ہیں جن کا قیس بن خثیم نے اپنے قصیدے کی تشبیب میں ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا: ”عمرہ ان سردار عورتوں میں سے ہے جس کی آستینیں خوشبو سے مہکتی رہتی ہیں۔“ ❊

❊ اسد الغابۃ (۷۱۱۶) الاستیعاب (۳۴۸۷) تجرید (۲۸۸۹/۲) ❊ الاحاد والمثنائی (۲۶۳/۶)

❊ المعجم الكبير (۸۴۸/۲۴) ❊ الاستیعاب (۱۸۸۷/۴) ❊ اسد الغابۃ (۷۱۱۷) تجرید (۲۸۹/۲)

❊ اسد الغابۃ (۷۱۱۸) تجرید (۲۸۹/۲) ❊ بخاری (۲۵۸۷، ۲۶۵۰) مسلم (۴۱۶۱)

❊ دیوان قیس بن خثیم (۲۵، ۲۴) (۱۹۹، ۱۹۸)

بعض کا قول ہے: قیس بن خطیم نے ان سے نکاح کیا، جب حسان نے عمرہ کے بارے میں جو قیس کی بہن ہیں شعر کہے تو قیس نے ان کے بارے میں شعر کہے، بعض کا قول ہے: قیس کی بہن کا نام لیلیٰ ہے۔ وہ صحیح ہے۔ بعض نے کہا: جس کے بارے میں حضرت حسان نے شعر کہے وہ عمرہ بنت صامت بن خالد بن عطیہ ہے جسے انہوں نے طلاق دے دی تھی پھر انہیں دل سے نہ بھلا سکے۔

زبیر بن بکار نے یہ اپنے چچا مصعب سے نقل کیا ہے، مسند طرابلسی \* نے بحوالہ شعبہ، انہوں نے محمد بن نعمان سے، انہوں نے طلحہ یامی سے، انہوں نے عبد القیس کی زوجہ سے، انہوں نے عبد اللہ بن رواحہ کی بہن سے نقل کیا۔ فرماتی ہیں: ”ہر بالغہ عورت پر نکلنا واجب قرار دیا گیا، یعنی نماز عید وغیرہ کے لیے۔“

#### ۱۱۳۹۳ عمرہ بنت سعد

بن عمرو بن زید مناة بن عدی بن عمرو بن مالک بن نجار، بعض نے کہا: بنت سعد بن قیس، ابو موسیٰ کا قول ہے: سعد بن عبادہ کی والدہ ہیں، بعض نے کہا: عمرہ بنت مسعود ان کا ذکر آگے آ رہا ہے۔

#### ۱۱۳۹۵ عمرہ بنت سعد

بن مالک بن خالد ساعدی، سہل بن سعد کی بہن ہیں، عیسہ میں ان کا ذکر آئے گا۔

#### ۱۱۳۹۶ عمرہ بنت السعدی \*

بن و قدان بن عبد شمس عامریہ۔ ان کے بھائی عبد اللہ بن سعدی کے سوانح میں ان کا نسب گزر چکا ہے۔ ابن اسحاق \* نے حبشہ کی سرزمین کی طرف ہجرت کرنے والوں میں ان کا ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں: مالک بن قیس بن ربیعہ اور ان کے ساتھ ان کی زوجہ عمرہ بنت سعدی ہیں، بعض نے کہا: ان کا نام عیسہ ہے۔

#### ۱۱۳۹۷ عمرہ بنت عویم \*

مستغفری رضی اللہ عنہ نے بخاری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ان کا ذکر کیا ہے اور ابو موسیٰ نے اپنے استدراک میں ان کا ذکر کیا ہے۔

#### ۱۱۳۹۸ عمرہ بنت قیس \*

بن عمرو انصاریہ۔ ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ ابو شیخ بن ثابت کی والدہ ہیں جو حسان کے بھائی ہیں، یہ ابن حبیب کا قول ہے۔ ابن سعد \* نے اس کی مخالفت کی ہے، فرماتے ہیں: ان کے والد کا نام مسعود ہے جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔

\* مسند طرابلسی (۱۶۲۲) اسد الغابۃ (۷۱۲۰) تجرید (۲۸۹/۲)

\* السیرۃ النبویۃ (۲۶۰/۱) (۹۰۵/۴) اسد الغابۃ (۷۱۲۱) تجرید (۲۸۹/۲)

\* اسد الغابۃ (۷۱۲۲) تجرید (۲۸۹/۲) الطبقات الکبریٰ (۲۹۹/۸)

### ❖ ۱۱۳۹۹ عمرہ بنت مرثد ❖

اسماء کی بہن ہیں، ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ❖ ۱۱۵۰۰ عمرہ بنت مسعود ❖

بن اوس بن مالک بن سواد بن ظفر انصاریہ۔ ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں: عبد اللہ بن محمد بن سلمہ کی والدہ ہیں۔

### ❖ ۱۱۵۰۱ عمرہ بنت مسعود ❖

بن حارث بن رفاعہ انصاریہ، بنو نجار سے ہیں، ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ❖ ۱۱۵۰۲ عمرہ بنت مسعود ❖

بن زرارہ بن عدی انصاریہ، بنو مالک بن نجار سے ہیں، ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ ابن سعد فرماتے ہیں: اسعد بن زرارہ کی بیٹی ہیں، ان کی والدہ مخزومیہ ہیں۔ ان سے علقمہ بن عمرو بن یغوث بن مالک بن مہذول نے نکاح کیا، عمرہ اسلام لائیں اور بیعت کی۔

### ❖ ۱۱۵۰۳ عمرہ بنت مسعود بن قیس ❖

بن عمرو بن زید مناة بن عدی بن عمرو بن مالک بن نجار سعد بن عبادہ کی والدہ ہیں۔ نبی کریم ﷺ کی حیات مبارکہ میں ۵ھ میں وفات پائی۔ ابن سعد رحمہ اللہ کا قول ہے: انہوں نے وفات پائی اور نبی کریم ﷺ غزوہ دومتہ الجندل میں تھے، یہ ربیع الاول کا واقعہ ہے، جب نبی کریم ﷺ مدینہ تشریف لائے تو ان کی قبر پر آئے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ میں کہتا ہوں: یہ ثابت ہے کہ انہوں نے وفات پائی تو نبی کریم ﷺ سے ان کے بیٹے نے ان کی طرف سے صدقہ کرنے کے بارے میں پوچھا۔

### ❖ ۱۱۵۰۴ عمرہ بنت مسعود الصغری ❖

سعد بن عبادہ کی خالہ ہیں۔ اوس بن زید بن اصرم بن زید بن ثعلبہ بن غنم کی زوجہ تھیں، ان سے ابو محمد پیدا ہوئے، ان کا نام مسعود بن اوس تھا، ان سے اس کے بعد کھل بن ثعلبہ بن حارث بن زید نے نکاح کیا، جس سے عمر، زغیہ پیدا ہوئے، اسلام لائیں اور بیعت کی۔

❖ اسد الغابۃ (۷۱۲۳) تجرید (۲۸۹/۲) ❖ المحبر (۴۱۳)

❖ اسد الغابۃ (۷۱۲۴) الاستیعاب (۳۴۸۹) تجرید (۲۸۹/۲) ❖ اسد الغابۃ (۷۱۲۵) تجرید (۲۸۹/۲)

❖ المحبر (۴۳۱) ❖ اسد الغابۃ (۷۱۲۶) تجرید (۲۸۹/۲) ❖ اسد الغابۃ (۷۱۲۶) تجرید (۲۸۹/۲)

❖ تجرید (۲۸۹/۲)

### ۱۱۵-۵ عمرہ بنت مسعود

بن قیس انصاریہ۔ ان دونوں کی بہن ہیں جو پہلے گزر چکی ہیں۔ ابن سعد کا قول ہے: یہ پانچ بہنیں تھیں، ان میں سے ہر ایک کا نام عمرہ تھا، اسلام لائیں اور بیعت کی، یہ تیسری ہیں، ان کی والدہ عمیرہ بنت عمرو بن حرام بن زید مناة تھا۔ ثابت بن منذر بن حرام نے جو حمان اور ان کے بھائیوں کے والد ہیں، ان سے نکاح کیا، جس سے ابوشخ بن ثابت پیدا ہوئے، جن کا نام ابی تھا، وہ بدر میں شریک تھے۔ اسلام لائے اور بیعت کی۔

### ۱۱۵-۶ عمرہ بنت مسعود

بن قیس رابعہ، اپنے سے پہلے والی کی سگی بہن ہیں۔ زید بن مالک بن عبدوڈ بن کعب بن عبد الاشہل نے ان سے نکاح کیا۔ ان سے سعد اور ثابت پیدا ہوئے۔

### ۱۱۵-۷ عمرہ بنت مسعود

بن قیس خامسہ ہیں، اپنے سے پہلے والی دو عمرہ کی سگی بہنیں ہیں، قیس بن عمرو جو بنو نجار سے ہیں ان کی والدہ ہیں۔

### ۱۱۵-۸ عمرہ بنت معاویہ الکندیہ

ابو نعیم نے ان خواتین میں ان کا ذکر کیا ہے جن سے نبی کریم ﷺ نے نکاح کیا اور رخصتی نہیں ہوئی، محمد بن اسحاق کے طریق سے بحوالہ حکیم بن حکیم، انہوں نے محمد بن علی بن حسین سے، انہوں نے اپنے والد سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے کندہ سے، عمرہ بنت معاویہ سے نکاح کیا۔

مجالد کے طریق سے بحوالہ شععی بن شعیب نقل کیا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے کندہ کی ایک خاتون سے نکاح کیا، وہ نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد لائی گئیں۔

### ۱۱۵-۹ عمرہ بنت ہرال

بن عمرو بن اوس انصاریہ، بنو عمرو بن عوف بن خزرج سے ہیں۔ ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۵-۱۰ عمرہ بنت یزید الکلابیہ

ابن اسحاق نے یونس بن بکیر کی روایت سے ان کا ذکر ان خواتین میں کیا ہے جن سے نبی کریم ﷺ نے نکاح کیا،

تجرید (۲۸۹/۲) \* تجرید (۲۸۹/۲) \* تجرید (۲۸۹/۲)

اسد الغابۃ (۷۱۲۷) تجرید (۲۹۰/۲) \* اسد الغابۃ (۷۱۲۸) تجرید (۲۹۰/۲)

المحجر (۴۲۴) \* اسد الغابۃ (۷۱۲۹) الاستیعاب (۳۴۹۰) تجرید (۲۹۰/۲)

اسد الغابۃ (۷۱۲۹) تجرید (۲۹۰/۲)

فرماتے ہیں: عمرہ بنت یزید سے جو بنو ابوبکر بن کلاب کی ایک خاتون تھیں، نبی کریم ﷺ نے نکاح کیا، یہ بنو حید کی شاخ ہے، فضل بن عباس بن عبدالمطلب نے ان سے نکاح کیا پھر طلاق دے دی۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے رخصتی سے قبل انہیں طلاق دے دی تھی۔ ان کے نسب کے بارے میں کہا گیا: عمرہ بنت یزید بن عبید بن اوس بن کلاب۔

### ۱۱۵۱۱ عمرہ بنت یزید بن الجون

بعض کا قول ہے: رسول اللہ ﷺ نے ان سے نکاح کیا، آپ ﷺ کو یہ بات پہنچی کہ انہیں برص کا مرض ہے، تو آپ ﷺ نے انہیں طلاق دے دی، ان کی رخصتی نہیں ہوئی۔ بعض کا قول ہے: انہوں نے آپ ﷺ سے پناہ مانگی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تمہیں پناہ دینے والے کی پناہ ملی“۔ پھر انہیں طلاق دے دی، اور اسامہ بن زید کو حکم دیا کہ انہیں تین کپڑے دے دیں، اسے ہشام بن عروہ نے بحوالہ ان کے والد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔

### ۱۱۵۱۲ عمرہ بنت یزید بن السکن

بن رافع بن امری القیس اشہلیہ۔ ابن حبیب \* نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۵۱۳ عمرہ بنت یسار

بن اذہیر۔ ابوموسیٰ نے ذیل میں ان کا ذکر بحوالہ مستغفری کیا ہے اور فرمایا: انہیں شرف صحابیت حاصل ہے۔

### ۱۱۵۱۴ عمرہ بنت یعار

بعض کا قول ہے: یہ وہی ہیں جنہوں نے سالم مولیٰ ابوحنیفہ کو آزاد کیا، مشہور ہے کہ ان کا نام ثبیتہ ہے۔

### ۱۱۵۱۵ عمرہ الأشہلیہ

ابن مندہ نے ان کا ذکر کیا ہے اور یوسف بن نافع کے طریق سے، بحوالہ عبیدہ راعی، انہوں نے عمرہ اشہلیہ سے نقل کیا ہے، فرماتی ہیں: ہمارے پاس رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور ہماری مسجد میں ظہر اور عصر کی نماز پڑھی۔ آپ ﷺ روزہ سے تھے، جب سورج غروب ہوا، مؤذن نے اذان دی، آپ ﷺ کے پاس افطاری کے لیے بازو اور کندھے کا بھنا ہوا گوشت لایا گیا، آپ ﷺ اسے دانتوں سے کاٹ کر کھانے لگے، پھر مؤذن نے اذان دی، انہوں نے ایک کپڑے سے اپنے ہاتھ صاف کیے، کھڑے ہوئے اور نماز ادا کی، جبکہ پانی سے اعضاء نہیں دھوئے۔

آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو نہ کرنے کے بارے میں عمرہ بنت حزم کی حدیث گزر چکی ہے۔ شاید وہ یہی ہیں۔ دونوں حدیثوں کے سیاق میں تعدد ہے (یعنی وہ الگ ہے اور یہ الگ)۔

\* اسد الغابۃ (۷۱۲۹) تجرید (۲۹۰/۲) \* اسد الغابۃ (۷۱۳۰) تجرید (۲۹۰/۲)

\* المعبر (۴۱۶) \* اسد الغابۃ (۷۱۳۱) الاستیعاب (۳۴۹۱) تجرید (۲۹۰/۲)

\* اسد الغابۃ (۷۱۳۲) تجرید (۲۹۰/۲) \* اسد الغابۃ (۷۱۱۲) تجرید (۲۸۸/۲)

### ۱۱۵۱۶ عمیرہ

بنت ثابت بن نعمان ظفریہ، ابن سعد \* نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۵۱۷ عمیرہ بنت جبیر

بن صخر بن امیہ بن خضاء بن عبید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمہ سلمیہ۔ ابن سعد نے ان کا ذکر کیا ہے۔ اور فرمایا: ان سے کعب بن مالک نے نکاح کیا، جس سے عبداللہ، فضالہ، وہب، معبد، خولہ، سعاد پیدا ہوئے۔ عمیرہ نے بیعت کی اور دونوں قبلوں کی جانب نماز پڑھی، ان کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے حدیث سنی۔

### ۱۱۵۱۸ عمیرہ بنت العارث

بن عبد رزاح ظفریہ۔

### ۱۱۵۱۹ عمیرہ بنت ابی الحکم

رافع بن سنان، ان سے بکر بن بکار نے بحوالہ عبد الحمید بن جعفر روایت کیا، مجھ سے میرے والد اور ہماری قوم کے کئی لوگوں نے روایت کیا کہ ابوالحکم اسلام لائے اور ان کی زوجہ اسلام نہیں لائی، وہ نبی کریم ﷺ کے پاس آئی اور کہنے لگی: ابوالحکم نے میری بیٹی لے لی ہے اور اسے اپنے پاس روکا ہوا ہے، آپ ﷺ نے ابوالحکم کو حکم دیا وہ ایک کونے میں بیٹھ گئے، اور عورت کو حکم دیا وہ دوسرے کونے میں بیٹھ گئی، ان دونوں کے درمیان اس بچی کو رکھا، پھر فرمایا: ”تم دونوں اسے بلاؤ“۔ ان دونوں نے اسے بلایا، وہ بچی اپنی والدہ کی طرف مائل ہوئی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے اللہ! اسے ہدایت دے“۔ وہ اپنے والد کی طرف چلی گئی۔ انہوں نے اسے لے لیا، \* ان کا نام عمیرہ ہے۔

ابو نعیم اور ابوموسیٰ نے اپنے طریق سے اسے نقل کیا ہے، اور دارقطنی رحمہ اللہ نے دوسرے طریق سے اسے بحوالہ عبد الحمید بن جعفر، انہوں نے اپنے والد، انہوں نے اپنے دادا سے نقل کیا ہے۔

نسائی، ابن ماجہ دوسرے طریق سے بحوالہ عثمان اللیشی اسے نقل کیا ہے، فرمایا: بحوالہ عبد الحمید بن سلمہ، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا سے، بعض نے اسے مرسل روایت کیا ہے۔ ابوموسیٰ فرماتے ہیں: اس طریق کے علاوہ منقول ہے، اور لڑکی کا نام نہیں لیا۔

### ۱۱۵۲۰ عمیرہ بنت خُمَاشہ

یا خُباشہ انصاریہ، بنو خُشمہ سے ہیں۔ ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔

\* تجرید (۲۹۰/۲) \* الطبقات الکبریٰ (۲۴۹/۸) \* تجرید (۲۹۰/۲)

\* تجرید (۲۹۰/۲) \* اسد الغابہ (۷۱۳۳) \* تجرید (۲۹۰/۲)

\* ابوداؤد (۲۲۴۴) نسائی (۳۴۹۵) ابن ماجہ (۲۳۵۲) مسند احمد (۴۴۶/۵)

\* اسد الغابہ (۷۱۳۴) \* تجرید (۲۹۰/۲)



### ۱۱۵۲۱ عمیرہ بنت ابی خنیثمہ \*

عبداللہ بن ساعدہ کے سواخ میں ان کا ذکر ہے، اُمیہ بنت ابی خنیثمہ کی بہن ہیں، حرف ہمزہ میں جن کا ذکر گزر چکا ہے۔ ابن سعد کا قول ہے: اسلام لائیں اور بیعت کی، ان سے یزید بن اسید بن ساعدہ نے نکاح کیا وہ ان کے چچا زاد ہیں، اس کے بعد یزید بن یزبوع بن زید ظفیری نے ان سے نکاح کیا۔

### ۱۱۵۲۲ عمیرہ بنت الربیع \*

بن اساف، عمرہ میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

### ۱۱۵۲۳ عمیرہ بنت سعد \*

بن عامر بن عدی بن ہشیم انصاریہ۔ ابن سعد نے بیعت کرنے والی خواتین میں ان کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا: ان سے کباش بن اوس بن قحطی بن عمرو بن زید بن ہشیم نے نکاح کیا۔

### ۱۱۵۲۵ عمیرہ بنت السعدی \*

عمرہ میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

### ۱۱۵۲۶ عمیرہ بنت سہل \*

بن رافع، دو صاع صدقہ کرنے والے ہیں، جنہیں منافقین نے طعنہ دیا تھا۔ ابن مندہ فرماتے ہیں: انہوں نے نبی کریم ﷺ کا زمانہ پایا ہے۔ ابو عمر \* کا قول ہے: حضرت سہل اپنی بیٹی عمیرہ اور ایک صاع کھجور لے کر آئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے ایک حاجت ہے، آپ ﷺ نے پوچھا: ”وہ کیا؟“ عرض کیا: آپ اللہ سے میرے لیے اور میری بیٹی کے لیے دعا کریں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیریں، اس کے علاوہ میری کوئی اولاد نہیں۔ عمیرہ فرماتی ہیں: آپ ﷺ نے اپنی ہتھیلی میرے سر پر رکھی، اللہ کی قسم! آپ ﷺ کے ہاتھ کی ٹھنڈک مجھے جگر تک پہنچی \* ہوئی محسوس ہوتی ہے۔

میں کہتا ہوں: اسے ابن مندہ نے عیسیٰ بن یونس کے طریق سے، سعید بن عثمان بلوی سے بحوالہ ان کی دادی روایت کیا ہے، عمیرہ بنت سہل نے ان سے حدیث بیان کی کہ ان کے والد دو صاع کھجور صدقہ، اور اپنی بیٹی عمیرہ کو لے کر نکلے، یہاں تک کہ نبی کریم ﷺ کے پاس پہنچے، وہ دو صاع انڈیل دیئے.... پھر باقی حدیث انہی الفاظ کے ساتھ ذکر کی ہے۔

### ۱۱۵۲۷ عمیرہ بنت سہیل \*

بن ثعلبہ بن حارث بن زید بن ثعلبہ بن غنم بن مالک بن نجار انصاریہ۔ ابن سعد نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا

\* تجرید (۲۹۰/۲) \* تجرید (۲۹۰/۲) \* اسد الغابہ (۷۱۳۶) تجرید (۲۹۱/۲) \* الاستیعاب (۱۸۸۸/۴)

\* طبرانی (۸۴۹/۲۴) الحدیث (۵۶۵۰/۱) مجمع الزوائد (۳۳/۷) جامع المسانید والسنن (۶۱۹/۱۵)

\* تجرید (۲۹۱/۲)

ذکر کیا ہے اور فرمایا: امیمہ بنت عمرو بن حارث بن قیس بن وقش ساعدیہ ان کی والدہ ہیں، ان سے ابوامامہ اسعد بن زرارہ نے نکاح کیا، جس سے ان کی بیٹیاں، فزریہ، کبشہ اور حبیبہ پیدا ہوئیں، ان سب نے بیعت کی۔

### ۱۱۵۲۸ عمیرہ بنت ظہیر

بن رافع بن عدی انصاریہ، بنو خثعم سے ہیں، ان کے والد کے سوانح میں ان کا نسب گزر چکا ہے، ابن سعدؒ اور ابن حبیب نے بیعت کرنے والوں میں ان کا ذکر کیا ہے۔ ابن سعد کا قول ہے: ان کی والدہ فاطمہ بنت بشر بن عدی ہیں جو مریح بن قنظین کی زوجہ ہیں۔

### ۱۱۵۲۹ عمیرہ بنت عبد سعد

بن عامر بن عدی: ابن سعد اور ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۵۳۰ عمیرہ بنت عبید

بن معروف یا مطروف بن حارث بن زید بن عبید انصاریہ، بنو عمرو بن عوف سے ہیں، ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۵۳۱ عمیرہ بنت عقبہ

بن ائجہ انصاریہ، بنو نجیح سے ہیں، ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۵۳۲ عمیرہ بنت عمیر

بن ساعدہ بن عائش انصاریہ، ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۵۳۳ عمیرہ بنت قرقظ

بن خضاء بن شان، بنو حرام سے ہیں، ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۵۳۴ عمیرہ بنت قیس

بن عمرو بن عبید بن مالک بن عدی بن حارث بن سلیط بن قیس انصاریہ: ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے، ابن سعدؒ کا قول ہے: محمد بن عمر نے ذکر کیا کہ اسلام لائیں اور بیعت کی، میں نے قابل اعتماد نسخے میں عین کے زبر کے ساتھ لکھا ہوا پایا۔

اسد الغابۃ (۷۱۳۷) تجرید (۲۹۱/۲) الطبقات (۲۳۹/۵) اسد الغابۃ (۷/۳۸) تجرید (۲۹۱/۲)

اسد الغابۃ (۷۱۳۹) تجرید (۲۹۱/۲) اسد الغابۃ (۷۱۴۰) تجرید (۲۹۱/۲)

المحبر (۴۱۸) تجرید (۲۹۱/۲) اسد الغابۃ (۷۱۴۱) تجرید (۲۹۱/۲)

اسد الغابۃ (۷۱۴۲) تجرید (۲۹۱/۲) الطبقات (۳۰۹/۸)

### ۱۱۵۳۵ عمیرہ بنت قیس

بن ابولعب انصاریہ، بنو سواد سے ہیں، ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے، سہل بن قیس کی بہن ہیں جو اُحد کے دن شہید ہوئے۔

### ۱۱۵۳۶ عمیرہ بنت کلثوم

بن جہم انصاریہ: ان کے والد کے سوانح میں ان کا نسب گزر چکا ہے، ابن سعد اور ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۵۳۷ عمیرہ بنت محمد

بن سلمہ انصاریہ: ان کے والد کے سوانح میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔ قرطبی رحمہ اللہ نے تفسیر میں بیان کیا ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ”مرد عورتوں پر حاکم ہیں.... بلند اور بڑا ہے۔“ میں نے اسے ثعلبی رحمہ اللہ کی تفسیر میں ابن کلبی کے طریق سے پایا، فرماتے ہیں: سعد بن ربیع نے اپنی زوجہ عمیرہ کو تھپڑ مارا، وہ نبی کریم ﷺ کے پاس شکایت لے کر گئیں، آپ ﷺ نے فرمایا: قصاص ہے، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ میں نے دوسرے دو اقوال کا ذکر کیا ہے جن کے بارے میں آیت نازل ہوئی اور کلبی نہایت کمزور راوی ہے۔

### ۱۱۵۳۸ عمیرہ بنت مرثد

بن جمیر بن مالک انصاریہ، اسماء کی بہن ہیں: ابن سعد کا قول ہے: اسلام لائیں اور بیعت کی، سلامہ بنت مسعود بن کعب ان کی والدہ ہیں، سُوید بن نعمان سے ان کا نکاح ہوا۔

### ۱۱۵۳۹ عمیرہ بنت مسعود الانصاریہ

ابو نعیم اور ابو موسیٰ نے اپنے طریق سے اس کا ذکر کیا ہے۔ پھر ابو عمرو بہ حرائی کے طریق سے، وہ فرماتے ہیں: ہم سے ہلال بن بشر نے بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں: ہم سے اسحاق بن ادریس نے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں ہم سے ابراہیم بن جعفر بن محمود بن محمد بن سلمہ نے بیان کیا کہ ان کی دادی عمیرہ بنت مسعود نے ان سے بیان کیا کہ وہ اور ان کی پانچ بہنیں رسول اللہ ﷺ کے پاس آئیں۔ انہوں نے آپ ﷺ سے بیعت کی، دیکھا کہ آپ ﷺ گوشت کھا رہے ہیں آپ ﷺ نے ان کے لئے گوشت چبایا اور پھر انہیں دیا جسے انہوں نے آپس میں تقسیم کر لیا، اور ہر ایک نے وہ بوٹی چبائی، مرتے دم تک ان کے منہ سے بدبو پیدا نہیں ہوئی اور نہ انہیں منہ کی کوئی بیماری پیدا ہوئی۔

اسد الغابۃ (۷۱۴۳)، تجرید (۲۹۱/۲)، اسد الغابۃ (۷۱۴۴)، تجرید (۲۹۱/۲)، الطبقات (۲۵۵/۸)

سورة النساء الآية ۳۴، تجرید (۲۹۱/۲)، اسد الغابۃ (۷۱۴۵)، تجرید (۲۹۱/۲)

المعجم الكبير (۸۵۲/۲۴)، مجمع الزوائد (۲۸۳/۸)، جامع المسانيد والسنن (۶۲۱/۱۵)

### ۱۱۵۳۰ عمیرہ بنت مُعَاذِ الْاَنْصَارِیَہ

روح بن ثابت کی زوجہ ہیں جو نبی کریم ﷺ کے کاتب ہیں، ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

### ۱۱۵۳۱ عمیرہ بنت مُعُوْذ

بن عَفْرَاء، ربیع کی بہن ہیں، ابن سعد نے بیعت کرنے والی خواتین میں ان کا ذکر کیا ہے، ان کا نسب ان کے والد کا نام ربیع کے سوانح میں گزر چکا ہے، ابن سعد فرماتے ہیں: ان سے ابوجسن بن عبد عمرو مازنی نے نکاح کیا، جس سے عمارہ، عمر اور سُرَیہ پیدا ہوئے۔

### ۱۱۵۳۲ عمیرہ بنت یزید\*

بن سکن ابن رافع بن امری، القیس بن زید بن عبدالاشہل اشہلیہ، ابن سعد\* نے ان کا ذکر کیا ہے اور فرمایا: اسلام لائیں اور بیعت کی، ان کی والدہ ام سعد بنت حرام بن مسعود ہیں۔ ان سے منظور بن لبید بن عقبہ نے نکاح کیا، جس سے حارث اور عثیرہ پیدا ہوئے۔

### ۱۱۵۳۳ عَنبَہ\* (بے نسبت)

ابو نعیم نے ان کا ذکر کیا ہے اور ابوبکر مقری کے حوالے سے محمد بن قارن سے، انہوں نے ابو زرعہ سے، انہوں نے غسان بن فضل سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں: ہم سے صُحیح بن سعید نجاشی ۱۸۰ھ میں روایت کیا ہے۔ ان کا گمان ہے کہ وہ ۱۵۷ھ تک کاسن رکھتے ہیں میں نے اپنی والدہ سے فرماتے ہوئے سنا: ان کا نام عنبہ تھا، بدل کر رسول اللہ ﷺ نے عَنْقُوْدَہ\* رکھ دیا۔ خطیب نے اسے مؤتلف میں دوسری سند سے بحوالہ محمد بن قارن نقل کیا ہے، صبیح مذکورہ جو راوی ہے یحییٰ بن معین نے اسے جھوٹا کہا ہے۔

### ۱۱۵۳۴ عَنْقُوْدَہ\* پہلے والے میں گزر چکی ہیں۔

### ۱۱۵۳۵ عَنْقُوْدَہ\*

دوسری ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی لونڈی ہیں۔ ابوموسیٰ نے ذیل میں مستغفری کے حوالے سے ان کا ذکر کیا ہے، فرمایا: ان کی حدیث کی اسناد میں تردد ہے۔ یزید بن قیس بن جراح کے طریق سے بحوالہ فلیح، انہوں نے علی بن حمید سے، انہوں نے اپنے والد حمید بن حوشب سے، انہوں نے حسن سے، انہوں نے علی سے روایت کی، فرماتے ہیں: جب رسول اللہ ﷺ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجنے کا ارادہ کیا تو فرمایا: ”یمن کے لیے کون تیار ہے؟“ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: میں، آپ ﷺ

\* اسد الغابۃ (۷۱۳۰)، (۳۴۹۰)، تجرید (۲۹۰/۲) \* الطبقات الکبریٰ (۲۳۳/۸)

\* اسد الغابۃ (۷۱۴۶)، تجرید (۲۹۱/۲) \* جامع المسانید السنن (۶۲۱/۱۵)

\* اسد الغابۃ (۷۱۴۶)، تجرید (۲۹۱/۲) \* اسد الغابۃ (۷۱۴۷)، تجرید (۲۹۱/۲)

## الْأَنْبِيَاءُ فِي تَسْتِزَاتِ الصَّحَابَةِ (جلد ۳۰۲)

خاموش ہو گئے، آپ ﷺ نے پھر فرمایا: یمن کے لئے کون تیار ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: میں، آپ ﷺ نے فرمایا: تم اس کے لئے ہو اور وہ تمہارے لئے ہے، انہوں نے سامان تیار کیا اور آپ ﷺ نے انہیں الوداع کرتے ہوئے فرمایا: اے معاذ! میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے، حسن عمل، کلام کی نرمی، سچی بات کرنے، اور امانت کی ادائیگی کی وصیت کرتا ہوں، اے معاذ! آسانی پیدا کرو، مشکل پیدا نہ کرنا۔

پھر نبی کریم ﷺ کی وفات اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے یمن سے لوٹنے مدینہ داخل ہونے اور نبی کریم ﷺ کے گھر رات کے وقت آنے کے بارے میں طویل حدیث ذکر کی، اور یہ کہ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: یہ کون ہے جو رات کو ہمارے دروازے پر دستک دے رہا ہے؟ انہوں نے فرمایا: میں معاذ ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا: اے عنقوذہ! دروازہ کھولو..... پھر انہوں نے نبی کریم ﷺ کی وفات کے بارے میں طویل حدیث ذکر کی۔

ابوموسیٰ فرماتے ہیں: حدیث ابن عمر سے طوالات میں املا کرتی ہے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی لونڈی کا نام عُفیرہ لیا ہے، تجرید\* میں فرماتے ہیں: یہ حدیث منکر ہے، اور پہلی اولیٰ ہیں۔

میں کہتا ہوں: اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ گھڑی ہوئی ہے، اس میں رکیک الفاظ ہیں جو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اور عمار، عائشہ فاطمہ، حسین رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہیں۔ اس میں ہے: کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا: آپ نے نبی کریم ﷺ کو بیماری اور وفات میں کیسا پایا، وہ کہنے لگیں: اے معاذ! میں آپ ﷺ کی وفات کے وقت موجود نہ تھی، یہ فاطمہ ہیں ان سے پوچھ لو، اس میں ہے: حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے رات کے وقت غیبی آواز سنی ”اے معاذ! تمہیں کیسے میٹھی نیند آتی ہے، اور محبوب نبی حضرت محمد ﷺ مٹی کی تہوں کے درمیان ہیں۔ (یعنی لحد میں) حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھا، اور صنعاء کی گلیوں میں پھرنے لگے، وہ کہہ رہے تھے، اے اہل یمن! مجھے چھوڑو! مجھے تمہارے پڑوس کی ضرورت نہیں، وہ برے دن ہیں جو تمہارے پڑوس میں گزرے، مجھ سے میرے حبیب محمد ﷺ جدا ہو گئے ہیں، پھر صبح کے وقت سواری پر بیٹھے اور قسم کھائی کہ سوائے نماز کے اوقات کے اس سے نہ اتریں گے یہاں تک کہ مدینہ جا پہنچیں۔

### ۱۱۵۳۶) النِّعْمَاءُ بِنْتُ أَبِي جَهْلٍ

یہ وہی ہیں جنہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام دیا، حکیم ترمذی فرماتے ہیں: جزء ثانی میں ابو زوق ہمدانی کی حدیث میں ان کا ذکر پہلے گزر چکا ہے کہ ان کا نام جویریہ ہے، ہو سکتا ہے عوراء ان کا لقب ہو۔

### ۱۱۵۳۷) عُوَيْشٌ

نبی کریم ﷺ نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس نام سے مخاطب کیا تھا۔

طبرانی نے عشرہ میں اسے مسلم بن یسار کے طریق سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ نبی کریم ﷺ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا: ”اے عویش کیا وجہ ہے کہ تمہارا چہرہ بہت روشن ہے“..... الحدیث

بن ساعدہ انصاریہ: ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔

انس بن فضالہ کی زوجہ ہیں: ابن سعد \* نے ان کا ذکر کیا ہے۔ تجرید میں بھی عو میرہ کے بعد ان کا ذکر ہے۔

خالی ہے ممکن ہے کہ اس میں کسی کا ذکر کیا جائے۔

اور عائشہ بنت ثیبہ اور عائشہ بنت معاویہ، عبیدہ بنت صعصعہ بن ناجیہ تمیمیہ، فرزدق کی چھوٹی بہن ہیں، ام حزرہ ہیں۔ زبیر بن بدر کی زوجہ ہیں، کتاب ابوالفرج میں حلیہ کے سوانح میں ان کا ذکر ہے، یہ وہی ہیں کہ زبیر بن قان نے حلیہ کو ان کے فروکش ہونے کو کہا تھا یہاں تک کہ وہ سفر سے واپس آ جائے۔ لیکن انہوں نے کوتاہی کی جو حلیہ کی طرف سے زبیر بن قان کی جھوٹا سبب بنا۔

بن صمد: فرماتی ہیں: انہوں نے اپنے والد کا مرثیہ کہا: ربیعہ بن ریف جو ابن دغنه کے نام سے مشہور ہے اس نے انہیں قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ میری طرف سے بنی سلیم کو ان کے کیسے کا بدلہ دے کہ یہ اپنے والدین کے نا فرمان بنیں۔ اور ملاقات کے وقت جب ہم ان سے قصاص لیں تو ان کے بہترین لوگوں کا خون پلائے۔ ❀

اسد الغابہ میں یہ نام عائشہ بنت عمر دکھا ہے۔ ہم وہیں سے نقل کرتے ہیں یحییٰ بن معین کا قول ہے کہ صاحب قیاس و فقہ ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے عائشہ سے سنا فرماتی ہیں: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا: زمین میں اللہ تعالیٰ کا سب سے بکثرت لشکر ٹنڈیاں ہیں (جو فضیلت کھاتی ہیں جن کی لمبائی تقریباً تین انچ سے پانچ انچ تک ہوتی ہے، جسے ”ٹنڈی دل“ بھی کہا جاتا ہے، اس سے مراد گھروں میں پائی جانے والی زہریلی ٹنڈیاں نہیں ہیں) نہ میں انہیں کھاتا ہوں اور نہ حرام قرار دیتا ہوں“ ان کی روایت بواسطہ ابوحنیفہ عثمان بن راشد بواسطہ عائشہ بنت عمر دجالہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل کی گئی ہے اکثر علماء نے تابعات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ ابو موسیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔

## حرف غین معجمہ

### القسم الاول از حرف غین

۱۱۵۵۳ غائثہ

ابن مندہ کا قول ہے: ابن وہب نے بحوالہ عثمان بن عطاء خراسانی انہوں نے اپنے والد سے نقل کیا ہے کہ وہ نبی کریم ﷺ کے پاس آئیں اور کہنے لگیں: میری والدہ وفات پا گئی ہیں اور انہوں نے کعبہ کی طرف پیدل جانے کی نذر مانی تھی، آپ ﷺ نے فرمایا: ”ان کی طرف سے نذر پوری کرو۔“

۱۱۵۵۴ غزیلہ

بعض کا قول ہے: غزیہ، ام شریک ہیں اور اپنی کنیت سے معروف ہیں، کنیتوں میں ان کے حالات آئیں گے، ابن سعد رحمہ اللہ نے بحوالہ واقدی رحمہ اللہ، سلیمان بن یسار سے مرسل نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: جب نبی کریم ﷺ نے کندیہ سے نکاح کیا، عامریہ خواتین کے ہاں نکاح کا پیغام بھیجا، ام شریک غزیہ بنت جابر نے اپنے آپ کو آپ ﷺ کو ہبہ کر دیا، آپ ﷺ کی ازواج کہنے لگیں: اگر آپ ﷺ نے خاندان سے باہر شادی کی تو آپ ﷺ کو ہماری حاجت نہیں ہوگی..... الحدیث

۱۱۵۵۵ غفیرہ

بنت رباح، حضرت بلال رضی اللہ عنہ (جو مؤذن ہیں) اور ان کے بھائی خالد کی بہن ہیں۔ مستغفری نے ان کا ذکر کیا ہے اور فرمایا: وہ دو بھائی اور ایک بہن ہے، یہ بخاری کا قول ہے، طحاوی میں اسناد کے درمیان ہے: بحوالہ عمر مولیٰ غفیرہ بنت رباح جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں۔

۱۱۵۵۶ غفیرہ عنقودہ میں گزر چکی ہیں۔

۱۱۵۵۷ غفیلہ

اسی طرح ہیں، لیکن راء کے بدلے لام کے ساتھ، عین مہملہ میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

اسد الغابۃ (۷۱۴۹) الاستیعاب (۳۴۹۳) تجرید (۲۹۲/۲)

اسد الغابۃ (۳۵۶/۵)

اسد الغابۃ (۷۱۵۱) . تجرید (۲۹۲)

## ۱۱۵۵۸ اَلْغَمِيصَاءُ بِنْتُ مِلْحَانَ الْأَنْصَارِيَّةِ ❁

بعض کا قول ہے: ام سلیم، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں۔ وہ اپنی کنیت سے مشہور ہیں: امام احمد ❁ نے اپنی مسند میں فرمایا: ہم سے یحییٰ قطان نے، وہ فرماتے ہیں: ہم سے حمید نے بحوالہ انس رضی اللہ عنہ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے روایت کیا، فرمایا: ”میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے چلنے کی آواز سنی، میں نے کہا: یہ کون ہے، تو فرشتے نے کہا: ”غَمِيصَاءُ بِنْتُ مِلْحَانَ“۔ میں کہتا ہوں: حرف راء میں دوسری سند سے بحوالہ انس یہ گزر چکا ہے۔

## ۱۱۵۵۹ اَلْغَمِيصَاءُ ❁

یَا زَمِيصَاءُ، عمرو بن حزم کی زوجہ ہیں: ابویضیم نے حماد بن سلمہ کے طریق سے بحوالہ هشام بن عروہ، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا ہے: کہ عمرو ابن حزم نے غَمِيصَاءُ کو طلاق دی، ان سے ایک شخص نے نکاح کیا اور مَسْ کرنے سے پہلے طلاق دے دی، وہ نبی کریم ﷺ کے پاس آئیں اور پوچھا کہ کیا وہ پہلے شوہر کی طرف لوٹ سکتی ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: یہاں تک کہ دوسرا ان کا..... ❁ الحدیث۔ ابوموسیٰ فرماتے ہیں: یہ ام سلیم کے علاوہ کوئی اور ہیں: ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حدیث روایت کی، فرمایا: غَمِيصَاءُ یا زَمِيصَاءُ ہیں، اور ان کے شوہر کا نام نہیں لیا۔ ❁

ابن مندہ نے ام سلیم کے سوانح میں حدیث نقل کی ہے، ابن اثیر فرماتے ہیں: ابوموسیٰ کا قول درست ہے۔ میں کہتا ہوں: حرف راء میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث گزر چکی ہے۔

## ۱۱۵۶۰ غَمِيصَاءُ بِنْتُ أَبِي إِيَّادٍ ❁

یہ ام یحییٰ ہیں، جن سے عقبہ بن حارث نوفلی نے نکاح کیا، ان سے ایک حبشی باندی نے کہا، میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے، جیسا کہ کشتیوں میں آئے گا۔

## القسم الثانی، الثالث والرابع از حرف غین

اس میں کسی کا تذکرہ نہیں ہے۔

❁ اسد الغابۃ (۷۱۵۴)، تجرید (۲۹۲/۲)

❁ مسند احمد (۱۲۵/۳)

❁ اسد الغابۃ (۷۱۵۵)، تجرید (۲۹۲/۲)

❁ مسند احمد (۳۷/۶) المعجم الكبير (۸۶۹/۲۴)

❁ مسند احمد (۲۱۴/۱) مسند ابویعلیٰ (۶۷۱۸) مجمع الزوائد (۳۴۰/۴)



## حرف فاء مہملہ

www.KitaboSunnat.com

### التقسیم الاول از حرف الفاء

#### ۱۱۵۶۱) فاخته بنت الأسود

بن مطلب بن اسد بن عبد العزی قرشیہ اسدیہ: صفوان بن امیہ بن خلف نجی کی زوجہ تھیں، اپنے باپ کے بعد ان سے نکاح کیا، اسلام نے ان دونوں کے درمیان جدائی کرا دی۔  
مستغفری نے محمد بن ثور کے طریق سے بحوالہ ابن جریر نقل کیا ہے، فرمایا: اسلام نے چار عورتوں اور ان کے خاندان کے بیٹوں کے درمیان جدائی کرائی، پھر ان کا ذکر کیا۔

#### ۱۱۵۶۲) فاخته بنت خارجه

بن زید بن ابوزہیر انصاریہ، ابوبکر صدیق کی زوجہ ہیں: دارقطنی رحمہ اللہ نے کتاب الاخوانہ میں ان کا نام لیا ہے۔ یہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے اس قول سے مراد ہیں جو انہوں نے اپنی وفات کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: بطن والی خارجہ کی بیٹی ہے بعض کا قول ہے: کہ ان کا نام حبیبہ ہے۔

#### ۱۱۵۶۳) فاخته بنت ابی اُحیحہ

سعد بن العاص بن امیہ، ابوالعاص بن ربیع کی زوجہ ہیں نبی کریم ﷺ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے بعد ان سے نکاح کیا، جس سے ان کی بیٹی مریم پیدا ہوئیں، زیر نے ان کا ذکر کیا ہے۔

#### ۱۱۵۶۴) فاخته بنت ابی طالب

بن عبد المطلب بن ہاشم ہاشمیہ، ام حانی ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں اور اپنی کنیت سے معروف ہیں، بعض کا قول ہے، ان کا نام ہند ہے، پہلا نام مشہور ہے۔

#### ۱۱۵۶۵) فاخته بنت قریظہ

بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف قرشیہ، نوفلیہ، معاویہ بن ابوسفیان کی زوجہ ہیں، ان کے والد کا صحابہ میں تذکرہ نہیں، وہ جاہلیت میں فوت ہوئے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کا تذکرہ عہد نبوی ﷺ میں ہوتا اور ان کے قریبی بچوں کو شرف صحابیت حاصل

## الْأَكْبَرُ فِي تَنْبِيْهِ الْفَضْلِ وَالْمَعْرِفَةِ (مَدْرُوسَةٌ)

جلد ۸

۳۰۷

ہوتا۔ زیر بن بکار نے نسبت میں ذکر کیا ہے: کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کنود بن قرظہ مذکور سے نکاح کیا تھا پھر ان کی بہن فاختہ سے نکاح کیا۔ امیر معاویہ کے سوانح میں ان کے والد قرظہ کے کئی واقعات مذکور ہیں ان میں سے ایک یہ کہ انہوں نے ان کے ساتھ غزوہ فہرس میں شرکت کی، یہ صحیح میں حضرت ام حرام کی حدیث میں ہے جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی خالہ ہیں، مجھے معلوم نہیں یہ دونوں بہنوں میں سے کون سی ہیں۔

### ۱۱۵۶۶ فاختہ بنت عمرو الزہریہ

نبی کریم ﷺ کی خالہ ہیں: طبرانی رحمہ اللہ نے عبد الرحمن بن عثمان وقاصی کے طریق سے بحوالہ ابن المنکدر، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے: فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: میں نے اپنی خالہ فاختہ بنت عمرو کو ایک خدمتگار لڑکا بہہ کرتے ہوئے کہا کہ اسے قصاب، شار اور سنگی لگانے والا نہ بنانا، وقاصی ضعیف راوی ہے۔

### ۱۱۵۶۷ فاختہ بنت عروان

عتبہ کی بہن ہیں: جن کے سوانح میں ان کا نسب گزر چکا ہے، ہجرت کرنے والی صحابیات میں سے ہیں۔

### ۱۱۵۶۸ فاختہ بنت الولید

بن مغیرہ مخزومیہ، خالد بن ولید کی بہن ہیں، ان کے سوانح میں ان کا نسب گزر چکا ہے، صفوان بن امیہ کی زوجہ ہیں، فتح کے دن اسلام لائیں اور بیعت کی، ابو عمر کا قول ہے: اپنے شوہر کے اسلام لانے سے ایک ماہ پہلے اسلام لائیں، یہ داؤد بن حصین کا قول ہے، ابن مندہ فرماتے ہیں: ان کا ذکر ہے لیکن حدیث مروی نہیں۔

ابو نعیم نے ابراہیم بن سعد کے طریق سے بحوالہ ابن اسحاق انہوں نے عبد العزیز بن عبد الرحمن امامی سے، انہوں نے زہری سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: حضرت فاختہ بنت ولید صفوان بن امیہ کی زوجہ تھیں، اور ام حکیم بنت حارث عکرمہ کی زوجہ تھیں، فتح کے دن دونوں اسلام لائیں۔

### ۱۱۵۶۹ فارعہ بنت ابی امامہ

سعد بن زرارۃ انصاریہ، ان کے والد کے سوانح میں ان کا نسب گزر چکا ہے، بعض کا قول ہے: ان کا نام فُرعیہ ہے، ان کی بیٹی زینب بنت نبط کے سوانح میں ان کا ذکر گزر چکا ہے، جو انس بن مالک کی زوجہ ہیں۔ ابو عمر فرماتے ہیں: ابو امامہ نے اپنی بیٹیوں فارعہ، حبیبہ اور کبشہ کو نبی کریم ﷺ کے پاس جانے کی وصیت کی، رسول اللہ ﷺ نے فارعہ کی شادی نبط بن جابر سے جو بنو مالک بن نجار سے ہیں، کر دی۔

اسد الغابۃ (۷۱۵۸)، تجرید (۲۹۲/۲) المعجم الكبير (۱۰۷۳/۲۴) مجمع الزوائد (۹۳/۴)

اسد الغابۃ (۷۵/۹)، الاستیعاب (۳۴۹۵)، تجرید (۲۹۳/۲)

مجمع الزوائد (۹۳/۴) الاستیعاب (۱۸۸۹/۴) اسد الغابۃ (۳۵۹/۵)

اسد الغابۃ (۷۱۶۰) الاستیعاب (۳۴۹۶) تجرید (۲۹۳/۲) الاستیعاب (۱۸۸۹/۴)

## الاصالة في مناقب الصالحين (جلد ۸) ۳۰۸

ابن مندہ نے ابراہیم بن محمد بن ابویکی سے بحوالہ محمد بن عمارہ بن عمرو بن حزم نقل کیا ہے، کہ انہوں نے زینب بنت عقیط سے جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہیں سنا، وہ اپنی والدہ فریہ بنت ابوامامہ سے روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں: نبی کریم ﷺ کے پاس سونے کے زیور، رعاٹ آئے، آپ ﷺ نے میری دو بہنوں حبیبہ اور کبشہ کو اس میں سے پہنائے، اور اس سے زکوٰۃ نہیں لی گئی، ابن سعدؒ فرماتے ہیں: ان کی والدہ عمیرہ بنت سہل ہیں، حضرت فریہ حضرت اسعد بن زرارہ کی بیٹیوں میں بڑی تھیں جب بڑی ہوئیں، عقیط بن جابر نے انہیں نکاح کا پیغام دیا، جب ان کی رخصتی ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا: ”کہو ہم تمہارے پاس آئے تم یتیم پر سلامتی بھیجو، ہم تمہارے اوپر سلامتی بھیجتے ہیں“ حضرت عقیط کا ان سے بیٹا عبدالملک پیدا ہوا۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کا نام رکھا اور برکت کی دعا دی، حضرت فریہ بیعت کرنے والی صحابیات میں سے ہیں، ابن اثیرؒ نے معانی بن عمران کے طریق سے نقل کیا ہے، کہ انہوں نے اپنی تاریخ میں بحوالہ ابو عقیل جوئہیہ والے ہیں، انہوں نے انھیہ سے بحوالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کیا ہے، فرماتی ہیں: ہم نے انصار میں سے ایک یتیمہ لڑکی کی رخصتی کی، جب ہم واپس آئے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم نے کیا کیا؟“ ہم نے کہا: ہم نے سپرد کیا اور لوٹ آئے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”انصار کو ترغیم پسند ہے، اے عائشہ، تم نے یہ کیوں نہیں کیا: ہم تمہارے پاس آئے، ہم تمہارے پاس آئے، ہم پر اور تم پر سلامتی ہو۔“

میں کہتا ہوں: یہ یتیمہ فارعہ بنت اسعد بن زرارہ ہیں۔

### ۱۱۵۶۰ فارعہ بنت ثابت

بن منذر بن حرام انصاری، بنو نجار سے ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جو شاعر رسول اللہ ﷺ ہیں، ان کی بہن ہیں، ابو حسن مدائنی نے ذکر کیا ہے کہ طویس نے عبداللہ بن جعفر کے سامنے ایک شعر گنتا کر کہا: ..... یہ شعر کس کا ہے؟ کہنے لگے: فارعہ جو حسان کی بہن ہیں، اور عبدالرحمن بن حارث بن ہشام کے بارے میں ہے۔

میں کہتا ہوں: ان کے والد جاہلیت میں وفات پا گئے تھے اور عبدالرحمن بن حارث نبی کریم ﷺ کے زمانے میں کمن تھے جیسا کہ ان کے سوانح میں گزر چکا ہے۔ لہذا ان کے متعلق تو شعر نہیں کہے جاسکتے ہاں جب وہ بالغ ہو گئے ہوں، اس لئے فارعہ اس قسم میں شامل ہے۔

### ۱۱۵۶۱ فارعہ بنت زرارہؒ

بن عدی بن حرام انصاری، بنو مالک بن نجار سے ہیں، ابوموسیٰؓ نے یہ ذیل میں کہا، اسی طرح ابن اثیرؒ کا قول ہے۔ ذیل میں جو خط صریفی میں ہے میں نے انہیں نہیں دیکھا، ممکن ہے جو ان سے پہلے ہیں وہ ان کے دادا کی طرف منسوب ہوں پھر مجھے معلوم ہوا کہ وہ ان کی چھوٹی بیٹی ہیں۔

الطبقات (۳۲۲/۸) اسد الغابۃ (۳۵۹/۵)

ابن ماجہ (۱۹۰۰)، مسند احمد (۷۷/۴) (۷۸) مجمع الزوائد (۲۸۹/۴) زبیدی (۴۹۳/۶)

اسد الغابۃ (۷۱۶۱)، الاستیعاب (۷۱۶۹) اسد الغابۃ (۳۵۹/۵)

ابن سعد\* کا قول ہے: الفارعة، وہ فریجہ بنت زرارہ بن عدس بن عبید بن ثعلبہ بن غنم بن مالک بن نجار ہیں، ابوامامہ جو اسعد بن زرارہ ہیں ان کی سگی بہن ہیں، ان سے قیس بن کھد بن قیس بن ثعلبہ نے نکاح کیا، اسلام لائیں اور بیعت کی۔

### ۱۱۵۷۲ فارعة بنت ابی سفیان\*

بن حرب بن امیہ امویہ: مستغفری نے ان کا ذکر کیا ہے، اور انس بن بکیر کے طریق سے بحوالہ ابن اسحاق نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں: سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے عبداللہ بن حبش ہیں جو بنو عبد شمس کے حلیف ہیں، انہوں نے اپنے گھر والوں اور بہن کے ساتھ ہجرت کی، ان کے پاس فارعة بنت ابوسفیان بن حرب تھیں۔\*

### ۱۱۵۷۳ الفارعة بنت ابی الصلت\*

امیہ بن ابوالصلت کی بہن ہیں، جو مشہور شاعر ہے، ابو عمر کا قول ہے،\* فتح طائف کے بعد نبی کریم ﷺ کے پاس آئیں وہ بڑی عقلمند پاکدامن اور حسین و جمیل خاتون تھیں، ان کے آنے سے آپ ﷺ خوش ہوتے تھے ایک دن ان سے فرمایا: کیا تمہیں اپنے بھائی کے کوئی اشعار یاد ہیں؟ چنانچہ انہوں نے ان کے بارے میں اور جو کچھ ان کے متعلق دیکھا، اور ان کے پیٹ چاک ہونے کا قصہ آپ ﷺ سے بیان کیا کہ وہ سورہا تھا کہ اس کا دل نکال کر دوبارہ اس کے سینہ میں رکھ دیا گیا اور اس کے وہ اشعار سنائے جن کا مطلع یہ ہے۔

”میری پریشانیاں رات کے وقت گردش کرتی ہیں میں اپنی آنکھوں کو روکتا ہوں لیکن ان کے آنسو پہلے بہہ پڑتے ہیں۔ دل کو چاہے جتنی جینے کی آرزو ہو تو ہوا بہت جی بھی لے موت اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔“

یہ تقریباً تیرہ (۱۳) اشعار ہیں جن میں وہ کہتے ہیں:

”جو شخص اپنی موت سے گریزاں ہے وہ کسی نہ کسی دھوکے سے اسے جا ملے گا۔ جو جوانی میں نہ مرا بڑھاپے میں جا مرے گا۔ موت ایسا پیالہ ہے جسے ہر شخص پکھنچنے والا ہے۔“

اس نے معاینہ کے وقت یہ اشعار کہے تھے: ص

”ہر زندگی خواہ اس کا دن لمبا ہو جائے ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ کاش! جو کچھ میں نے دیکھا اس سے پہلے میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر بکریاں چرا رہا ہوتا۔“

رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا: تمہارے بھائی کی مثال اس شخص کی سی ہے ”اس شخص کا حال بیان کرو جسے ہم نے اپنی آیات کا علم دیا پھر وہ ان سے نکل گیا۔“\* ابو عمر\* فرماتے ہیں: میں نے اسے مختصر بیان کیا ہے اس کے چند نکات پر اکتفا کیا ہے پھر مسند دومہ

\* الطبقات (۳۲۱/۸) ، اسد الغابۃ (۷۱۶۲) ، الاستیعاب (۷۱۷۰) ، تجرید (۲۹۳/۲)

\* المعجم الكبير (۲۱/۹) ، السيرة النبوية (۸۶/۲)

\* اسد الغابۃ (۷۱۶۳) ، الاستیعاب (۳۴۹۷) ، تجرید (۲۹۳/۲)

\* الاستیعاب (۱۸۸۹/۴) ، سورة الاعراف ۱۷۵ ، استیعاب (۱۸۹۰/۴)

بن موسیٰ بواسطہ سلمہ بن فضل، ابن اسحاق، ابن شہاب، بحوالہ سعید بن المسیب روایت کی ہے کہ فارعہ آئیں۔ پھر مکمل روایت ذکر کی۔ میں کہتا ہوں: یہ قصہ ابو نعیم نے بطریق ثعلب، بحوالہ ابن الاعرابی نقل کیا ہے کہ ابن اسحاق نے اسی سند سے اسی مفہوم کی روایت بیان کی ہے۔

ابن ابی عاصم رحمہ اللہ اور ابن مندہ نے اسے ابراہیم بن محمد بن یحییٰ سجری کے طریق سے بحوالہ اپنے والد، انہوں نے ابن اسحاق سے انہوں نے زہری سے، انہوں نے عبید اللہ بن عبد اللہ سے، انہوں نے ابن اسحاق سے اسے نقل کیا ہے: کہ فارعہ بنت ابی الصلت ثقفی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کے والد اور بھائی کے بارے میں دریافت فرمایا: کہنے لگیں: میرا بھائی سفر سے ہمارے پاس آیا، پھر چار پائی پر سو گیا، دو پرندے آئے ان میں سے ایک اس کے سینے پر گرا، تو اس کا سینے سے سرین تک جسم چاک ہو گیا پھر اس کی موت کا طویل قصہ ذکر کیا۔

میں کہتا ہوں: دونوں سندوں میں جو ابن اسحاق رحمہ اللہ تک پہنچتی ہے ضعیف ہے اور کتاب مکہ میں فاکہی نے طویل قصہ کلبی کے طریق سے بحوالہ ابوصالح، انہوں نے ابن عباس سے نقل کیا ہے۔ ثعلبی نے اسے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے اس میں ہے: انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے کئی قصائد پڑھے جس میں ان کے ایمان اور قیامت کی وضاحت ہوتی ہے، ایک قصیدہ میں ہے:

”تمام لوگوں کو حساب کے لئے ٹھہرایا جائے گا، ان میں سے بد بخت کو عذاب دیا جائے گا اور نیک بخت ہوں گے۔“

ایک قصیدہ میں ہے:

”اے ہمارے رب! تیرے لئے تمام تعریف، نعمتیں اور فضل ہے۔ بزرگی میں تجھ سے بڑھ کر اور کوئی نہیں، آسمان کے عرش کا مالک ہے، نگہبان ہے، اسی کی عزت کے لئے چہرے جھکتے اور سجدہ کرتے ہیں۔“

ایک قصیدہ میں ہے:

”جس دن ہم رحمن کے دربار میں حاضر ہوں گے، وہ رحیم ذات ہے، اس کے وعدہ کا وقت آنے والا ہے۔ اگر جرائم کی وجہ سے میرا مواخذہ ہوا تو مجھے سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اے میرے رب! اگر تو مجھ سے درگزر کرے تو میرا گمان بھی عافیت والا ہے، اور اگر تو مجھے عذاب دینا چاہے تو کسی بڑی کو تو نے عذاب نہیں دیا۔“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: اس کے شعروں سے تو ایمان کا پتہ چلتا ہے لیکن اس کا دل کافر تھا، اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی: ”ان کے سامنے اس فیض کا حال بیان کرو جسے ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا لیکن وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا..... (الآیۃ)۔“

## ۱۱۵۷۲ فارغہ بنت عبدالرحمن الخثعمیہ \*

صحابہ میں ان کا تذکرہ ہے، ان سے سری بن عبدالرحمن نے روایت کی، استیعاب میں اسی طرح مذکور ہے۔

## ۱۱۵۷۵ فارغہ بنت عتبہ

بن عبد شمس عثمیہ، ہند کی بہن اور معاویہ کی خالہ ہیں، حبیب بن عمرو بن حمہ دوسی کی زوجہ تھیں، بلاذری نے ان کا ذکر کیا ہے۔

## ۱۱۵۷۶ فارغہ بنت مالک

سنان خدریہ: فریجہ کے سوانح میں ان کا ذکر آئے گا۔

## ۱۱۵۷۷ فارغہ الجنیہ

حزہ بن یوسف جرجانی نے تاریخ جرجان میں ان کا ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں: ہمیں ابواحمد بن عدی نے بتایا، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں عبدالمومن بن احمد نے وہ فرماتے ہیں: ہمیں جعفر بن حکم نے، وہ فرماتے ہیں: ہمیں نھیعہ بن عبداللہ بن لہیعہ نے بحوالہ اپنے والد بیان کیا، انہوں نے ابو زبیر سے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے: کہ ایک جننی خاتون نبی کریم ﷺ کے پاس اپنی قوم کی عورتوں کے ساتھ آتی تھی، ایک مرتبہ انہیں تاخیر ہو گئی تو تھوڑی دیر بعد وہ آ گئیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”تمہیں کس وجہ سے تاخیر ہوئی؟“ کہنے لگیں: ہند کی سرزمین میں ہماری فوجی ہو گئی میں اس کی تعزیت کرنے گئی تھی، میں نے اپنے راستے میں ابلیس کو ایک چٹان پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا میں نے کہا: تمہیں حضرت آدم علیہ السلام کو گمراہ کرنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ ابلیس نے کہا: جاؤ اپنا کام کرو، میں نے کہا: نماز اور تم! اس نے کہا: ہاں اے فارغہ! ایک بندے کی بیٹی، میں اپنے رب سے امید رکھتا ہوں کہ جب وہ اپنی قسم پوری کرے گا تو مجھے بخش دے گا، اس سند میں نامعلوم راوی ہیں، ابن جوزی نے موضوعات میں اسے نقل کیا ہے۔

## ۱۱۵۷۸ فاضلہ \*

عبداللہ بن انیس کی زوجہ ہیں، ان کے نام میں اختلاف ہے، ان کا ذکر گزر چکا ہے، ابن مندہ نے بھی ان کا ذکر کیا ہے۔ ابو عمر \* فرماتے ہیں: فاضلہ انصاریہ، عبداللہ بن انیس چھٹی کی زوجہ ہیں، اہل مدینہ کے ہاں ان کی حدیث ہے۔ فرماتی ہیں: نبی کریم ﷺ نے ہمیں خطبہ دیا اور صدقہ کرنے کی ترغیب دی۔ \*

میں کہتا ہوں: حسن بن سفیان نے اپنی مسند میں اسے نقل کیا ہے، موسیٰ بن عبیدہ ربذی کے طریق سے جو ضعیف راوی ہیں، بحوالہ ان کے بھائی محمد بن عبیدہ، انہوں نے اپنے بھائی عبداللہ بن عبیدہ سے، انہوں نے یحییٰ بن عبداللہ بن کعب بن مالک سے، انہوں نے اپنی والدہ سے اور وہ عبداللہ بن انیس چھٹی کی بیٹی ہیں۔ انہوں نے اپنی والدہ سے جو فاضلہ انصاریہ ہیں، فرماتی ہیں:

\* اسد الغابۃ (۷۱۶۴)، الاستیعاب (۳۴۹۸)، تجرید (۲/۲۹۳)

\* اسد الغابۃ (۷۱۶۷)، الاستیعاب (۳۴۹۹)، تجرید (۲/۲۹۳)

\* الاستیعاب (۱۸۹۰/۴)، جامع المسانید والسنن (۷/۱۶)

رسول اللہ ﷺ نے ہمیں خطبہ دیا، اور صدقہ کی ترغیب دی، میں نے آپ ﷺ کے پاس اپنے زیور بھیجے، اور کہا: وہ اللہ عزوجل کی راہ میں صدقہ ہیں، آپ ﷺ نے اسے واپس کر دیا اور فرمایا: ”میں عورت کا صدقہ اس کے شوہر کی اجازت سے قبول کرتا ہوں“ میں نے اسے اپنے شوہر کے ساتھ بھیجا، انہوں نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! یہ زیور اس کا ہے، اور والد کی وراثت سے حاصل ہوا ہے، آپ ﷺ نے اسے قبول کر لیا۔

### ۱۱۵۷۹ فاطمة الزهراء \*

امام المتین رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادی، جن کا اسم گرامی محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم ہاشمیہ رضی اللہ عنہا ہے۔ ابن فہون رضی اللہ عنہ نے کسی سے ب سکن اس کے بعد نون نقل کیا ہے، جو غلط ہے، لقب زہراء تھا، آپ رضی اللہ عنہا اپنے والد سے، آپ سے آپ کے دونوں بیٹے، خاندن، حضرت عائشہ، ام سلمہ، سلمیٰ ام رافع اور حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فاطمہ بنت حسین آپ رضی اللہ عنہا سے مرسل روایت کرتی ہیں، عبدالرزاق بحوالہ ابن جریج لکھتے ہیں: مجھ سے کئی لوگوں نے بیان کیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی کریم ﷺ کی سب سے چھوٹی اور آپ کو سب سے پیاری بیٹی تھیں۔ ابو عمر \* لکھتے ہیں: کہ کم عمر ہونے میں اختلاف ہے۔ یقینی بات یہ ہے کہ سب سے بڑی حضرت زینب رضی اللہ عنہا تھیں، ان سے چھوٹی رقیہ رضی اللہ عنہا، ان سے چھوٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تھیں، جس کی تھوڑی بہت تفصیل حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے حالات میں گزر چکی ہے، آپ رضی اللہ عنہا کے سن ولادت میں اختلاف ہے۔ چنانچہ واقدی، ابو جعفر باقر کے طریق سے روایت کرتے ہیں، فرمایا: کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جن ایام میں کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، اسی سال حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پیدا ہوئیں، اور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عمر پینتیس (۳۵) سال تھی، اسی پر مدائنی نے اعتماد کیا ہے۔

ابو عمر \* عبید اللہ بن محمد بن سلیمان بن جعفر سے روایت کرتے ہیں: کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی ﷺ کی ولادت کے اکتالیسویں برس پیدا ہوئیں، بعثت سے کچھ ہی عرصہ پہلے تقریباً سال یا سال سے زیادہ عرصہ میں پیدا ہوئیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پانچ برس بڑی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی کے چار ماہ بعد محرم ۲ھ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے شادی ہوئی۔ بعض نے کچھ اور مدت بھی بیان کی ہے نبی ﷺ کی نسل انہی سے چلی۔

ابن اسحاق رضی اللہ عنہ مغازی کبریٰ میں لکھتے ہیں: کہ مجھ سے ابن ابی نجیح نے بحوالہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کیا: کہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے رشتہ بھیجا، نبی ﷺ (از روئے ظرافت) فرمانے لگے: ”کچھ پاس بھی ہے؟“ میں نے کہا: کچھ بھی نہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس زرہ کا کیا ہوا جو تمہیں ملی تھی۔“ یعنی بدر کی غنیمت سے۔

ابن سعد \* لکھتے ہیں: کہ خالد بن خالد نے بحوالہ سلیمان جو ابن بلال ہیں، ہمیں بتایا کہ مجھے جعفر بن محمد نے بحوالہ اپنے والد بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوہے کی ایک زرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو مہر میں دی تھی۔

اسد الغابۃ (۷۱۷۵)، تجرید (۲۹۴/۲) \* الاستیعاب (۱۸۹۳/۴) \* الاستیعاب (۱۸۹۳/۴)

\* مسند ابویعلیٰ (۵۰۳/۱) مجمع الزوائد (۲۸۳/۴) \* طبقات الکبریٰ (۱۱/۸)

حازم بحوالہ حماد بن زید وہ ایوب سے بحوالہ عکرمہ روایت کرتے ہیں: کہ نبی کریم ﷺ نے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کرنا چاہی تو ان سے فرمایا: ”اسے اپنی حطیٰ زرہ دینا“ یہ روایت مرسل، صحیح الاسناد ہے۔

یزید بن ہارون بواسطہ جریر بن حازم، ایوب سے اس سے زیادہ مکمل روایت کرتے ہیں۔ امام احمدؒ نے اپنی مسند میں ابن ابی نجیح کے طریق سے، وہ بحوالہ اپنے والد اس شخص سے روایت کرتے ہیں جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے سنا تھا: میں نے نبی کریم ﷺ کے گھر آپ ﷺ کی بیٹی کے لئے رشتہ بھیجنا چاہا اور یہ بھی عرض کر دیا کہ واللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، پھر میں نے آپ ﷺ کی صلہ رحمی اور مہربانی کو مد نظر رکھتے ہوئے رشتہ بھیج دیا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”تمہارے پاس کچھ ہے“ میں نے عرض کیا: کچھ نہیں، آپ ﷺ نے فرمانے لگے: ”وہ حطیہ زرہ جو میں نے تمہیں فلاں دن دی تھی وہ کہاں ہے؟“ میں نے کہا: وہ تو میرے پاس ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہی اسے دے دینا۔“

ابوداؤد کی کتاب میں اس روایت کا شاہد حدیث انس سے موجود ہے، ابن سعد بحوالہ واقدی بطریق ابو جعفر روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ ابویوب کے گھر ٹھہرے، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے شادی ہوئی تو آپ ﷺ نے ان سے فرمایا: ”کوئی گھر تلاش کر لو ایک گھر کا پچھلا حصہ ملا جہاں رخصتی ہوئی۔“

آپ ﷺ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لائے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ ﷺ سے عرض کرنے لگیں، حارث بن نعمان سے کہہ دیجئے! آپ ﷺ نے فرمایا: ”میری وجہ سے وہ دوسرے مکان میں منتقل ہو گئے، مزید کہتے ہوئے شرم آتی ہے“ ادھر حضرت نعمان رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، حاضر ہو کر عرض کرنے لگے: یا رسول اللہ ﷺ! آپ مجھ سے کچھ لیں، یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ آپ ﷺ مجھ سے کچھ نہ لیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم نے سچ کہا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے۔“ چنانچہ حضرت حارث رضی اللہ عنہ وہاں سے اپنے دوسرے مکان میں منتقل ہو گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سمیت وہاں رہائش پذیر ہو گئے۔ عمر بن علی کے طریق سے مروی ہے کہ حضرت علی کی شادی حضرت فاطمہ سے ان کی مدینہ آمد کے موقع پر رجب میں ہوئی اور بدر سے واپسی پر رخصتی ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اس وقت اٹھارہ برس کی تھیں۔

صحیح بخاری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان دو اونٹنیوں کا قصہ منقول ہے جنہیں حضرت حمزہ نے ذبح کر دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رخصتی کا ارادہ رکھتے تھے۔ اس سے اس شخص کے قول کی تردید ہو جاتی ہے جس کا گمان ہے کہ ان کی شادی احد کے بعد ہوئی تھی اس واسطے کہ حضرت حمزہ تو احد میں ہی شہید ہوئے تھے۔ یزید بن زریج، بواسطہ روح بن قاسم، عمرو بن دینار سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: میں نے فاطمہ کے والد کے سوا ان سے زیادہ کسی کو افضل نہیں پایا۔ یہ روایت طبرانی نے ابراہیم بن ہاشم کے حالات میں معجم اوسط میں نقل کی ہے۔ جس کی سند عمر بنک شیعین کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔ عکرمہ بحوالہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے چار خط بھیجے، اور فرمایا: ”اہل جنت کی سب سے افضل خواتین خدیجہ، فاطمہ، مریم اور آسیہ رضی اللہ عنہن ہیں۔ ابو یزید مدائنی بحوالہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعاً فرماتے ہیں: دنیا کی سب سے بہتر خواتین چار ہیں: مریم، آسیہ، خدیجہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہن۔“

حضرت شعبیؒ بحوالہ جابر فرماتے ہیں: ہمارے لیے دنیا کی چار عورتوں کی سیرت کافی ہے..... پھر ان کا ذکر فرمایا: عبدالرحمن بن ابونعیم بحوالہ ابوسعید خدری مرفوعاً فرماتے ہیں: ”اہل جنت کی خواتین کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ ہاں جو فضیلت



حضرت مریم کو حاصل ہے۔

صحیحین میں بحوالہ سنور بن خرمہ منقول ہے: میں نے رسول اللہ ﷺ سے منبر پر فرماتے ہوئے سنا: ”فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے ایذا دی اور جس بات سے اسے دھوکا ہوتا اس سے مجھے دھوکا ہوتا ہے۔“  
 علی بن حسین بن علی سے بحوالہ ان کے والد، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں: فرماتے ہیں: نبی کریم ﷺ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: اللہ تعالیٰ تمہاری رضا کے ساتھ راضی ہے۔

دولابی نے ”الذریۃ الظاہرۃ“ میں جید سند سے بحوالہ عبداللہ بن بریدہ، انہوں نے اپنے والد سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی کی رات فرمایا: ”کسی سے بات نہ کرنا یہاں تک کہ مجھ سے ملاقات کرو“ آپ ﷺ نے پانی منگوا یا، اس سے وضو کیا، پھر ان دونوں پر ڈال دیا اور فرمایا: ”اے اللہ ان میں برکت دے، اور ان پر برکت ڈال، اور ان کی نسل میں برکت دے۔“ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: کہ میرے گھر میں یہ آیت نازل ہوئی ”بے شک اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں کہ اے اہل بیت تم سے ناپاکی دور کریں۔“

فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف پیغام بھیجا، پھر فرمایا: ”یہ میرے اہل بیت ہیں۔“

ترمذی رضی اللہ عنہ نے اور حاکم رضی اللہ عنہ نے مستدرک میں اسے نقل کیا ہے اور فرمایا: مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔

سردوق رضی اللہ عنہ نے بحوالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا چلتی ہوئی آئیں اور ان کا چلنا نبی کریم ﷺ کے چلنے کی طرح تھا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”میری بیٹی کو خوش آمدید“ پھر اسے اپنی دائیں طرف بٹھایا اور چپکے سے انہیں کوئی بات کہی، تو وہ رونے لگیں، پھر چپکے سے انہیں ایک اور بات کہی تو وہ ہنس پڑیں۔ میں نے کہا: میں نے آپ کو آج سے پہلے غم کے ساتھ ہنسنے نہیں دیکھا! میں نے اس سے اس بارے میں سوال کیا تو کہنے لگیں: میں رسول اللہ ﷺ کے راز کو ظاہر نہیں کروں گی، جب آپ ﷺ کی وفات ہو گئی تو میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال قرآن پاک کا ایک مرتبہ میرے ساتھ دور کرتے تھے، اس سال دو مرتبہ دور کیا ہے، میرا خیال ہے میری وفات کا وقت قریب آ گیا ہے، اور تم میرے اہل بیت میں سب سے پہلے مجھے آلو گی اور میں تمہارا اچھا پیشرو ہوں گا“ تو میں رونے لگی، پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہو“ تو میں ہنسنے لگی۔ دونوں نے اسے نقل کیا ہے۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی کریم ﷺ سے آ کر پوچھنے لگیں: کہ مجھے بتائیں کہ آپ کا کیا حال ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اسی سال میری روح قبض ہوگی جس پر وہ رونے لگیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم سوائے مریم رضی اللہ عنہا کے جنت کی عورتوں کی سردار بن جاؤ“ جس پر وہ خوش ہو کر ہنسنے لگیں، ابویعلیٰ نے یہ روایت نقل کی ہے۔“

ترمذی (۳۸۶۷) مجمع العکبر (۱۱۵۳/۲)، مجمع الزوائد (۲۰۹/۹)

سورۃ الاحزاب الآیۃ (۳۳)، مسلم (۶۱۶۰)، ترمذی (۳۷۲۴)، مسند ابویعلیٰ (۶۷۴۳/۱۲)

ابن ابی عاصم \* عبد اللہ بن عمرو بن سالم المغلو ج سے بحوالہ اہل بیت کی سند حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں: کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: ”کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ناراضگی سے ناراض اور تمہاری رضا مندی سے راضی ہوتا ہے۔“ امام ترمذی \* نے حدیث زید ابن ارقم کی حدیث سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”علی، فاطمہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہم سے جو شخص بھی لڑے گا، تو مقابلے میں مجھے پائے گا اور جوان سے صلح کرے گا، میری اس سے صلح ہے۔“

ابو عمر \* حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے قصے میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ وصیت کر رکھی تھی کہ وہ اور حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا نہیں غسل دیں، ابن فقہون نے اس روایت کو بعید قرار دیا ہے، کیونکہ اس وقت حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تھیں، فرماتے ہیں: یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے غسل کا حال حضرت علی رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں کیسے مشکف ہو سکتا ہے؟ یہ محل استبعاد ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ انہوں نے اپنی موت سے تھوڑی دیر پہلے غسل کر لیا تھا اور یہ حکم دیا تھا کہ ان کا بدن نہ کھولا جائے اور اسی غسل کو کافی سمجھا جائے یہ بھی بعید ہے۔ صحیح میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم ﷺ کے بعد چھ ماہ کا عرصہ حیات گزارا تھا۔ واقدی فرماتے ہیں یہی روایت ثابت ہے۔ حمیدی بواسطہ سفیان عمرو بن دینار سے روایت کرتے ہیں: کہ وہ نبی کریم ﷺ کے بعد تین ماہ حیات رہیں۔ \* جبکہ ان کے علاوہ مؤرخین کا قول چار ماہ کا ہے۔ ایک قول دو ماہ کا بھی ہے۔ دولابی کی کتاب ”الذریۃ الظاہرۃ“ میں لکھا ہے: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی کریم ﷺ کے بعد پچانوے (۹۵) دن زندہ رہیں۔ اور عبد اللہ بن حارث کا قول ہے کہ آٹھ ماہ حیات رہیں۔

ابن سعد اور امام احمد بن حنبل حدیث ام رافع سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بیمار ہو گئیں، جس دن آپ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی اس دن فرمایا: اماں مجھے غسل کرائیں پھر انہوں نے اچھے طریقے سے غسل کر لیا اور نئے کپڑے پہن کے فرمانے لگیں: میری چار پائی صحن کے درمیان میں رکھ دو، اس پر قبلہ رخ ہو کر لیٹ گئیں اور فرمانے لگیں: اماں، میری روح قبض ہونے لگی ہے، میں غسل کر چکی ہوں تو ہرگز کوئی شخص میرا کپڑا نہ ہٹائے، چنانچہ پھر وہ فوت ہو گئیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے میں نے انہیں صورتحال بتائی انہوں نے ان کا جنازہ اٹھایا اور اسی غسل پر اکتفاء کرتے ہوئے انہیں دفن کر دیا۔ \*

ابن سعد، محمد بن موسیٰ کے طریق سے روایت کرتے ہیں: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو غسل دیا تھا، اور عبید اللہ بن ابی بکر کے طریق سے بحوالہ عمرہ نقل کیا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جنازہ پڑھایا، اور ان کی قبر میں حضرت عباس، علی اور فضل بن عباس رضی اللہ عنہم اترے تھے۔

واقدی بطریق شعری روایت کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جنازہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پڑھایا تھا، اس سند میں ضعف اور انقطاع ہے۔ بعض متروک راوی حضرت مالک سے بحوالہ جعفر بن محمد وہ اپنے والد سے اسی مفہوم کی روایت نقل کرتے ہیں،

\* الاحاد والمثنائی (۳۶۳/۵) \* کتاب المناقب باب ماجاء فضل بنت محمد (۳۸۷۰) \* الاستیعاب (۱۸۹۹/۴)

\* المعجم الكبير (۹۸۹/۲۲) مجمع الزوائد (۱۱/۹) الاحاد والمثنائی (۳۵۵/۵) جامع المسانید (۳۶/۱۶)

\* المعجم الكبير (۹۶۲/۲۲) ، مجمع الزوائد (۲۱۱/۱)

جسے دار قطنی اور ابن عدی نے فضول قرار دیا ہے۔

ابن سعد \* بواسطہ عقیان، حماد بن سلمہ، عطاء بن سائب وہ اپنے والد سے بحوالہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں، جب رسول اللہ ﷺ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ان سے شادی کر دی، تو ان کے ساتھ بطور سامان جہیز ایک موٹی چادر، کھجور کی چھال کا ایک تکیہ، دو چکیاں اور دو مشکیزے بھیجے، فرماتے ہیں: ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: مشقت کرتے کرتے میرا دل تنگ پڑ گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ابھی کچھ قیدیوں کو لے آیا ہے، اپنے والد کے پاس جاؤ اور ان سے خادمہ کا سوال کرو، وہ کہنے لگیں: اللہ کی قسم! چکی پیٹے پیٹے میرے ہاتھوں میں بھی چھالے پڑ گئے ہیں، چنانچہ وہ نبی کریم ﷺ کے پاس آئیں، آپ ﷺ نے فرمایا: "سناؤ، بیٹی کیسے آنا ہوا؟" عرض کرنے لگیں: ابا حضور! سلام کرنے آئی تھی، اور حیا کی وجہ سے بن مانگے واپس چلی گئیں، پھر دونوں آئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی حالت زار بیان کی، آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ کی قسم! یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں دوں اور اصحاب صفہ جن کے پیٹ بھوک سے دوہرے ہو رہے ہیں، انہیں نہ دوں۔ میرے پاس ان پر خرچ کرنے کے لئے کچھ نہیں ہے۔ یہ غلام بیچ کے میں انہیں خرچ دوں گا۔"

چنانچہ یہ دونوں واپس لوٹ آئے، بعد میں آپ ﷺ دلجوئی کے لئے تشریف لے گئے، اتنے میں یہ لوگ بستر میں دراز ہو چکے تھے، اور اس موٹی چادر کا طول کم تھا، ان کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے اور پاؤں کھلے تھے، اور اگر وہ پاؤں ڈھکتے تو چہرہ کھل جاتا، آپ ﷺ کی آہٹ پا کر اٹھنے لگے، آپ ﷺ نے فرمایا: لیٹے رہو، دیکھو، میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں، جس کا تم نے سوال کیا تھا، وہ عرض کرنے لگے، کیوں نہیں، فرمایا: "چند کلمات ہیں جو مجھے جبرائیل نے سکھائے ہیں، ہر نماز کے بعد تم دونوں دس بار سبحان اللہ، دس بار الحمد للہ اور دس بار اللہ اکبر کہہ لیا کرو، اور جب سوئے کا ارادہ کرو تو تینتیس (۳۳) بار سبحان اللہ، تینتیس (۳۳) بار الحمد للہ، چونتیس (۳۴) بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو" حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اللہ کی قسم! جب سے آپ ﷺ نے یہ کلمات مجھے سکھائے ہیں انہیں چھوڑا نہیں، آپ رضی اللہ عنہ سے ابن کو انے پوچھا: کیا صفین کی رات بھی نہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے اہل طروق اللہ تمہیں ہلاک کرے! صفین کی رات بھی نہیں۔

فرمایا: ہمیں یزید بن ہارون نے خبر دی، وہ فرماتے ہیں، ہمیں جریر بن حازم نے بتایا، وہ فرماتے ہیں: کہ ہم سے عمرو بن سعید نے حدیث بیان کی، فرماتے ہیں: کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے روپے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے خلاف کچھ سختی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کہنے لگیں: میں رسول اللہ ﷺ سے ضرورتہاری شکایت کروں گی۔ چنانچہ وہ چل پڑیں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی انہی کے پیچھے ہو لیے۔ آ کر آپ ﷺ سے گفتگو کی (سن کر) آپ ﷺ نے فرمایا: بیٹی! خوب کان لگا کر سنو اور سمجھو جو عورت اپنے خاوند کی مرضی پوری نہیں کرتی جبکہ اس کا خاوند خاموش ہو تو اس کی کوئی ولایت و اختیار نہیں" (یعنی اس کی شکایت سے جانے کی گنجائش نہیں)۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو انہیں ناپسند ہوتی۔ ہمیں عبید اللہ بن موسیٰ نے بتایا وہ فرماتے ہیں: ہم سے عبدالعزیز بن یسار نے بحوالہ حبیب بن ابی ثابت روایت کی، فرماتے ہیں: حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے درمیان کوئی بات ہوئی، رسول اللہ ﷺ ان کے پاس آئے، آپ ان سے گفتگو فرماتے رہے یہاں تک کہ ان میں صلح کروادی، پھر

## الاصناف في سيرة الصحابة (جلد ۳)

۳۱۷

آپ ﷺ باہر تشریف لائے۔ راوی کہتے ہیں: آپ ﷺ سے کسی نے کہا: آپ جب اندر تشریف لے گئے تھے تو آپ کی حالت یکساں تھی کوئی تبدیلی ہمیں محسوس نہیں ہوئی لیکن جب باہر تشریف لائے تو آپ کا چہرہ ہشاش بشاش تھا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں کیوں نہ خوش ہوتا جبکہ میں نے اپنے پسندیدہ دو افراد میں صلح کرا دی ہے۔“

واقفیؒ نے اپنی سند سے بحوالہ ابو جعفر نقل کیا ہے، فرماتے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما کے پاس گئے تو وہ کہہ رہے تھیں: میں عمر میں آپ سے بڑی ہوں، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اس وقت پیدا ہوئیں جب قریش کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان سے دو برس قبل پیدا ہوئے۔ واقفیؒ فرماتے ہیں: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے رمضان کے تین دن گزرنے پر منگل کی رات ۱۱ھ میں وفات پائی۔

عمرہ کے طریق سے ہے: حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ پڑھی، وہ حضرت علی اور حضرت فضل ان کی قبر میں اترے، علی بن حسین کے طریق سے ہے: کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور رات کو لوگوں کی چلت پھرت رُک جانے کے بعد انہیں دفن کیا، انہوں نے بحوالہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نقل کیا ہے کہ انہوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا۔ واقفیؒ فرماتے ہیں: میں نے عبدالرحمن بن ابوموالی سے کہا: لوگ کہتے ہیں: کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی قبر بقیع میں ہے، انہوں نے فرمایا: وہ دار عقیل کے ایک گوشے میں دفن کی گئیں اور ان کی قبر اور راستے کے درمیان سات ہاتھ کا فاصلہ ہے۔

### ۱۱۵۸۰ فاطمہ بنت اسدؓ

بن ہاشم بن عبد مناف ہاشمیہ، حضرت علی اور ان کے بہن بھائیوں کی والدہ ہیں: بعض کا قول ہے: ہجرت سے قبل وفات پا گئیں، صحیح یہ ہے کہ انہوں نے ہجرت کی اور مدینہ میں وفات پائی، شعبیؒ نے اسی پر اعتماد کیا ہے، فرماتے ہیں: اسلام لائیں اور ہجرت کی اور مدینہ میں وفات پائی۔

ابن ابی عاصم نے عبد اللہ بن محمد بن عمر بن علی بن ابوطالب سے بحوالہ ان کے والد نقل کیا ہے، کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت فاطمہ بنت اسد کے کفن کے لئے اپنی قمیص عطا فرمائیؓ اور فرمایا: ”ابوطالب کے بعد مجھ سے اچھا سلوک کرنے والا ان کے علاوہ کوئی ثابت نہیں ہوا۔“ آمشؒ بحوالہ عمرو بن مرہ، وہ ابوالہجری سے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، میں نے اپنی والدہ سے عرض کیا: پانی لانے اور دیگر ضروریات میں جانے کے سلسلے میں فاطمہ کی جگہ آپ لے لیں اور وہ بچکی پیٹنے اور آٹا گوندھنے میں آپ کا ہاتھ بٹا دے گی۔ؓ

زبیر بن بکار فرماتے ہیں: وہ پہلی ہاشمیہ ہیں جنہوں نے خلیفہ کو جنم دیا، ان کے بعد حضرت فاطمہ الزہراء ہیں، فاطمہ بنت حمزہ کے سوانح میں ان کا ذکر آئے گا۔ جو دلالت کرتا ہے کہ انہوں نے مدینہ میں وفات پائی۔ؓ

طبرانی المعجم الكبير (۹۹۶/۲۲)، مجمع الزوائد (۲۱۱/۹)، الاحاد والمثنائی (۳۵۶/۵)

اسد الغابة (۷۱۶۸)، الاستيعاب (۳۵۹۹)، تجريد (۲۹۳/۵)

معجم الكبير (۸۷۲/۲۴)، مجمع الزوائد (۲۵۶/۹)، مجمع الزوائد (۲۵۷/۹)

المعجم الكبير (۸۷۳/۲۴)، مجمع الزوائد (۲۵۶/۹)، نسب قریش (۱۶)

## الْاَكْبَرُ فِي تَنْبِيْهِ الصَّحَابَةِ (جلد ۳۱۸)

ابن سعد فرماتے ہیں: وہ نیک خاتون تھیں نبی کریم ﷺ ان سے ملاقات کے لئے تشریف لاتے تھے اور دوپہر کو ان کے گھر آرام فرماتے تھے۔

### ۱۱۵۸۱ فاطمہ بنت ابی الاسد

بعض کا قول ہے: بنت اسود بن عبد الاسد: ابو عمر فرماتے ہیں، یہ وہی ہیں، کہ نبی کریم ﷺ نے چوری کی وجہ سے ان کا ہاتھ کاٹنے کا حکم فرمایا، اور جب اسامہ بن زید نے ان کے لئے سفارش کی تو فرمایا: ”کیا تم اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟“ حبیب بن ابوثابت نے ان کی حدیث روایت کی اور ان کا نام لیا ہے۔

میں کہتا ہوں: عبدالغنی بن سعید نے مہمات میں یحییٰ بن سلمہ بن کھیل کے طریق سے، عمار دھنی سے بحوالہ ابوہریرہ نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں: فاطمہ بنت ابوالاسد نے جو ابوسلمہ کے بھائی کی بیٹی ہیں چوری کی، قریش کو خوف ہوا کہ ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، انہوں نے اسامہ سے گفتگو کی.... الحدیث

ابن سعد کا قول ہے: فاطمہ بنت اسود بن عبد الاسد اسلام لائیں اور بیعت کی، یہ وہی ہیں جنہوں نے چوری کی، تو نبی کریم ﷺ نے ان کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔

ہم سے ابن نمیر نے اہل حجاز سے بحوالہ حبیب بن ابوثابت مرفوع حدیث بیان کی کہ فاطمہ بنت اسود بن عبد الاسد نے رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں زیور چوری کیا، بہت سے لوگوں نے نبی کریم ﷺ سے سفارش کی، انہوں نے اسامہ بن زید سے گفتگو کی تاکہ وہ نبی کریم ﷺ سے ان کی سفارش کریں، جب اسامہ آئے اور ان کو نبی کریم ﷺ نے دیکھا تو فرمایا: ”اے اسامہ مجھ سے سفارش نہ کرنا، کیونکہ حدود جب میرے سپرد کی جاتی ہیں تو ان کے ترک کرنے کی گنجائش نہیں رہتی، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی ایسا کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔“ ابن سعد کا قول ہے: اہل مدینہ وغیرہ کی اہل مکہ کہ روایت ہے کہ جس خاتون نے چوری کی، اور رسول اللہ ﷺ نے ان کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، وہ ام عمرو بنت سفیان بن عبد الاسد۔

### ۱۱۵۸۲ فاطمہ بنت جُنید

بن عمرو بن عبد شمس بن عمرو، عباس بن عبد المطلب کی زوجہ اور حارث کی والدہ ہیں جو ان کا بیٹا ہے۔ زبیر بن بکر نے ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۵۸۳ فاطمہ بنت الحارث

بن خالد بن صخر بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ قرشیہ تیمیہ، ان کی والدہ رانظہ کے سواغ میں ان کا ذکر ہو چکا ہے۔

اسد الغابہ (۷۱۶۹)، تجرید (۲۹۳/۲)، الاستیعاب (۱۸۹۲/۴)

بخاری (الحدیث ۳۴۷۵، ۳۷۳۲، ۶۷۸۷) مسلم (الحدیث ۴۳۸۶) ابوداؤد (۴۲۷۳)، ترمذی (۱۴۳۰)

نسائی (۴۹۱۴)، ابن ماجہ (۲۵۴۷)

الطبقات الكبرى (۱۹۲/۸)، اسد الغابہ (۷۱۷۰)، الاستیعاب (۵۳۰۲)، تجرید (۲۹۳/۲)

### ۱۱۵۸۲ فاطمہ بنت ابی حبیش

بن مطلب بن اسد بن عبد العزی بن قصی قرشیہ اسدیہ صحیحین میں ہشام بن عروہ کے طریق سے بحوالہ ان کے والد، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں: فاطمہ بنت ابی حبیش نبی کریم ﷺ کے پاس آئیں اور کہنے لگیں: یا رسول اللہ ﷺ! مجھے حیض آتا ہے اور میں کبھی پاک نہیں ہوتی، کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”نہیں، یہ ایک رگ ہے، حیض نہیں“ الحدیث۔ اسے منذر بن مغیرہ نے بحوالہ عروہ روایت کیا ہے، کہ فاطمہ بنت ابی حبیش ہیں، ایک روایت میں الفاظ ہیں بحوالہ فاطمہ، ایک اور روایت میں ہے، مجھ سے فاطمہ نے بیان کیا، ان کی حدیث کو ابوداؤد اور نسائی نے نقل کیا ہے، اور پہلی مشہور ہے۔

### ۱۱۵۸۵ فاطمہ بنت حمزہ

بن عبدالمطلب بن ہاشم، ہاشمیہ، ان کی والدہ سلمیٰ بنت عمیس ہیں: ابن سکین کا قول ہے: ان کی کنیت ام الفضل ہے، دارقطنی نے کتاب الاخوة میں فرمایا: ان کا نام امیمہ ہے ان سے سعد بن زید کا بیٹا عبدالرحمن پیدا ہوا نبی کریم ﷺ نے سلمہ بن ابوسلمہ ابن عبدالاسد سے ان کا نکاح کر دیا، ابن ابی عاصم نے ابوقافضہ کے طریق سے بحوالہ جعدہ بن صہیرہ، انہوں نے علی سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ کو مونے ریشم کا جوڑا ہدیہ دیا گیا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”فاطماؤں کے لئے اسے اوڑھنیاں بنا دو“ تو میں نے اسے پھاڑ کر چار اوڑھنیاں بنائیں: ایک حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ ﷺ کے لئے، ایک حضرت فاطمہ بنت اسد اور ایک فاطمہ بنت حمزہ کے لئے اوڑھنی بنائی اور چوتھی فاطمہ کا ذکر نہیں کیا۔

میں کہتا ہوں: شاید وہ عقل کی زوجہ ہیں جن کا ذکر آگے آ رہا ہے۔

### ۱۱۵۸۶ فاطمہ بنت الخطاب

بن نفیل قرشیہ عدویہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں، ان کے بھائی کے سوانح میں ان کا نسب گزر چکا ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں اپنے شوہر سعید بن زید بن عمرو بن نفیل کے ساتھ اسلام لائیں، دارقطنی نے کتاب الاخوة میں روایت کیا ہے کہ ان کا نام امیمہ ہے، فرماتے ہیں: سعید بن زید سے ان کے ہاں عبدالرحمن پیدا ہوئے۔

ابوعمر فرماتے ہیں: حضرت عمر کے اسلام لانے کے بارے میں ان کی عجیب حدیث ہے۔

میں کہتا ہوں: اسے محمد بن عثمان بن ابی شیبہ نے اپنی تاریخ میں اور ابونعیم نے اپنے طریق سے اور اسحاق بن عبداللہ کے طریق سے بحوالہ ابان بن صالح اسے نقل کیا ہے۔ انہوں نے مجاہد سے، انہوں نے ابن عباس سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں: میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان کے اسلام لانے کے بارے میں پوچھا، انہوں نے فرمایا: میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے تین

اسد الغابۃ (۷۱۷۱) الاستیعاب (۳۵۰۳) تجرید (۲۹۴/۲) بخاری (الحديث ۲۲۳) مسلم (الحديث ۷۵۲)

ابوداؤد (الحديث ۲۸۰)، نسائی (الحديث ۳۵۶) اسد الغابۃ (۷۱۷۲)، تجرید (۲۹۴/۲)

الأحاد والمثنائی (۱۴۲/۱) (۱۴۳) اسد الغابۃ (۷۱۷۴)، الاستیعاب (۱۸۹۲/۴) تجرید (۲۹۴/۲)

الاستیعاب (۱۸۹۲/۴)

## الْأَخْبَارُ فِي تَبَيُّنِ الصَّحَابَةِ (مَدْرُوسَةٌ) (جلد ۵)

۳۲۰

دن بعد باہر نکلا، تو فلاں بن فلاں مغزومی کو پایا، میں نے اسے کہا: کیا تو نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر محمد کے دین کو اختیار کر لیا ہے؟ اس نے کہا یہ دین تو اس شخص نے بھی اختیار کر لیا ہے جس کا مجھ سے بڑھ کر تم پر حق ہے۔ فرماتے ہیں: میں نے کہا: کون؟ انہوں نے کہا: تمہاری بہن اور بہنوئی، فرماتے ہیں: میں چلا، اور دروازے کو بند پایا، مجھے ہلکی ہلکی آواز سنائی دی۔ فرماتے ہیں: انہوں نے میرے لئے دروازہ کھولا، میں اندر گیا، اور کہا: یہ مجھے کس چیز کی آواز آرہی تھی؟ کہنے لگیں: کچھ نہیں، بحث کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے اس کے سر پر مارا، کہنے لگیں: تمہارے نہ چاہتے ہوئے بھی ہم مسلمان ہو چکے ہیں، فرماتے ہیں: جب میں نے خون دیکھا تو مجھے شرم آئی، میں نے کہا: مجھے وہ کتاب دکھاؤ،..... پھر طویل قصہ ذکر کیا۔

واقدی نے بحوالہ فاطمہ بنت مسلم الشجیہ بحوالہ فاطمہ خزامیہ انہوں نے فاطمہ بنت خطاب سے نقل کیا ہے، کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا: ”میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک اس کے فاسق (کھلے عام گناہ کرنے والے) علماء میں دنیا کی محبت، جاہل قاریوں اور ظالموں کا ظہور نہیں ہو جاتا۔ جب یہ علامت ظاہر ہو جائے گی تو خدشہ ہے اللہ تعالیٰ انہیں عمومی عذاب میں مبتلا نہ کر دے۔

کتیوں میں عنقریب آئے گا کہ زبیر فرماتے ہیں: کہ عبدالرحمن اکبر بن سعید بن زید کی والدہ یہ ہیں: ام جمیل بنت خطاب، گویا ان کا نام فاطمہ، لقب اسمیہ، اور کنیت ام جمیل ہے، ابن سعد\* کا قول ہے کہ کتاب النسب میں ہے جن سے سعید بن زید بن عمرو بن نفیل نے نکاح کیا تھا وہ رملہ ہیں، اور ذہ ام جمیل بنت خطاب ہیں۔

### ۱۱۵۸۷ فاطمة بنت سودة\*

بن ابی ثخیس، جہنیہ، ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۵۸۸ فاطمة بنت شریح الکلابیہ\*

ابن بشکوال نے بحوالہ ابی عبیدہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے ازواج مطہرات میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۵۸۹ فاطمة بنت شریک

بن حماء، ان کے والد کے سوانح میں ان کا ذکر ہے۔

### ۱۱۵۹۰ فاطمة بنت شیبہ\*

بن ربیعہ بن عبد شمس عشمیہ، عقیل بن ابی طالب نے ان سے نکاح کیا، ابن ہشام نے ذکر کیا ہے: کہ عقیل حنین کے دن لڑائی کے بعد ان کے پاس آئے، تو انہوں نے کہا: تمہیں کیا غنیمت ملی؟ انہوں نے انہیں سوئی دی۔ اتنے میں نبی کریم ﷺ کے منادی نے کہا: ”مجاہدین! سن لو! سوئی اور دھاگہ تک اجتماعی مال غنیمت میں\* جمع کرادو!“ انہوں نے ان سے سوئی لی اور غنیمت

\* الطبقات الکبریٰ (۱۹۵/۸) \* اسد الغابۃ (۷۱۷/۶)، تجرید (۲۹۴/۲) \* تجرید (۲۹۴/۲)

\* اسد الغابۃ (۷۱۷/۷)، تجرید (۲۹۴/۲) \* السیرۃ النبویہ (۱۰۶/۴)، الطبقات الکبریٰ (۱۷۳/۸)



میں رکھ دی۔

واقدی نے حضرت فاطمہ بنت ولید بن عتبہ کے بارے میں یہ نقل کیا ہے، بعض کا قول ہے: عقیل کی زوجہ کا نام یہ ہے: فاطمہ بنت عتبہ جو ہند کی بہن ہیں، یہ ابن ابی ملیکہ سے منقول ہے۔

### ۱۱۵۹۱ فاطمہ بنت صفوان

بن امیہ بن محرز بن حمل بن شق بن رقبہ بن مخدج کنانیہ، عمرو بن ابی اجمہ سعید بن العاص کی زوجہ ہیں، ابن اسحاق نے بنو امیہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں ان کا نام لیا ہے۔ فرماتے ہیں: عمرو بن سعید ان کے ساتھ ان کی زوجہ فاطمہ بنت صفوان کنانیہ نے ہجرت کی اور وہیں وفات پا گئیں، ابن سعد نے ان کا نسب بیان کیا ہے اور فرمایا: مکہ میں ابتدائی دور میں اسلام لائیں۔

### ۱۱۵۹۲ فاطمہ بنت الضحاک

بن سفیان کلابیہ: ابو عمر نے ان کا ذکر کیا ہے اور فرمایا: ابن اسحاق فرماتے ہیں: نبی کریم ﷺ نے ان سے ان کی بیٹی زینب کی وفات کے بعد نکاح کیا اور جب آیت تخمیر نازل ہوئی تو انہیں اختیار دیا، انہوں نے دنیا کو اختیار کیا تو نبی کریم ﷺ نے انہیں جدا کر دیا، اس کے بعد وہ بیگنیاں چنا کرتی تھیں۔ اور فرماتیں: میں بد بخت ہوں، میں نے دنیا کو اختیار کیا ابو عمر کا قول ہے: یہ ہمارے نزدیک صحیح نہیں، کیونکہ شہاب ابوسلمہ کے حوالے سے اور حضرت عروہ حضرت عائشہ کے حوالے سے روایت کرتے ہیں: کہ جب نبی کریم ﷺ نے اپنی ازواج کو اختیار دیا تو ان سے آغاز کیا، میں نے اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کیا، فرماتے ہیں اور رسول اللہ ﷺ کی تمام ازواج نے اسی کی پیروی کی۔

حضرت قتادہ اور عمرہ کا قول ہے: آپ ﷺ نے جب انہیں اختیار دیا اس وقت آپ ﷺ کے نکاح میں نو ازواج مطہرات تھیں، جو آپ ﷺ کی وفات کے وقت زندہ تھیں ایک جماعت کا قول ہے: جو کہتی تھیں میں بد بخت ہوں، انہوں نے پناہ چاہی تھی، اور پناہ مانگنے والی خاتون کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔

بعض کا قول ہے: ضحاک بن سفیان نے اپنی بیٹی فاطمہ کو آپ ﷺ کے ہاں نکاح کے لئے پیش کیا اور عرض کیا: کبھی اس کے سر در نہمیں ہوا، آپ نے فرمایا: مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ بعض کا قول ہے: آپ ﷺ نے ان سے ۸ھ میں نکاح کیا تھا ابن عبدالبر کا کلام ختم ہوا۔

ان کے کلام کی تشریح کی ضرورت ہے اور بعض مقامات قابل مواخذہ ہیں کہ حدیث ابن شہاب جو انہوں نے ذکر کی، وہ

اسد الغابۃ (۷۱۷۸)، الاستیعاب (۳۵۰۶)، تجرید (۲۹۴/۲)

السیرۃ النبویۃ (۲۵۶/۱) الطبقات الکبریٰ (۱۳۹/۸)

اسد الغابۃ (۷۱۷۹)، الاستیعاب (۵۳۰۷)، تجرید (۲۹۴/۲)

الاستیعاب (۱۸۹۹/۴) بخاری (الحديث ۴۷۸۵، ۴۷۸۶)



صحیح میں ہے۔ (لیکن اس کے آخر میں ہے: میرے والد جانے لگے.....) اور رہا قتادہ کا قول تو اسے نقل کیا ہے..... اور رہا عکرمہ کا قول تو اسے نقل کیا ہے..... ان کا یہ قول کہ یہ وہی ہیں جو آپ ﷺ کی وفات کے وقت زندہ تھیں، اس میں تردد ہے، کیونکہ آیت تحمیر..... اور آپ ﷺ نے اس کے بعد نکاح کیا.....)

اور ان کا قول: کہ جو یہ کہتی تھیں کہ میں بد بخت ہوں وہ پناہ چاہنے والی تھیں، اس قول کو واقدیؒ نے بحوالہ ابن مناح روایت کیا ہے فرماتے ہیں: انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے پناہ چاہی، اور اس سے ابن اسحاق کا قول باطل نہیں ہوتا کہ کلابیہ نے اختیار کیا وہ کہتی تھیں: میں بد بخت ہوں، کیونکہ دونوں واقعات کو جمع کرنا ممکن ہے۔

رہا ان کا قول: کہ پناہ چاہنے والی میں بہت سا اختلاف ہے۔ وہ صحیح ہے، ابن سعد کا قول ہے: کلابیہ کے بارے میں اختلاف ہے، اور ان کے نام کے بارے میں اختلاف ہے: بعض کا قول ہے: فاطمہ بنت ضحاک بن سفیان، بعض نے کہا: عمرہ بنت یزید بن عبید، بعض کا قول ہے سنا بنت سفیان بن عوف، یہ بھی قول ہے کہ یہ ایک ہیں اور ان کے نام میں اختلاف ہے، بعض نے کہا: تین ہیں، پھر واقدیؒ نے مسند ابواسطہ ابن اخی زہری نقل کیا، انہوں نے زہریؒ سے نقل کیا ہے: فرماتے ہیں: وہ فاطمہ بنت ضحاک ہیں، آپ ﷺ ان کے پاس آئے تو انہوں نے آپ ﷺ سے پناہ مانگی آپ ﷺ نے انہیں طلاق دے دی وہ بیگنیاں چنا کرتی تھیں اور کہتیں: میں بد بخت ہوں۔

اسی مذکورہ سند سے بحوالہ زہری مسند اذکر کیا ہے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے، فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ نے کلابیہ سے نکاح کیا، جب وہ آپ ﷺ کے پاس لائی گئیں، آپ ان کے قریب آئے تو کہنے لگیں: میں آپ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم نے بڑی ہستی کی پناہ مانگی ہے، اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ۔“

عبدالواحد بن ابی عون کے طریق سے بحوالہ ام مناح مروی ہے، فرماتی ہیں: جس عورت نے پناہ مانگی تھی وہ شدت غم کی وجہ سے اپنی عقل کھو بیٹھی تھی۔ وہ امہات المؤمنین سے ملنے آتی تو اجازت لیتے وقت کہتی! میں بد بخت آئی ہوں۔ اور بتاتی تھی کہ مجھے دھوکا دیا گیا ہے۔

عمرو بن شعیب کے طریق سے بحوالہ ان کے والد اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ان کی رخصتی ہوئی تھی اور جب آپ ﷺ نے اپنی ازواج کو اختیار دیا تو انہوں نے اپنی قوم کو پسند کیا آپ ﷺ نے انہیں جدا کر دیا، وہ بیگنیاں چنا کرتی تھیں اور کہتیں: میں بد بخت ہوں۔

بعض کا قول ہے: پناہ مانگنے والی سنا بنت نعمان بن ابی الجون تھیں، ابن سعد نے بحوالہ واقدیؒ اسے مسند نقل کیا ہے، انہوں نے محمد بن یعقوب سے، انہوں نے عقبہ سے، انہوں نے عبدالواحد بن ابی عون سے روایت کیا ہے، بعض کا قول ہے: اسماء بنت نعمان بن ابی الجون، واقدیؒ نے اسے مسند نقل کیا ہے بحوالہ عمرو بن صالح، انہوں نے سعید بن عبدالرحمن بن ابی ہریرہ سے،

❖ بیاض فی الاصل (اصل مسودہ میں یہ سطور خالی ہیں۔ از مترجم)

❖ بخاری (الحديث ۵۲۵۴)، نسائی (الحديث ۳۴۱۷)

انہوں نے ہشام بن کلثی سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ابوصالح سے، انہوں نے ابن عباس سے روایت کیا ہے۔  
ابو اسید ساعدی کے طریق سے صحیح میں مذکور قصہ کی طرح ہے، اس کے آخر میں ہے، وہ کہتی تھیں، مجھے بد بخت کہو دوسرے  
طریق سے بحوالہ ابو اسید مروی ہے کہ وہ خاتون جنہوں نے پناہ چاہی تھی وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں وفات پا گئیں۔  
اور رہا ان کا قول کہ اس میں سے کچھ صحیح نہیں، عجیب ہے، کیونکہ صحیح میں ابو اسید ساعدی کی حدیث سے ان کا قصہ ثابت  
ہے البتہ صحیح ہونے کی نفی سے مراد کلابیہ کے بارے میں یقینی قول کی نفی ہے۔

رہا ان کا قول کہ ضحاک بن سفیان نے آپ ﷺ کے ہاں اپنی بیٹی کو پیش کیا تھا، اور عرض کیا: اس کے سر میں درد نہیں ہوا۔  
صحیح میں اسے نقل کیا گیا ہے۔

رہا یہ قول، بعض نے کہا ہے: آپ ﷺ نے ۸ھ میں ان سے نکاح کیا، ظاہر ہے کہ حاضیر کا مرجع سوانح والی شخصیت  
ہے۔ جس کا تقاضا ہے کہ اس کا متضاد قول پہلے گزر چکا ہے۔ وہ قول یہی ہے کہ آپ ﷺ نے اپنی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا  
کی وفات کے بعد ان سے نکاح کیا تھا۔

ابن سعد نے بحوالہ واقدی اسے مسنداً نقل کیا ہے، انہوں نے ابراہیم بن وشمہ سے، انہوں نے ابی وجزہ سے اسے  
روایت کیا ہے، فرماتے ہیں: نبی کریم ﷺ نے کلابیہ سے ذی قعدہ ۸ھ میں ہجرانہ سے واپسی پر نکاح کیا، اسماعیل بن مصعب سے  
بحوالہ ان کے قبیلے کے کسی شیخ سے روایت ہے، وہ ۶۰ھ میں وفات پا گئیں۔

### ۱۱۵۹۳ فاطمة بنت ابی طالب

بعض کا قول ہے: وہ ام ہانی ہیں، کنیتوں میں ان کا ذکر آئے گا۔ ابو نعیم نے ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۵۹۴ فاطمة بنت عامر

بن حذیم قرشیہ حمجیہ۔ سعید بن عامر جو مشہور صحابی ہیں ان کی بہن ہیں، مغیرہ بن ابوالعاص کی زوجہ ہیں جو حضرت عثمان بن  
عقمان رضی اللہ عنہ کے چچا ہیں، ان سے عائشہ پیدا ہوئیں جن سے مروان نے نکاح کیا، جس سے عبدالملک پیدا ہوئے، زبیر بن بکار نے  
یہ ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۵۹۵ فاطمة بنت عبداللہ

عثمان بن ابی العاص ثقفی کی والدہ ہیں۔ ابو عمرؒ نے ان کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا: جب حضرت آمنہ کے ہاں نبی کریم ﷺ  
پیدا ہوئے تو وہ موجود تھیں، اس وقت رات تھی، فرماتی ہیں: گھر کی ہر شے روشن تھی، اور ستارے بہت قریب نظر آ رہے تھے، یہاں  
تک کہ میں کہہ رہی تھیں: ”وہ مجھ پر آ گریں گے۔“  
میں کہتا ہوں: ابو عمر نے اسے مسنداً نقل کیا ہے۔

## ۱۱۵۹۶ فاطمہ بنت عتبہ

بن ربیعہ بن عبد شمس عجمیہ۔ حضرت ہند کی جو حضرت ام معاویہ کی والدہ ہیں، بہن ہیں: ان سے ام محمد بن عجلان نے روایت کی اور وہ ان کی مولاۃ ہیں، یہ ابو عمر کا قول ہے۔

میں کہتا ہوں: ابن مندہ نے اسے ابو بکر بن عیاش کے طریق سے محمد بن عجلان سے بحوالہ ان کی والدہ مسنداً نقل کیا ہے، انہوں نے حضرت فاطمہ بنت عتبہ سے روایت کیا ہے۔ فرماتی ہیں، میں نے کہا: ”یا رسول اللہ ﷺ! میں چاہتی تھیں دنیا کے تمام گھرانوں میں سے اللہ تعالیٰ آپ کے گھرانے کو ذلیل کرے“۔ (حدیث) \*

فرماتے ہیں: اسے ابن ابی اویس نے بحوالہ اپنے والد، انہوں نے ابن عجلان سے روایت کیا ہے، اور اس میں کچھ اضافہ نقل کیا ہے۔ طبرانی رحمہ اللہ نے یعقوب بن محمد کے طریق سے بحوالہ ابو بکر بن اویس، انہوں نے ابویوب سے جو قاسم کے مولیٰ ہیں، انہوں نے ابن عجلان سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے فاطمہ بنت عتبہ سے روایت کی ہے کہ ابو حذیفہ بن عتبہ انہیں اور اپنی بہن کو ساتھ لے گئے ہم نے رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی، جب آپ نے شرائط لگائیں تو ہند آپ سے کہنے لگیں: کیا ان ممنوع باتوں میں سے آپ کو اپنی قوم کی عورتوں میں کسی بات کا علم ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ان سے بیعت کرو! یہی شرط ہے۔“

ابن سعد \* کا قول ہے: ان سے قُرظہ بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف نے نکاح کیا، جس سے ولید، ہشام، مسلم، عتبہ، ابی برقرظہ، آمنہ بنت قُرظہ، اور فاختہ پیدا ہوئیں۔ فاختہ سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا، پھر وہ اسلام لائیں اور بیعت کی، پھر ان سے ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ نے نکاح کیا۔ ابن سعد نے صحیح سند سے بحوالہ ابن ابی ملیکہ نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: عقیل بن ابوطالب نے فاطمہ بنت عتبہ بن ربیعہ سے نکاح کیا، جب وہ ان کے پاس آتے تو کہتیں: عتبہ بن ربیعہ کہاں (جنت میں یا جہنم) ہے؟ انہوں نے ان سے ایک دن کہا: جب انہیں غصہ دلایا، جب تم جہنم میں جاؤ گی تو تمہاری بائیں طرف ہوگا، دیکھ لینا۔ وہ کہنے لگیں: ہم دونوں ایک گھر میں نہیں رہ سکتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں، آپ نے ابن عباس اور معاویہ رضی اللہ عنہما کو ان کے ساتھ روانہ کیا، جب یہ دونوں وہاں پہنچے، دیکھا دونوں نے صلح کر لی ہے۔ انہوں نے اسے اختصار کے ساتھ بحوالہ ابن عباس رضی اللہ عنہما موصولاً نقل کیا ہے، اور ان کی سند میں واقدی رحمہ اللہ ہیں۔

## ۱۱۵۹۷ فاطمہ بنت علقمہ

بن عبد اللہ بن ابی قیس، ام قہطم العامریہ، اپنے شوہر سلیط بن عمرو کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی، ان کے ہاں سلیط بن سلیط نام پیدا ہوئے، ان کا یہی نام کنیت ابن سعد نے لکھی ہے۔ فرماتے ہیں: ان کی والدہ عاتکہ بنت اسعد بن عامر بن یماضہ

\* اسد الغابۃ (۷۱۸۲) الاستیعاب (۳۵۰۹) تجرید (۲۹۵/۲)

\* مسلم (الحديث: ۴۴۵۴) ابوداؤد (الحديث: ۳۵۳۳)

\* المعجم الكبير (۹۰۴/۲۲) مجمع الزوائد (۳۹/۶)

\* الطبقات الكبرى (۷۷۲/۸) تجرید (۲۹۵/۲)

خزاعیہ ہیں، اور فرمایا: مکہ کے ابتدائی دور میں اسلام لائیں اور بیعت کی، ان کے والد کے سوانح میں گزر چکا ہے کہ وہ ام معظم ہیں، یہ ان کی کنیت ہے۔

### ۱۱۵۹۸ فاطمہ بنت عمرو بن حرام

انصاریہ۔ حضرت جابر بن عبد اللہ کی پھوپھی ہیں، ان کے بھائی عمرو بن حرام کے سوانح میں ان کا نسب گزر چکا ہے، صحیح حدیث میں شعبہ کی روایت میں بحوالہ ابن المنکدر ان کا ذکر ثابت ہے، انہوں نے جابر سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں: جب میرے والد قتل کئے گئے، تو میں ان کے چہرے سے مٹی صاف کرنے لگا اور لوگ مجھے منع کرنے لگے، میری پھوپھی فاطمہ بنت عمرو ان پر رونے لگیں..... (الحدیث) \* یہ طیلسی کی روایت کے الفاظ بحوالہ شعبہ ہیں۔

### ۱۱۵۹۹ فاطمہ بنت عمرو بن حرم

ابوموسیٰ نے ذیل میں ان کا ذکر کیا ہے، اور بحوالہ مستغفری نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں: انہیں شرف صحابیت حاصل ہے، ابوموسیٰ نے کہا ہے کہ یہ پہلے والی ہی ہیں۔

### ۱۱۶۰۰ فاطمہ بنت قیس بن خالد

قرشیہ، فہرہ، ضحاک بن قیس کی بہن ہیں جن کے سوانح میں ان کا نسب گزر چکا ہے، عمر میں ان سے بڑی تھیں۔ ابو عمر کا قول ہے: اولین مہاجرین میں سے تھیں، خوبصورت اور عقلمند تھیں، ابوبکر بن حفص مخزومی کے نکاح میں تھیں، انہوں نے طلاق دے دی، اس کے بعد اسامہ بن زید سے نکاح ہوا۔

میں کہتا ہوں: اس بارے میں صحیح \* میں ان کی حدیث ہے، جب انہوں نے اپنے شوہر کے وکیل سے نفقہ طلب کیا، تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”ام شریک کے ہاں عدت گزارو“۔ پھر فرمایا: ”ابن ام مکتوم کے ہاں“۔ جب انہیں نکاح کے پیام آئے تو آپ نے اسامہ بن زید \* کا مشورہ دیا، یہ مشہور قصہ ہے۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے حساسہ کا طویل قصہ روایت کیا ہے، وہ اس طویل قصے کی روایت میں منفرد ہیں، جب وہ اپنے بھائی کو ملنے کوفہ آئیں جو امیر کوفہ تھے تو ان سے شععی بن عبد اللہ نے روایت کی ہے جن میں حدیث جابر وغیرہ میں سے بعض سے میں مطلع ہوا۔ بعض کا قول ہے: وہ ضحاک سے دس برس بڑی ہیں، یہ ابو عمر کا قول ہے، فرماتے ہیں: ان کے گھر اہل شوریٰ جمع ہوئے جب حضرت عمر بن عبد اللہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ ابن سعد رحمہ اللہ \* کا قول ہے: ان کی والدہ امیمہ بنت ربیعہ ہیں، جو بنو کنانہ سے ہیں۔

\* اسد الغابہ (۷۱۸۳) الاستیعاب (۳۵۱۰) تجرید (۲۹۵/۲)

\* بخاری (الحدیث: ۱۲۴۴) مسلم (الحدیث: ۶۳۰۵) \* اسد الغابہ (۷۱۸۴)

\* اسد الغابہ (۷۱۸۵) الاستیعاب (۳۵۱۱) تجرید (۲۹۵/۲) \* الاستیعاب (۹۰۱/۴)

\* مصنف عبد الرزاق (الحدیث: ۱۲۰۲۱) مستدرک (۵۵/۴) المعجم الكبير (۹۲۸/۲۴)

\* ترمذی (۱۱۸۰) \* الطبقات الكبرى (۲۰/۸)

### ۱۱۶۰۱ فاطمہ بنت قیس

بعض کا قول ہے: وہ بنت ابی حمیش ہیں، اور ابو حمیش کا نام قیس ہے۔

### ۱۱۶۰۲ فاطمہ بنت المجمل

بن عبد اللہ بن ابی قیس بن عبد وڈ بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوی قرشیہ عامریہ، ان کی کنیت ام جمیل تھی، اور وہ اسی سے مشہور ہیں۔ ابن اسحاق \* کا قول ہے: یونس بن بکیر وغیرہ کی روایت میں ہے، حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں ان کا ذکر ہے کہ حاطب بن حارث نے ہجرت کی اور ان کے ساتھ ان کی زوجہ فاطمہ بنت مجمل تھیں، ان کے شوہر وہاں وفات پا گئے، وہ اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر دونوں شقی والوں کے ساتھ مدینہ آئیں۔ عبد اللہ بن حارث بن محمد بن حاطب نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں: جب ہم حبشہ کی سرزمین سے آئے تو میری والدہ مجھے لے کر نبی کریم ﷺ کے پاس آئیں.... حدیث ذکر کی۔ \* جن کا ذکر محمد بن حاطب کے سوانح میں گزر چکا ہے۔

### ۱۱۶۰۳ فاطمہ بنت منقذ

بن عمرو بن خضاء بن مبذول انصاریہ، بنو مازن بن نجار سے تھیں، ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ ابن سعد \* نے بھی ان کا ذکر کیا اور فرمایا: وہ ام ولد تھیں، ان سے داؤد بن ابوداؤد بن عامر بن مالک بن خضاء نے نکاح کیا، جس سے اولاد ہوئی۔

### ۱۱۶۰۴ فاطمہ بنت الولید

بن عبد شمس بن ولید بن مغیرہ مخزومیہ، ان کے والد یمامہ میں قتل ہوئے، اور ام حکیم بنت ابو جہل ان کی والدہ ہیں، فاطمہ مذکورہ نے عثمان بن عفان سے نکاح کیا، جس سے سعید اور ولید پیدا ہوئے، بعض کا قول ہے: ان کا نام اسماء ہے۔

### ۱۱۶۰۵ فاطمہ بنت الولید

بن عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس عثمیہ، ان کے والد حالت کفر میں بدر میں قتل ہوئے۔ ان کی پھوپھی فاطمہ بنت عتبہ کا ذکر گزر چکا ہے، یہ ہجرت کرنے والی، علم و فضل والی تھیں، ان کے چچا ابو حذیفہ بن عقبہ نے سالم سے ان کا نکاح کر دیا جنہیں مولیٰ ابو حذیفہ کہا جاتا تھا، وہ یمامہ میں شہید ہوئے۔

ابو عمر کا قول ہے: اس کے بعد حارث بن ہشام سے نکاح ہوا، یہی ان کا قول ہے جبکہ اس میں تاثر ہے۔ جسے ابن الاثیر \*

اسد الغابۃ (۷۱۸۶) الاستیعاب (۳۵۱۲) تجرید (۲۹۵/۲) \* السیرۃ النبویۃ (۲۵۹/۱) (۶۴)

المعجم الکبیر (۵۳۵/۱۹) مجمع الزوائد (۴۱۵/۹) معرفۃ الصحابۃ (۶۶/۲)

اسد الغابۃ (۷۱۸۷) الاستیعاب (۳۵۱۳) تجرید (۲۹۵/۲) \* الطبقات الکبریٰ (۲۹۵/۲)

اسد الغابۃ (۷۱۸۸) الاستیعاب (۳۵۱۳) تجرید (۲۹۵/۲) \* اسد الغابۃ (۳۷۲/۵)

نے بیان کیا ہے اور اس بات کو درست قرار دیا ہے کہ حارث بن ہشام کی اہلیہ ان کے بعد والی ہیں، واقعی یہی بات ہے۔

### ۱۱۶۰۶ فاطمہ بنت الولید \*

بن مغیرہ بن عبد اللہ بن عمرو بن مخزوم قرشی مخزومیہ، حضرت خالد بن ولید کی بہن ہیں۔ ابن سعد \* کا قول ہے۔ ان کی والدہ خنثہ (ن ساکن اورث کے ساتھ) بنت عبد اللہ بن عمرو بن کعب کنانیہ ہیں، فتح کے دن اسلام لائیں اور بیعت کی، حارث بن ہشام کی زوجہ اور عبد الرحمن اور ام حکیم کی والدہ ہیں جو حارث کے بیٹے ہیں۔ ابو عمر \* کا قول ہے، بعض نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حارث کے بعد ان سے نکاح کیا اور اس میں تردد ہے۔

میں کہتا ہوں: ابن مندہ نے ان کے لیے عنوان قائم کیا ہے۔

فاطمہ بنت ولید قرشیہ، اور ان سے حدیث ازار نقل کی ہے، عقیلی نے اسے عبد السلام بن حرب کے طریق سے، اسحاق بن عبد اللہ بن ابوفروہ سے، بحوالہ ابراہیم بن عباس بن حارث، انہوں نے ابوبکر بن حارث سے، انہوں نے فاطمہ بنت ولید سے جو ابوبکر کی والدہ ہیں، روایت کیا ہے کہ وہ ریشی لباس کے چبے پہنٹیں اور پھر ازار باندھتی تھیں، لوگوں نے کہا: اس کا کیا فائدہ؟ فرمانے لگیں: میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ انہوں نے ازار کا حکم دیا۔ ابن اشیر \* کا قول ہے: یہ قول کہ ابوبکر کی والدہ ہیں یعنی ابن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام، یہ ان کے والد کی والدہ ہیں، اور ابوبکر کی دادی ہیں، بات یہی ہے۔ ابن عساکر نے کہا ہے کہ فاطمہ بنت ولید بن مغیرہ، خالد کی بہن ہیں، انہیں شرف صحابیت حاصل ہے، اپنے شوہر حارث کے ساتھ شام گئیں ان کے بھائی خالد نے اپنے بعض معاملات میں ان سے مشورہ لیا۔

انہوں نے نبی کریم ﷺ سے ایک حدیث روایت کی ہے، ان سے ان کے بیٹے ابوبکر بن عبد الرحمن نے روایت کی ہے پھر وہ حدیث ذکر کی، جس میں ازار باندھنے کا حکم ہے۔

### ۱۱۶۰۷ فاطمہ بنت یعار

بعض کا قول ہے: وہ سالم مولیٰ ابو حذیفہ کی مولاہ ہیں۔

### ۱۱۶۰۸ فاطمہ بنت الیمان العسیہ \*

حذیفہ کی بہن ہیں، حذیفہ کے سوانح میں ان کا نسب گزر چکا ہے۔ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے روایت کی کہ وہ خواتین کے ساتھ آپ ﷺ کی عیادت کرنے آئیں، ایک لٹکے ہوئے مشکیزے سے پانی قطرہ قطرہ آپ ﷺ پر گر رہا تھا جو بخار کی شدت کو کم کرنے کے لیے تھا، اس روایت میں ہے: ”سب سے زیادہ مصائب انبیاء پر آتے ہیں پھر جو لوگ ان کے قریب ہیں۔“ \*

\* اسد الغابۃ (۷۱۸۸) الاستیعاب (۳۵۱۴) تجرید (۲۹۶/۲)

\* الطبقات الکبریٰ (۱۹۰/۸) \* الاستیعاب (۱۹۰/۱۶، ۱۹۰/۲)

\* اسد الغابۃ (۳۷۳/۵) \* اسد الغابۃ (۷۱۹۰) الاستیعاب (۳۵۱۵) تجرید (۲۹۶/۲)

\* اسد الغابۃ (۳۷۴/۵)

ان سے ان کے بھتیجے ابوعبیدہ بن حذیفہ نے روایت کی، اور انسؓ کی \* اور ابن سعد نے قوی سند سے ان کی حدیث روایت کی، ہم نے عالی سند سے ابن مندہ کی کتاب معرفۃ اور ابن مسعود بن فرات کے جزء میں اسے روایت کیا۔ ابن سعدؓ کا قول ہے: اسلام لائیں اور بیعت کی، منصور نے بحوالہ ربیع بن خراش فرمایا: میں نے مجاہد سے کہا: مجھ سے ربیع نے بحوالہ ایک خاتون، انہوں نے حذیفہ کی بہن سے روایت کیا، ان کی کئی بہنیں تھیں، جنہوں نے نبی کریم ﷺ کا زمانہ پایا۔ مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے: ان خاتون نے ان کا زمانہ پایا..... حدیث سونے \* کے زیورات کی مذمت کے بارے میں ہے۔

### ۱۱۶۰۹. قُرْتَنَى \*

ان دو باندیوں میں سے ایک تھیں جنہیں ابن حنظل نے گانا بجانا سکھایا تاکہ وہ نبی کریم ﷺ اور آپ کے اصحاب کی ہجو کریں، تو یہ ان لوگوں میں سے تھیں جن کا خون فتح مکہ کے روز آپ نے بے کار قرار دیا تھا (کوئی بھی انہیں قتل کر سکتا ہے) یہ اسلام لے آئیں اور گانا بجانا ترک کیا اور دوسری قتل ہوئی، یہ سبیلی کا قول ہے۔

### ۱۱۶۱۰. الفرعة بنت مالك الخُدَريّة

فریعہ میں ان کے حالات آئیں گے۔

### ۱۱۶۱۱. فروه بنت الحارث العتواریه

عقیلہ کی والدہ ہیں، عقیلہ میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔ خطیب کی تحریر سے میں نے اسے ف اور راء ساکن کے ساتھ پڑھا ہے۔

### ۱۱۶۱۲. فُریعہ بنت ابی امامہ

اسعد بن زرارہ انصاریہ۔ رفاعہ میں ان کے حالات گزر چکے ہیں۔

### ۱۱۶۱۳. فُریعہ بنت الحباب \*

ابن رافع بن معاویہ بن عُئید بن جراح انصاریہ، بنو اُبجر سے ہیں۔ ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ \*

### ۱۱۶۱۴. فُریعہ بنت خالد \*

ابن حنیس بن لوذان انصاریہ، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں، اور انہیں کی طرف منسوب تھے، کہا جاتا: ابن فُریعہ نے کہا، انہوں نے اپنے آپ کو اس شعر میں ان کی طرف منسوب کیا:

\* نسائی (الحديث: ۵۱۵۲، ۵۱۵۳) \* الطبقات الکبریٰ (۲۳۸/۸)

\* ابودیود (۴۲۳۴) مسند احمد (۳۹۶/۶) \* تجرید (۲۹۶/۲)

\* اسد الغابۃ (۷۱۹۳) تجرید (۲۹۶/۲) \* المحبر (۴۲۲) \* تجرید (۲۹۶/۲)

”چادریں ہی چادریں ہو گئیں، جب وہ غالب آ گئے اور بڑے ہو گئے فریعیہ کا بیٹا شہر کا انڈا بن گیا۔“  
ابن سعد \* نے بیعت کرنے والی صحابیات رضی اللہ عنہن میں ان کا ذکر کیا ہے۔ بعض کا قول ہے، ان کے والد کا نام عمرو ہے۔

۱۱۶۱۵ فریعیہ بنت زرارہ رفاعہ میں گزر چکی ہیں۔

۱۱۶۱۶ فریعیہ بنت عمرو \*

ابن خنیس بن لوزان جو منذر بن عمرو کی بہن ہیں۔ ان کے بھائی کے سوانح میں ان کا نسب گزر چکا ہے۔ اور ان کے بھائی کا مشہور صحابہ رضی اللہ عنہ میں شمار ہے۔ \*

۱۱۶۱۷ فریعیہ بنت عمرو

ابن لوزان حضرت حسان کی والدہ ہیں، بعض کا قول ہے: بنت خالد، ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

۱۱۶۱۸ فریعیہ بنت قیس الأنصاریہ \*

بنو جحبی سے ہیں، ابن اسحاق نے نبی کریم ﷺ سے بیعت کرنے والوں میں ان کا ذکر کیا ہے۔

۱۱۶۱۹ فریعیہ بنت مالک بن الدخشم \*

بنو عوف بن خزرج سے ہیں، ان کے والد کے سوانح میں ان کا نسب گزر چکا ہے۔ ابن حبیب \* نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔

۱۱۶۲۰ فریعیہ بنت مالک \*

ابن سنان خدریہ، البوسعید کی بہن ہیں۔ ان کے بھائی کے سوانح میں ان کا نسب گزر چکا ہے۔ اکثر کے نزدیک ایسا ہی ہے۔ سنن نسائی \* میں ان کی حدیث کے سیاق میں فارعہ ہے۔ اور طحاوی رحمہ اللہ میں فرعہ ہے، ان کی والدہ حبیبہ بنت عبداللہ بن ابی ہے۔ ان کی حدیث کا مدار سعد بن اسحاق بن کعب بن عجرہ پر ہے، انہوں نے اپنی پھوپھی زینب بنت کعب بن عجرہ سے روایت کی ہے کہ فریعیہ بنت مالک بن سنان جو البوسعید خدری کی بہن ہیں، انہوں نے انہیں بتایا کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئیں اور آپ ﷺ سے پوچھا کہ کیا وہ بنو خدرہ میں اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ سکتی ہیں، کیونکہ ان کے شوہر اپنے بھائے ہوئے غلاموں کو تلاش کرنے نکلے ہیں، جہاں وہ قتل ہو گئے..... پھر حدیث ذکر کی، اس روایت میں ہے: ”اپنے گھر میں ٹھہرو یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے۔“ اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کسی کو بھیج کر مجھ سے اس بارے میں پوچھا، میں نے انہیں بتایا، انہوں

\* الطبقات الکبریٰ (۲۷۱/۸) \* اسد الغابہ (۷۱۹۵) تجرید (۲۹۶/۲)

\* الطبقات الکبریٰ (۲۷۱/۸) \* اسد الغابہ (۷۱۹۶)

\* اسد الغابہ (۷۱۹۷) تجرید (۲۹۶/۲) \* المعبر (۴۲۴)

\* اسد الغابہ (۷۱۹۸) الاستیعاب (۳۵۱۷) \* ابوداؤد (الحديث: ۲۳۰۰)



نے اسی سے فیصلہ کیا۔ \*

امام مالک رحمہ اللہ نے موطا میں اسے سعد بن اسحاق سے روایت کیا ہے اور الیاس بن مالک نے اپنے شیخ زہری سے اسے روایت کیا ہے، ابن مندہ کا قول ہے: ہمیں محمد بن یعقوب نیشاپوری نے بتایا کہ ہم سے محمد بن سلیمان بن حارث نے حدیث بیان کی، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے احمد بن عبداللہ نساج نے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے احمد بن سیف بن سعید نے وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے بحوالہ یونس بن یزید، انہوں نے ابن شہاب سے وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے مالک بن انس نے حدیث بیان کی.... پھر اسے ذکر کیا۔

### ۱۱۶۲۱ قَرِيعَةُ بِنْتُ مُعَوِّذٍ \*

ابن عفران انصاریہ، ربیع کی بہن ہیں، ان کے والد کے سوانح میں ان کا نسب گزر چکا ہے۔ ابو عمر \* کا قول ہے، انہیں شرف صحابیت حاصل ہے۔ ان کی حدیث شادی کے موقع پر ترنم سے اشعار پڑھنے اور دف بجانے کے بارے میں ہے جو اہل بصرہ سے مروی ہے، ابن مندہ کا قول ہے: خالد بن دینار نے ان کی حدیث بحوالہ ان کی والدہ جنہوں نے ان سے روایت کیا نقل کی ہے کہ وہ نبی کریم ﷺ کے پاس آئیں۔

### ۱۱۶۲۲ قَرِيعَةُ بِنْتُ وَهْبِ الزُّهْرِيَّةِ \*

نبی کریم ﷺ نے اپنے ہاتھ سے ان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا: ”جو چاہتا ہو کہ رسول اللہ ﷺ کی خالہ کو دیکھے تو وہ انہیں دیکھ لے۔“ \* ابوموسیٰ نے ذیل میں بحوالہ مستغفری ان کا ذکر کیا ہے اور فرمایا: اس پر اضافہ نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں: فاختہ بنت عمرو کے سوانح میں ان کے کچھ حالات گزر چکے ہیں۔

### ۱۱۶۲۳ فَسْحَمُ \*

بنت اوس بن خولی بن عبداللہ بن حارث انصاریہ، ان کے والد کے سوانح میں ان کا نسب گزر چکا ہے۔ ابن حبیب \* کا قول ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے بیعت کی اور بنو حنکلی سے ہیں۔

### ۱۱۶۲۴ فَصَّةُ النُّوْبِيَّةِ \*

حضرت فاطمہ الزہراء کی باندی ہیں، ابوموسیٰ رحمہ اللہ نے ذیل میں اور ثعلبی رحمہ اللہ نے سورہ ﴿هَلْ أَتَى﴾ کی تفسیر میں عبداللہ ابن عبدالوہاب خوارزمی کے طریق سے جو احف کے چچا زاد ہیں، انہوں نے احمد بن حماد مروزی سے، انہوں نے محبوب بن حمید سے اور ان سے روح بن عبادہ نے سوال کیا، انہوں نے قاسم بن بہرام سے، انہوں نے لیث بن ابوسلم سے، انہوں نے مجاہد سے،

\* أبوداؤد، کتاب الطلاق، باب فی المتوفی عنها زوجها تنتقل (۲۳۰۰)

\* اسد الغابۃ (۷۱۹۹) الاستیعاب (۳۵۱۸) تجرید (۲۹۷/۲) \* الاستیعاب (۱۹۰۳/۴)

\* اسد الغابۃ (۷۲۰۰) تجرید (۲۹۷/۲) \* اسد الغابۃ (۳۷۵/۵) \* اسد الغابۃ (۷۲۰۶) تجرید (۲۹۷/۲)

\* المعبر (۴۲۴) الطبقات الکبریٰ (۲۸۰/۸) \* اسد الغابۃ (۷۲۰۲) تجرید (۲۹۷/۲)

انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ارشاد: ﴿وہ نذروں کو پورا کرتے ہیں﴾ (الآیہ) \* روایت کیا، فرماتے ہیں: حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما بیمار ہوئے تو ان کے دادا، آپ ﷺ نے اور اہل عرب نے ان کی عیادت کی، انہوں نے ان کے والد سے کہا: اگر آپ نذر مان لیں؟ انہوں نے فرمایا: اللہ تعالیٰ جب انہیں شفاء دیں گے میں شکرانے کے تین روزے رکھوں گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بھی یہی فرمایا اور ان کی لونڈی جنہیں فضہؓ بھیہ کہا جاتا ہے، یہی فرمایا..... پھر طویل حدیث ذکر کی۔ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”یہ موضوع ہے“ اور جو انہوں نے کہا یہ بات بعید نہیں۔

ابن صخر نے اپنے فوائد میں اور ابن بشکوال نے کتاب المستحیثین میں اپنے طریق سے، اس سند سے، حسین بن علاء کے طریق سے، جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی سے، انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو خدمت کے لیے لونڈی دی جس کا نام فضہؓ نوبیہ تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کسی ایک کام کی اس سے شرط رکھتیں، رسول اللہ ﷺ نے اسے ایک دعا سکھائی جو دعا وہ کرتی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اس سے فرمایا: کیا تم آنا گوندھو گی یا روٹی پکاؤ گی؟ اس نے کہا: اے میری مالکن! میں آنا گوندھوں گی اور ایندھن کے لیے لکڑیاں لاؤں گی، وہ گئی اور لکڑیاں جمع کیں، اس کے ہاتھ میں لکڑیوں کا گٹھا تھا، اس نے اسے اٹھانا چاہا لیکن اٹھانہ سکی، پھر اس نے ان کلمات کے ذریعہ دعا کی جو رسول اللہ ﷺ نے اسے سکھائے تھے، وہ یہ ہے: ”اے اکیلے اللہ! اس جیسا کوئی نہیں، تو ہر ایک کو موت دے گا اور ہر ایک کو فنا کرے گا، وہ اپنے عرش پر تنہا ہے، اسے اٹکھ آتی ہے اور نہ نیند“۔ ایک اعرابی آیا گویا وہ ازد شنوءہ کا تھا، اس نے لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دروازہ تک پہنچا دیا۔

### ۱۱۶۲۵ فکیہ بنت السکن الأنصاریہ \*

بنو سواد سے ہیں، ابن حبیبؒ نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ ابن سعدؒ کا قول ہے: محمد بن عمر نے ذکر کیا کہ وہ اسلام لائیں اور بیعت کی، ابن سکن فرماتے ہیں: اسماء بنت یزید بن سکن، ان کی کنیت ام عامر ہے، بعض کا قول ہے: ام عامر کا نام فکیہہ ہے۔

### ۱۱۶۲۶ فکیہہ بنت عبید \*

ابن ولیم النصاریہ، بنو ولیم سے ہیں۔ قیس بن سعد بن عبادہ کی والدہ ہیں، جو ان کے والد کے چچا کی پرورش میں تھے، ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ \*

### ۱۱۶۲۷ فکیہہ بنت المطلب \*

ابن خلدہ بن مغلہ النصاریہ، بنو زریق سے ہیں، ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ \*

\* سورة الانسان الآية (۷) \* اسد الغابۃ (۷۲:۳) تجرید (۲۹۷/۲) \* المحبر (۴۲۸)

\* الطبقات الکبریٰ (۲۹۰/۸) \* الطبقات الکبریٰ (۷۲:۴) تجرید (۲۹۷/۲) \* الطبقات الکبریٰ (۲۷۲/۸)

\* اسد الغابۃ (۷۲:۵) تجرید (۲۹۷/۲) \* الطبقات الکبریٰ (۲۸۴/۸)

## فکیہ بنت یزید

۱۱۶۲۸

ابن سکن، ام عامر، کنیتوں میں ان کا ذکر آئے گا۔

## فکیہ بنت یسار

۱۱۶۲۹

خطاب بن حارث جمحی کی زوجہ ہیں، ابن اسحاق \* نے مہاجرات میں سے ابتدائی دور میں اسلام لانے والی صحابیات میں ان کا ذکر ہے، محمد بن عثمان بن ابی شیبہ نے اپنی تاریخ میں اور ابو نعیم نے اپنے طریق سے، زیاد بکائی کی روایت سے بحوالہ ابن اسحاق اسے نقل کیا ہے۔ ابن سعد \* کا قول ہے: اسلام کے ابتدائی دور میں مکہ میں لائیں اور بیعت کی اور دو ہجرتیں کیں۔

## القسم الثانی از حرف فاء

## فاطمہ بنت الولید

۱۱۶۳۰

ابن عبد شمس بن ولید بن مغیرہ بن عبد اللہ بن عمر بن مخزوم ان کے والد یمامہ میں شہید ہوئے، ان کی والدہ ام حکیم بنت ابی جہل ہیں، ان سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا، جس سے سعید اور ولید پیدا ہوئے۔  
زبیر بن بکار نے ان کا ذکر کیا ہے۔

## القسم الثالث از حرف فاء

خالی ہے، کسی شخصیت کا نام اس میں مذکور نہیں۔

## القسم الرابع از حرف فاء

## فروہ، ظنر النبی ﷺ

۱۱۶۳۱

فرماتی ہیں، مجھ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم اپنے بستر پر آؤ تو یہ سورت پڑھو ﴿کہہ دو، اے کافرو!﴾ کیونکہ یہ شرک سے برأت ہے۔“

ابو احمد عسکری نے ان کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ابن اثیر \* نے اپنے استدراک میں ان کا ذکر کیا ہے اور ذہبی رضی اللہ عنہ \* نے بھی اسے برقرار رکھا ہے، جو خطا ہے جو تحریف سے پیدا ہوئی۔ انہوں نے جو لکھا وہ بغیر تاء تانیث کے ہے، یہ حدیث فروہ بن نوفل کے لیے معروف ہے جو تابعین میں سے ایک شخص ہے، کسی راوی نے ابن اسحاق سے نقل کرنے میں غلطی کی ہے۔ فرمایا: بحوالہ فروہ بن نوفل، میں نبی کریم ﷺ کے پاس آئی اور کہا: صحیح وہی ہے جو اس کے علاوہ نے روایت کی، فرماتے ہیں: بحوالہ ابی اسحاق،

\* اسد الغابۃ (۷۲۰/۶) تجرید (۲۹۷/۲) \* السیرۃ النبویۃ (۲۵۹/۱) (۶/۴)

\* الطبقات الکبریٰ (۱۷۹/۸) \* اسد الغابۃ (۷۱۹/۱) تجرید (۲۹۶/۲)

\* ابوداؤد (الحديث: ۵۰۵۵) ترمذی (۳۴۰۳) مستدرک (۵۳۸/۲)

\* اسد الغابۃ (۳۷۴/۵)

انہوں نے فروہ بن نوفل دیلمی سے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا، پھر اسے ذکر کیا، میں نے اسے حرف فاء کی قسم رابع میں بیان کر دیا ہے۔

### ۱۱۶۳۲) فَرِيعَهُ ام اِبْرَاهِيْم

بنت عیط، انہیں شرف صحابیت حاصل ہے۔ ابن اثیر نے استیعاب کے حاشیے میں اسے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح تجرید میں ہے۔ اور اس کا استدراک وہم ہے۔ ابو عمر نے فارعہ میں ذکر کیا ہے۔ بنت ابی امامہ اسعد بن زرارہ، نبی کریم ﷺ نے عیط بن جابر سے ان کا نکاح کر دیا، میں نے فارعہ کے سوانح میں ایک روایت ذکر کی ہے جس میں ان کا نام کسی نے فَرِیعہ بتایا ہے۔ یہاں ذہبی کے بجائے ابن الاثیر پر زیادہ اعتراض ہوتا ہے۔ واللہ التوفیق!



## حرف القاف

### القسم الاول از حرف قاف

#### ۱۱۶۳۳ قبیسہ بنت صیفی

ابن صحر بن خنساء، بشر بن البراء بن معرور کی زوجہ ہیں، تجرید میں بھی ان کا ذکر ہے، حرف زاء میں زینب بنت صیفی کے سوانح میں گزر چکے ہیں، شاید وہ ان کی بہن ہیں۔

#### ۱۱۶۳۴ قتلہ

بعض کا قول ہے: تصغیر کے ساتھ، بنت عبد العزیٰ بن سعد بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لؤی قرشیہ، عامریہ، اسماء بنت ابوبکر اور ان کے سگے بھائی عبد اللہ کی والدہ ہیں۔ زبیر وغیرہ نے بھی ان کا نسب بیان کیا ہے۔

ابوموسیٰ نے ذیل میں فرمایا: قتیلہ بنت سعد بن عامر بن لؤی، اسی طرح نسب کو مختصر کیا ہے اور اس میں سے ایک جماعت کو حذف کر دیا ہے، پھر فرمایا: مستغفری نے صحابیات میں ان کا ذکر کیا اور فرمایا: بعد میں اسلام لائیں، حاکم، ابوالحمہ نے کئیوں میں ان کا نام لیا ہے۔ ان کی حدیث بحوالہ ہشام بن عروہ مروی ہے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اسماء بنت ابوبکر صدیق سے روایت کی، فرماتی ہیں: میری والدہ میرے پاس آئیں اور قریش کے ساتھ معاہدہ کی مدت میں مشرکہ تھیں، میں نے رسول اللہ ﷺ سے ان سے صلہ رحمی کی اجازت طلب کی.... (الحدیث) یہ صحیح میں ہے، اور اس کے بعض طرق میں ہے، وہ صلہ رحمی کی رغبت رکھتی تھیں، ابوموسیٰ کا قول ہے، روایات میں ان کے اسلام کا ذکر نہیں، اور ان کے قول کہ وہ رغبت رکھتی تھیں، اس سے اسلام نہیں صلہ رحمی مراد ہے، اگر وہ مسلمان ہوتیں تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو ان کے بارے میں صلہ رحمی کی اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہ تھی، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے بعد اسلام لائی ہوں۔

میں کہتا ہوں: اگر وہ فتح کے موقع تک زندہ تھیں تو ظاہر ہے کہ وہ اسلام لائیں۔

#### ۱۱۶۳۵ قتیلہ بنت صیفی الجہنیہ

بعض کا قول ہے: انصاریہ۔ ابو عمر کا قول ہے، اولین مہاجرات میں سے تھیں، ان سے عبد اللہ بن یسار نے روایت کی، میں نے ان کے نسب میں ”انصاریہ“ نہیں پایا، اور ان کے اس قول کہ وہ مہاجرات میں سے ہیں، اس کی تردید کرتا ہے۔

اسد الغابۃ (۷۲: ۷) تجرید (۲۹۷/۲) بخاری (الحدیث: ۲۶۲۰) مسند احمد (۳۴۷/۶) (۳۵۵) المعجم الكبير (۲۰۳/۲۴)

اسد الغابۃ (۷۲: ۸) تجرید (۲۹۷۲) الاستیعاب (۱۹۰۳/۴)

ابن سعد نے ان کی حدیث نقل کی ہے اور اس طرف اشارہ کیا ہے کہ ان کی اس کے علاوہ کوئی حدیث نہیں۔ اور طبرانی نے مسنن کے طریق سے بحوالہ سعید بن خالد جدلی، انہوں نے عبد اللہ بن یسار سے، انہوں نے قتیلہ سے روایت کی جو جہینہ کی ایک خاتون ہیں، فرماتی ہیں، ایک یہودی آیا اور ابن سعد کی روایت میں ہے، یہودی علماء میں سے ایک عالم نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور کہنے لگا: تم لوگ شرک کرتے ہو، کہتے ہو: جو کچھ اللہ چاہے اور تو چاہے، اور تم کہتے ہو: کعبہ کے رب کی قسم۔ تو نبی کریم ﷺ نے انہیں حکم دیا کہ وہ کہیں: ”جو کچھ اللہ چاہے پھر آپ چاہیں۔“

نسائی نے اسے نقل کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے، ابن مندہ نے اسے مسعودی کے طریق سے بحوالہ سعید، انہوں نے ابن یسار سے، انہوں نے قتیلہ بنت صفی جہینہ سے اسے روایت کیا ہے۔

### ۱۱۶۳۶ قتیلہ بنت العزباض

بنو مالک بن خسل سے ہیں، ان کا ذکر ہے، ابن مندہ نے ان کے مختصر سوانح ذکر کئے ہیں اور ابو نعیم نے ان کی پیروی کی ہے۔

### ۱۱۶۳۷ قتیلہ بنت عمرو

ابن ہلال کنانیہ، حمزہ الوداع میں نبی کریم ﷺ سے بیعت کی، یہ ابن حبیب اور ابن سعد کا قول ہے۔

### ۱۱۶۳۸ قتیلہ بنت النضر

ابن حارث بن علقمہ بن کلدہ بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصی قرشی، عبد اللہ بن حارث بن امیہ اصغر کی زوجہ تھیں۔ علی ابن عبد اللہ اور ان کے بہن بھائیوں، ولید، محمد، اور ام حکم کی والدہ ہیں، ابو عمر کا قول ہے، واقدی فرماتے ہیں: یہ وہی ہیں جب ان کے والد النضر بن حارث کو بدر کے دن آپ ﷺ کے حکم پر قتل کر دیا گیا تو آپ ﷺ کے بارے میں اشعار کہے:

”اے سوار! جھاؤ کا درخت پانچویں روز کی صبح تیرا مقام ہوگا اور تجھے توفیق دی جائے گی، اس صبح ایک میت کو یہ سلام پہنچا دینا کیونکہ ہمیشہ سلام شرفاء کے گلے کا ہار رہے ہیں، وہ سلام میری طرف سے اور ساتھ جھڑتے ہوئے آنسو جو اس کے پونچھنے والے کے لیے بہہ پڑے، اور دوسروں کا دم گھٹ رہا ہے، اگر میں نضر کو پکاروں، کیا وہ واقعی میری بات سن لے گا، کبھی نہیں۔ بھلا مردہ شخص جو بولتا نہیں وہ کیسے سن سکتا ہے، اس کے بھائیوں کی تلواریں اسے نوچنے لگیں، اللہ کے لیے ان رشتہ داریوں کا خیال کرو جو آپس میں بٹی ہوئی ہیں، ایک شیر کو زبردستی موت کی جانب لے جایا جا رہا ہے وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے وہ مشقت میں ہے۔ اے محمد (ﷺ)! آپ کی والدہ اپنی قوم کی انتہائی شریف خاتون تھیں اور ان کے خاوند خاندانی شریف آدمی تھے۔ آپ اگر احسان کر دیتے تو آپ کا کیا جانا تھا، کئی دفعہ سخت دشمن اور کینہ ور نوجوان بھی احسان کر دیتا ہے۔ اگر

المعجم الكبير (۵۱۲۵) الحديث (۷۰۶/۲۵) مسند احمد (۳۷۱/۶) (۳۷۲/۶)

اسد الغابة (۷۲۰۹) تجرید (۲۹۸/۲) اسد الغابة (۷۲۱۰) تجرید (۲۹۸/۲)

الطبقات الكبرى (۲۱۸/۸) اسد الغابة (۷۲۱۲) الاستيعاب (۳۵۲۱) تجرید (۲۹۸/۲)

آپ قربت و رشتہ داری کی وجہ سے چھوڑ دیتے تو مدد قریب تھی، بلکہ وہ حقدار تھے اگر گردن چھوڑ دی جاتی۔\*

جب رسول اللہ ﷺ کو یہ اشعار پہنچے تو آپ ﷺ اوروں نے یہاں تک کہ آپ ﷺ کی ریش مبارک تر ہو گئی اور فرمایا: ”اگر ان کے قتل ہونے سے پہلے مجھے یہ اشعار پہنچتے تو میں اسے قتل کرنے کا حکم نہ دیتا۔“ ابو عمر کا قول ہے: یہ عبداللہ بن ادریس کے الفاظ ہیں اور زبیر بن بکار کی روایت میں ہے، نبی کریم ﷺ پر رقت طاری ہو گئی یہاں تک کہ آپ ﷺ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آپ ﷺ نے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: ”اے ابوبکر! اگر میں اس کے اشعار پہلے سن لیتا تو اس کے والد کے قتل کا حکم نہ دیتا۔“

زبیر فرماتے ہیں: میں نے بعض اہل علم سے سنا ہے کہ وہ اشارہ بتاتے ہیں کہ یہ اشعار مصنوعی ہیں۔

میں کہتا ہوں: مجھے ان کے اسلام لانے کے بارے میں کوئی واضح روایت نہیں ملی۔ لیکن اگر وہ فتح کے موقع پر زندہ تھیں تو وہ صحابیات میں سے ہیں، میں نے جاحظ کی کتاب البیان کے آخر میں لکھا پایا ہے کہ ان کا نام ”لیلیٰ“ ہے، اور فرمایا کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کی چادر مبارک کھنچی، اس وقت آپ ﷺ طواف فرما رہے تھے۔ پھر یہ مذکورہ اشعار پڑھے۔

### ۱۱۶۳۹ قرصافہ بنت الحارث

ابن عوف، بعض کا قول ہے: یہ براء کا نام ہے اور ان کی حدیث ان کے والد کے سوانح میں ہے۔

### ۱۱۶۴۰ قرة العین بنت عباده\*

بن نھله بن مالک بن عجلان الناصریہ، بن عوف بن خزرج سے ہیں، حضرت عباده بن صامت کی والدہ ہیں۔ ابن اشیر نے ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۶۴۱ قرنیہ\*

بعض کا قول ہے: تصغیر کے ساتھ۔ بنت ابی امیہ المغیرہ مخزومیہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی بہن ہیں، ان کے بھائی عبداللہ کے سوانح میں ان کا نسب گزر چکا ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: جب میرے ہاں نسب کی ولادت ہوئی تو رسول اللہ ﷺ میرے پاس تشریف لائے اور مجھے نکاح کا پیغام دیا، پھر انہوں نے اپنے نکاح کا قصہ ذکر کیا، اور آپ ﷺ کے ان کے پاس آنے اور ان کے نسب رضی اللہ عنہا کو دودھ پلانے کا قصہ بیان کیا، یہاں تک کہ آپ ﷺ ایک دن تشریف لائے اور انہیں نہیں پایا تو پوچھا: ”نسب کہاں ہے؟“ قریبہ ابھی بولی ہی تھیں کہ خادمہ نے بھی ان کا ساتھ دیتے ہوئے کہا کہ عمار بن یاسر (جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے رضاعی بھائی بنتے تھے) لے گئے ہیں۔\* آپ ﷺ نے فرمایا: آج شب تمہارے ہاں آؤں گا۔ پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لائے۔

بلاذری کا قول ہے: ان سے معاویہ بن ابی سفیان نے اسلام لانے کے بعد نکاح کیا۔

\* اسد الغابۃ (۳۸۰/۵) البیان والتبیین (۴/۴۳، ۴۴) نسب قریش عصب الزبیری (۲۵۵)

\* اسد الغابۃ (۷۲۱۳) تجرید (۲۹۸/۲) \* اسد الغابۃ (۳۸۰/۵)

\* اسد الغابۃ (۷۲۱۴) تجرید (۲۹۸/۲) \* مصنف عبدالرزاق (۱۰۶۴۴)

ابن سعد \* کا قول ہے: یہ قریبہ صغریٰ ہیں، ان کی والدہ عاتکہ بنت عتبہ بن ربیعہ ہیں، فرماتے ہیں: ان سے عبدالرحمن ابن ابوبکر نے نکاح کیا، جس سے عبداللہ، ام حکیم اور حصہ پیدا ہوئیں۔ پھر اس روایت کی صحیح سند کو ابن ابی ملیکہ تک لے گئے ہیں، فرماتے ہیں: عبدالرحمن نے قریبہ سے جوام سلمہ کی بہن ہیں، نکاح کیا، ان کے حراج میں تیزی تھی، وہ ان سے ایک دن کہنے لگیں: اللہ کی قسم! مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے۔

انہوں نے کہا: تمہارا معاملہ تمہارے اختیار میں ہے، کہنے لگیں: میں صدیق کے بیٹے کو چھوڑ کر کسی اور کو اختیار نہیں کروں گا، اور ان کے پاس رہیں۔

میں کہتا ہوں: صاحب جمال تھیں، عمر بن فہم نے کتاب مکہ میں بحوالہ یعقوب بن قاسم طحی، انہوں نے یحییٰ بن عبداللہ ابن ابی حارث زمعی سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: جب مکہ فتح ہوا، نبی کریم ﷺ نے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا: جب انہوں نے کہا کہ ہم نے قریش کی عورتیں اتنی خوبصورتی پائی نہیں جتنا ان کے حسن و جمال کا چرچا تھا۔ تو آپ ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا تھا: ”کیا تم نے ابوامیہ بن مغیرہ کی بیٹیوں کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے قریبہ کو دیکھا ہے؟“ (المحدث)

### ۱۱۶۳۲ قریبہ بنت زید \*

ابن عبد ربہ انصاریہ، بنو خشم سے ہیں۔ ابن حبیب \* نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ ابن سعد \* کا قول ہے، عبداللہ بن زید کی بہن ہیں جنہیں اذان کا خواب دکھائی دیا تھا۔

### ۱۱۶۳۳ قریبہ بنت ابی سفیان

ابن حرب امویہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں۔ صاحب تاریخ مظفری نے ان کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا: انہیں اہل بدر میں سے چودہ مردوں نے نکاح کا پیغام دیا، انہوں نے انکار کر دیا اور عقیل بن ابی طالب سے نکاح کیا، فرماتی ہیں: وہ بدر کے دن ان کے محبوب لوگوں کے ساتھ تھے، یعنی ان کے والد ان کے بھائی حظلہ، دادا عتبہ، ان کے بھائی شیبہ، اور جو بدر کے معرکہ میں مشرکین کا ساتھ دے رہے تھے۔

### ۱۱۶۳۴ قریبہ بنت ابی قحافہ \*

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں۔ ابن سعد \* نے ان کا ذکر کیا ہے، قیس بن سعد بن عبادہ نے ان سے نکاح کیا، اولاد نہ ہوئی، حضرت ام فروہ کی سگی بہن ہیں۔

### ۱۱۶۳۵ قریرہ بنت الحارث العتواریہ \*

حرف عین میں ان کی بیٹی عقیلہ عتواریہ کے سوانح میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

\* الطبقات الکبریٰ (۶۶/۸) \* اسد الغابۃ (۷۲۱/۶) تجرید (۲۹۸/۲)

\* المحبر (۴۲۱) \* الطبقات الکبریٰ (۲۶۵/۸) \* تجرید (۲۹۸/۲)

\* الطبقات الکبریٰ (۱۸۱/۸) \* الطبقات الکبریٰ (۷۲/۷) تجرید (۲۹۸/۲)



### ۱۱۶۳۶ قسره بنت رؤاس الکندیہ ❁

ابونعیم نے ان کا ذکر کیا ہے، اور عبدالرحمن بن عمرو بن جبلہ کے طریق سے جو ایک متروک راوی ہیں، نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: ہم سے میسرہ بنت خثیج طائیہ نے بحوالہ قتیلہ بنت عبداللہ، انہوں نے قسرہ کندیہ سے روایت کیا ہے۔ فرماتی ہیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے قسرہ! گناہوں کے وقت اللہ کا ذکر کرو، وہ تمہیں مغفرت کے وقت یاد رکھے گا، اپنے خاوند کی اطاعت کرو، وہ دنیا اور آخرت کے شر سے تمہیں کافی ہوگی، اپنے والدین سے اچھا سلوک رکھو تمہارے گھر کی خیر و برکت بڑھے گی۔“ ❁ ابو عمر ❁ کا قول ہے: قسرہ، بعض نے زبر اور سین سے لکھا ہے۔

### ۱۱۶۳۷ القضا ❁

قاسم بن غنّام کی وادی ہیں۔ مسند ابن سحر میں ان کی حدیث ہے، اسی طرح تجرید میں ہے۔

### ۱۱۶۳۸ قفیرہ ❁

ہلالیہ، بعض کا قول ہے: ملکیکہ، ابوعلی غسانی نے الاستیعاب کے ذیل میں فرمایا: مسلم نے وحدان میں ان کا ذکر کیا ہے۔ اور فرمایا: عبداللہ بن ابی حردوکی زوجہ ہیں، ان سے اعرج کے علاوہ کسی نے روایت نہیں کیا۔

### ۱۱۶۳۹ قہطم بنت علقمہ ❁

ابن عبداللہ بن ابی قیس، سلیط بن عمرو کی زوجہ ہیں۔ ابن اسحاق ❁ نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اور ان کے شوہر نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر کشتی والوں کے ساتھ مدینہ کی طرف لوٹ آئے۔

### ۱۱۶۵۰ قبیلہ بنت مخزّمہ التمیمیہ ❁

پھر بنوعز سے ہیں، جنہوں نے انہیں غنویہ کہا، ان سے لفظی غلطی ہوئی ہے۔ حریث بن حسان کے ساتھ نبی کریم ﷺ کی طرف ہجرت کی، جو بنو مکرم بن وائل کے سفیر ہیں، ان کی حدیث عبداللہ بن حسان غزیری نے اپنی دونوں دادیوں صفیہ اور دُحییہ سے جو علیہ کی بیٹیاں ہیں، روایت کی، وہ دونوں قبیلہ کی پرورش میں تھیں، اور قبیلہ ان کے والد کی دادی تھیں، وہ فرماتی ہیں: میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آئی، پھر طویل حدیث ذکر کی، طبرانی ❁ نے یہ طویل حدیث بیان کی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ”الادب المفرد“ میں اس میں سے کچھ حصہ اور ابوداؤد ❁ نے بھی ایک حصہ نقل کیا، اور ترمذی ❁ نے

❁ اسد الغابۃ (۷۲۱۸) الاستیعاب (۳۵۲۲) تجرید (۲۹۸/۲) ❁ جامع المسانید والسنن (۶۷/۱۶)

❁ الاستیعاب (۱۹۰۶/۴) ❁ تجرید (۲۹۸/۲) ❁ اسد الغابۃ (۷۲۱۹) الاستیعاب (۳۵۲۳) تجرید (۲۹۸/۲)

❁ اسد الغابۃ (۷۲۲۰) تجرید (۲۹۸/۲) ❁ السیرۃ النبویۃ (۲۶۰/۱) ❁ اسد الغابۃ (۷۲۲۳) تجرید (۲۹۹/۲)

❁ المعجم الكبير (۲۵/۱) ❁ ابوداؤد، کتاب الخراج والإمارة والفی، باب فی إقطاع الأرضین (۳۰۷۰)

❁ ترمذی، کتاب الأدب، باب ما جاء فی الثوب الأخضر الحدیث (۲۸۱۴)

مرفوع روایت کے شروع سے ”یتعاندون“ تک ذکر کی ہے، فرماتے ہیں: پھر طویل حدیث ذکر کی، اور فرمایا: ہم اسے عبداللہ بن حسان کی حدیث سے جانتے ہیں۔ ابو عمرؒ کا قول ہے، وہ طویل، فصیح اور حسن حدیث ہے، اور علم غریب الحدیث والوں نے اس کی شرح کی ہے۔

ابوعلیٰ بن سکین فرماتے ہیں: ان سے طویل حدیث مروی ہے، اس میں فصیح کلام ہے، اور اس طریق سے اسے روایت کیا ہے، بحوالہ عبداللہ بن حسان، اسے مختصر بیان کیا اور فرمایا کہ اسے عبداللہ بن حسان کے علاوہ کسی نے روایت نہیں کیا، فرماتے ہیں: اس میں ہے: ”قیلہ کی والدہ صفیہ بنت صفیٰ ہیں، جو اٹھ بن صفیٰ کی بہن ہیں۔“

میں کہتا ہوں: طبرانی نے اور ابن مندہ نے اسے طویل نقل کیا ہے۔ یہ ابن مندہ کے تین طرق سے الفاظ ہیں، بحوالہ عبداللہ بن حسان، اس سند کے ساتھ کہ انہوں نے ان دونوں کو بتایا کہ وہ حبیب بن ازھر کی زوجہ تھیں جو بنو جناب کے ایک مرد ہیں، ان سے لڑکیاں پیدا ہوئیں، بعد میں حبیب کا انتقال ہو گیا تو بچیوں کے چچا اثوب بن ازھر نے بھابھی سے بھتیجیاں چھین لیں۔ ان کی قوم بنی نضی مسلمان ہوئی تھی، وہ رسول اللہ ﷺ سے شرف صحابیت حاصل کرنا چاہتی تھیں تو اپنے گھر سے نکل پڑیں ان کی سب سے چھوٹی بیٹی رونے لگیں جس کا نام حدیاء تھا اس نے اونٹی لباس پہن رکھا تھا، موقعہ کو غنیمت جانا اور اسے ساتھ سوار کر لیا، اسی اثناء میں کہ وہ دونوں اونٹ کو ہلکی چال سے لے جا رہی تھیں کہ اچانک ایک خرگوش سامنے آ گیا، حدیاء کہنے لگیں: ”خیر سے محرومی شر سے رہائی۔“ اللہ کی قسم! اس بارے میں ہمیشہ تیری شان اثوب سے بلند رہے گی۔ پھر جب لومڑی سامنے آئی تو اس کا کوئی اور نام لیا اور اس کے متعلق بھی وہی بات کہی جو خرگوش کی بابت کی تھی۔ وہ دونوں دھیرے دھیرے اونٹ چلاتی جا رہی تھیں کہ یکا یک اونٹ بیٹھ گیا اور کاٹنے لگا۔ حدیاء بولی: لگتا ہے آپ کو اور امانت تک اثوب کی پہنچ ہو جائے گی۔ فرماتی ہیں: میں نے اس سے عاجزانہ کہا: بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ کہنے لگی: اپنے کپڑے اٹلے پہنو اور اپنی پیٹھ کو پیٹ کی جانب لڑھکا لو۔ اپنے اونٹ کے ٹاٹ پلٹ دو، پھر اونٹ کا کالا کبل پلٹ دیا اس کے بعد قلابازی کھائی جب میں یہ کام کر چکی تو اونٹ چنگا بھلا ہو کر کھڑا ہو گیا پھر بیٹھا اور پیشاب کرنے لگا۔ وہ کہنے لگی: اس پر اپنے کان لگاؤ، میں نے ایسا ہی کیا تو وہ پھر کاٹنے لگا۔

کیا دیکھتی ہوں کہ اثوب ہمارے نقش قدم پر تلوار سونٹے دوڑا آ رہا ہے۔ ہم نے بڑے بڑے گھروں کے پیچھے پناہ لی۔ اونٹ ایک درمیانی گھر کے برآمدے کا چکر لگا کر بیٹھ گیا وہ اونٹ بڑا رام و فرمانبردار تھا۔ پھر وہاں سے اٹھ کر اندر جا گھسا۔ اتنے میں اثوب تلوار لیے مجھ تک آ پہنچا کہ تلوار کی نوک اس کے بالوں کو چھو رہی تھی لگتا تھا ابھی وار کرنے کو ہے۔ مجھ سے کہتا ہے: اری کثیر! میری بھتیجی مجھے دے دے۔ میں نے بچی اس کی طرف تھادی جسے اس نے اپنے کندھے پر بٹھا لیا اور چلتا بنا۔ گھرانے کے لوگوں میں سے میں اس کی طبیعت سے زیادہ واقف تھی۔

پھر میں اپنی اس بہن کی جانب چل پڑی جس کی بنی شیبان میں شادی ہوئی تھی تاکہ رسول اللہ ﷺ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ ایک رات میں اس کے گھر میں تھی وہ سمجھ رہی تھی کہ میں سوئی پڑی ہوں، اتنے میں اس کا خاندنہ دیہاتی میٹھک سے آ کر کہنے

لگا: تیرے باپ کی قسم! میں نے قبیلہ کے لیے ایک سچا آدمی تلاش کر لیا ہے۔ میری بہن جھٹ سے بولی: کون؟ کہنے لگا: حریث بن حسان شیبانی، بکر بن وائل کا قاصد، اس پر میری بہن کہنے لگی: میرا کچھ نہ رہے۔ میری بہن سے مت کہنا۔ بھلا وہ بکر بن وائل کے آدمی کے ساتھ ایسی جگہ کیسے جائے گی جہاں اس کا سننے دیکھنے والا کوئی نہیں۔ کم از کم اس کی قوم کا کوئی اور مرد تو ساتھ ہوتا۔ وہ کہنے لگا: میں اس سے اس بات کا تذکرہ نہیں کروں گا۔ وہ بولی: میں بھی یہ بات بتانے کی نہیں۔

صبح ہوتے ہی میں نے اپنے اونٹ پر سامان باندھا، کسی کی آواز سنائی دی، میں نے اسے تلاش کیا تو وہ معمولی فاصلے پر تھا میں نے اس کے ساتھ جانے کا پوچھا، وہ کہنے لگا: ٹھیک ہے، اس کی سواریاں اس کے پاس بیٹھی تھیں۔ ہم اس سچے شخص کے ساتھ روانہ ہو گئے اور مدینہ پہنچے، نبی کریم ﷺ نماز فجر پڑھا رہے تھے، جونہی صبح پھوٹی اس وقت نماز قائم کی گئی ستارے آسمان پر چمک رہے تھے، اندھیرا اتنا تھا کہ لوگوں کی پہچان نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے مردوں کی صف میں نیت باندھ لی، میں چونکہ جاہلیت کے دور سے نئی نبی اسلام میں داخل ہوئی تھی، اسی صف میں سے ایک مرد مجھے کہنے لگا: کیا تو مرد ہے یا عورت؟ میں نے کہا: نہیں! میں عورت ہوں۔ وہ کہنے لگا: مجھے تو تو نے فتنہ میں ڈال دینا تھا، پیچھے عورتوں کی صف میں نماز پڑھ۔

میں نے دیکھا کہ حجرہ کے پاس عورتوں کی صف بنی تھی، لیکن جب میں مسجد میں داخل ہوئی تھی اس وقت مجھے نظر نہ آئی۔ پھر میں ان میں شامل ہو گئی اور ان کے ساتھ ہی رہی۔ پھر جب سورج طلوع ہوا تو میں منبر کے قریب ہو گئی، جونہی مجھے کوئی چادر اور لباس والا مرد دکھائی دیتا تو میری نگاہیں ادھر لگ جاتیں تاکہ میں رسول اللہ ﷺ کو دیکھ سکوں۔ جونہی سورج بلند ہوا، ایک شخص آ کر کہنے لگا: ”السلام علیک یا رسول اللہ ﷺ“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”وعلیک السلام ورحمة اللہ“۔ آپ ﷺ دو پرانے کپڑے جن پر زعفران لگی تھی زیب تن فرماتے وہ تڑتڑا رہے تھے۔ آپ ﷺ کے دست مبارک میں کھجور کی ایک شاخ تھی، جس کے سر پر دو پتوں کے علاوہ باقی خالی تھی، آپ ﷺ اکڑوں بیٹھے تھے۔ میں نے جب رسول اللہ ﷺ کو اس طرح عاجزی کی حالت میں بیٹھے دیکھا تو مجھ پر بے تحاشا رعب طاری ہو گیا۔ اور میں کاپننے لگی۔ آپ ﷺ کے پاس بیٹھے شخص نے کہا: اللہ کے رسول ﷺ! بے چاری ڈر گئی ہے، آپ ﷺ نے مجھے دیکھے بغیر اشارہ کیا میں آپ کی پیٹھ پیچھے تھی: ”اے مسکین عورت! وقار و اطمینان سے رہ۔“ آپ ﷺ نے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا تو سارا خوف و ہراس اللہ تعالیٰ نے دور فرمادیا۔

میرے ساتھ آنے والا شخص آگے بڑھا، اسلام اور اپنی قوم کی امان کی خاطر بیعت کی۔ پھر کہنے لگا: اللہ کے رسول ﷺ! ہمارے اور بنی تمیم کے درمیان ایک تحریر مقام دھناء کے متعلق لکھ دیں، جہاں سے ہمارے پاس صرف مسافر اور راہ گزر ہی آیا کرے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: نوجوان! دھناء کے متعلق تحریر لکھ دو۔ میں نے جب دیکھا کہ آپ ﷺ اس کے بارے میں فرمان جاری کر چکے ہیں، مجھے خیال آیا ارے وہ تو میرا وطن اور میری جائے پیدائش میں ہے۔ میں جھٹ سے بولی: اللہ کے رسول ﷺ! ان صاحب نے آپ سے جب زمین کا سوال کیا تو برابر ہی کا سوال نہیں کیا، حالانکہ وہ زمین تو اونٹوں کو باندھنے، بکریوں کو چرانے کی زمین ہے اور بنی تمیم کی عورتیں اور بچے تو اس کے ورے ہیں۔ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: ”نوجوان! ذرا رکتا! اس مسکین خاتون نے سچ کہا۔ مسلمان، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، درخت اور پانی ان کے لیے گنجائش رکھتے ہیں۔ اور وہ دونوں آگ جلانے میں ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں۔“ حریث نے جب دیکھا کہ اس کی منشا میں رکاوٹ پیدا ہو گئی تو وہ تالی بجا کر کہنے لگا: اری! میری اور

تیری مثال تو یہ کہات ہے: اس کی موت اسے جدا کرنے والی ہے جسے وہ اپنے کھروں سے اٹھائے ہوئے ہے (ایک شخص کہیں سے بکری لایا لیکن ذبح کرنے کے لیے چھری نہ ملی، اچانک بکری نے کھروں سے زمین کریدی نیچے سے چھری برآمد ہوگئی)۔ میں نے کہا: اللہ کی قسم! اگرچہ تو تاریکیوں میں رہنا بن کر اور رفیق سفر کے لیے پاکدامن مرد ثابت ہوا ہے یہاں تک کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس آگئے، لیکن (یاد رکھو!) جب تم نے اپنا حق مانگا ہے تو مجھے اپنا حق مانگنے پر ملامت کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا: دھنماء میں تیرا کیا حق ہے؟ میں نے کہا: وہ میرے اونٹوں کے باندھنے کی جگہ ہے، جسے تم اپنی بیوی کے لیے مانگ رہے ہو۔ وہ بولا: یقیناً میں رسول اللہ ﷺ کو اس بات کا گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ جب تک تم زندہ رہی میں تمہارا بھائی ہوں۔ اگر تم رسول اللہ ﷺ کے سامنے میری یہ تعریف کر دو۔ میں نے کہا: جب تم نے ہی اس کا آغاز کر دیا ہے تو میں بھی اس کی لاج رکھوں گی۔

رسول اللہ ﷺ فرمانے لگے: کیا اہل محبت کو ملامت کیا جاتا ہے کہ وہ خطۂ ارض علیحدہ کر کے اور حجرہ کے پیچھے انتظار کرنے، فرماتی ہیں: میں تو رونے لگی اور رو کر عرض کرنے لگی: اللہ کے رسول! میں ”حرام“ کی اولاد میں سے تھی جس نے ربذہ میں آپ کی معیت میں جنگ کی پھر خبر سے غلہ لینے گئے وہاں انہیں بخار ہوا جس سے وہ فوت ہو گئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر تو بے چاری نہ ہوتی تو ہم تجھے چہرہ کے بل کھینچتے، کیا تم میں سے کسی عورت سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی کسی سہیلی کے ساتھ دنیا میں اچھا برتاؤ کرے۔ جب اس میں اور جو اس کا زیادہ حقدار ہے کوئی حائل ہو جاتا ہے تو وہ افسوس کرتا ہے۔ پھر فرمایا: ”اے میرے رب! جو کچھ میں نے جاری کیا اسے مجھے فراموش کرادے اور جو میں نے باقی رکھا اس کے بارے میں میری مدد فرما۔ اس ذات کی قسم! جس کے دست قدرت میں میری جان ہے! تم عورتوں میں سے کوئی روتی ہے پھر اس کی سہیلی اس کے پاس پناہ طلب کرنے آتی ہے۔ اے اللہ کے بندو! اپنے بھائیوں کو اذیت و عذاب نہ پہنچاؤ۔“ پھر چڑے کے ایک ٹکڑا پر ان کے لیے تحریر لکھوائی: ”قیلہ اور قیلہ کی بیٹیوں کو نہ ظلم کا نشانہ بنایا جائے اور نہ کسی غلط کام پر مجبور کیا جائے، ہر مومن و مسلمان ان کا اچھا مددگار ہے اور انہیں پریشان نہ کیا جائے۔“

### ۱۱۶۵۱ قیلہ الانماریہ ❁

انہیں بنی انمار کی ماں اور بنی انمار کی بہن کہا جاتا تھا۔ طبری فرماتے ہیں: عقیلہ، ابن ابی ضیثمہ انصاریہ کا قول ہے، بنو انمار کی بہن، انہیں شرف صحابیت حاصل ہے، انہوں نے اور ابن ماجہ نے عبد اللہ بن عثمان بن خثیم کے طریق سے جو انہوں نے ان سے روایت کی، حدیث نقل کی ہے، فرماتی ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کو مردہ کے پاس دیکھا، آپ اپنے عمرہ سے حدود حرم سے حدود حل میں داخل ہو رہے تھے۔ میں نے کہا: میں خرید و فروخت کرتی ہوں، اور خرید سے زیادہ بھاؤ کر لیتی ہوں، پھر مجھے مال کم کرنا پڑتا ہے..... (الحدیث) اس میں ہے: ایسا نہ کیا کرو۔ ❁

ابن سعد ❁ نے اس طویل روایت کو ابن خثیم سے نقل کیا ہے، اور اسے ابن سکین نے نقل کیا ہے، ان کی روایت میں ہے

❁ اسد الغابۃ (۷۲۲۱) الاستیعاب (۳۵۲۵) تجرید (۲۹۹/۲)

❁ ابن ماجہ (۱۲۲۰۴) المعجم الکبیر (۴/۲۵) جامع المسانید والسنن (۶۹، ۶۸/۱۶)

❁ الطبقات الکبریٰ (۳۱۱/۸)

## الْأَكْبَلُ فِي مَبْنِي الصَّحَابَةِ (جلد ۳۳۳)

کہ حضرت عبداللہ بن عثمان بن خثیم نے فرمایا کہ انہوں نے قبیلہ سے سنا، اور فاکہی فرماتے ہیں: ام انمار کا مکہ میں گھر ہے اور وہ پچھلے دور کی خواتین میں سے فضیلت و بہادری میں اپنا مقام رکھتی تھیں۔

### ۱۱۶۵۲ قبیلہ الخزاعیہ \*

ام سباع بن عبدالعزیٰ بن عمرو بن نھلہ، بنو زھرہ کے حلیف تھے۔ ابن عبدالبر \* نے ان کا ذکر کیا ہے اور فرمایا: ان کے بارے میں تردد ہے۔

### القسم الثانی از حرف قاف

خالی ہے، اس میں کسی کا ذکر نہیں۔

www.KitaboSunnat.com

### القسم الثالث از حرف قاف

### ۱۱۶۵۳ قبیلہ بنت قیس \*

ابن معدیکرب کندیہ، اشعث بن قیس کی بہن ہیں۔ یہ ابو عمر \* کا قول ہے۔ بعض کا قول ہے: قبیلہ، ان سے نبی کریم ﷺ نے ۱۰ھ میں نکاح کیا، وہ وفات پا گئیں۔ آپ ﷺ کے پاس نہیں لائی گئیں، آپ ﷺ نے انہیں دیکھا، نہ رخصتی ہوئی، بعض کا قول ہے: آپ ﷺ کا ان سے نکاح وفات سے دو ماہ قبل ہوا تھا، بعض کا قول ہے: آپ ﷺ نے اپنی مرض وفات میں ان سے نکاح کیا، بعض کا قول ہے: آپ ﷺ نے وصیت فرمائی کہ انہیں اختیار دیا جائے، اگر چاہیں تو ان پر حجاب لازم قرار دیا جائے اور امہات المؤمنین میں شامل ہوں، اور اگر چاہیں اور نکاح کر لیں، تو انہوں نے نکاح کو اختیار کیا تو ان سے عکرمہ نے حضرت موت میں نکاح کر لیا، جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ بات پہنچی تو فرمایا: میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں کو ان کے گھر سمیت جلا دوں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: نہ وہ امہات المؤمنین میں سے ہے، نہ ہی اس کی رخصتی ہوئی ہے، اور اس کے لیے حجاب لازم قرار نہیں دیا گیا۔

بعض کا قول ہے: وہ یمن سے نکلنے سے قبل وفات پا گئیں۔ اس کے بعد ان سے عکرمہ نے نکاح کیا، بعض کا قول ہے، مرد ہو گئیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے دلیل پیش کی کہ وہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن میں سے نہیں ہیں، اور فرمایا: عکرمہ کی ان سے اولاد نہ ہوئی۔ ان کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ ابن عبدالبر کا کلام ختم ہوا۔

ابو نعیم نے اسحاق بن حبیب شہیدی کے طریق سے عبدالاعلیٰ سے، انہوں نے داؤد بن ابوبند سے، انہوں نے عکرمہ سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اشعث کی بہن قبیلہ سے نکاح کیا، تو اختیار دینے سے قبل وفات پا گئیں، اس موصول حدیث کی اسناد بھی قوی ہے۔

\* اسد الغابۃ (۷۲۲۲) تجرید (۲۹۹/۲) \* الاستیعاب (۱۹۰۶/۴)

\* اسد الغابۃ (۷۲۱۱) تجرید (۲۹۸/۲) \* الاستیعاب (۱۹۰۴/۴)

اسی طرح اسے عبدالوہاب ثقفی کے طریق سے بحوالہ داؤد شععی مرسل نقل کیا ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں.... عقیلہ بنت اشعث، آپ ﷺ کی وفات کے بعد عکرمہ نے ان سے نکاح کر لیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ بات ناگوار ہوئی، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وہ بات نقل کی، جو گزر چکی ہے، اس کے آخر میں ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اطمینان ہوا اور خاموش ہو گئے۔ \*

### القسم الرابع از حرف تاف

#### قريبه بنت الحارث العتواريه \* ۱۱۶۵۳

ابن مندہ نے ان کی حدیث حفص بن عمر کے طریق سے بحوالہ بکار بن عبدالعزیز، انہوں نے موسیٰ بن عبیدہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے یزید بن عبدالرحمن نے بحوالہ اپنی والدہ کچھ بنت قرط، انہوں نے اپنی والدہ عقیلہ بنت عبید بن حارث، وہ فرماتے ہیں: میں اور میری والدہ قریبہ بنت حارث عتواریہ آئے، ان سے اسی طرح منقول ہے، اور صحیح قزیریہ ہے، جیسا کہ حرف عین عقیلہ میں گزر چکا ہے، ابو نعیم فرماتے ہیں: ابن مندہ نے قریبہ کا عنوان قائم کیا ہے، اور حدیث نقل کی جس میں فرمایا: قزیریہ، اسی طرح طبرانی \* وغیرہ نے نقل کیا ہے۔  
میں کہتا ہوں: وہی صحیح ہے۔



\* اسد الغابۃ (۳۷۹/۵) الطبقات الکبریٰ (۱۰۶، ۱۰۵/۸)

\* اسد الغابۃ (۷۲۱۵) تجرید (۲۹۸/۲)

\* المعجم الکبیر (۸۵۴/۲۴)

## حرف کاف

### التقسيم الاول از حرف کاف

#### ۱۱۶۵۵ کبشہ بنت ابی امامہ \*

اسعد بن زرارہ، ان کے والد کے سوانح میں ان کا نسب گزر چکا ہے، ان کے والد نے ان کے بارے نبی کریم ﷺ کو وصیت کی تھی تو ان سے عبداللہ بن ابی حبیبہ نے نکاح کیا جو بنو اعرابہ بن زید بن عطف سے ہیں، وہ حضرت اسعد کی صاحبزادیوں میں سب سے چھوٹی تھیں، بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا شمار ہے، ان کی بہن حبیبہ کے سوانح میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

#### ۱۱۶۵۶ کبشہ بنت اوس \*

ابن شریک انصاریہ، بنو خلمہ سے ہیں، خزیمہ بن ثابت کی والدہ ہیں، ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔

#### ۱۱۶۵۷ کبشہ بنت ثابت \*

ابن حارثہ بن جلاس انصاریہ، بنو خدرہ سے ہیں، ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ ابن سعد \* کا قول ہے، ان کی والدہ کا نام سلامہ ہے۔

#### ۱۱۶۵۸ کبشہ بنت ثابت \*

ابن عتیک بن نعمان بن عمرو بن عتیک بن عمرو بن مبدول، ان کی کنیت ام سعید ہے۔ ابن سعد \* نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں: ان کی والدہ معاذہ بنت انس بن قیس بن عبید ہیں، ان سے یزید بن ابی اللیسر، کعب بن عمرو نے نکاح کیا، جس سے سعید، عبدالرحمن اور ام کثیر پیدا ہوئے۔

#### ۱۱۶۵۹ کبشہ بنت ثابت \*

ابن منذر بن حرام، حضرت سنان کی باپ شریک بہن ہیں، بنو مالک بن نجار سے ہیں۔ ترمذی \* اور ابویعلیٰ نے یزید بن

\* اسد الغابۃ (۷۲۲۴) تجرید (۲۹۹/۲) \* اسد الغابۃ (۷۲۲۶) تجرید (۲۹۹/۲)

\* اسد الغابۃ (۷۲۲۷) تجرید (۳۶۰۰/۲) \* الطبقات الکبریٰ (۲۶۶/۸)

\* تجرید (۲۹۹/۲) \* الطبقات الکبریٰ (۲۶۶/۸)

\* اسد الغابۃ (۷۲۲۵) تجرید (۲۹۹/۲) \* ترمذی (الحديث: ۱۸۹۲)

یزید بن جابر کے طریق سے بحوالہ عبدالرحمن بن ابی عمرہ، انہوں نے اپنی دادی کبشہ سے ان کی حدیث روایت کی ہے، فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ میرے پاس تشریف لائے اور لٹکے ہوئے مشکیزے کے منہ سے پانی پیا، میں گئی اور جہاں سے نبی کریم ﷺ نے پانی پیا تھا اسے کاٹ لیا۔

اسی طرح ان کی حدیث میں ہے، اس میں ان کے والد اور نسب مذکور نہیں، ابو عمرو بنہ نے ان کا نسب بیان کیا ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا۔ اسے عبدالعزیز بن حصین نے بحوالہ یزید بن عبدالرحمن روایت کیا ہے، فرماتے ہیں: بحوالہ ان کی دادی بڑی صاء کہ نبی کریم ﷺ نے کھڑے ہو کر پانی پیا۔

اسے ابن مندہ نے نقل کیا ہے، احتمال ہے کہ وہ ان سے ملے ہیں، اسے ابن وہب نے بحوالہ ابن لہیعہ، انہوں نے یزید سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں: بحوالہ ان کی دادی کبشہ، عقیقہ بن ابی کبشہ کا قول ہے: ان کی والدہ مخطی بنت حارثہ بن لوذان ہیں، ان سے عمرو بن علقم، بن عمرو بن علقم نے نکاح کیا، جس سے ثعلبہ، ابو عمرو اور حبیبہ پیدا ہوئے، اس کے بعد ان سے حارث بن ثعلبہ نے نکاح کیا، جس سے ام ثابت رملہ پیدا ہوئیں، اس کے بعد ان سے حارثہ بن نعمان نے نکاح کیا۔

#### ۱۱۶۶۰ کبشہ بنت حاطب

ابن قیس بن ہبشہ، بنو معاویہ سے ہیں: ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔

#### ۱۱۶۶۱ کبشہ بنت رافع

ابن عبید بن ثعلبہ بن ابجر، وہ خدرہ ہیں، انصاریہ خدریہ، حضرت سعد بن معاذ کی والدہ ہیں، ان کی وفات تک زندہ رہیں۔ ام سعد کے لیے سعد کے کھوجانے کا افسوس، اس نے مستقل الرائے اور ہمت آج گنوا دی۔ ابن اسحاقؒ نے حضرت سعد کی وفات کے موقع پر یہ اشعار نقل کیے ہیں، پھر ان سب نے ذکر کیا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”ہر مین کرنے والی عورت جھوٹ بولتی ہے سوائے سعد کا مین کرنے والی کے۔“

#### ۱۱۶۶۲ کبشہ بنت عمرو

ابن عبد بن قمیہ بن عامر بن خزرج انصاریہ، بنو ساعدہ سے ہیں۔ ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔

#### ۱۱۶۶۳ کبشہ بنت الفاکہ

ابن قیس انصاریہ زرقیہ۔ ابن سعدؒ نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔

الطبقات الکبریٰ (۳۲۹/۸) \* اسد الغابۃ (۷۲۲۸) الاستیعاب (۲۷۳۶) تجرید (۲۹۹/۲)

اسد الغابۃ (۷۲۳۰) الاستیعاب (۳۵۲۸) تجرید (۲۹۹/۲) \* السیرۃ النبویۃ (۱۹۸/۳)

اسد الغابۃ (۳۸۵/۵) \* اسد الغابۃ (۷۲۳۱) تجرید (۳۰۰/۲) \* تجرید (۳۰۰/۲)

الطبقات الکبریٰ (۲۸۵/۳)



### ۱۱۶۶۳ کبشہ بنت فروہ \*

ابن عمرو بن فروہ انصاری، بنویاضہ سے ہیں۔ ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۶۶۵ کبشہ بنت کعب \*

ابن مالک انصاری، عبداللہ بن ابی قتادہ کی زوجہ ہیں۔ ابن حبان کا قول ہے، انہیں شرف صحابیت حاصل ہے۔ مستغفری نے ان کی پیروی کی ہے، مؤطا اور سنن اربعہ میں جلی کے لعاب کے بارے میں بحوالہ ابی قتادہ ان کی حدیث مروی ہے۔ ابن سعد کا قول ہے: ان سے ثابت بن ابی قتادہ نے نکاح کیا، جس سے اولاد ہوئی، ان کی والدہ صفیہ اہل یمن سے ہیں۔

### ۱۱۶۶۶ کبشہ بنت مالک \*

ابن سنان، ابوسعید کی بہن ہیں، فریجہ ہیں، ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

### ۱۱۶۶۷ کبشہ بنت مالک \*

ابن قیس، کبشہ میں ان کا ذکر آئے گا۔

### ۱۱۶۶۸ کبشہ بنت معدیکرب \*

اشعث بن قیس کی پھوپھی ہیں، معاویہ بن خدیج جو معروف صحابی ہیں ان کی والدہ ہیں۔ دارقطنی نے ان کا قصہ، ان کے بیٹے معاویہ کے طریق سے بیان کیا کہ انہوں نے فرمایا: میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا، میرے ساتھ میری والدہ کبشہ بنت معدیکرب تھیں جو اشعث کی پھوپھی ہیں، انہوں نے کہا: یا رسول اللہ! میں نے قسم کھائی ہے کہ بیت اللہ کا طواف گھنٹوں کے بل کروں گی، آپ ﷺ نے فرمایا: اپنے پاؤں پر ستر بار طواف کرو، سات اپنے ہاتھوں کی طرف سے اور سات اپنے پیروں کی طرف سے..... اس کی سند ضعیف ہے۔ ابن دباغ وغیرہ نے استیعاب پر اپنے استدراک میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۶۶۹ کبشہ بنت معن \*

ابن عاصم انصاری، ابوقیس بن اسلم کی زوجہ تھیں، انہیں کبشہ کہا جاتا تھا۔

ابن جریر رحمہ اللہ کا قول ہے جو انہوں نے عکرمہ سے نقل کیا ہے کہ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی: ﴿تمہارے

لیے یہ حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو....﴾۔

اسد الغابۃ (۷۲۳۲) تجرید (۳۰۰/۲) \* اسد الغابۃ (۷۲۳۳) تجرید (۳۰۰/۲)

ابوداؤد (۷۵) ترمذی (۹۲) نسائی (۶۸) (۳۳۹) ابن ماجہ (۳۶۷) مالک (۴۶) مسند احمد (۲۹۶/۵، ۳۰۳، ۳۰۹)

الطبقات الکبریٰ (۳۵۱/۸) \* الطبقات الکبریٰ (۳۵۱/۸)

سنن دارقطنی (۲۷۳/۲) \* اسد الغابۃ (۷۲۳۰۰) تجرید (۳۰۰/۲)

سورۃ النساء الآیۃ (۱۹)

ابوموسیٰ نے اسے مستغفری کے حوالے سے نقل کیا ہے، پھر ابو ثور کے طریق سے، انہوں نے ابن جریج سے نقل کیا ہے، میں نے اسے انساب میں کئی طرق سے ذکر کیا ہے۔ \*

### ۱۱۶۷۰ کبشہ بنت واقد \*

ابن عمرو بن عامر بن زید مناة اور عمرو بن راطناہ ہیں، جو بنو حارث بن خزرج سے ہیں، ابن حبیب نے بیعت کرنے والی خواتین میں ان کا ذکر کیا ہے، وہ ام عبداللہ بن رواحہ ہیں۔ ابن سعد \* نے ان کا ذکر کیا ہے، ان کے بارے میں منقول ہے: کبشہ تغیر کے ساتھ ہے، اس میں یہ اضافہ ہے، جب رواحہ کی وفات ہوئی تو ان سے قیس بن شماس نے نکاح کیا، جس سے ثابت پیدا ہوئے۔

### ۱۱۶۷۱ گبیرہ \*

بعض کا قول ہے: کبیرہ، ابن مندہ نے "ث" کے ساتھ نقل کیا ہے۔ ابو نعیم نے ان کی پیروی کی ہے، ابوموسیٰ نے ذیل میں ابن ماکولا کی پیروی کرتے ہوئے باء کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

میں کہتا ہوں: ابن ماکولا خطیب پر سبقت لے گئے، اور فرمایا: کبیرہ، جو کبیرہ بنت ابوسفیان ہیں۔ انہیں شرف صحابیات اور روایت حاصل ہے، پھر محمد بن سلیمان بن سہل کے طریق سے بحوالہ یحییٰ بن ابی ورقہ بن سعید، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، فرماتے ہیں: مجھ سے میری مولا کبیرہ بنت ابی سفیان نے روایت کی۔ انہوں نے جاہلیت کا زمانہ پایا، اور بیعت کرنے والی صحابیات میں سے ہیں، فرماتی ہیں: یا رسول اللہ! میں نے جاہلیت میں اپنے چار بیٹوں کو زندہ دفن کیا تھا، آپ ﷺ نے فرمایا: "چار غلام آزاد کر دو"۔ انہوں نے ابوسعید اور ان کے بیٹے میسرہ، ام میسرہ کو آزاد کیا، خطیب فرماتے ہیں: انہوں نے چوتھے کا ذکر نہیں کیا، شاید وہ اس حدیث کے راوی ہیں: یعنی ابودرقہ۔

ابن اثیر \* کا قول ہے، جس میں انہوں نے سلف کی پیروی کی ہے کہ وہ خزاعیہ ہیں، بعض کا قول ہے: ثقفیہ، بعض نے کہا: کبیرہ بنت ابی سفیان، اور مذکورہ استاد کے ساتھ ایک اور حدیث روایت کی: "خاکستری رنگ کے جانور کا خون اللہ تعالیٰ کے نزدیک سیاہ رنگ والے جانور سے زیادہ پاکیزہ ہے"۔ \*

### ۱۱۶۷۲ گبیشہ بنت مالک \*

ابن قیس انصاریہ، بنو مازن سے ہیں، ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ وہ شمس ہیں۔ ابن سعد \* نے تغیر کے بغیر ان کا ذکر کیا ہے اور فرمایا: ان کی والدہ سہیمہ بنت عؤمر بن اسعد ہیں، ان سے ثعلبہ بن بھس بن عمرو

\* تفسیر ابن کثیر (۲/۲۱۶) اسد الغابۃ (۷۲۳۵) تجرید (۲/۳۰۰)

\* الطبقات الکبریٰ (۸/۲۶۶) اسد الغابۃ (۷۲۳۶) تجرید (۲/۳۰۰)

\* اسد الغابۃ (۵/۳۸۶) المعجم الکبیر (۹/۲۵) مجمع الزوائد (۴/۱۸)

\* اسد الغابۃ (۷۲۳۷) تجرید (۲/۳۰۰) الطبقات الکبریٰ (۸/۳۰۶)

بن عتیک بن عمرو بن مبذول نے نکاح کیا، جس سے زینب پیدا ہوئیں۔

### ۱۱۶۶۳ کبشہ بنت معن

ابن عاصم، کبشہ (بغیر تصغیر) میں ان کے حالات گزر چکے ہیں۔

### ۱۱۶۶۴ کثیرہ

ث کے ساتھ، بنت ابی سفیان، کبیرہ میں گزر چکی ہیں۔

### ۱۱۶۶۵ کحیلہ

طبرانی کی معجم کبیر میں حدیث ابوامامہ میں ان کا ذکر ہے۔

### ۱۱۶۶۶ کریمہ بنت ابی حذرۃ الاسلمیہ

بعض کا قول ہے: انہیں شرف صحابیت حاصل ہے، ابن حبان اور مستغفری نے ان کا ذکر کیا ہے، بعض کا قول ہے: وہ ام درداء کبریٰ ہیں، حالانکہ یہ وہ نہیں ہیں۔

ام درداء کبریٰ کے بارے میں معروف ہے کہ ان کا نام خیرہ ہے جیسا کہ حرف خاء میں گزر چکا ہے۔

### ۱۱۶۶۷ کریمہ بنت کلثوم الحمیریہ

عکاف بن وداغہ کے سواخ میں ان کا ذکر گزر چکا ہے، بعض کا قول ہے: وہ زینب بنت کلثوم ہیں۔

### ۱۱۶۶۸ کُفَیْبَہ

بنت سعید اسلمیہ، ابو عمر نے بحوالہ واقدی \* ان کا ذکر کیا ہے کہ وہ خیبر میں آپ ﷺ کے ساتھ حاضر تھیں، رسول اللہ ﷺ نے ان کے لیے ایک آدمی کے حصے کے برابر حصہ عطا فرمایا، ابن سعد \* کا قول ہے: یہ وہی ہیں جو مسجد میں ان کا خیمہ تھا، پیاروں اور زخمیوں کو دوا دیتیں، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو جب تیر لگا تو ان کے زخموں کا علاج کرتی تھیں، یہاں تک کہ وہ وفات پا گئے۔

### ۱۱۶۶۹ کلبہ بنت یثربی

انہیں شرف صحابیت حاصل ہے۔ تجرید میں اسی طرح ہے، بغیر اضافے کے میرا خیال ہے کہ یہ بعد والی ہیں، پھر میں نے ابراہیم حربی کے کلام میں اس کے بارے میں تصریح پائی ہے، انہوں نے ان کے والد کا نام وہی بتایا ہے جو اوروں نے بتایا ہے۔

\* اسد الغابۃ (۷۲۳۹) الاستیعاب (۳۵۳۰) تجرید (۳۰۰/۲)

\* اسد الغابۃ (۷۲۴۱) الاستیعاب (۳۵۳۱) تجرید (۳۰۰/۲) \* الاستیعاب (۱۹۰۷/۴)

\* المغازی (۶۸۵/۲) \* الطبقات الکبریٰ (۲۱۳/۸) \* تجرید (۳۰۱/۲)

۱۱۶۸۰ مکتبہ

بعض کا قول ہے: کلید، بنت بُزْغَن۔ بنو غزیر بن تمیم سے ہیں۔ زینب بن ثعلبہ کی والدہ ہیں، طبرانی \* نے کبیر میں زینب ابن ثعلبہ کے طریق سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں، مجھے میری والدہ کلید بنت بُزْغَن غزیریہ نے بلایا اور کہا: اے میرے بیٹے! اس شخص نے میری اوڑھنے والی چادر لے لی ہے۔ میں اس شخص سے جا ملا اور اسے رسول اللہ ﷺ کے پاس لے آیا، میں نے عرض کی: اللہ کے رسول! اس نے میری والدہ کی چادر لے لی ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اسے وہ چادر واپس کرو“۔ ابو نعیم نے ان کا ذکر کیا ہے، یہ طویل حدیث سے مختصر لیا گیا ہے۔ ابو نعیم کا قول ہے، بعض نے کہا: ان کا نام کلیم ہے۔

۱۱۶۸۱ مکتم بنت مُحَرِّز النجاریہ \*

حضرت اسماء کی بہن ہیں، جن کا ذکر گزر چکا ہے۔ ابن سعد \* نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔

۱۱۶۸۲ مکتبہ

عبدالرحمن بن ابی عمرہ کی داوی ہیں، کبشہ میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

۱۱۶۸۳ گنود بنت قرظہ

فاختہ بنت قرظہ میں ان کا ذکر ہے۔

۱۱۶۸۴ گنود أم ساره

سارہ میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

۱۱۶۸۵ کویسہ \*

یہ یتیم تھی جو نبی کریم ﷺ کی پرورش میں تھی۔ یہ کلید بن عیسیٰ کا قول ہے، جو انہوں نے رُجلہ سے، انہوں نے ان سے روایت کیا ہے، تجرید میں اسی طرح مذکور ہے۔ انہوں نے اختصار میں انتہائی کمی کی ہے۔

رُجلہ، اہل شام کی ایک خاتون تھیں، انہوں نے ام درداء وغیرہ سے روایت کیا، خطیب نے مؤتلف میں یثیم بن خارجہ کے طریق سے، انہوں نے کلید بن عیسیٰ بن ابی حجر ثقفی سے روایت کیا، فرماتے ہیں: میں نے رُجلہ سے، جو معاویہ کی مولاء ہیں، فرماتے ہوئے سنا: میں نے ان یتیموں کا زمانہ پایا، جو نبی کریم ﷺ کی پرورش میں تھیں، ان میں سے ایک کا نام کویسہ تھا، انہوں نے یہ قصہ بیان کیا کہ عورتیں جنازہ کے پیچھے نہیں جاتی تھیں ہاں اگر کوئی عورت ماہواری یا حمل سے ہوتی تو وہ عید گاہ نہ جاتی جبکہ بقیہ خواتین عید گاہ جاتی تھیں۔ جب جنازہ رکھ دیا جاتا وہ عورت اپنا ہاتھ میت کے پیٹ پر رکھتی کہ آیا اس سے کوئی چیز تو نہیں نکلی، مرد اسے دیکھ رہے ہوتے، یہاں تک کہ جب وہ چھپ جاتی تو لوگ امام سے کہتے نکلیں کہے۔

\* اسد الغابۃ (۷۲۴۲) تجرید (۳۰۱/۲) \* المعجم الكبير (۲۵/۱۱) \* تجرید (۳۰۱/۲)۔

\* الطبقات الكبرى (۳۰۹/۸) \* الاستيعاب (۳۵۲۷) تجرید (۳۰۱/۲)۔

کِسۃ ۱۱۶۸۶

بنت حارث بن کریم بن عبد شمس، میلہ کذاب کی زوجہ تھیں، اس کے بعد عبد اللہ بن عامر اکبر کے نکاح میں آئیں۔ زبیر بن بکار نے ان کا ذکر کیا ہے، اور ان کا نام قاسمہ بن عبد شمس لکھا ہے۔

القسم الثانی از حرف کاف

کُبشۃ بنت حکیم الثقفۃ ۱۱۶۸۷

ام حکم بنت یحییٰ بن عقبہ کی دادی ہیں، ام حکیم نے ان سے روایت کیا کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا، ابن مندہ نے اسی طرح ذکر کیا ہے۔ اور ابو نعیم نے اسے ذکر کیا ہے، فرمایا: اس پر اضافہ نہیں کیا، یعنی ان کی حدیث نقل نہیں کی۔

القسم الثالث از حرف کاف

کُبشۃ بنت مَكشُوح المرادیۃ ۱۱۶۸۸

قیس کی بہن ہیں جو مشہور شہسوار ہیں، ابن شاپہ نے ابان بن سعید بن العاص کے سوانح میں ان کا ذکر کیا ہے، وہ صاحب جمال خاتون تھیں، ان کے بھائی قیس بن ابان نے ان کا نکاح کر دیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں جب وہ یمن کے والی مقرر ہوئے تھے۔

ایک طویل حدیث میں یہ سلیمان انباری کے طریق سے بحوالہ نعمان بن بزرج منقول ہے۔

القسم الرابع از حرف کاف

کُبشۃ بنت بُرث ۱۱۶۸۹

بعض کا قول ہے: یثربی غیریہ۔ ابو عمر نے حدیث زینب بنت ثعلبہ میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح تجرید میں ہے اور وہ لفظی غلطی ہے۔ یہ کلیہ تصغیر کے ساتھ ہے، جیسا کہ قریب ہی کتب میں گزر چکا ہے۔



## حرف لام

### القسم الاول از حرف لام

#### ۱۱۶۹۰ ثبابہ بنت اسلم \*

ابن حریش بن عدی بن مجدہ بن حارث۔ ابن سعد \* نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا: حضرت سلمہ بن اکوعؓ کی سگی بہن ہیں۔ ان سے زید بن سعد بن زید اشہلی نے نکاح کیا۔

#### ۱۱۶۹۱ ثبابہ بنت الحارث \*

ابن حزن بن نحیر بن ہزم بن رقیبہ بن عبداللہ بن ہلال بن عامر بن صعصعہ ہلالیہ، ام الفضل حضرت عباس بن عبدالمطلب کی زوجہ اور ان کی اولاد، فضل، عبداللہ وغیرہ کی والدہ ہیں۔ یہ لبابہ کبریٰ ہیں جو اپنی کنیت سے مشہور اور اپنے نام سے پہچانی جاتی ہیں۔ کئیوں میں ان کا ذکر آئے گا۔ ان کی والدہ خولہ بنت عوف قرشیہ ہیں۔

#### ۱۱۶۹۲ ثبابہ بنت الحارث \*

ابن حزن ہلالیہ، اس سے پہلی صحابیہ کی بہن ہیں، یہ لبابہ صغریٰ ہیں، ان کا لقب عَصْمَاء تھا، ان کی والدہ فاختہ بنت عامر ثقفیہ ہیں اور یہ خالد بن ولید کی، جو مشہور صحابی ہیں، والدہ ہیں۔

ابو عمر \* کا قول ہے: ان کے اسلام لانے اور صحابیہ ہونے میں تردد ہے۔ ابن اثیر \* نے اسی کو برقرار رکھا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، گویا انہوں نے ان کے شوہر ولید کی پہلے وفات کی جہت سے اسے بعید سمجھا ہے، کہ وہ ان کے ساتھ یہ تھوڑا عرصہ بعد وفات پا گئیں ہوں، یہ ضروری نہیں، کیونکہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ اپنے بیٹے خالد کی وفات کے بعد بھی زندہ رہیں۔ ان کا اس بارے میں قصہ ہے۔ ابو حذیفہ نے مبتدا والفتوح میں بحوالہ محمد بن اسحاق ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں: جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے جنازے کے لیے نکلے تو ان کی والدہ یہ اشعار پڑھ رہی تھیں:

”تم قوم کے لاکھوں میں سے بہتر ہو، جب تم لوگوں کے چہروں کے سامنے تھے۔“

فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم نے سچ کہا، ایسا ہی تھا۔

\* تجرید (۳۰۱/۲) \* الطبقات الکبریٰ (۲۴۴/۸)

\* اسد الغابۃ (۷۲۴۴) الاستیعاب (۳۵۳۲) تجرید (۳۰۱/۲)

\* اسد الغابۃ (۷۲۴۵) الاستیعاب (۳۵۳۳) تجرید (۳۰۱/۲)

\* الاستیعاب (۱۹۰۹/۴) \* اسد الغابۃ (۳۹۰/۵)

سیف بن عمر نے ارتداد اور فتوح کے زمانے کے بارے میں اپنی سند سے فرمایا اور حضرت خالد بن ولیدؓ کے الگ ہو جانے اور مدینہ میں مقیم ہونے کے بارے میں ذکر کیا، فرماتے ہیں: جب حضرت عمرؓ نے دیکھا کہ لوگوں کے فتنے میں پڑنے کا خدشہ ختم ہو گیا ہے تو انہوں نے ارادہ کیا کہ حج سے واپسی پر وہ انہیں عہدہ پر بحال کر دیں، ان کے ساتھ حضرت خالد بن ولیدؓ نکلے، انہوں نے مدینہ سے باہر پانی مانگا، تو فرمایا: میرے ہجرت کے مقام تک مجھے نیچے اتار دو۔ تو ان کی والدہ انہیں مدینہ لے آئیں۔ وہاں ان کی تیمارداری کی۔ حضرت عمرؓ نے حج سے آنے والے ایک آدمی سے پوچھا: کیا خبر ہے؟ اس نے کہا: خالد کی حالت تشویشناک ہے۔ حضرت عمرؓ نے تین راتوں کا سفر ایک رات میں طے کیا۔ ان کی وفات کے بعد حضرت عمرؓ پہنچے، ان پر رقت طاری ہو گئی، اِنَّا لِلّٰہِ وَ اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ پڑھا۔ جب ان کی تجہیز ہوئی تو عورتیں رونے لگیں، آپ سے کہا گیا: کیا آپ انہیں نہیں روکتے؟ انہوں نے فرمایا: ابوسلیمان پر آنسو بہانے میں کوئی حرج نہیں جب تک مار دھاڑ اور آواز بلند نہ ہو۔

جب آپ کا جنازہ اٹھایا گیا تو ایک عورت احرام باندھے رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی: تو لاکھوں میں بہتر ہے.... جو شعر پہلے گزر چکا ہے، اس کے بعد ہے:

”کیا بہادری؟ تولیث مرۃ بن جہم ابی اشبال سے زیادہ بہادر تھا۔ کیا سخاوت؟ تو پہاڑوں کے درمیان جانے والے سیلاب سے زیادہ سختی تھا۔“

تو حضرت عمرؓ نے پوچھا: یہ کون ہے؟ کہا گیا: ان کی والدہ۔ آپ نے کہا: ان کی والدہ، اللہ کی قسم! تین مرتبہ فرمایا، تو کیا عورتوں حضرت خالد جیسے شخص کی میت سے انہی تھیں۔

یہ اگر ابو حذیفہ کی روایت ہے تو وہ ضعیف ہے، اسی طرح سیف بھی ضعیف ہے، لیکن ابن سعدؒ نے ذکر کیا ہے، وہ ثقہ ہے، بحوالہ کثیر بن ہشام، انہوں نے جعفر بن برقان سے، انہوں نے یزید بن اصرم سے، فرماتے ہیں: جب خالد بن ولیدؓ وفات پا گئے تو ان کی والدہ ان پر روئیں، تو حضرت عمرؓ نے فرمایا: اے ام خالد! کیا خالد یا اس کے اجر کی مصیبت پر آنسو بہاتی ہو؟ تمہیں ثابت قدم رہنا ہوگا یہاں تک کہ تم مہندی سے اپنا ہاتھ رنگ لو۔

یہ سند صحیح ہے۔ بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عمرؓ کے قول کو تعلیقاً ذکر کیا ہے جس میں حضرت خالد پر بلند آواز سے آنسو بہانے کا ذکر ہے۔ لیکن ان کی والدہ کا نام نہیں لیا۔

ان روایات سے معلوم ہوا کہ وہ نبی کریم ﷺ کے بعد بھی زندہ رہیں، کیا اس سے یہ گمان کیا جاسکتا ہے کہ وہ فتح کے بعد نبی کریم ﷺ کی وفات تک حالت کفر میں رہیں، یہ بعید ہے اور یہ قول اسے باطل کر دے گا کہ حرمین اور طائف میں حجۃ الوداع کے موقع پر سب لوگ اسلام لا چکے تھے اور حاضر تھے۔

### ۱۱۶۹۳ بُبَابُ بِنْتِ أَبِي بُبَابٍ الْأَنْصَارِيَّةِ\*

انہوں نے نبی کریم ﷺ کا زمانہ پایا، ان کا ذکر موجود ہے۔ ابن مندہ نے مختصر ان کا ذکر کیا ہے، ابو نعیم نے موسیٰ بن عئیدہ

ربذی کے طریق سے جو ایک ضعیف راوی ہیں، بحوالہ سعید بن جبیر جو مولیٰ ابولبابہ ہیں، اور یعقوب بن زید سے، انہوں نے کہا ہے: روایت کی، فرماتی ہیں: میں ان کے ساتھ تھی، وہ فرماتے تھے: اس اللہ کے دشمن کی مشکلیں کس دو! جس نے اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے خیانت کی ہے۔ ان کے پاس سے ان کے بھائی گزرے اور کہا: اے میرے بھائی! میرے پاس آؤ۔ انہوں نے کہا: نہیں، اللہ کی قسم! میں تم سے بات نہیں کروں گا یہاں تک کہ تم سے اللہ اور اس کا رسول ﷺ راضی ہو؟ ان کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے پوچھا، انہوں نے کہا: وہ مسجد میں ہیں۔ لوگوں نے ان کے بارے میں آپ ﷺ کو بتایا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر وہ میرے پاس آتا تو میرے لیے اس کے بارے میں کوئی واقعہ ہوتا۔“ پھر یہ آیت نازل ہوئی: ﴿اے مومنو! تم اللہ اور رسول (ﷺ) سے خیانت نہ کرو، اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو....﴾ اور دوسری آیت ﴿اور دوسرے جنہیں اللہ کے حکم کی امید ہے....﴾۔

### ۱۱۶۹۲ ثُبْنی بنت ثابت

ابن منذر بن حزام، انصاریہ غزرجیہ، حضرت حسان بن علیؓ جو مشہور شاعر ہیں ان کی بہن ہیں، ابن سعد نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اور ان کی بہن کشفہ نے نبی کریم ﷺ سے بیعت کی، لیلیٰ اوس بن ثابت کی سگی بہن تھیں۔

### ۱۱۶۹۵ ثُبْنی بنت الخظیم الانصاریہ

اوسیہ، قیس بن خطیم کی جو شاعر ہیں، بہن ہیں، عبد قیس بن زید بن عامر ظفری کے نکاح میں تھیں، ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے، اور ابن سعد کا قول ہے، ان کی والدہ ام قیس، قریبہ بنت قیس بن قذیم بن امیہ بن سنان، سلمیہ ہیں۔ ان سے عبد اللہ بن نبیک بن اساف نے نکاح کیا، جس سے اولاد ہوئی، ثُبْنی اسلام لائیں اور بیعت کی، ان کی بہن لیلیٰ کا ذکر عنقریب آئے گا۔

### ۱۱۶۹۶ ثُبْنی بنت قیظی

ابن قیس بن لوذان بن ثلبہ بن عدی بن مجذعہ بن حارثہ انصاریہ۔ ابن سعد نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۶۹۷ ثُبْنیہ

بنو متل بن حبیب بن تمیم بن عبد اللہ بن قُرط بن رزاح بن عدی بن کعب کی باندی ہیں، یہ ان کمزور لوگوں میں سے تھیں جنہیں عذاب دیا جاتا تھا، اور ان سات لوگوں میں سے ہیں جنہیں حضرت ابو بکرؓ نے خریدا، ام عیس میں ان کا ذکر آئے

السيرة النبوية (۸۸۷/۳) دلائل النبوة (۱۶/۴) سورة الانفال الآية (۲۷)

سورة التوبة الآية (۱۰۶) تجريد (۳۰۱/۲) اسد الغابة (۷۲۴۷) تجريد (۳۰۱/۲)

الطبقات الكبرى (۱۰۰/۸) تجريد (۳۰۲/۲) الطبقات الكبرى (۲۴۵/۸)



گا۔ اکثر روایات میں ان کا نام مذکور نہیں۔ بلا ذریعہ نے بحوالہ ابوالبختری ان کا نام لیا ہے۔

### ۱۱۶۹۸) ثَبِيس بنت عمرو \*

ابن حرام انصاریہ۔ ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے اور فرمایا: ان کی والدہ قراد بنت موہبہ بن عدی بن مجدہ بن حازم ہیں، ان سے ابو ثابت بن عبد بن عبد عمرو بن قنطلی نے نکاح کیا پھر قیس بن قیس بن لوزان کے نکاح میں آئیں۔

### ۱۱۶۹۹) ثَبِيسَة بنت عمرو الأنصارية \*

ام عمارہ ہیں۔ طبرانی \* نے حرف لام میں ان کا ذکر کیا ہے، اور ابن نقطہ نے اسی پر اعتماد کیا ہے، مشہور ہے کہ نوں کے ساتھ ہے، اپنی کنیت سے مشہور ہیں، عنقریب ان کا ذکر آئے گا، بعض کا قول ہے: وہ لیسہ ہیں، جو نسبیہ کے علاوہ ہیں وہ تو بنت حرب ہیں۔ واللہ اعلم!

### ۱۱۷۰۰) ثَهَّيْه \*

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی باندی اور ام ولد ہیں، اور ان کی صاحبزادی حفصہ رضی اللہ عنہا کی خدمت کیا کرتی تھیں۔ ابن ماکولا \* کا قول ہے: ام عبدالرحمن بن عمر ہیں، ان کی کنیت ابو شممہ ہے، بعض کا قول ہے: ان کا نام ثہیہ ہے، مستغفری نے ان کا ذکر کیا اور فرمایا: انہیں شرف صحابیت حاصل ہے، ابراہیم بن موسیٰ بن تیم کی روایت سے منقول ہے، فرمایا: مجھ سے میرے چچا زکریا بن یحییٰ نے روایت کی، فرمایا: مجھ سے میرے بھتیجے ابن شہاب نے بحوالہ اپنے چچا روایت کی، فرماتے ہیں: مجھ سے اہل علم میں سے کچھ لوگوں نے روایت کی کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا جو نبی کریم ﷺ کی زوجہ ہیں، لہیہ ام ولد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس دن، جبکہ رسول اللہ ﷺ ان کے پاس تشریف لائے، بھیجا اور کہا: آپ ﷺ میرے پاس سے تشریف لے گئے ہیں، اور کافی دیر ہوگئی ہے نہیں آئے۔ دیکھو وہ اپنی کس زوجہ کے پاس ہیں؟ حضرت لہیہ گئیں، اور آپ ﷺ کو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے ہاں پایا، انہوں نے آکر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو بتایا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کہنے لگیں: یہودیہ کے پاس بیٹھے ہیں۔ پھر لہیہ کو حکم دیا کہ وہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے پاس جائیں، یہاں تک کہ نبی کریم ﷺ ان کے پاس سے تشریف لے جائیں، اور انہیں (صفیہ رضی اللہ عنہا) کو بتاؤ جو کچھ حفصہ نے کہا ہے، تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: اللہ کی قسم! میں حضرت ہارون رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہوں اور میرے چچا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور میرے شوہر رسول اللہ ﷺ ہیں اور کوئی مجھ سے افضل نہیں، آپ ﷺ ان کے پاس تشریف لائے تو وہ رو رہی تھیں۔ آپ ﷺ نے ان سے فرمایا: ”تمہیں کیا ہوا؟“ انہوں نے آپ ﷺ کو بتایا جو انہیں لہیہ نے حفصہ کے حوالہ سے بتایا تھا، اور جو کچھ انہوں نے ان سے کہا، رسول اللہ ﷺ نے ان کی تصدیق کی۔ جب حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے یہ دیکھا تو فرمانے لگیں: اللہ کی قسم! میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا

اسد الغابۃ (۲۵۸/۶) تجرید (۳۰۲/۱) \* اسد الغابۃ (۷۲۴۸) (۲۵۸/۶) تجرید (۳۰۲/۲)

المعجم الكبير (۳۰/۲۵) \* اسد الغابۃ (۷۲۵۰) تجرید (۳۰۲/۲)

الإكمال (۸۳/۱) \*

کو بھی ایذا نہیں دوں گی۔\*

### ۱۱۷۰۱) یلی بنت الإطناہ\*

ابن منصور بن عقیص، انصاریہ، بنوخلی سے ہیں۔ ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا نام لیا ہے۔

### ۱۱۷۰۲) یلی بنت بلال\*

یا بلیل انصاریہ۔ ابولیلی کی بہن ہیں، اور عبدالرحمن بن ابولیلی کی پھوپھی ہیں۔ ابو عمر\* کا قول ہے: انہوں نے نبی کریم ﷺ سے بیعت کی اور آپ ﷺ سے روایت کی۔

### ۱۱۷۰۳) یلی بنت ثابت\*

ابن منذر بن عمرو بن حرام، حضرت حسان بن علیؓ کی بہن ہیں۔ ابن حبیب نے ان کا بھی ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۷۰۴) یلی بنت ابی حثمہ\*

ابن حذیفہ بن غانم بن عامر بن عبداللہ بن عبید بن عوث بن کعب بن لؤی قرشیہ عدویہ، حضرت سلیمان بنی النبیؓ کی بہن اور عامر بن ربیعہ غبری کی زوجہ ہیں ان سے عبداللہ پیدا ہوئے، ابن سعد کا قول ہے: اسلام کے ابتدائی دور میں اسلام لائیں اور بیعت کی، اذلیلن مہاجرات میں سے ہیں۔ حبشہ کی طرف دو ہجرتیں کیں، پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی، بعض کا قول ہے: یہ پہلی مسافر خاتون ہیں جو ہجرت کر کے مدینہ آئیں، بعض نے کہا: ام سلمہ ہیں۔

ابن اسحاق نے یونس بن بکیر وغیرہ کی روایت سے جو ان سے مروی ہے، انہوں نے عبدالرحمن بن حارث سے، انہوں نے عبدالعزیز بن عبداللہ بن عامر بن ربیعہ سے، انہوں نے اپنی والدہ سے روایت کی، فرماتی ہیں: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہمارے اسلام لانے کے بارے میں لوگوں میں سب سے زیادہ سخت تھے، جب ہم نے حبشہ کی سرزمین کی طرف نکلنے کا ارادہ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمارے پاس آئے اور میں اپنے اونٹ پر تھی۔ انہوں نے پوچھا: اے ام عبداللہ! کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا: تم لوگ ہمارے دین کی وجہ سے ہمیں ایذا دیتے ہو، ہم اللہ کی زمین میں جائیں گے، انہوں نے کہا: اللہ تمہارا ساتھی ہو، پھر وہ چلے گئے، تو میرے پاس میرے شوہر عامر بن ربیعہ آئے، میں نے جب انہیں ان لوگوں کی بات بتائی تو وہ مجھے کہنے لگے: کیا تمہیں ان کے مسلمان ہونے کی امید ہے، پھر انہوں نے قصہ ذکر کیا۔\*

لیث بن سعد نے بحوالہ محمد بن عجلان روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن عامر کے موالی میں سے ایک آدمی نے بحوالہ عبداللہ بن عامر روایت کیا، فرماتے ہیں: میری والدہ نے ایک دن مجھے بلایا اور رسول اللہ ﷺ ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے، انہوں نے

\* جامع المسانید والسنن (۸۴/۱۶) اسد الغابۃ (۷۲۵۱) تجرید (۳۰۲/۲)

\* تجرید (۳۰۳/۲) الاستیعاب (۱۸۱/۴) اسد الغابۃ (۷۲۵۲) تجرید (۳۰۲/۲)

\* اسد الغابۃ (۷۲۵۳) الاستیعاب (۳۵۳۴) تجرید (۳۰۲/۲)

\* المعجم الكبير (۴۷/۲۵) مجمع الزوائد (۲۴/۶) السيرة النبوية (۲۷۰/۱، ۲۷۱)

مجھ سے کہا: ادھر آؤ، میں تمہیں چیز دوں؟ ان سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم نے کیا چیز دینے کا ارادہ کیا تھا؟“ انہوں نے کہا: میں نے اسے بھجور دی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر تم اسے کچھ نہ دیتی تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا۔“  
اسے سراج نے بحوالہ قتیبہ ان سے روایت کیا ہے اور لیث نے خبوة بن شریح اور یحییٰ بن ایوب، حاتم بن اسماعیل کی پیروی کی ہے اور بحوالہ یحییٰ بن ایوب جو مولیٰ زیاد ہیں، اور وہ روایت ابن مندہ کے ہاں ان کے طریق سے مروی ہے۔

### ۱۱۶۰۵) لیلیٰ بنت حکیم\*

انصاریہ اوسیرہ۔ ابو عمر\* کا قول ہے: ابواحمد بن صالح مصری نے ازواج النبی ﷺ میں ان کا ذکر کیا ہے۔ ان کے علاوہ اور کسی نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ ابن اثیر\* نے اسے جائز کہا ہے کہ یہ بعد والی ہوں، کیونکہ حکیم خطیم سے مشابہ ہے۔

### ۱۱۶۰۶) لیلیٰ بنت الخطیم\*

ابن عدی بن عمرو بن سواد بن ظفر انصاریہ اوسیرہ، پھر ظفریہ۔ ابوعلی جیانی نے استیعاب پر اپنے استدراک میں ان کا ذکر کیا ہے اور فرمایا: ابن ابی خیمہ نے ان کا ذکر کیا ہے اور فرمایا: وہ نبی کریم ﷺ کے پاس آئیں اور کہا: میں لیلیٰ بنت خطیم ہوں، میں آپ پر اپنا نفس پیش کرنے آئی ہوں، مجھ سے نکاح کر لیجئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں نے ایسا کیا۔“ پھر میں اپنی قوم کے پاس واپس گئی، وہ کہنے لگے: تم نے برا کیا، تو غیرت مند خاتون ہے جبکہ وہ صاحب ازواج ہیں۔ جاؤ ان سے خلع لے لو۔ وہ واپس آ کر کہنے لگی: میں اپنا معاملہ ختم کرنا چاہتی ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں نے کر دیا۔“

میں نے کہا: ابن سعد\* نے بحوالہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک سند سے جس میں کلبی بھی ہیں، یہ ذکر کیا ہے۔ انہوں نے ان سے زیادہ روایت کیا ہے، اس کے شروع میں ہے: لیلیٰ بنت خطیم نبی کریم ﷺ کے پاس آئیں اور آپ ﷺ سورج کی طرف اپنی کمر کئے ہوئے تھے۔ انہوں نے آپ ﷺ کے کندھے پر مارا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ کون ہے؟ شیر کا لقمہ“ آپ اکثر یہ جملہ فرمایا کرتے تھے۔

اس کے آخر میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: میں نے معاملہ ختم کیا..... فرماتے ہیں: ان سے مسعود بن اوس بن سواد بن ظفر نے نکاح کیا، اس سے اولاد ہوئی، بیان کیا گیا ہے کہ وہ مدینہ کے ایک باغ میں غسل کر رہی تھیں، ان پر اچانک ایک بھیڑیے نے حملہ کر دیا کافی زخمی ہو گئیں، کوئی پہنچ گیا لیکن وفات پا گئیں۔ پھر اقدی سے بحوالہ محمد بن صالح بن دینار، انہوں نے عاصم بن عمر بن قتادہ سے سنداً نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: لیلیٰ بنت خطیم نے اپنے نفس کو نبی کریم ﷺ کے لیے ہبہ کر دیا تھا، آپ ﷺ نے انہیں قبول کر لیا۔

\* ابوداؤد (۴۴۹۱) مسند احمد (۴۴۷/۳) السنن الکبریٰ (۱۹۸/۱۰)

\* اسد الغابۃ (۷۲۵۴) الاستیعاب (۳۵۳۵) تجرید (۳۰۲/۲) \* الاستیعاب (۱۹۰۹/۴)

\* اسد الغابۃ (۳۹۲/۵) \* اسد الغابۃ (۷۲۵۵) تجرید (۳۰۲/۲)

\* جامع المسانید والسنن (۸۷/۱۶) \* الطبقات الکبریٰ (۱۰۸، ۱۰۷/۸)

اپنے خاوندوں پر بڑے بڑے طریقے سے سوار ہوتی، تھی بھی بد اخلاق، پھر اسی قصے کا مفہوم ذکر کیا، البتہ اس کے آخر میں اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ انہوں نے اپنی روایت میں فرمایا کہ یہ کہنے لگیں: آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے آپ کے لیے (زیادہ) عورتیں حلال کی ہیں، میں زبان دراز عورت ہوں، سو کنوؤں کے بارے میں صبر نہیں کر سکتی اور آپ سے ہبہ واپس لے لیا۔

ابن ابی عون کے طریق سے ہے کہ لیلیٰ نے اپنے نفس کو نبی کریم ﷺ کے لیے ہبہ کر دیا اور کئی عورتوں نے اپنے نفس نبی کریم ﷺ کے لیے ہبہ کر دیئے، یہ نہیں سنا گیا کہ نبی کریم ﷺ نے ان میں سے کسی کو قبول کیا ہو، فرماتے ہیں: ان کی والدہ اونچی حویلی والی بنت پیٹ بن حارث ہیں۔

ابن سعد رحمہ اللہ نے بحوالہ واقدی رحمہ اللہ اور میرا خیال ہے بحوالہ عاصم بن عمر بن قتادہ روایت کیا ہے، فرماتے ہیں: سب سے پہلے نبی کریم ﷺ سے بیعت کرنے والی ام سعد بن معاذ ہیں۔ وہ کبشہ بنت ابی رافع بن عبید، بنو ظفر سے لیلیٰ بنت خطیم، بنو عمرو بن عوف سے لیلیٰ، مریم اور سہیمہ جو ابوسفیان لیشی کی بیٹیاں ہیں، انہیں ابوالبنات کہا جاتا تھا۔۔۔۔۔ (الحديث)

ابن سعد نے بھی روایت کیا ہے کہ مسعود بن اوس نے جاہلیت میں ان سے نکاح کیا، جس سے عمرہ اور عمیرہ پیدا ہوئے۔ انہیں شیر کا لقمہ کہا جاتا تھا، وہ پہلی خاتون تھیں، جنہوں نے نبی کریم ﷺ سے بیعت کی، ان کے ساتھ ان کی دونوں بیٹیاں، ان کی دونوں بیٹیاں بھی تھیں، انہوں نے نبی کریم ﷺ کے لیے اپنے نفس کو ہبہ کر دیا، پھر بنو ظفر نے کہا: یہ ہبہ واپس کر دیں تو آپ نے یہ ہبہ واپس کر دیا۔

### ۱۱۷۰۷ لیلیٰ بنت رافع

ابن عمرو انصاری، ابو عیسٰ بن حرب کی والدہ ہیں۔ ابن سعد نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں: ان کی والدہ ام البراء بنت سلمہ بن غزظہ ہیں۔

### ۱۱۷۰۸ لیلیٰ بنت ربیعہ

ابن عامر بن خالدہ انصاری، بنو یاضہ سے ہیں۔ ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۷۰۹ لیلیٰ بنت رباب

ابن حنیف انصاری، بنو عوف بن خزرج سے ہیں۔ ابن حبیب نے بھی ان کا ذکر کیا ہے۔ حنجان بن مالک کی زوجہ ہیں۔

### ۱۱۷۱۰ لیلیٰ بنت ابی سفیان

ابن حارث بن قیس بن زید بن امیہ، انصاری، اشہلیہ، ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے، لیلیٰ بنت خطیم کے سوانح میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

تجريد (۳۰۲/۲) \* اسد الغابة (۷۲۵۶) تجريد (۳۰۲/۲)

تجريد (۷۲۵۷) تجريد (۳۰۲/۲) \* اسد الغابة (۷۲۵۹) تجريد (۳۰۲/۲)

## ۱۱۶۱۱ نیلی بنت سماک

ابن ثابت بن سفیان بن عدی بن عمرو بن امرئ القیس بن مالک أغر۔ ابن سعد نے بحوالہ واقدی روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں: اسلام لائیں اور بیعت کی، فرماتے ہیں: ان کے علاوہ کسی اور نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں: ام ثابت بنت قیس بن شماس کے سوا خ میں آئے گا جو قیس کی بہن ہیں کہ ثابت بن سفیان سے ان کا بیٹا سماک پیدا ہوا، اس وجہ سے نیلی، ان کے والد سماک اور والدہ ام ثابت تینوں ترتیب وار صحابی تھے۔

## ۱۱۶۱۲ نیلی بنت سماک

ابن ثابت بن شان بن جسم بن عمرو بن امرئ القیس انصاریہ۔ بخاری بن خزرج سے ہیں، ابن حبیب نے بھی ان کا ذکر کیا ہے۔

## ۱۱۶۱۳ نیلی بنت طباطبائی

ابن معین انصاریہ۔ ابن سعد نے ان کا ذکر کیا ہے، تجرید میں اسی طرح ہے، فرماتے ہیں: ہو سکتا ہے یہ نیلی بنت اظناہ پہلے والی ہوں جن کا نام نیلی ہے۔

## ۱۱۶۱۴ نیلی بنت عبادہ الأنصاریہ

ساعدیہ، عبادہ بن عبادہ کی بہن ہیں۔ ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔

## ۱۱۶۱۵ نیلی بنت عبداللہ العدویہ

وہ شفاء ہیں، جن کا ذکر گزر چکا ہے۔ مستغفری نے بحوالہ ابن حبان ان کا نام لیا ہے۔

## ۱۱۶۱۶ نیلی بنت عطار

ابن حاجب حمیمہ۔ عبداللہ بن ابی ربیعہ کی، جو صحابی ہیں، والدہ ہیں اور عبدالرحمن کی والدہ ہیں۔ زبیر بن بکار نے ان کا ذکر کیا ہے۔

## ۱۱۶۱۷ نیلی بنت قانف الثقفیہ

امام احمد رحمہ اللہ اور ابوداؤد نے محمد بن اسحاق کے طریق سے بحوالہ نوح بن حکیم ثقفی ان کی حدیث نقل کی ہے، انہوں نے عروہ بن مسعود کی اولاد میں سے ایک آدمی سے جسے داؤد کہا جاتا ہے روایت کی، ام حبیبہ بنت ابی سفیان کے بیٹے تھے، انہوں نے

اسد الغابۃ (۷۲۶۰) تجرید (۳۰۲/۲) \* تجرید (۳۰۲/۲) \* اسد الغابۃ (۷۲۶۲) تجرید (۳۰۳/۲)

نسب قریش (۳۶۳) جمہورۃ أنساب العرب (۱۵۰) أسد الغابۃ (۳۹۳/۵)

اسد الغابۃ (۷۲۶۶) الاستیعاب (۳۵۳۸) تجرید (۳۰۳/۲) \* مسند احمد (۲۸۰/۶)

لیلی بنت قائف سے روایت کی، انہوں نے ذکر کیا کہ وہ فرماتی ہیں: میں ام کلثوم بنت نبی کریم ﷺ کے غسل دینے والی عورتوں میں تھی۔ سب سے پہلے آپ ﷺ نے مجھے ان کے کفن میں سے ازار پھر قمیص، پھر اوڑھنی دی، پھر لفافہ، پھر ایک کپڑے میں کفن دے دیا گیا۔ (الحدیث)

میں کہتا ہوں: داؤد جن کا تذکرہ ہے، ابن عاصم بن عروہ بن مسعود ہیں۔

### ۱۱۷۱۸ لیلی بنت النضر العبدریہ

حرف قاف میں قلیلہ کے سواغ میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

### ۱۱۷۱۹ لیلی بنت نہیک

بن راساف بن عدی بن زید بن جشم انصاریہ۔ ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ براء کی بہن ہیں۔ ابن سعد کا قول ہے: ان سے سہل بن ربیع بن عمرو بن عدی نے نکاح کیا، ان کی والدہ ام عبداللہ بن اسلم بن خریش بن جعدہ ہیں۔

### ۱۱۷۲۰ لیلی بنت یسار

معتل بن یسار کی بہن کا ایک نام ہے۔ جن کے بارے میں آیت نازل ہوئی: ﴿تم انہیں روکو نہیں کہ اپنے شوہروں سے نکاح کریں﴾۔ سہیلی نے مہمات القرآن میں ان کا نام لیا ہے، اور منذری نے ان کی پیروی کی ہے۔ راجح یہی ہے کہ ان کا نام جمیل ہے جیسا کہ حرف جیم میں گزر چکا ہے۔

### ۱۱۷۲۱ لیلی السدوسیہ

بشر بن خصامیہ کی زوجہ ہیں، انہیں جہدمہ کہا جاتا تھا۔ بعض نے کہا کہ وہ ان کے علاوہ ہیں، جہدمہ میں اس کا بیان گزر چکا ہے۔

### ۱۱۷۲۲ لیلی بنت یعار

یہ ایک ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے سالم مولیٰ ابوحذیفہ کو آزاد کیا۔

### ۱۱۷۲۳ لیلی الغفاریہ

ابو عمر کا قول ہے: نبی کریم ﷺ کے ساتھ غزوات میں شامل ہوئی تھیں، زخموں کا علاج کرتیں اور مریضوں کے پاس ٹھہرتی تھیں۔ ان کی حدیث ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: ”یہ علی ہیں، لوگوں میں سب سے پہلے ایمان

اسد الغابۃ (۷۲۶۷) تجرید (۳۰۳/۲) الطبقات الکبریٰ (۲۳۹/۸)

سورة البقرة الآية (۲۳۲) اسد الغابۃ (۷۲۵۸) الاستیعاب (۳۵۳۹) تجرید (۳۰۲/۲)

اسد الغابۃ (۷۲۶۵) الاستیعاب (۳۵۴۰) تجرید (۳۰۳/۲) الاستیعاب (۱۹۱۰/۴)

لانے والے۔ \* ان سے محمد بن قاسم طائی نے روایت کی۔

میں کہتا ہوں: پہلی روایت کے بارے میں حرف الف کی آخری قسم میں امامہ بنت ابی الحکم میں تنبیہ گزر چکی ہے۔ عقیلی نے موسیٰ بن قاسم کے سوانح میں جو ضعیف راوی ہیں، اور ابن مندہ نے علی بن ہاشم بن برید کی روایت سے نقل کیا ہے کہ مجھ سے میرے والد نے، وہ فرماتے ہیں: ہم سے موسیٰ بن قاسم نے، وہ فرماتے ہیں: مجھ سے لیلیٰ غفاریہ نے روایت کی، فرماتی ہیں: میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتی، زخمیوں کا علاج اور مریضوں کی تیمارداری کرتی تھی۔ \* جب حضرت علی رضی اللہ عنہ بصرہ کی طرف نکلے اور میں آپ ﷺ کے ساتھ نکلی، جب میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا تو ان کے پاس آئی اور کہا: کیا آپ نے رسول اللہ ﷺ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں کوئی حدیث سنی ہے؟ فرماتی ہیں: جی ہاں! وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور آپ ﷺ میرے پاس تھے، انہوں نے پرانی چادر اوڑھ رکھی تھی پھر وہ ہمارے درمیان بیٹھ گئے۔ میں نے کہا: تمہیں اس سے زیادہ کھلی جگہ نہیں ملی؟ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اے عائشہ! میرے بھائی کو چھوڑ دو، وہ لوگوں میں سب سے پہلے اسلام لایا، اور آخری وقت میں میرا ساتھ دیا، اور قیامت کے دن سب سے پہلے مجھ سے ملے گا۔“

عقیلی کا قول ہے، یہ حدیث موسیٰ بن قاسم سے مروی ہے، اور بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ اس سند میں عبدالسلام بن صالح، ابوالصلت ہیں۔ محدثین نے انہیں جھوٹا قرار دیا ہے، اور آخری روایت کے بارے میں تجرید میں ہے: وہ باطل ہے۔

میں کہتا ہوں: محمد بن قاسم، وہ طالیسکانی ہیں، طائی نہیں۔ اور وہ متروک راوی ہے، وہ موسیٰ بن قاسم کے علاوہ ہیں۔ اسی طرح کی روایت معاذہ سے مروی ہے۔

تفسیر ابن مردویہ میں ہے، اسے ابو موسیٰ نے اپنے طریق سے نقل کیا ہے، پھر یعلیٰ بن عبید کی روایت سے بحوالہ حارثہ بن ابی رجا، انہوں نے عمرہ سے روایت کیا ہے، فرماتی ہیں: معاذہ غفاریہ فرماتی ہیں: میں نبی کریم ﷺ کی رفاقت میں تھی، آپ ﷺ کے ساتھ سفر میں نکلتی، مریضوں کی تیمارداری کرتی اور زخمیوں کا علاج کرتی تھی، میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں رسول اللہ ﷺ کے پاس گئی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر سے باہر تھے، میں نے سنا آپ ﷺ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرما رہے تھے: ”یہ مردوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور میرے نزدیک معزز ہے، اس کا حق پہنچاؤ! اور اس کے مرتبے کا اکرام کرو۔“ (الحدیث) اس میں ہے: ”حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھنا عبادت ہے۔“

میں کہتا ہوں: حارثہ ضعیف ہیں، یہ وہی حدیث ہے جس کی طرف ابو عمر نے اشارہ کیا ہے۔

لیلیٰ ۱۱۶۲۲

عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ کی پھوپھی ہیں، لیلیٰ بنت بلال میں تذکرہ ہوا ہے۔ ابی لیلیٰ کے سوانح میں گزر چکا ہے کہ ان کے اور

\* الضعفاء الكبير (۱۷۳۷/۴)

\* المعجم الكبير (۴۵/۲۵) مجمع الزوائد (۳۲۴/۵) جامع المسانيد والسنن (۸۹/۱۶)

\* اسد الغابة (۷۲۶۴) الاستيعاب (۳۵۳۷) تجرید (۳۰۳/۲)

ان کے والد کے نام میں بہت زیادہ اختلاف ہے، صحیح یہ ہے کہ ان کے والد کا نام بلال یا ٹکیل ہے۔

۱۱۶۲۵ نیلی

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی مولاۃ ہیں، ابو عمر کا قول ہے: ان کی حدیث کی اسناد قائم نہیں، ان سے ابو عبد اللہ مدنی نے روایت کی اور وہ مجہول راوی ہے۔

میں کہتا ہوں: مستغفری نے عبد الکریم الجزار کے طریق سے ابی عبد اللہ مدنی سے بحوالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی دربان اور مولاۃ نقل کیا ہے، فرماتی ہیں، میں نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، میں آپ کے بعد جاتی ہوں، میں وہاں کچھ نہیں دیکھتی البتہ مشک کی خوشبو پاتی ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ہم انبیاء کی جماعت کے اجسام اہل جنت کی ارواح پر پلتے بڑھتے ہیں، ہمارے جسموں میں سے جو چیز نکلے زمین اسے نکل لیتی ہے۔

۱۱۶۳۶ نیلی

ان سے حبیب بن زید نے روایت کی ہے ابو یعلیٰ نے تجرید سے ان کی حدیث لی ہے۔

۱۱۶۴۷ نیلہ

جزء بن دیزیل صغیر میں ان کی حدیث ہے۔

۱۱۶۴۸ نیلہ

قباء کی جگہ کی مالکن ہیں: عمر بن شبہ نے اخبار مدینہ میں صحیح سند سے، جسے وہ عروہ تک لے گئے ہیں نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: مسجد قباء کی جگہ لینہ نامی ایک خاتون کی ملکیت تھی، وہ وہاں اپنا گدھا باندھتی تھیں، سعد بن خثیمہ نے اس میں مسجد بنائی تو مسجد ضرار والے کہنے لگے، کیا ہم لینہ کے گدھے کے اصطبل میں نماز پڑھیں؟ اللہ کی قسم نہیں، ہم ایک علیحدہ مسجد بنائیں گے اور اس میں نماز پڑھیں گے یہاں تک کہ ابو عامر آ کر ہماری امامت کروائیں اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: ”وہ لوگ جنہوں نے مسجد ضرار بنائی.....“ الآیۃ

القسم الثانی از حروف لام

خالی ہے۔

اسد الغایۃ (۷۲۶۱) الاستیعاب (۳۵۳۹) تجرید (۳۰۳/۲)

الاستیعاب (۱۹۱۰/۴)

جامع المسانید والسنن (۹۱/۱۶)

تجرید (۳۰۳/۲)

سورۃ التوبۃ (الآیۃ ۱۰۷)



## القسم الثالث از حرف لام

### ۱۱۶۲۹ لیلی بنت الجودی

ابن عدی بن عمرو بن ابی عمرو، غسانی، عبدالرحمن بن ابوبکر صدیق کی زوجہ ہیں، انہوں نے نبوت کا زمانہ پایا، انہوں نے انہیں جاہلیت میں دیکھا تھا، انہیں پسند آئیں، جب دمشق فتح ہوا تو وہ وہاں گئیں، انہیں ان کی طرف رغبت تھی، جو ایک طویل قصبے میں ہے، زبیر بن بکارت نے ان کے سوانح میں ان کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا: وہ تجارت کے لئے دمشق آئے، اور انہیں چٹائی پر بیٹھے دیکھا، اور ان کے گرد لڑکیاں تھیں، جب ان لوگوں نے شام میں جہاد کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف خط لکھا، میں نے عبدالرحمن بن ابوبکر کو غنیمت میں لیلیٰ بنت جودی دی، جب انہوں نے ان کو قیدی بنایا تو انہیں دے دیا، وہ انہیں لے کر مدینہ آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: ان کی محبت ان کے دل میں گھر کر گئی تھی اور جب میں انہیں ملامت کرتی تھی تو وہ کہتے: اے میری بہن! مجھے چھوڑ دو، میں اس کے دانتوں سے انار کے دانے چوستا ہوں، کافی عرصہ گزر گیا، میں ان سے اس بارے میں گفتگو کرتی تھی، ان کا اس پر یہ احسان تھا کہ انہیں ان کے گھر والوں کی طرف لوٹا دیا، میں ان سے کہتی: تم نے محبت کی تو انتہا کی، اور نفرت کی تو انتہا کی، ان کے بارے میں عبدالرحمن کے مشہور اشعار ہیں:

”میں لیلیٰ کو یاد کرتا جبکہ ہمارے درمیان گھر کا چھجھ (سٹنڈ) تھا۔ جودی کی بیٹی لیلیٰ اور مجھے کیا ہوا۔“

زبیر کی روایت میں اسی طرح مذکور ہے۔

عمر بن شہب کی روایت میں بحوالہ صلت بن مسعود، انہوں نے احمد بن شہب سے، انہوں نے سلیمان بن صالح سے، انہوں نے ابن مبارک سے، انہوں نے مصعب بن ثابت سے، انہوں نے عروہ بن زبیر سے روایت کیا ہے: ابوبکر نے انہیں غنیمت میں یہ عطا کیں۔

ہم نے امالی المحاملی کے جزء تاسع کے آخر میں اہل بغداد کی ان سے روایت سے اپنی سند کے ساتھ جسے وہ ابن ابی زناد تک لے گئے ہیں، بحوالہ ہشام بن عروہ، انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ عبدالرحمن بن ابوبکر اپنے والد کی خلافت کے آخری ایام میں، اسلام کے ابتدائی سالوں میں دمشق آئے، انہوں نے لیلیٰ بنت جودی کو دیکھا، انہوں نے ان سے خوبصورت عورت نہیں دیکھی، اور ان کے بارے میں یہ شعر کہا: ”میں نے لیلیٰ کو یاد کیا..... اشعار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عامل کی طرف لکھا: اگر تمہیں اللہ تعالیٰ دمشق پر فتح دیں تو جودی کی بیٹی کو عبدالرحمن کے سپرد کر دینا، انہوں نے ان کے سپرد کر دیا، وہ انہیں لے کر آئے اور اپنے خاندان کی خواتین کے پاس چھوڑا..... پھر روایت ذکر کی، اس میں ان کا یہ قول بھی ہے: گویا میں اس کے دانتوں سے انار کے دانے چوستا ہوں، فرماتی ہیں: انہوں نے کوئی ایسا کام کیا کہ ان کے دانت گر گئے تو انہیں چھوڑ دیا پھر ان کے گھر والوں کی طرف لوٹا دیا۔ یہ اس روایت کے آخری الفاظ ہیں، یہ محاملی کی آخری مجلس تھی، جس میں انہوں نے املاء کروائی۔

### ۱۱۴۳۰ لیلی بنت حابس التیمیة

اقرع بن حابس کی بہن ہیں، جو مشہور صحابی ہیں۔ غالب بن صعصعہ بن معاویہ کی والدہ ہیں، جو مشہور شاعر فرزدق کے والد ہیں: انہوں نے نبوت کا زمانہ پایا، فرزدق نے اپنے والد کے مرثیہ میں ان کا ذکر کیا ہے، کہتے ہیں:

”صبر اس بات سے انکاری ہے کہ میں طلوع ہوتے بدر اور سورج کو نہ دیکھوں، جب دیکھتا ہوں تو مجھے غالب کی یاد دلاتے ہیں۔ دونوں ابن لیلیٰ کے مشابہ تھے جو ابن لیلیٰ کے مشابہ ہوگا ستاروں کی روشنی میں داخل ہو جائے گا۔“

### القسم الرابع از حرف لام

### ۱۱۴۳۱ لیلی بنت حکیم

ابن اثیر کا کلام گزر چکا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ممکن ہے کہ بنت خطیم ہوں، یوں ان سے لفظی غلطی ہوئی۔ جہاں تک مجھے معلوم ہوا ہے یہ یہی لیلیٰ بنت حکیم ہی ہیں۔ واللہ اعلم



## حرف میم

### القسم الاول از حرف میم

۱۱۴۳۲ المارده

حکیم بن حزام کی حدیث میں ان کا ذکر ہے، جو مسند ابی یعلیٰ میں ہے، بعض کا قول ہے: المرادیہ

۱۱۴۳۳ ماریہ القبطیہ \*

رسول اللہ ﷺ کی ام ولد ہیں، ابن سعد \* نے عبد اللہ بن عبد الرحمن بن ابی معصہ کے طریق سے ذکر کیا ہے فرماتے ہیں: اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس نے ۷ھ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس حضرت ماریہ، ان کی بہن سیزین، ہزار مثقال سونا، بیس ملائم کپڑے، دُلُہ نامی خچر، اور غنیمت نامی گدھا بھیجا، بعض نے کہا: یغفور، ان کے ساتھ ایک خنسی تھا جسے مایور کہا جاتا تھا۔ وہ بہت بوڑھا اور حضرت ماریہ کا بھائی تھا، یہ تمام چیزیں حاطب بن ابی بلتعہ کے ساتھ بھیجیں، حاطب بن ابی بلتعہ نے ماریہ پر اسلام پیش کیا اور اس کی ترغیب دی، انہوں نے اور ان کی بہن نے اسلام قبول کر لیا، جبکہ خنسی اپنے دین پر رہا، بعد میں وہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں اسلام لے آیا، حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا سفید رنگت اور خوبصورت تھیں، رسول اللہ ﷺ نے انہیں مدینہ کے بالائی حصہ میں ٹھہرایا، جو اس مال میں تھا جسے سریہ \* ام ابرہیم کہا جاتا تھا آپ وہیں ان کے پاس آتے جاتے باندی ہونے کی وجہ سے ان سے شب باشی کرتے۔ (اگرچہ وہ آپ کی باندی تھیں لیکن ان سے آزاد عورتوں کی طرح سلوک کرتے یہی وجہ ہے کہ) ان پر پردہ لازم کر دیا، وہاں ان کے ہاں ذی الحجہ ۸ھ میں رسول اللہ ﷺ کے صاحبزادے کی ولادت ہوئی۔

عمرہ کے طریق سے بحوالہ عائشہ مروی ہے۔ فرماتی ہیں: ماریہ کے علاوہ کسی عورت کو مجھ سے زیادہ مقام نہیں ملا۔

یہ اس لئے کہ وہ بہت حسین و جمیل تھیں، اس لئے رسول اللہ ﷺ کو پسند تھیں پہلے پہل جب آپ تشریف لائے تو حضرت حارثہ بن نعمان کے گھر انہیں ٹھہرایا۔ وہ ہمارے پڑوس میں تھیں، آپ ﷺ دن اور رات کے اکثر اوقات ان کے پاس رہتے، یہاں تک کہ ہمیں خدشہ ہونے لگا، یہاں تک کہ میں جزع فزع کرنے لگی تو آپ ﷺ نے انہیں مدینہ کے بالائی حصے میں منتقل کر دیا وہیں آپ کا آنا جانا ہوتا، یہ بھی ہمیں گراں گزرتا۔

مسند میں بحوالہ واقدیؒ مروی ہے، حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا حجرے کے پاس حاضر ہونے والوں میں سے تھیں۔ بلاؤریؒ کا قول ہے: حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا کی والدہ رومی تھیں اور حضرت ماریہ سفید رنگت، گھنگریالے بالوں والی حسن و جمیل تھیں۔

\* اسد الغابۃ (۷۲۶۸)، الاستیعاب (۳۵۴۳)، تجرید (۳۰۳/۲)

\* الطبقات الکبریٰ (۱۵۶، ۱۵۳/۸) \* السیر والمغازی (۲۷۱)

بزار نے حسن سند سے بحوالہ عبداللہ بن زیدہ انہوں نے اپنے والد سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: قبہ کے امیر نے رسول اللہ ﷺ کو دو لونڈیاں اور ایک خچر دیدیا، آپ ﷺ مدینہ میں خچر پر سوار ہوتے تھے اور دونوں لونڈیوں میں سے ایک کو اپنے لئے مخصوص کر لیا، ان کے بیٹے ابراہیم کے سوانح میں ان کا ذکر گزر چکا ہے، مابور بھی کے سوانح اور صالح کے سوانح میں بھی ان کا تذکرہ ہے۔

واقفی کا قول ہے: مجھ سے موسیٰ بن محمد بن ابراہیم نے بحوالہ اپنے والد روایت کیا ہے، فرماتے ہیں: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا کو خرچ بھیجتے تھے، یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہیں خرچ بھیجتے یہاں تک کہ ان کی خلافت میں وہ وفات پا گئیں۔

واقفی کا قول ہے: محرم ۱۶ھ میں فوت ہوئیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے جنازے کے لئے لوگوں کو جمع کر رہے تھے، اور ان پر بقیع میں نماز جنازہ پڑھی، ابن مندہ کا قول ہے: حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا نبی کریم ﷺ کی وفات کے پانچ برس بعد فوت ہوئیں۔

#### ۱۱۴۳۲ ماریہ

نبی کریم ﷺ کی خادمہ تھیں، ابو عمر کا قول ہے: ان کی کنیت ام رباب تھی، اہل بصرہ کے پاس ان کی حدیث ہے کہ وہ نبی ﷺ کے لئے جھکیں یہاں تک کہ آپ ان کا سہارا لے کر دیوار پر چڑھے جس رات مشرکوں سے آپ جان بچا کر نکلے تھے۔ میں کہتا ہوں: اسے ابن مندہ نے یعلیٰ بن اسد کے طریق سے بحوالہ عبداللہ بن حبیب، انہوں نے ام سلیمان سے، انہوں نے اپنی والدہ سے، انہوں نے ان کی دادی ماریہ سے روایت کی، فرماتی ہیں: وہ نبی کریم ﷺ کے لئے جھکیں..... پھر حدیث ذکر کی۔ ان کے لئے یہ عنوان قائم کیا، ماریہ، نبی کریم ﷺ کی باندی۔

میں کہتا ہوں: آگے آئے گا کہ ان کی والدہ کا نام مرضیہ ہے اور یہ کہ وہ صحابیہ ہیں، رہیں ام سلیمان تو مجھے ان کا نام معلوم نہیں۔

#### ۱۱۴۳۵ ماریہ

نبی کریم ﷺ کی خادمہ ہیں۔ ان سے ایک حدیث منقول ہے، جو اہل کوفہ کے ہاں ہے۔ اسے ابو بکر بن عیاش نے بحوالہ مشی بن صالح، انہوں نے ان کی دادی ماریہ سے روایت کیا ہے، فرماتی ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ سے مصافحہ کیا، میں نے آپ کی تھیلی مبارک سے زیادہ ملائم کسی کا ہاتھ نہیں دیکھا۔

ابو عمر نے ان سے پہلے والی میں فرمایا: مجھے معلوم نہیں، وہ یہی ہیں یا اس کے علاوہ ہیں؟

میں کہتا ہوں: انہوں نے یہ ساری بات امن سکین کے کلام سے لی ہے۔ ابن سکین کا قول ہے: ماریہ، نبی کریم ﷺ کی

اسد الغابۃ (۷۲۶۹) الاستیعاب (۳۵۴۲) تجرید (۳۰۳/۲) الاستیعاب (۱۹۱۳/۴)

اسد الغابۃ (۷۲۷۰) الاستیعاب (۳۵۴۱) تجرید (۳۰۳/۲) الاستیعاب (۱۹۱۳/۴)

المعجم الكبير (۷۷/۲۵) جامع المسانید والسنن (۹۶/۱۶)

## الْأَكْبَرُ فِي مَقَالَةِ الْبُحَاثِ (جلد ۳۶۶)

مولا، ان سے حدیث مروی ہے جو اہل کوفہ سے منقول ہے، مجھے معلوم نہیں کہ ان سے ابن عباس کے علاوہ کسی نے روایت کی ہو، پھر اسے دو طریق سے ان کے حوالے سے حدیث روایت کی، پھر فرماتے ہیں: حضرت ماریہ سے ایک اور حدیث مروی ہے، بصریوں نے اسے روایت کیا ہے، مجھے معلوم نہیں کیا یہ وہی ہیں جن کی حدیث ابو بکر نے روایت کی یا ان کے علاوہ ہیں؟ پھر یعلیٰ بن اسد کے طریق سے بحوالہ محمد بن حمران، انہوں نے عبداللہ بن حبیب سے، انہوں نے ام سلیمان سے، انہوں نے اپنی والدہ سے، انہوں نے اپنی دادی ماریہ سے حدیث روایت کی، فرماتی ہیں: میں رسول اللہ ﷺ کے لیے جھکی یہاں تک کہ آپ دیوار کے اوپر چڑھ گئے جس رات مشرکین سے جان بچا کر نکلے تھے۔

ابونعیم کا قول ہے: ابن مندہ نے ان کا علیحدہ ذکر کیا ہے، حالانکہ وہ دونوں میرے نزدیک ایک ہیں۔

میں کہتا ہوں: ابن مندہ نے اسے دو طریق سے موصولاً ذکر کیا ہے، بحوالہ ابو بکر بن عیاش، ابو عمر کے قول کے مطابق ان میں سے ایک یہ ہیں، بحوالہ ثنی بن صالح، انہوں نے اپنی دادی سے روایت کیا ہے، اور دوسرا طریق یہ ہے: بحوالہ ابو بکر، فرماتے ہیں: اللہ کی قسم! ہم سے محمد بن ثنی بن صالح نے بحوالہ اپنی دادی روایت کیا ہے۔ واللہ اعلم!

ابو عمر کا قول ہے: ثنی بن صالح اور وہ ابن مہران مولیٰ عمرو بن حریث ہے، اسی طرح فرمایا۔

www.KitaboSunnat.com

۱۱۴۳۶ ماریہ \*

یا ماریہ، راویوں نے بحوالہ ابن اسحاق ان میں اختلاف کیا ہے، یونس بن بکر وغیرہ نے ان کے حوالے سے کہا ہے: ماریہ واؤ کے ساتھ ہے، انہوں نے خبیب بن عدی کے قصہ میں ذکر کیا ہے، جب مشرکوں نے بر معونہ کے قصے میں انہیں قیدی بنالیا تھا، اور بیڑیاں پہنا کر انہیں قتل کرنے لگے۔

ابن اسحاق \* کا قول ہے: مجھ سے عبداللہ بن ابی نجیح نے بحوالہ ماریہ مولاہ نجیر بن ابی راہب روایت کی، فرماتی ہیں: مکہ میں خبیب کو میرے گھر میں قید کیا گیا، میں نے ایک دن جھانکا تو ان کے ہاتھ میں ان کے سر سے بڑا انگور کا گچھا تھا، جس میں سے وہ کھا رہے تھے، حالانکہ اس وقت انگور کا موسم نہیں تھا۔

میں کہتا ہوں: یہ بخاری رحمہ اللہ نے صحیح میں خبیب کی شہادت کے قصہ میں بیان کیا ہے، لیکن ان کی روایت میں یہ نہیں: ان کے سر سے بڑا تھا۔ انہوں نے اپنی روایت میں فرمایا: مکہ میں اس وقت اور یہی مراد ہے، گویا انہوں نے مطلق زمین کہا اور مکہ کی سرزمین مراد لی۔

ابو عمر \* نے بحوالہ عقیلی ان کی سند سے جسے وہ عبداللہ بن ادریس اودی تک لے گئے ہیں، بحوالہ محمد بن اسحاق ذکر کیا، وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ابن نجیح نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے بحوالہ ماریہ مولاہ نجیر حدیث بیان کی اور اسے راء اور تخفیف کے ساتھ ذکر کیا کہ حضرت خبیب بن عدی کو جب ان کے گھر میں قید کیا گیا، وہ اسلام لانے کے بعد بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں: اللہ کی قسم! انہیں میرے گھر میں قید کیا گیا، جس کا دروازہ بند تھا، جب دروازے کی رون سے میں نے جھانکا تو ان کے ہاتھ آدی کے سر

کی طرح انگور کا گچھا تھا، جس میں سے وہ کھا رہے تھے، اس وقت زمین پر انگور نہیں تھے۔ جب ان کے قتل کا وقت آیا تو انہوں نے فرمایا: اے ماریہ! مجھے کوئی تیز دھار چیز دو، جس سے صفائی کروں۔ فرماتی ہیں: میں نے اپنے ایک لڑکے کو اُستر ادا کیا اور اس سے کہا کہ یہ اس کے پاس لے جاؤ، جب وہ اس کے پاس گیا تو میں نے دل میں کہا کہ اس لوہے کے ذریعے اس لڑکے کو قتل کرنے سے اس شخص کو اپنا بدلہ مل جائے گا، تاکہ مرد کے بدلے مرد ہو جائے، تو وہ کہنے لگے مجھے اپنی زندگی کی قسم! تمہاری ماں کو جو خدشہ ہو رہا ہے اس کی ضرورت نہیں، جب اس نے اُسترے کے ساتھ میرے پاس بھیجا، یعنی تمہارے ساتھ، پھر اسے چھوڑ دیا۔ یہ قصہ بخاری میں بھی ہے۔

ابن سعد رحمہ اللہ نے بحوالہ واقدی رحمہ اللہ اسے ذکر کیا ہے، انہوں نے اہل علم میں سے کئی راویوں سے اسے نقل کیا، اس میں ہے: انہوں نے انہیں، ان کے گھر قید کیا، تاکہ حرمت والا مہینہ گزر جائے تو انہیں قتل کریں۔ وہ اسلام لانے کے بعد ان کا قصہ بیان کرتی تھیں، جبکہ ان کا اسلام سنور چکا تھا، اس میں ہے: وہ تہجد کی نماز میں قرآن پڑھتے تھے، جب عورتوں نے اسے سنا تو رونے لگیں اور انہیں ان پر رحم آ گیا تو میں نے ان سے پوچھا: تمہاری کوئی حاجت ہے؟ انہوں نے فرمایا: نہیں! سوائے اس کے کہ مجھے میٹھا پانی پلاؤ، جو بتوں کے پاس ذبح کیا جائے مجھے نہ کھانے کو دو، اور جب وہ مجھے قتل کرنے کا ارادہ کریں تو مجھے خبر دینا، جب ان لوگوں نے انہیں قتل کرنے کا ارادہ کیا تو میں نے انہیں اس کی خبر دی، اللہ کی قسم! انہیں اس کا مطلق خوف نہ ہوا۔ انہوں نے کہا: میرے لیے اُستر بھیج دینا، جس سے پاکیزگی حاصل کروں۔ میں نے اپنے بیٹے ابوحسین کے ہاتھ ان کے پاس اُستر بھیجا، وہ انہیں دودھ پلاتی تھیں، وہ ان کا اپنا بیٹا نہیں تھا۔ پھر انہوں نے پہلے کی طرح ذکر کیا، اس میں ہے: میں اسے قتل کرنے والا نہیں ہوں اور ہمارے دین میں دھوکہ کرنا جائز نہیں۔

### ۱۱۷۳۷ مجتہ بنت الربیع \*

بن عمرو بن ابی زہیر انصاریہ۔ بنو حارث بن خزرج سے ہیں۔ ابن سعد رحمہ اللہ اور ابن حبیب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے والوں میں ان کا ذکر کیا ہے۔ سعد بن ربیع کی بہن ہیں، ان سے ابوورداء عامر بن زید بن قیس انصاری، خزرجی نے نکاح کیا، جس سے بلال پیدا ہوئے، ان کی والدہ کا نام ہزلیہ بنت عتبہ بن عمرو بن حدیق بن عامر بن خثم ہے۔

### ۱۱۷۳۸ مجتہ \*

بعض کا قول ہے: ام حُجْن، حبشی خاتون تھیں، اور مسجد میں جھاڑو دیتی تھیں، صبح میں بغیر نام لیے ان کا تذکرہ کیا ہے، یحییٰ بن ابی انیسہ نے ان کا نام لیا ہے، اور وہ متروک راوی ہیں، بحوالہ علقمہ بن مرثد، انہوں نے اہل مدینہ کے ایک آدمی سے روایت کی، فرماتے ہیں: اہل مدینہ میں سے ایک خاتون جنہیں مجتہ کہا جاتا تھا، مسجد کی صفائی کرتی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہ پایا تو پوچھا، لوگوں نے بتایا کہ وہ فوت ہو گئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تم نے مجھے خبر کیوں نہ دی؟“ رحمہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے،

\* الطبقات الکبریٰ (۲۶۱/۸) اسد الغابۃ (۷۷۷۲) تجرید (۳۰۳) \* الطبقات الکبریٰ (۲۶۱/۸)

\* اسد الغابۃ (۷۷۷۳) تجرید (۳۰۳/۳) \* بخاری (۴۶۰) (۱۳۳۶)

ان کی نماز جنازہ پڑھی اور چار تکبیریں کہیں۔

یحییٰ کا قول ہے: ہم سے زہری رحمۃ اللہ علیہ نے بحوالہ ابو امامہ بن سہل انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث روایت کی۔ عبد اللہ بن بڑیدہ کے طریق سے بحوالہ ان کے والد روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر سے گزرے جس کی تازی تازی تدفین ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اسے کب دفن کیا گیا؟“ لوگوں نے کہا: یہ ام حُجْن ہے۔ جو مسجد سے خس و خاشاک شوق سے اٹھاتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تم نے مجھے کیوں نہ بتایا؟“ کہنے لگے: آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، ہم نے آپ کو بیدار کرنا پسند نہ کیا۔ (الحدیث)

### ۱۱۷۳۹) مُحْيَاةُ بِنْتُ خَالِدٍ

بن سنان عیسیٰ۔ ابو موسیٰ نے ذیل میں ان کا ذکر کیا ہے، اور محمد بن عمر رازی حافظ کے طریق سے بحوالہ عمرو بن اسحاق بن علاء، انہوں نے ابراہیم بن علاء سے وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے ابو محمد قریشی، ہاشمی نے بحوالہ ہشام بن عروہ، انہوں نے ابن عمارہ سے، انہوں نے اپنے والد عمارہ بن حزن بن شیطان سے خالد بن سنان کے قصے میں روایت کیا، فرماتے ہیں: جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مُحْيَاةُ بِنْتُ خَالِدٍ آئیں، اور اپنا نسب بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی چادر بچھائی اور انہیں اس پر بٹھایا، فرمایا: ”میری بھتیجی! اور اس نبی کی بیٹی جسے اس کی قوم نے ضائع کر دیا۔“

ابن کلبی کی روایت میں ان کا نام منقول ہے، فرماتے ہیں: میرے والد نے فرمایا: اور مجھے ابن ابی عمارہ نے خبر دی، فرماتے ہیں: ہمارے پاس خالد بن سنان آئے اور فرمایا: اے بنو عیسیٰ کی جماعت! اللہ تعالیٰ نے مجھے اس آگ کے بجھانے کا حکم دیا ہے، میرے والد نے کہا: اور میرے والد ان کے ساتھ گئے تھے، پھر طویل قصہ ذکر کیا۔

حدیث کے آخر میں ہے، ہشام بن محمد فرماتے ہیں: مُحْيَاةُ بِنْتُ خَالِدٍ بن سنان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”میری بھتیجی کو خوش آمدید! اور اس نبی کی بیٹی جسے اس کی قوم نے ضائع کر دیا، میں نے خالد بن سنان کے سوانح میں آگ بجھانے کا قصہ بہت سے طرق سے ذکر کیا ہے۔“

### ۱۱۷۴۰) مُحْيَاةُ بِنْتُ أَبِي نَانِلَه

سلکان بن سلامہ بن وُش اشہلیہ، ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ذکر کیا ہے اور فرمایا: اسلام لائیں اور بیعت کی، یہ ابن عمارہ کی روایت میں ہے، واقدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے: یہ عبادہ ہیں جن کا ذکر حرف عین میں گزر چکا ہے۔

### ۱۱۷۴۱) مُرْضِيَه

ابن ابی عاصم نے کتاب الاُحدان میں ان کا ذکر کیا ہے، اور بحوالہ ابی حفص صیرفی مسند ذکر کیا ہے، انہوں نے محمد بن

اسد الغابۃ (۳۹۵/۵)

اسد الغابۃ (۷۲۷۴) تجرید (۳۰۴/۲)

الطبقات الکبریٰ (۲۳۵/۸)

تجرید (۳۰۴/۲)

اسد الغابۃ (۷۲۷۵) تجرید (۳۰۴/۲)

راشد سے، انہوں نے محمد بن حمران سے، انہوں نے عبداللہ بن ضعیب سے، انہوں نے ام سلیمان سے، انہوں نے اپنی والدہ مرضیہ سے روایت کیا ہے، فرماتی ہیں: نبی کریم ﷺ کے زمانے میں جو کام کیا جاتا تھا، میں دیکھتی ہوں کہ تم اسے ناپسند کرتے ہو، میں نے دیکھا کہ میت کے پیچھے دھونی دی جاتی ہے۔\*

### ۱۱۷۲۲) مریم بنت ایاس الأنصاریہ\*

مدنیہ۔ ان سے عمرو بن یحییٰ مازنی نے روایت کی۔ ابو عمر\* کا یہی قول ہے، وہ انصاریہ ہیں، ایسا نہیں، بلکہ وہ کثیہ، بنت ایاس بن کبیر ہیں۔ ان کے والد کے سوانح میں ان کا نسب گزر چکا ہے، وہ صحابہ کا گھرانہ ہے۔  
ان کے والد اور چچے بدر میں حاضر ہوئے، وہ بنو عدی کے حلیف تھے، مسند احمد اور نسائی میں عمرو بن یحییٰ مازنی کی ان سے صحیح سند سے روایت ہے، جو انہوں نے بعض ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے نقل کی، مسند میں تصریح ہے کہ وہ بنت ایاس بن کبیر ہیں۔

### ۱۱۷۲۳) مریم بنت ابی سفیان الأنصاریہ

دوسریہ۔ بنو عمرو بن عوف سے ہیں، لیلیٰ بنت خطیم، اور ان کے والد ابوسفیان، جنہیں ابوالبنات کہا جاتا تھا اور اُحد میں شریک تھے، کے سوانح میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

### ۱۱۷۲۴) مریم بنت عثمان الأنصاریہ

شائد یہ مغالیہ ہیں، محمد بن حسن ابن زبالہ کی کتاب المدینہ میں ان کا ذکر ہے، فرمایا: بحوالہ محمد بن فضالہ، انہوں نے عبدالحمید بن جعفر سے روایت کی، فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے اپنا خیمہ بئر اُبی کے پاس لگایا، جس وقت بنو قریظہ کا محاصرہ کیا۔ مسجد میں نماز پڑھی اور اپنا جانور مریم بنت عثمان کی حویلی میں پیری کے درخت کے ساتھ باندھا۔

### ۱۱۷۲۵) مریم المغالیہ\*

بنو مغالہ سے ہیں، جو انصار کا قبیلہ ہے۔ ثابت بن قیس بن شماس کی زوجہ تھیں۔ یونس بن کبیر نے مغازی میں ان کی حدیث روایت کی، اور حسن بن سفیان نے اپنے طریق سے بحوالہ ابن اسحاق، انہوں نے قتادہ بن دلید سے، انہوں نے عبادہ بن صامت سے، انہوں نے ربیع بنت معوذ سے روایت کیا کہ انہوں نے اپنے شوہر سے خلع لیا، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ ایک ماہ ٹھہریں۔

حضرت ربیع نے فرمایا: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کے اس قول کو لیا ہے، جو آپ ﷺ نے حضرت مریم مغالیہ کو اس وقت فرمایا، جب انہوں نے اپنے خاوند کو فدیہ دیا۔\*

\* الاحاد والمثنائی (۲۶۱/۶) اسد الغابۃ (۷۲۷۶) تجرید (۳۰۴/۲)

\* الاستیعاب (۱۹۱۳/۴) اسد الغابۃ (۷۲۷۷) تجرید (۳۰۴/۲)

\* المعجم الكبير (۸۰/۲۵)



۱۱۷۴۶ مسرہ

ان کا نام میرہ تھا، نبی کریم ﷺ نے مسرہ تھا، ان سے ایک حدیث مروی ہے، جسے زید بن ابی ائیسہ نے بحوالہ زہری مرسل روایت کیا ہے، یہ ابن مندہ کا قول ہے۔

۱۱۷۴۷ مُسْكِه

بعض کا قول ہے: مسکھ تصغیر کے ساتھ ہے، عبد اللہ بن ابی بن سلول کی باندی ہیں، معاذہ میں ان کا ذکر آئے گا۔

۱۱۷۴۸ مُطِيعَةُ بِنْتُ النِّعْمَانِ

بن مالک انصاریہ، بنو عمرو بن عوف سے ہیں، ان کا نام عاصیہ تھا، رسول اللہ ﷺ نے مطیعہ رکھا، یہ ابن حبیب کا قول ہے۔

۱۱۷۴۹ مُعَاذَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ

بن عمرو بن مرہ بن قیس بن عدی بن امیہ بن خلفا وہ انصاریہ۔ ابن سعد کا قول ہے: واقدی رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ وہ اسلام لائیں اور رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

۱۱۷۵۰ مُعَاذَةُ

اشی مازنیہ کی زوجہ ہیں، اشی مازنی کے سوانح میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

۱۱۷۵۱ مُعَاذَةُ

شجاع بن حارث سدوسی کی زوجہ ہیں، شجاع میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

۱۱۷۵۲ مُعَاذَةُ

عبد اللہ بن ابی بن سلول کی باندی ہیں، اور عبد اللہ بن ابی کی باندی مسکھ کی باندی ہیں۔

صحیح مسلم وغیرہ میں مسکھ کا ذکر اعمش کے طریق سے، بحوالہ ابوسفیان ثابت ہے، انہوں نے جابر سے روایت کی، فرماتے ہیں: عبد اللہ بن ابی کی باندی جسے مسکھ کہا جاتا تھا، اس نے اسے بدکاری پر مجبور کیا، وہ نبی کریم ﷺ کے پاس آئی اور آپ ﷺ سے شکایت کی، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: ﴿تَمِمْ أَمْنِي لَوْنَدِيُوں كُو بدکاری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ پاک رہنا چاہیں﴾۔

ہمیں معروفہ عالی سند سے ابو معاویہ کے طریق سے بحوالہ اعمش روایت ملی ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں: امیمہ اور مسکھ، عبد اللہ بن ابی کی لونڈیاں، نبی کریم ﷺ کے پاس آئیں اور عبد اللہ بن ابی کی شکایت کی، تو ان دونوں کے بارے میں یہ آیت

اسد الغابۃ (۷۲۷۹) تجرید (۳۰۴/۲) \* اسد الغابۃ (۷۲۸۰) تجرید (۳۰۴/۲)

اسد الغابۃ (۷۲۸۱) تجرید (۳۰۴/۲) \* اسد الغابۃ (۷۲۸۲) تجرید (۳۰۴/۲)

اسد الغابۃ (۷۲۸۳) الاستیعاب (۳۵۶۶) تجرید (۳۰۴/۲) \* سورة النور الآية (۳۳)

اتری: ﴿اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو....﴾

شععی رحمہ اللہ کی مرسل روایت میں معاذہ کا ذکر ثابت ہے، فرماتے ہیں: جنہوں نے اپنے شوہر سے خلع لی اور ان سے خولہ نے نکاح کیا، اس کی والدہ معاذہ ہیں، جن کے بارے میں نازل ہوا: ﴿تم اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو....﴾۔ اسے عمر بن شہبہ نے صحیح سند سے جسے وہ شععی رحمہ اللہ تک لے گئے ہیں نقل کیا ہے۔

ابو موسیٰ نے آدم بن ابی ایاس کے طریق سے، بحوالہ لیث، انہوں نے عقیل سے، انہوں نے ابن شہاب سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے محمد بن ثابت نے جو بنو حارث بن خزرج سے ہیں اس آیت ﴿اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو﴾ کے بارے میں حدیث بیان کی، یہ معاذہ عبد اللہ بن ابی بن سلول کی باندی کے بارے میں نازل ہوئی۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایک قیدی تھا، اور عبد اللہ بن ابی انہیں اس سے بدکاری کرنے پر مجبور کرتا تھا، تاکہ یہ حاملہ ہو جائیں، یوں اس قیدی کا فدیہ مل جائے۔ یہی وہ سامان ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿تم دنیا کی زندگی کا نفع تلاش کرتے....﴾ اور لونڈی اس سے انکار کرتی تھی، وہ مسلمان تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں آیت نازل فرمائی، اور لوگوں کو اس بات سے روک دیا گیا۔

ابن عمرؓ نے اسے ابراہیم بن سعد کے طریق سے، بحوالہ محمد بن اسحاق، انہوں نے زہری رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں: معاذہ مولاۃ عبد اللہ بن ابی سلمان خاتون تھیں، بڑی فضیلت والی تھیں، جس کی طرف وہ انہیں بلاتے تھے، وہ انکار کرتی تھیں۔

ابو عمر کے نزدیک وہ دونوں ایک ہیں اور ان کے نام میں اختلاف ہے، فرماتے ہیں، زہری رحمہ اللہ کا قول ہے: معاذہ، اور اعش نے بحوالہ ابوسفیان، انہوں نے جابر سے روایت کی، مسیکہ، فرماتے ہیں: ابن شہاب کا قول صحیح ہے ان شاء اللہ، فرماتے ہیں: ابوصالح نے بحوالہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قصہ بیان کیا، اور لونڈی کا نام مسیکہ لیا ہے، جس سے وہ اعش کے موافق ہیں۔

میں کہتا ہوں: دونوں روایتوں کے جمع کا امکان ہے اس لیے کسی قول کو ترجیح نہیں۔ شععی رحمہ اللہ کی روایت تعدد پر دلالت کرتی ہے، اور اس آیت میں ﴿فَتَتَبَّعُكُمْ...﴾ سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک سے زیادہ ہیں، پھر ابن اسحاق نے زہری کی روایت سے متصل فرمایا: مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ خواتین میں انہوں نے نبی کریم ﷺ سے بیعت کی، ان سے سہل بن قرظہ نے جو بنو عمرو بن حارث سے ہیں نکاح کیا، جس سے عبد اللہ بن سہل، ام سعید بنت سہل پیدا ہوئے، وہ انہیں چھوڑ کر وفات پا گئے یا جدا ہو گئے، اس کے بعد ان سے حمیر بن عدی قاری نے نکاح کیا جو بنو حنظلہ سے ہیں، ان سے جڑواں حارث، عدی اور ام سعد پیدا ہوئیں، پھر انہوں نے طلاق دے دی تو عامر بن عدی نے جو بنو عظمہ سے ہیں ان سے نکاح کیا، جس سے ام حبیب بنت عامر پیدا ہوئی، جو معاذہ بنت عبد اللہ بن جریر ضریر بن امیہ بن خدارہ بن حارث بن خزرج ہیں۔

**تنبیہ:** ابن اثیر رحمہ اللہ کا گمان ہے کہ یہ کہنے والے ”مجھے یہ بات پہنچی ہے“ زہری رحمہ اللہ ہیں۔ پھر فرمایا: زہری رحمہ اللہ کا قول جو انہوں نے ان کے نسب میں ذکر کیا، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جاہلیت میں انصار ایک دوسرے کو قیدی بنا لیتے تھے، یہ معاذہ

خزرج سے اور عبداللہ بن ابی کی لونڈی تھیں۔

میں کہتا ہوں: انہوں نے جو کہا اس میں تردد ہے، کیونکہ قیدیوں کے بارے میں اس احتمال کے ساتھ متعین نہیں ہے کہ معاذہ کے والد نے عبداللہ کی باندی سے نکاح کیا ہو یا اس کے ساتھ بدکاری کی ہو جس سے معاذہ پیدا ہوئیں، جو عبداللہ کی باندی تھیں۔ روایت دلالت کرتی ہے کہ جب عبداللہ نے معاذہ کو حکم دیا کہ وہ قیدی کو اپنے نفس پر قابو پانے دے، انہوں نے چاہا کہ وہ قیدی سے حاملہ ہوں، اور باندی کی اولاد کو اپنے والد کے فدیے میں دے، جو انہوں نے ذکر کیا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ لوگ ایک دوسرے کو قیدی بنا لیتے تھے۔

### ۱۱۷۵۳ معاذہ الغفاریہ \*

لیلیٰ میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

### ۱۱۷۵۴ ملیکہ بنت ابی امیہ \*

طبقات ابن سعد میں طبقات النساء میں ان کا ذکر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیت مبارکہ اتری تو انہیں طلاق دے دی: ﴿تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رکھو﴾ \* پھر ان سے حضرت معاویہ نے نکاح کیا اور عبید اللہ کی والدہ ہیں جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔

### ۱۱۷۵۵ ملیکہ بنت ثابت \*

بن فاکہ، ابن سعد \* نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۷۵۶ ملیکہ بنت خارجہ \*

بن زید بن ابی زہیر انصاریہ، حبیبہ میں ان کے حالات گزر چکے ہیں۔

### ۱۱۷۵۷ ملیکہ بنت خارجہ \*

بن سنان، قسم ثالث میں ان کا ذکر آئے گا۔

### ۱۱۷۵۸ ملیکہ بنت داؤد \*

ابن بشکوال نے مزدجات میں ان کا ذکر کیا ہے، وہ صحیح نہیں، ملیکہ بنت کعب میں ان کا ذکر آئے گا، اس کی اصلاح کر لیں۔

\* اسد الغابۃ (۷۲۸۴) تجرید (۳۰۵/۲) \* سورة الممتحنة الآية (۱۰)

\* تجرید (۳۰۵/۲) \* الطبقات الكبرى (۲۵۶/۸) \* اسد الغابۃ (۷۲۸۶) تجرید (۳۰۵/۲)

\* اسد الغابۃ (۷۲۸۷) تجرید (۳۰۵/۲) \* تجرید (۳۰۵/۲)

### ۱۱۷۵۹) مُلِیکہ بنت سہل

بن زید بن عمرو بن عامر بن جشم النصاریه، ابو یثم بن تہان کی زوجہ ہیں، ابن سعد \* نے ان کا ذکر کیا ہے اور فرمایا: اسلام لائیں اور بیعت کی، یہ محمد بن عمر کی روایت میں ہے۔

### ۱۱۷۶۰) مُلِیکہ بنت عبداللہ

بن ابی بن سلول النصاریه خزرجیہ، ابن سعد نے بھی ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۷۶۱) مُلِیکہ بنت عبداللہ

بن صحر بن خضاء النصاریه۔ ابن سعد نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۷۶۲) مُلِیکہ بنت عمرو الأنصاریہ

بنوزید اللات بن سعد سے ہیں، ابو عمر \* نے ان کا ذکر کیا ہے، فرمایا: زبیر بن معاویہ کے ہاں ان کی حدیث بحوالہ ان کے گھرانے کی کسی خاتون سے مروی ہے جو انہوں نے ان سے روایت کی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے گائے کے بارے میں فرمایا: ”ان کے دودھ میں شفاء، ان کا گھی دوا اور گوشت بیماری ہے۔“ \*

میں کہتا ہوں: ابوداؤد نے مراسیل میں اسے نقل کیا ہے اور ابن مندہ نے اسے موصولاً نقل کیا ہے، ہمارے پاس اس سے عالی سند کے ساتھ مروی ہے، ان کے حالات میں وہی نقل کیا جو ابن ابوعاصم نے وحدان میں نقل کیا ہے اور ابن وہب کے طریق سے فرماتے ہیں: میری طرف حمزہ بن عبد الواحد بن محمد بن عمرو بن حنظل نے بحوالہ محمد بن عمرو خط لکھا کہ مُلِیکہ نے انہیں بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ”جب تم کسی قوم کے بارے میں سنو کہ انہیں زمین میں دھنسا دیا گیا ہے تو قیامت قریب آگئی ہے۔“ یہ روایت ابن مندہ کے ہاں بھی عالی سند سے مروی ہے۔ اس دوسری روایت میں مُلِیکہ کا نسب بیان نہیں کیا گیا، اس لیے احتمال ہے کہ وہ کوئی اور ہوں۔

### ۱۱۷۶۳) مُلِیکہ بنت عمرو

بن سہل النصاریه، بنو عبد الاشہل سے ہیں، ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے، ابو یثم بن تہان کی زوجہ ہیں۔ \*

\* اسد الغابۃ (۷۲۹۱) \* الطبقات الکبریٰ (۲۳۸/۸) \* تجرید (۳۰۵/۲)

\* تجرید (۳۰۵/۲) \* اسد الغابۃ (۷۲۹۰) \* تجرید (۳۰۵/۲) \* الاستیعاب (۱۹۱۴/۴)

\* المعجم الکبیر (۷۹/۲۵) \* مجمع الزوائد (۹۰/۵) \* اسد الغابۃ (۷۲۹۱) \* الاستیعاب (۳۵۵۰)

\* اسد الغابۃ (۴۰۰/۵)

### ۱۱۷۶۳ \* مُلِیکہ بنت عویمر الہذلیہ \*

بعض کا قول ہے: بنت عویم، راء کے بغیر ہے، ان کی کنیت ام عنیف تھی، بعض کا قول ہے: ام قطیف، پہلا قول قابل اعتماد ہے، دوسرا قول ابو عمر کے کلام میں ہے اور وہ لفظی غلطی ہے۔

رجال کے حصے میں حرف عین میں ان کی حدیث کا ذکر گزر چکا ہے۔ اس میں اس اختلاف کا ذکر کیا کہ وہ عویمر ہے یا عویم بغیر راء کے ہے، حدیث کی سند ضعیف ہے، جو ان دو عورتوں کے بارے میں ہے جو حُمل بن نابغہ ہذلی کے نکاح میں تھیں، ان میں سے ایک نے دوسری کو مارا جس سے بچہ ضائع ہو گیا..... (الحدیث)

### ۱۱۷۶۵ \* مُلِیکہ بنت کعب الکنانیہ \*

واقدی نے بحوالہ ابو معشر ذکر کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ان سے نکاح کیا، وہ بہت حسین و جمیل تھیں ان کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آئیں اور ان سے کہا: کیا تمہیں اس بات سے حیا نہیں آتی کہ تم اپنے باپ کے قاتل سے نکاح کرو، ان کا والد فتح مکہ کے دن قتل ہوا، اسے حضرت خالد بن ولید نے قتل کیا، فرماتے ہیں: انہوں نے نبی کریم ﷺ سے پناہ چاہی تو آپ ﷺ نے انہیں طلاق دے دی۔ ان کی قوم کے لوگ آئے اور آپ سے کہنے لگے کہ ان سے رجوع کر لیں، ان کی کم عمری اور ضعف رائے کا عذر پیش کیا اور یہ کہ انہیں دھوکہ دیا گیا تھا، آپ ﷺ نے انکار کر دیا، انہوں نے بنو عذرہ میں اس کا کسی قریبی سے نکاح کرنے کی اجازت مانگی، آپ ﷺ نے اجازت دے دی۔

عطاء بن یزید جندی کے طریق سے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے ملیکہ بنت کعب سے رمضان کے مہینے میں نکاح کیا اور ان کے پاس آئے اور آپ ﷺ کے پاس ہی وفات پا گئیں۔ واقدی رحمہ اللہ کا قول ہے: ہمارے اصحاب اس کا انکار کرتے ہیں اور نبی کریم ﷺ نے کسی کنانیہ سے نکاح نہیں کیا۔

### ۱۱۷۶۶ \* مُلِیکہ \*

خباب بن اُرت کی زوجہ ہیں، ابن مندہ رحمہ اللہ کا قول ہے: انہوں نے نبی کریم ﷺ کا زمانہ پایا، ابو خالد والہبی نے بحوالہ منہال بن عمرو موقوفان کی حدیث روایت کی ہے۔ \*

### ۱۱۷۶۷ \* مُلِیکہ الأنصاریہ \*

صحیحین میں مالک کی روایت میں \* بحوالہ اسحاق بن عبد اللہ بن ابی طلحہ، انہوں نے انس سے روایت کیا ہے، ان کا ذکر ہے کہ ان کی دادی ملیکہ نے رسول اللہ ﷺ کو کھانے کی دعوت دی..... (الحدیث) \*

اسد الغابہ (۷۲۹۲) تجرید (۳۰۵/۲) \* تجرید (۳۰۶/۲)

اسد الغابہ (۷۲۸۸) تجرید (۳۰۵/۲) \* اسد الغابہ (۳۹۹/۵)

اسد الغابہ (۷۲۸۴) تجرید (۳۰۵/۲) \* لہالک: قصر الصلاة فی السفر (الحدیث: ۳۶۷)

ترمذی (الحدیث: ۲۳۴) \*

اس روایت میں نبی کریم ﷺ کا ان کے گھر نماز پڑھنے کا ذکر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں اور یتیم آپ ﷺ کے پیچھے کھڑے ہوئے اور بڑھیا ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی، ”ان کی دادی“ اس ضمیر کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کا قول ہے: انس کی اور بعض کا قول ہے اسحاق کی، ابو عمر نے دوسرے قول پر اعتماد کیا ہے۔

ابن اثیر نے لکھا \* کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے والد یا والدہ کی طرف سے کوئی خالہ ایسی نہیں جس کا نام ملیکہ ہو۔ میں کہتا ہوں: اس نفی میں تردد ہے جس کا تذکرہ کیا گیا ہے، عدوی نے انصار کے نسب میں ذکر کیا ہے کہ ام سلیم کی والدہ کا نام ملیکہ ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں: سلیم بن ملحان اور ان کے بہن بھائیوں زید، حرام، عباد، ام سلیم اور ام حرام بنو ملحان، ان کی والدہ ملیکہ بنت مالک بن عدی بن زید مناة بن عدی بن عمرو بن مالک بن نجار، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ”ان کی دادی“ میں ضمیر حضرت انس رضی اللہ عنہ کی طرف ہے، یہ ان کی نانی ہیں، جنہوں نے ضمیر اسحاق کی طرف کی ہے ان کا قول باطل ہوا، اور اس بنا پر یہ کہہ دیا کہ ام سلیم کا نام ملیکہ تھا۔ واللہ الموفق!

#### ۱۱۷۶۸ \* مُلِیْکَہ \*

سائب بن اترع کی والدہ ہیں۔ قسم اول، رجال کے تحت حرف سین میں ان کا ذکر گزر چکا ہے، وہ عطر بیچا کرتی تھیں۔ نبی کریم ﷺ نے ان سے پوچھا: ”کیا تمہاری کوئی حاجت ہے؟“ \* انہوں نے کہا: میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیجئے..... (الحدیث)

#### ۱۱۷۶۹ \* مُلِیْکَہ الْهَلَالِیَہ \*

عبداللہ بن ابی حدرد کی زوجہ ہیں، مسلم نے افراد میں ان کا ذکر کیا ہے، تجرید \* میں بھی ان کا ذکر ہے۔

#### ۱۱۷۷۰ \* مَنْدُوسُ بِنْتُ خَلَاد \*

بن سُوید بن ثعلبہ انصاریہ، خزرجیہ، ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ \*

#### ۱۱۷۷۱ \* مَنْدُوسُ بِنْتُ عِبَادَہ \*

بن دُلیم بن حارثہ بن ابی خزیمہ انصاریہ، خزرجیہ، خزرج کے سردار سعد بن عبادہ کی بہن ہیں، ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ \*

#### ۱۱۷۷۲ \* مَنْدُوسُ بِنْتُ عَمْرُو \*

بن نَکَیس بن لُوْذَان بن عبدوْذ انصاریہ، منذر بن عمرو اور ام سلمہ بن مَخلَد کی بہن ہیں، بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا

\* اسد الغابۃ (۳۹۸، ۳۹۹) \* اسد الغابۃ (۷۲۸۹) تجرید (۳۰۵/۲)

\* التاریخ الکبیر (۱۵۱/۴) \* تجرید (۳۰۵/۲)

\* تجرید (۱۹۷) \* اسد الغابۃ (۷۲۹۳) تجرید (۳۰۶/۲)

\* اسد الغابۃ (۴۰۰/۵) \* اسد الغابۃ (۷۲۹۴) تجرید (۳۰۶/۲)

\* اسد الغابۃ (۴۰۰/۵) \* اسد الغابۃ (۷۲۹۵) تجرید (۳۰۶/۲)

## الْاُكْتِلَابُ فِي تَبْيِيحِ الْأَصْحَابِ (جلد ۳) ۳۷۱

ذکر ہے، ابن اثیرؒ نے ذکر کیا ہے کہ ان کی بیٹی قریبہ نے ان سے روایت کی کہ وہ نبی کریم ﷺ کے پاس آئیں اور کہنے لگیں: یا رسول اللہ ﷺ! آگ۔ آپ ﷺ نے پوچھا: ”تمہارا یہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟“ انہوں نے اپنے معاملے کے بارے میں بتایا، وہ نقاب کئے ہوئے تھیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے اللہ کی بندی! اپنے چہرے کو کھلا رکھو، کیونکہ باندیوں کے لیے اپنے چہرے کو کھلا رکھنا اسلام کا حصہ ہے، اور نقاب فسق و فجور ہے۔“ اس کی نسبت ابن مندہ اور ابویعیم کی طرف کی ہے، جبکہ مجھے ان دونوں میں سے کسی کے پاس یہ روایت نہیں ملی۔

### ۱۱۷۷۳ مندوس بنت قطبہؒ

بن عمرو بن مسعود بن عبدالاشہل بن حارثہ بن دینار بن نجار، ابن سعد کا قول ہے کہ بیعت کرنے والی صحابیات میں سے ہیں، ان کی والدہ کا نام عمیرہ بنت قرط بن خنساء بن سنان ہے، ان سے عمارہ بن حباب بن سعد بن قیس بن عمرو بن زید مناة نے نکاح کیا، ان سے ابو عمرو پیدا ہوئے، ان کے بعد عبداللہ بن کعب بن زید بن قیس بن مالک بن کعب بن عبدالاشہل سے نکاح ہوا، ان سے ام عتبہ اور ام سعد پیدا ہوئیں، ان کے بعد عبداللہ بن ابی سلیط بن عمرو بن قیس پیدا ہوئے، جس سے مروان پیدا ہوئے۔

### ۱۱۷۷۴ موبہ

نبی کریم ﷺ کی مولاۃ ہیں، حدیث ابونضرہ غفاری میں ان کے اسلام لانے کے قصہ میں ان کا تذکرہ ہے۔ جزء رابع میں اسماعیل صفار کی حدیث میں، ابن لہیعہ کے طریق سے موسیٰ بن وردان سے بحوالہ ابونضرہ غفاری حدیث مروی ہے.... پھر حدیث ذکر کی۔ اس میں ہے، آپ ﷺ نے موبہ سے ایک اونٹنی منگوائی جس کا دودھ دوہا اور مجھے پلایا، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں نے کچھ پیا ہی نہیں۔ پھر دوسری اونٹنی منگوائی یہاں تک کہ فرماتے ہیں: موبہ غصے میں آ گئی اور مجھے غصہ سے گھورنے لگی، اس میں ہے: ”کافرسات آنتوں سے کھاتا ہے۔“

### ۱۱۷۷۵ میمونہ بنت الحارثؒ

بن حزن ہلالیہ، ام فضل لبابہ کی بہن ہیں، حرف لام میں ان کی بہن کے ساتھ ان کا نسب گزر چکا ہے، میمونہ ام المؤمنین میں.... ان کا نام برہ تھا، نبی کریم ﷺ نے میمونہ رکھا۔ نبی کریم ﷺ سے نکاح سے قبل ابوزہرہم بن عبدالعزیٰ بن عبدود بن مالک بن حسل بن عامر بن لوی قرشی عامری کے نکاح میں تھیں۔ بعض کا قول ہے: حویطب بن عبدالعزیٰ کے نکاح میں تھیں اور بعض نے کہا فروہ جو ان کے بھائی ہیں، ان کے پاس تھیں۔ نبی کریم ﷺ نے ذی قعدہ ۷ھ میں جب عمرہ قضیہ کیا تو ان سے نکاح کیا، بعض کا قول ہے: آپ ﷺ نے جعفر بن ابی طالب کی نکاح کا پیغام دے کر بھیجا، انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو نکاح کی اجازت دی، انہوں نے آپ ﷺ سے ان کا نکاح کر دیا۔ بعض کا قول ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ کے سامنے ان کی تعریف کی اور فرمایا: وہ ابوزہرہم سے بیوہ ہو گئی ہیں، آپ ﷺ نے ان سے نکاح کر لیا۔

اسد الغابۃ (۴۰۰/۵) تجرید (۳۰۶/۲)

اسد الغابۃ (۷۲۹۷) الاستیعاب (۳۵۵۲) تجرید (۳۰۶/۲) اسد الغابۃ (۴۰۱/۵)

ابن اسحاق \* کا قول ہے: یونس بن کبیر وغیرہ کی ان سے روایت میں ہے: پھر حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے بعد نکاح کیا اور ابوہم کے نکاح میں تھیں۔

یونس بن کبیر کا قول ہے: مجھ سے جعفر بن برقان نے میمون بن مہران سے بحوالہ یزید بن اسم روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے ان سے نکاح کیا اور وہ حالت احرام میں نہیں تھے، اور ایک خیمہ میں رخصتی ہو گئی۔ اور اسی (مقام سرف) میں ان کی وفات ہوئی۔ \*

یہ روایت مرسل ہے، بحوالہ میمونہ بنت خالد بن یزید بن اسم، ان کی دوسری خالد کے بیٹے عبد اللہ بن عباس نے اس کی مخالفت کی ہے، اور یقین کیا ہے کہ آپ ﷺ نے ان سے حالت احرام میں نکاح کیا تھا۔ صحیح بخاری میں یہی مذکور ہے، اس حکم کے بارے میں فقہاء میں اختلاف ہے، بعض نے ان دونوں کو جمع کیا ہے کہ آپ ﷺ نے حالت احرام میں ان سے نکاح کیا تھا اور متعمم میں عمرہ کا احرام اتارنے کے بعد ان کی رخصتی ہوئی، آپ ﷺ نے صل پر عمرہ کا احرام اتارا، یہ ابن اسحاق کی روایت میں قصے کی سیاق سے ظاہر ہے، بعض کا قول ہے: احرام سے قبل ان سے نکاح ہوا اور احرام باندھنے کے بعد آپ ﷺ کی ان سے نکاح کی خبر پھیل گئی، اس سے نکاح کے وقت کا تعین مشکل ہو گیا۔

زہریؒ اور قتادہؒ نے ذکر کیا ہے کہ یہ وہی ہیں جنہوں نے نبی کریم ﷺ کے لئے اپنے نفس کو ہبہ کر دیا تھا تو ان کے بارے میں قرآن کی آیت اتری، بعض نے کہا: ہبہ کرنے والی ان کے علاوہ کوئی اور ہیں۔ بعض کا قول ہے: وہ بہت سی ہیں، یہ قول زیادہ صحیح ہے۔

ابن سعد \* کا قول ہے: یہ آخری خاتون تھیں جن سے نبی کریم ﷺ نے نکاح کیا، یعنی جن کی رخصتی ہوئی، اور اپنی سند سے ذکر کیا ہے کہ آپ ﷺ نے شوال ۷ھ میں ان سے نکاح کیا تھا اگر یہ بات ثابت ہو تو صحیح یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے عمرہ کا احرام اتارنے کے بعد ان سے نکاح کیا، کیونکہ آپ ﷺ نے ذی قعدہ میں عمرہ کیا تھا، اور اپنی سند سے جس میں واقعہ بھی ہیں، اس سند کو علی بن عبد اللہ بن عباس تک لے گئے ہیں، فرماتے ہیں: جب رسول اللہ ﷺ نے مکہ کی طرف عمرہ کے لئے نکلنے کا ارادہ کیا تو اوس بن خولی اور ابو رافع کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا تاکہ وہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے ان کا نکاح کر دیں۔ ان دونوں کے اونٹ گم ہو گئے، وہ کئی دن نطن رافع میں ٹھہرے رہے، یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ تشریف لائے تو انہیں ان کے اونٹ مل گئے، وہ دونوں آپ ﷺ کے ساتھ روانہ ہوئے یہاں تک کہ مکہ آ پہنچے، آپ ﷺ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام بھیجا، جس میں اس بات کا ذکر تھا تو انہوں نے اپنا معاملہ رسول اللہ ﷺ کے سپرد کر دیا، آپ ﷺ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر آئے، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ان کے نکاح کا پیغام دیا، انہوں نے آپ ﷺ سے ان کا نکاح کر دیا۔

سلیمان بن یسار کے طریق سے ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ابو رافع اور دوسرے شخص کو بھیجا کہ وہ حضرت میمونہ کا نکاح آپ کے ساتھ مدینہ سے نکلنے سے قبل کر دیں۔

\* السيرة النبوية (۲۲۱/۴) مسلم (۳۴۳۷)، ترمذی (۸۴۵)، نسائی (۲۸۳۷)، ابن ماجہ (۱۹۶۵)

\* الطبقات الكبرى (۹۴/۸)



## الإسلام في حياة النبي ﷺ (جلد ۱)

۳۷۸

ابن سعد نے بھی عبدالکریم کے طریق سے بحوالہ میمون بن مهران نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: میں صفیہ بنت شیبہ کے پاس گیا اس وقت وہ بڑی عمر کی تھیں، میں نے ان سے پوچھا، رسول اللہ ﷺ نے جب حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا کیا وہ حالت احرام میں تھے؟ انہوں نے کہا: نہیں، اللہ کی قسم! آپ ﷺ نے ان سے نکاح کیا، وہ دونوں حالت احرام میں نہیں تھے۔

ابن سعد **✽** کا قول ہے: ہم سے ابو نعیم نے حدیث بیان کی، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے ہشام بن سعد نے بحوالہ عطاء خراسانی حدیث بیان کی، میں نے ابن مسیب سے کہا: عکرمہ کا خیال ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو آپ ﷺ حالت احرام میں تھے، انہوں نے کہا: میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں رسول اللہ ﷺ جب تشریف لائے تو حالت احرام میں تھے، جب احرام اتارا تو ان سے نکاح کیا۔

ابن سعد کا قول ہے: ہم سے محمد بن عمر نے حدیث بیان کی، اور ہمیں ابن جریج نے بحوالہ ابو زبیر، انہوں نے عکرمہ سے بتایا کہ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا نے اپنے نفس کو نبی کریم ﷺ کے لئے بہہ کیا تھا، محمد بن عمر سے بحوالہ موسیٰ بن محمد بن عبدالرحمن، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے عمرہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں: ان سے کہا گیا: حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے اپنے نفس کو نبی کریم ﷺ کے لئے بہہ کر دیا۔ وہ فرماتی ہیں: ان سے رسول اللہ ﷺ نے ۵۰۰ درہم مہر پر نکاح کیا، آپ ﷺ کا ان سے نکاح کا معاملہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے سپرد تھا۔

ابن سعد **✽** نے صحیح سند سے جسے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما تک لے گئے ہیں نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مومن بہنیں یہ ہیں: میمونہ، ام فضل، اسماء“ ابن سعد کا قول ہے: ہمیں کثیر بن ہشام نے بتایا، وہ فرماتے ہیں: کہ ہم سے جعفر بن برقان نے روایت کی، وہ فرماتے ہیں: کہ ہم سے یزید بن اہم نے حدیث بیان کی، فرماتے ہیں: میں اور ابن طلحہ جو ان کا بھانجا تھا مکہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہم مدینہ کے ایک باغ میں ٹھہرے تھے، جس میں سے ہم نے کچھ لیا تھا، جب انہیں یہ بات معلوم ہوئی تو اپنی بہن کے بیٹے کی طرف متوجہ ہوئیں اور اسے ملامت کرنے لگیں، پھر وہ میری طرف متوجہ ہوئیں اور مجھے پر اثر نصیحت کی، فرمانے لگیں: کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چلایا یہاں تک کہ تمہیں اپنے نبی کے گھروں میں سے ایک گھر میں ٹھہرا دیا ہے؟ اللہ کی قسم! میمونہ چل بسیں اور تمہاری مہارتہارے کندھے پر ڈال دی گئی۔ وہ ہم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی اور ہم سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والی تھیں۔ یہ سند صحیح ہے۔

اسی طرح فرمایا: ہم سے ابو نعیم نے حدیث بیان کی، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے جعفر بن برقان نے حدیث بیان کی، کہ مجھے میمون بن مهران نے بتایا، فرماتے ہیں: میں نے صفیہ بنت شیبہ سے پوچھا، کہنے لگیں: رسول اللہ ﷺ نے حضرت میمونہ سے مقام سرف میں نکاح کیا اور ان کے خیمہ میں رخصتی ہوئی، مقام سرف میں ہی وفات ہوئی۔ اور ہمارے خیمہ کی جگہ دفن ہوئیں..... **✽** حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی وفات ۵۱ھ میں ہوئی۔

ابن سعد نے واقعہ سے نقل کیا ہے کہ وہ ۶۱ھ میں وفات پا گئیں، فرماتے ہیں، انہوں نے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن میں سب سے آخر میں وفات پائی۔

اگر یہ آخری کلام نہ ہوا تو احتمال تھا کہ یہ قول: ۶۰ھ بعض راویوں کا وہم ہے لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت جسے ان سے یزید بن اہم نے روایت کیا ہے اس پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ۶۰ھ سے قبل وفات پا گئیں، اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں، اور مذکورہ روایت درست ہے جو واقدی رضی اللہ عنہ کے قول سے بہتر ہے۔ یعقوب بن سفیان نے اس پر اعتماد کیا ہے کہ وہ ۴۹ھ میں وفات پا گئیں، بعض کا قول ہے ۶۳ھ میں وفات پائی، بعض نے کہا: ۶۶ھ میں یہ دونوں قول ثابت نہیں، پہلا قول ثابت ہے۔

### ۱۱۷۷۶ میمونہ بنت سعد

بعض کا قول ہے: سعید، نبی کریم ﷺ کی خدمت کیا کرتی تھیں، اور آپ ﷺ سے روایت کی، ان سے زیادہ اور عثمان جو ابوسودہ کے بیٹے ہیں، ہلال بن ابولہلال، ابویزید ضعی، آمنہ بنت عمر بن عبدالعزیز، ایوب بن خالد بن صفوان، طارق بن عبدالرحمن وغیرہ نے روایت کی، اصحاب سنن اربعہ نے ان سے روایت کی ہوئی حدیث نقل کی ہے، بعض نے معاویہ بن صالح کی روایت بحوالہ زیاد بن ابی سودہ انہوں نے حضرت میمونہ سے (یہ نبی کریم ﷺ کی زوجہ میمونہ بنت حارث نہیں ہیں) روایت کی ہے کہ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! ہمیں بیت المقدس کے بارے میں بتائیے! آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ حشر و نشر کی سرزمین ہے، وہاں جاؤ اور اس میں نماز پڑھو....“ (الحدیث)

ابوعمر کا قول ہے: میمونہ بنت سعد نبی کریم ﷺ کی مولاہ ہیں، ان سے ابویزید ضعی بن خالد نے روزہ دار کے بوسہ لینے کے بارے اور ولد زنا (حرام) کے آزاد کرنے کے بارے میں مرفوع حدیث روایت کی ہے، اس کی سند قوی نہیں ہے، پھر فرمایا: میمونہ (دوسری) اہل شام کے ہاں بیت المقدس کی فضیلت کے بارے میں ان کی حدیث ہے، اور سخت عذاب قبر غیبت اور پیشاب سے نہ بچنے پر ہوتا ہے، ان سے زیادہ بن ابی سودہ اور قاسم بن عبدالرحمن نے روایت کی ہے۔

میں کہتا ہوں: زیاد بن ابی سودہ نے اس کی تصریح کی ہے کہ جن سے حدیث مروی ہے میمونہ بنت سعد ہیں، ظاہر یہ ہے کہ وہ دونوں ایک ہیں، ابن عبدالبر سے پہلے یہ فرق ابوعلی بن السکن نے ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں: میمونہ بنت سعد، نبی کریم ﷺ کی مولاہ ہیں، ان سے احادیث مروی ہیں، پھر عکرمہ بن عمار کے طریق سے بحوالہ طارق بن قاسم، انہوں نے میمونہ مولاہ رسول اللہ ﷺ کی روایت کی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اے میمونہ! عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔“ کہنے لگیں: کیا وہ برحق ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں! اکثر غیبت اور پیشاب سے نہ بچنے سے ہوتا ہے۔

ابویزید ضعی کے طریق سے بحوالہ حضرت میمونہ، جو نبی کریم ﷺ کی مولاہ ہیں، مروی ہے، فرماتی ہیں: نبی کریم ﷺ سے

اسد الغابۃ (۷۲۹۹) تجرید (۳۰۶/۲)

ابوداؤد (۴۵۷) ابن ماجہ (۱۴۰۷) مسند احمد (۴۶۳/۶) طبرانی المعجم الكبير (۵۴/۲۵، ۵۵)

جامع المسانید والسنن (۱۳۴، ۱۳۳/۱۶)

کنز العمال (۴۳۹۳۵) طبقات الكبرى (۲۲۳/۸)

ولد زنا (حرام) کے بارے میں سوال کیا گیا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس میں بھلائی نہیں....“۔ (الحديث) \*  
 میں کہتا ہوں: یہ روایت زہری رحمہ اللہ نے اس طریق سے نقل کی ہے، اور ایوب بن خالد کے طریق سے بحوالہ میمونہ بنت سعد جو نبی کریم ﷺ کی خادمہ ہیں، مروی ہے، فرماتی ہیں: نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”زیب و زینب میں حد سے بڑھنے والی ایسی تاریکی ہے جس میں روشنی کا نام و نشان تک نہ ہو“۔ پھر فرمایا: حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ ﷺ کی مولاہ ہیں۔ \*

میں کہتا ہوں: بنت سعد ان سے بیت المقدس کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث مروی ہے، اس میں تردد ہے، پھر عیسیٰ بن یونس کے طریق سے ثور بن یزید سے بحوالہ زیاد بن ابی سودہ، انہوں نے اپنے بھائی عثمان بن ابی سودہ سے، انہوں نے میمونہ نبی کریم ﷺ کی مولاہ سے روایت کی ہے، پھر فرمایا: اسے سعید بن عبد العزیز نے ثور سے بحوالہ زیاد انہوں نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے، ان دونوں راویوں کے درمیان حضرت عثمان بن سعد نہیں۔

میں کہتا ہوں: ابن مندہ نے اسے دو طریق سے نقل کیا ہے، اور ان دونوں کے حالات بیان کیے ہیں۔ جیسا ابن سکین نے میمونہ، مولاہ النبی ﷺ کا عنوان قائم کیا ہے، لیکن اس میں یہ اضافہ کیا ہے کہ ان سے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے روایت کی، اور ان کی روایت ان کے حوالے سے نقل نہیں کی، پھر ولد زنا کے آزاد کرنے کے بارے میں حدیث روایت کی، فرماتے ہیں: بحوالہ میمونہ مولاہ النبی ﷺ جیسا کہ عذاب قبر سے پناہ مانگنے کے بارے میں طارق بن قاسم بن عبد الرحمن کے طریق سے حدیث مروی ہے، اس میں ہے، بحوالہ میمونہ بنت حبیب پھر حضرت میمونہ بنت سعد رضی اللہ عنہا خادمہ النبی ﷺ کا عنوان قائم کیا، اور محمد بن ہلال کی بحوالہ ان کے والد حدیث نقل کی کہ انہوں نے میمونہ بنت سعد رضی اللہ عنہا کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، فرمایا: ”جورات سے روزے کو جمع کرے اسے چاہیے کہ روزہ رکھ لے“۔ (الحديث) \*

ایوب بن خالد کے طریق سے بحوالہ میمونہ بنت سعد زینب میں تجاوز کرنے والی کے بارے میں حدیث مروی ہے، وہ نبی کریم ﷺ کی خدمت کرتی تھیں، ابن سکین، ابن مندہ اور ابو عمر کا اتفاق ہے کہ وہ دونوں خواتین علیحدہ علیحدہ ہیں۔ ابو نعیم نے ان کی مخالفت کی ہے، فرماتے ہیں: میرے نزدیک وہ دونوں ایک ہیں، ابن اشیر نے اسے درست قرار دیا ہے، اسی سے حزی نے تہذیب میں اپنے کلام کو شروع کیا ہے۔ پھر فرمایا، بعض نے کہا: وہ دو ہیں۔

میں کہتا ہوں: ابن سکین کا قول دوسری صحابیہ کے بارے میں ہے اور وہ بنت سعد نہیں، بیت المقدس میں نماز پڑھنے کے بارے میں بھی ان کی روایت نقل ہے۔ اس سے یہ سمجھا جائے گا کہ روایت میں یہ موجود نہیں (.... اسے نقل کیا ہے....)۔ \*

اسی سے ابو نعیم کے قول کو تقویت ملتی ہے کہ وہ دونوں ایک ہیں۔ پھر ابن مندہ نے تیسری میمونہ کا ذکر کیا اور فرمایا: میمونہ بے نسبت، ان سے امیہ بنت عمر نے روایت کی ہے، وہ فرماتی ہیں: یا رسول اللہ ﷺ! ہمیں صدقہ کے بارے میں بتائیے! آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ آگ سے اوٹ ہے۔“ \* انہوں نے کہا: ہمیں کتے کی قیمت کے بارے میں بتائیے؟ آپ ﷺ نے فرمایا:

\* ابن ماجہ (۲۵۳۱) نسائی (۴۹۹/۱۲) مسند احمد (۵۵۳/۶) جامع المسانید والسنن (۱۳۲/۱۶)

البدایہ والنہایہ (۳۳۰/۵) ترمذی (۱۱۶۷) جامع المسانید والسنن (۱۳۵/۱۶)

\* بیاض فی الأصل ای فی کتاب ابن حجر۔ (مترجم) \* اسد الغابہ (۴۰۳/۵)

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ابن ہشام لکھتے ہیں: شعر کا علم رکھنے والے اکثر حضرات نے انکار کیا ہے کہ یہ اشعار ان کے نہیں ہیں۔

### ۱۱۷۸۱ میمونہ بنت ابی عسیب

بعض کا قول ہے: بنت ابی عنینہ، ابو نعیم نے پہلے قول پر اور ابو عمر نے دوسرے قول پر اعتماد کیا ہے اور فرمایا: میمونہ بنت ابی عنینہ، نبی کریم ﷺ کی مولا ہیں، آپ ﷺ سے دعا کے بارے میں حدیث روایت کی ہے، ابن مندہ کا قول ہے: میمونہ بنت عنینہ، بعض نے کہا: بنت ابی عنینہ، نبی کریم ﷺ کی مولا ہیں، مشجع بن مصعب نے بحوالہ ربیعہ بن یزید، انہوں نے منجہ سے انہوں نے میمونہ بنت ابی عنینہ سے حدیث روایت کی کہ حریش سے ایک خاتون نبی کریم ﷺ کے پاس آئیں، اور کہا: اے عائشہ! رسول اللہ ﷺ کی دعاؤں میں سے ایسی دعا بتائیے جس سے مجھے اطمینان ہو۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اپنا دایاں ہاتھ اپنے دل پر رکھو، اور دل کریں کہو: اے اللہ! اپنی دوا سے میرا علاج کر، اور اپنی شفاء سے مجھے صحت یاب کر، اور اپنے علاوہ لوگوں سے مجھے اپنے فضل کے ذریعہ بے نیاز کر دے۔ \*

ربیعہ کا قول ہے: میں نے ان الفاظ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اس سے مجھے بہت اطمینان ہوا، ابو نعیم نے اس طریق سے اسے موصولاً ذکر کیا ہے، اور فرمایا: میمونہ بنت ابی عسیب۔

### ۱۱۷۸۲ میمونہ بنت گردم الثقفیہ

ان سے یزید بن مقسم نے روایت کی، اہل بصرہ کے پاس ان کی حدیث ہے، یہ یزید معروف نہیں، اسی طرح استیعاب کے بعض نسخوں میں ہے، یہ ابن اثیر کے نسخے میں موجود نہیں۔ انہوں نے ان کا تذکرہ فروگزاشت کیا ہے۔ ابو عمر کے کلام میں تردد ہے، اس لیے کہ انہوں نے فرمایا: اہل بصرہ کے پاس ان کی حدیث ہے، جبکہ اہل طائف کے پاس ان کی حدیث ہے۔

ابوداؤد نے سنن میں کتاب الایمان والندب میں عبد اللہ بن یزید بن مقسم کے طریق سے بحوالہ اپنے والد، اور انہوں نے ان کی پچھو بھی سارہ سے، جنہوں نے ان سے روایت کی، حدیث نقل کی ہے، بعض نے سند سے سارہ کا نام ساقط کر دیا ہے، اور بعض نے عبد اللہ کو ساقط کیا ہے۔

ابن ماجہ \* نے بھی ان کی حدیث نقل کی ہے۔ ابن مندہ کی کتاب المعرفة میں ہمیں یہ روایت عالی سند سے ملی ہے۔ اسے ابو نعیم کے طریق سے بحوالہ عبد اللہ بن عبد الرحمن طاکھی، انہوں نے یزید بن مقسم سے، انہوں نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ وہ سواری پر اپنے والد کے پیچھے بیٹھی تھیں، میں نے اپنے والد سے سنا کہ وہ رسول اللہ ﷺ سے سوال کر رہے تھے،

\* اسد الغایۃ (۷۳/۲) تجرید (۳۰۷/۲)

\* المعجم الکبیر (۷۲/۲۵) مجمع الزوائد (۱۸۰/۱۶) جامع المسانید والسنن (۱۲۸/۱۶) اسد الغایۃ (۴۰۴/۵)

\* اسد الغایۃ (۷۳/۳) الاستیعاب (۳۵۵۶) تجرید (۳۰۷/۲)

\* ابن ماجہ (الحديث: ۲۱۳۱)

فرمایا: میں نے نذر مانی ہے کہ ہوانہ کے مقام پر اونٹ ذبح کروں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا اس جگہ کوئی بت یا طاغوت ہے؟“ انہوں نے کہا: نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”پھر اپنی نذر پوری کرو“۔ اور اسے مختصر نقل کیا ہے۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بحوالہ یزید بن ہارون، انہوں نے عبید اللہ بن یزید بن مقسم سے، انہوں نے اپنی پھوپھی سارہ بنت مقسم سے، انہوں نے میمونہ بنت کرم سے طویل حدیث نقل کی ہے۔ اس میں سے کچھ میں نے طارق بن مرتع کے سوانح میں ذکر کیا ہے۔ اس میں ہے: بحوالہ میمونہ، فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ میں کاتبوں کے درہ سے جیسا ایک درہ تھا میں نے دیہاتیوں کو کہتے سنا: طبطبۃ طبطبۃ (زمین پر کوڑا اور قدم لگنے کی آواز) میرے والد آپ کے قریب ہوئے، اور آپ کا پاؤں پکڑ لیا۔ آپ نے ان (میرے والد) کے لیے سواری روک لی۔ فرماتی ہیں: مجھے آپ کے پاؤں کی انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کی لمبائی بقیہ انگلیوں کے مقابلہ میں نہیں بھولے گی۔ میرے والد نے آپ سے عرض کیا: میں جیشِ عثران میں شریک تھا، حدیث جو طارق کے قصہ میں گزری ہے۔

### القسم الثانی از حرف میم

#### ۱۱۷۸۳ میمونہ بنت الولید

بن حارث بن عامر بن نوفل، عبد اللہ بن ابی ملیکہ جو مشہور تابعی ہیں، ان کی والدہ ہیں، رجال کے حصے میں حرف واؤ کے تحت ان کے والد کے سوانح میں ان کی روایت ہے۔

#### ۱۱۷۸۴ مریم بنت ایاس

بن کبیر لیثیہ۔ انہیں دیدار حاصل ہے، قسم اول میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

### القسم الثالث از حرف میم

#### ۱۱۷۸۵ مرجانہ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مولاۃ ہیں، معرفہ میں ان کا ذکر ہے۔

#### ۱۱۷۸۶ ملیکہ بنت خارجہ

بن سنان بن ابی حارث بن مرہ بن عوف، مستغفری نے محمد بن ثور کے طریق سے بحوالہ ابن جریج، انہوں نے عکرمہ کے حوالے سے ان کا ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں: اسلام نے ملیکہ بنت خارجہ بن سنان اور ان کے شوہر میں تفریق کرا دی۔ وہ زبان کی زوجہ تھیں، اس کے بعد اس کے بیٹے منظور نے ان سے نکاح کیا۔ ابو موسیٰ نے ذیل میں ان کا ذکر کیا ہے۔ میں کہتا ہوں: عمر بن شبہ نے کتاب مدینہ میں بحوالہ ابو عسان مدنی ذکر کیا ہے، فرمایا: میں مسجد نبوی ﷺ میں داخل ہوا،

\* مسند احمد (۳/۶۶) \* اسد الغابۃ (۷/۲۷۶) تجرید ...

\* اسد الغابۃ (۷/۲۸۷) تجرید (۳/۵/۲)

\* التفسیر (۱۳۳/۸) (۱۳۴) تفسیر ابن کثیر (۲/۲۱۴) اسد الغابۃ (۵/۳۹۹)

## الاصطلاح فی تفسیر الصحیح (جلد ۵) ۳۸۳

یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس میں دار عبدالرحمن بن عوف کا اضافہ کیا تھا جسے ملیکہ بنت خارجہ بن سنان بن ابی حارثہ کو ٹھہرایا، جب وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں مدینہ آئے تھے، وہ زبان بن سنیار کی زوجہ تھیں، وہ فوت ہو گئے تو اس کے بیٹے منظور نے ان سے نکاح کر لیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ انہیں مدینہ لائے اور ان دونوں کے درمیان تفریق کرا دی اور فرمایا: اس خاتون کو کون ٹھہرائے گا؟ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے فرمایا: میں۔ انہوں نے اس گھر میں انہیں ٹھہرایا، گھر کی نسبت ان کی طرف ہو گئی۔

میں نے رجال کے تحت حرف میم کی قسم اول میں منظور کے سوانح میں بیان کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں یہ قصہ پیش آیا ہے، لیکن احتمال ہے کہ وہ دو مرتبہ لائی گئی ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ کسی نے عہد نبوی ﷺ میں ان کے آنے کا ذکر کیا ہو۔ بخلاف منظور کے اس واسطے کہ میں نے ان کے قصہ میں جو بات ذکر کی ہے اس سے اس کا پتہ چلتا ہے۔

### ۱۱۷۸۷ ملیکہ

حلیہ شاعر کی والدہ ہیں، جن کے سوانح میں ان کا ذکر ہے، یہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ نبی کریم ﷺ کے زمانے تک زندہ رہیں۔

### ۱۱۷۸۸ مہد بنت حمران

بن بشر بن عمرو بن مرثد، سنان بن علقمہ بن حاجب کی والدہ ہیں، یہ تخمیں کی روایت ہے۔ سنان، ان کے بیٹے، اور ان کے دادا کا ذکر اپنی اپنی جگہ پر گزر چکا ہے۔ انہیں لازماً دو ربوہ نصیب ہوا ہے۔ میں نے ابوسعید بن سمعان کی کتاب الانساب کے مقدمہ میں ان کی سند سے جسے وہ یزید بن سنان بن علقمہ تک لے گئے ہیں، پڑھا کہ انہوں نے حج کیا، تو بنو مہرہ کا ایک آدمی انہیں ملا، اس نے نسب پوچھا تو ان دونوں کے درمیان بحث ہو گئی، یہاں تک کہ ان سے مہری نے کہا: علقمہ کا ایک بیٹا ہے جس کا نام سنان ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ فوت ہو چکا ہے، میں نے کہا: میں یزید ان کا بیٹا ہوں، اس نے کہا: کس بیوی سے؟ میں نے کہا: مہد بنت حمران سے، پھر وہ قصہ ذکر کیا۔

### ۱۱۷۸۹ میہ بنت مہرز

بنو حارث بن کعب سے ہیں جو اہل بصرہ سے ہیں۔ ابن سعد رحمہ اللہ نے ان کا ذکر ان لوگوں میں کیا ہے جنہوں نے نبی کریم ﷺ سے روایت نہیں کی، اور جید سند سے جو ان تک پہنچتی ہے روایت نقل کی ہے، فرماتی ہیں: میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہوئے سنا: ”اس اولاد کو حج کراؤ ان کے حصے مت کھاؤ اور ان کی رسیاں ان کے گلوں میں چھوڑ دو یعنی آزادی دو“۔

## التسم الرابع از حرف میم

## مزیدہ القصریہ ۱۱۷۹۰

ابونعیم نے ان کا ذکر کیا ہے اور قیس بن حفص کے طریق سے بحوالہ طالب بن خیر، انہوں نے ہود بن عبد اللہ بن سعد سے، انہوں نے اپنی دادی مزیدہ عصریہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے انصار کے جھنڈے بنائے اور انہیں زرد رنگ دیا۔  
 ابوموسیٰ کا قول ہے: اسی طرح مروی ہے، اور مزیدہ عورت نہیں بلکہ مرد ہیں، ابونعیم نے رجال میں ان کا صحیح تذکرہ کیا ہے۔ ابن اثیر نے ابوموسیٰ کے کلام کی طرح ذکر کیا، پھر فرمایا: وہ مرد ہیں، اور عورتوں میں ان کا ذکر وہم ہے۔ بخاری رحمہ اللہ کا قول ہے: مزیدہ عصری انہیں شرف صحابیت حاصل ہے، ان سے ہود نے روایت کی، اور ان کا شمار بصریوں میں ہوتا ہے، اسی طرح کئی ایک نے ان کا ذکر کیا ہے۔  
 میں کہتا ہوں: رجال کے تحت حرف میم میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

## میمونہ بنت سعد ۱۱۷۹۱

یہ وہی ہیں جن سے امیہ بنت عمر بن عبد العزیز نے روایت کی، بعض نے میمونہ بنت سعد، خادم النبی ﷺ سے الگ ان کا ذکر کیا ہے۔ میں نے قسم اول میں ان کے بارے میں وضاحت کر دی ہے اور ان کا علیحدہ ذکر ان کے بارے میں وہم ہے، کیونکہ ان کی روایت میں ان کا نسب مذکور نہیں۔



اسد الغابۃ (۷۲۷۸) تجرید (۳۰۴/۲)

جامع المسانید والسنن (۹۹/۱۶) اسد الغابۃ (۳۹۶/۵)

اسد الغابۃ (۳۹۶/۵) التاريخ الكبير (۳۰/۸)

اسد الغابۃ (۷۲۹۹) الاستيعاب (۳۵۵۴) تجرید (۳۰۶/۲)



## حرف نون

### القسم الاول از حرف نون

#### ۱۱۷۹۲ نائلہ بنت الربیع \*

بن قیس بن عامر بن غبادہ بن ابجر، وہ خدرہ بن عوف بن حارث بن خزرج انصاریہ ہیں، جو عبد اللہ بن ربیع بدری کی بہن ہیں۔ ابن سعد \* نے ان کا ذکر کیا ہے اور فرمایا: ان کی والدہ فاطمہ بنت عمرو بن عطیہ ہیں، جو بنو مازن بن نجار سے، ان سے اوس بن خالد بن قرط بن قیس بن وہب نے نکاح کیا جو بنو مالک بن نجار سے ہیں، اسلام لائیں اور بیعت کی۔

#### ۱۱۷۹۳ نائلہ بنت سعد \*

بن مالک انصاریہ، بنو ساعدہ سے ہیں۔ ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ \*

#### ۱۱۷۹۴ نائلہ بنت سلامہ \*

بن وقش، سلمہ بن سلامہ جن کا ذکر گزر چکا ہے اور ام عمرو بنت سلامہ کی بہن ہیں۔ ابن سعد \* نے ان کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا: اسلام لائیں اور بیعت کی، فرماتے ہیں: ان کی والدہ ام عمرو بنت تیک بن عمرو جشمیہ ہیں، فرمایا: عبد اللہ بن سہل بن عمرو بن عزیہ سے نکاح کیا، اس کے بعد قیس بن کعب بن قین سلیمی سے نکاح کیا، جس سے سہل بن قیس پیدا ہوئے جو غزوہ احد میں شہید ہوئے۔

#### ۱۱۷۹۵ نائلہ بنت عبید \*

بن ثمر بن عمرو بن جعد بن مبزل، بنو مازن بن نجار انصاریہ سے ہیں جو بنو ساعدہ سے ہیں، ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا شمار کیا ہے۔ \* اور فرمایا: ان کی والدہ رقیہ بنت اوس بن خالد بن جعد ہیں، ان سے معمر بن حزم بن زید بن لوذان نے نکاح کیا جس سے عبد الرحمن پیدا ہوئے۔

#### ۱۱۷۹۶ نبعہ الحبشیہ \*

حضرت ام ہانی کی باندی ہیں۔ ابو موسیٰ نے ذیل میں ان کا ذکر کیا ہے، اور کلبی کے طریق سے بحوالہ ابو صالح مولیٰ ام ہانی

\* تجرید (۳۰۷/۲) \* الطبقات الکبریٰ (۳۰۷/۲) \* اسد الغابہ (۷۳۰/۵) تجرید (۳۰۷/۲)

\* اسد الغابہ (۴۰۶/۵) \* تجرید (۳۰۷/۲) \* الطبقات الکبریٰ (۲۸۹/۲)

\* تجرید (۳۰۷/۲) \* اسد الغابہ (۴۰۶/۵) \* اسد الغابہ (۷۳۰/۵) تجرید (۳۰۷/۲)

بنت ابوطالب نے رسول اللہ ﷺ کی اسراء کے بارے میں روایت کی، فرماتی ہیں: جب اسراء کا واقعہ پیش آیا اس رات آپ ﷺ ہمارے ہاں تھے، آپ ﷺ نے عشاء کی نماز پڑھی پھر سو گئے، ہم بھی سو گئے، صبح ہم نماز پڑھنے کے لیے اُٹھے اور آپ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے ام ہانی! میں نے عشاء کی نماز پڑھی جیسا کہ تم نے دیکھا، پھر میں بیت المقدس گیا، اس میں نماز پڑھی، پھر تم لوگوں کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی“۔ پھر آپ ﷺ جانے کے لیے کھڑے ہوئے تو میں نے آپ ﷺ کی چادر کا پتہ پکڑا۔ میں نے کہا: اے اللہ کے نبی ﷺ! اس بات کو لوگوں سے بیان نہ کریں، وہ اسے جھٹلائیں گے اور آپ کو ایذا دیں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کی قسم! میں اسے ضرور بیان کروں گا“۔

راوی بیان کرتے ہیں: وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی جھٹی باندی سے کہا جسے نبعہ کہا جاتا تھا، لری! رسول اللہ ﷺ کے پیچھے جا اور دیکھ کہ وہ لوگوں سے کیا فرماتے ہیں اور وہ انہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ جب رسول اللہ ﷺ لوگوں کے پاس گئے اور انہیں بتایا تو وہ تعجب کرنے لگے، اور کہنے لگے: اے محمد (ﷺ)! اس کی کیا نشانی ہے؟.... پھر وہ حدیث ذکر کی۔

میں کہتا ہوں: اسے ابویعلیٰ نے یحییٰ بن ابی عمرو شیبانی کے طریق سے بحوالہ ابوصالح مولیٰ ام ہانی، انہوں نے حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا سے روایت کیا، فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ اندھیرے میں ہمارے ہاں تشریف لائے، اس وقت ہم سو رہے تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا تمہیں معلوم ہے میں رات مسجد حرام میں سویا، تو میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے....“۔ پھر بیت المقدس کی طرف سفر کے بارے میں حدیث نقل کی، راوی فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا: میں نے اپنی باندی نبعہ سے کہا، آپ ﷺ کے پیچھے جاؤ اور دیکھو وہ لوگوں سے کیا فرماتے ہیں اور وہ انہیں کیا جواب دیتے ہیں؟ فرماتی ہیں: جب نبعہ آئی تو مجھے بتایا کہ آپ ﷺ قریش کی ایک جماعت کے پاس گئے.... (الحدیث)

اس حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے بیت المقدس کے بارے میں بتایا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے کہ آپ ﷺ نے سچ کہا۔ فرماتی ہیں: میں نے اس دن رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ”اے ابوبکر! اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام صدیق رکھا ہے۔“

میں کہتا ہوں: یہ کلمی رضی اللہ عنہ کی روایت سے زیادہ صحیح ہے کہ ان کی روایت میں منکر حصے ہیں کہ آپ ﷺ نے عشاء اور صبح کی نماز ان کے ساتھ پڑھی جبکہ معراج کی رات نماز فرض ہوئی تھی، اسی طرح حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر اس رات سونا، جبکہ آپ ﷺ مسجد میں سوئے تھے۔

۱۱۷۹۷ نبیۃ

نبیۃ میں ان کا تذکرہ گزر چکا ہے۔

جامع المسانید والسنن (۵۷۹/۱۰) تفسیر طبری (۳/۱۵) اسد الغابۃ (۴۰۶/۵)

جامع المسانید والسنن (۵۷۹/۱۶) (۵۸۰) تفسیر طبری (۳/۱۵) اسد الغابۃ (۴۰۶/۵)

اسد الغابۃ (۷۳۰/۶) تجرید (۳۰۷/۲)

## نُسبہ

۱۱۷۹۸

بنت قیس بن جریر بن عمرو بن عوف بن مبذول انصاریہ، بنو مازن سے ہیں، ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔

## نُدبہ

۱۱۷۹۹

حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی مولاہ ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ان کا تذکرہ ہے۔ ابن مندہ رحمہ اللہ نے مختصر ان کا ذکر کیا ہے۔

## نُسبہ بنت ثابت

۱۱۸۰۰

بن عمیر، ابن جوزی نے تنقیح میں ان کا ذکر کیا ہے۔

## نُسبہ

۱۱۸۰۱

تغیر کے ساتھ ہے، بنت حارث انصاریہ، ام عطیہ ہیں، کنیتوں میں ان کا ذکر آئے گا۔

## نُسبہ بنت رافع

۱۱۸۰۲

بن معلیٰ بن لوذان بن حارث بن عدی بن زید بن ثعلبہ انصاریہ اوسیہ، ابوسعید بن اوس بن معلیٰ کی زوجہ ہیں جو ان کی چچا زاد ہیں، ان کی والدہ بنو عبد اللہ بن غطفان سے ہیں، اسلام لائیں اور بیعت کی، یہ ابن سعد کا قول ہے۔

## نُسبہ

۱۱۸۰۳

بنت سماک بن نعمان بن قیس بن عمرو بن امیہ بن زید بن مالک بن عوف بن عمرو بن عوف بن اوس، انصاریہ، اوسیہ۔ ان کی والدہ قسامہ بنت عبد اللہ بن امیہ بن عبید بن عمرو بن زید ہیں، ان سے عثمان بن طلحہ عبد ری نے جاہلیت میں نکاح کیا جس سے اولاد ہوئی، اس کے بعد ان کے رشتے داروں میں سے بجاد بن عثمان بن عامر بن جمح نے نکاح کیا۔ نُسبہ اسلام لائیں اور بیعت کی، یہ ابن سعد رحمہ اللہ کا قول ہے۔

## نُسبہ بنت ابی طلحہ

۱۱۸۰۴

ان کا نام ثابت بن عصیمہ بن زید بن مخلد ہے، بنو طلحہ سے ہیں، جو اوس سے ہے، انصاریہ، بنو طلحہ سے ہیں۔ محمد بن سعد نے نبی کریم ﷺ سے بیعت کرنے والوں میں ان کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا: ان کی والدہ ام طلحہ بنت مخلد بن زید بن مخلد ہے۔

اسد الغابۃ (۷۳۰۸) تجرید (۳۰۷/۲) \* اسد الغابۃ (۴۰۶/۵) \* اسد الغابۃ (۷۳۰۹) تجرید (۳۰۷/۲)

اسد الغابۃ (۴۰۶/۵) \* تجرید (۳۰۷/۲) \* الاستیعاب (ت: ۳۵۵۸) \* تجرید (۳۰۸/۲)

الطبقات الکبریٰ (۲۶۰/۸)

ایک قابل اعتماد نسخے میں ان کا نام نون کے زیر کے ساتھ ہے۔

۱۱۸۰۵ نسبیہ

بنت کعب بن عمرو بن عوف بن عمرو بن مبدول بن عمرو بن غنم بن مازن بن نجار انصاریہ، ام عمارہ اپنے نام اور کنیت دونوں سے مشہور ہیں۔ ابن سعدؒ نے یونس بن کثیر وغیرہ کی ان سے مروی روایت میں بیعت عقبہ ثانیہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: بنو خزرج سے باسٹھ مرد اور دو عورتیں تھیں، مؤرخین کا بیان ہے کہ دو عورتوں نے نبی کریم ﷺ سے بیعت کی اور آپ ﷺ عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتے تھے۔ آپ ﷺ ان سے عہد لیتے، جب وہ اقرار کر لیتیں تو آپ ﷺ فرماتے: ”جاؤ“۔ دو عورتیں یہ ہیں: بنو مازن بن نجار سے نسبیہ اور ان کی بہن جو کعب کی بیٹیاں ہیں، پھر نسب بیان کیا، اور فرمایا: ان کے ساتھ ان کے شوہر زید بن عاصم اور ان کے دو بیٹے حبیب جن کو بعد میں مسلمہ نے شہید کیا، اور عبد اللہ جو حدیث الوضو کے راوی ہیں۔

واقذیؒ نے ذکر کیا ہے، جب انہیں معلوم ہوا کہ مسلمہ نے ان کے بیٹے کو شہید کر دیا ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ مسلمہ کو قتل کریں گی یا خود شہید ہوں گی۔ یمامہ میں حضرت خالد بن ولید کے ساتھ شریک تھیں، ان کے ساتھ ان کا بیٹا عبد اللہ تھا۔ مسلمہ مارا گیا اور لڑائی میں ان کا ہاتھ کٹ گیا، ابو عمر فرماتے ہیں: غزوہ اُحد میں وہ اپنے شوہر زید بن عاصم کے ساتھ شریک تھیں۔

میں کہتا ہوں: ابن ہشام نے زیادات میں ام سعد بنت سعد بن ربیع کے طریق سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: میرے پاس ام عمارہ آئیں، میں نے پوچھا: اے خالہ! مجھے بتائیے؟ انہوں نے کہا: میں اُحد کے دن نکلی میرے ساتھ پانی کا مشکیزہ تھا۔ ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے، اس وقت آپ ﷺ اپنے اصحاب کے پاس تھے، غنیمت اور فتح اس وقت مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا اور انہیں دبدبہ حاصل تھا۔ جب مسلمانوں کو شکست ہونے لگی تو میں رسول اللہ ﷺ کی طرف چلی اور کفار سے قتال کرنے لگی اور انہیں تلوار کے ساتھ آپ ﷺ سے دور کرنے اور تیر اندازی کرنے لگی، یہاں تک کہ مجھے زخم آئے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان کے کندھے پر گہرا زخم دیکھا۔ میں نے پوچھا: آپ کو یہ کس نے مارا؟ کہنے لگیں: ابن قُمیہ نے۔

ابو عمر کا قول ہے: بیعت رضوان میں حاضر تھیں، پھر یمامہ میں شریک ہوئیں، اس میں ان کا ہاتھ کٹ گیا اور بارہ زخم آئے، انہوں نے نبی کریم ﷺ سے یہ روایت کی: ”روزہ دار کے سامنے جب تک کھایا جاتا رہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔“

میں کہتا ہوں: ان کے بیٹے عباد بن حمیم، ان کی مولا لیلیٰ، عکرمہ، حارث بن کعب، ام سعد بن ربیع نے ان سے روایت کیا، سنن اربوہ میں ان کی حدیث مروی ہے۔

اسد الغابۃ (۱۷۳۱۱) تجرید (۳۰۸/۲)

السیرۃ النبویۃ (۸۳/۲)

ترمذی (۷۸۵) الإكمال (۲۵۹/۱۷)

### ۱۱۸۰۶ نسیبہ بنت نیار \*

بن حارث انصاریہ، بنو ججیبی سے ہیں۔ ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا شمار کیا ہے۔ ابن اثیر نے بھی ام عمارہ کے بعد ان کا ذکر کیا ہے، جس کا تقاضا ہے کہ نوں پر زبر ہے۔ ان کا نام تصغیر کے ساتھ گزر چکا ہے۔

### ۱۱۸۰۷ نسیبہ بنت نیار \*

بن حارث بن بلال بن اجمہ بن جراح انصاریہ، ان کے رشتہ داروں میں سے عقبہ بن عبدود بن عقبہ بن اجمہ بن جراح نے ان سے نکاح کیا۔ اسلام لائیں اور بیعت کی، یہ ابن سعد \* کا قول ہے، میں نے طبقات کے قابل اعتماد نسخے میں تصغیر کے ساتھ لکھا دیکھا ہے۔ بعض کا قول ہے: زبر کے ساتھ ہے، جیسا کہ آگے آئے گا۔

### ۱۱۸۰۸ نسیکہ \*

عمرو بن جلاس کی والدہ ہیں، ان سے حبیبہ بنت سمعان نے روایت کی، طبرانی \* ابراہیم بن اسماعیل بن ابی حبیبہ سے، انہوں نے حبیبہ بنت سمعان سے، انہوں نے نسیکہ بنت عمرو بن جلاس سے روایت کیا، فرماتی ہیں: میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھی، انہوں نے اپنی بکری ذبح کی، رسول اللہ ﷺ تشریف لائے، آپ ﷺ کے ہاتھ میں لٹھی تھی، آپ نے اسے پھینک دیا پھر مسجد کی طرف تشریف لے گئے، آپ ﷺ نے اس میں دو رکعت نماز پڑھی پھر اپنے بستر پر آئے اور اس پر دراز ہو گئے، پھر فرمایا: ”کیا کھانے کی کوئی شے ہے؟“ ہم آپ ﷺ کے پاس ایک پیالہ لائے، اس میں جو کی روٹی اور ایک گلزا، تھوڑی سی اوجھ اور کندھے کا گوشت تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اوجھ کا گلزا لیا اور اسے دانتوں سے نوچنے لگیں، میں نے کہا: ہم نے آج بکری ذبح کی، جس میں سے اس کے علاوہ کچھ نہیں بچا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”نہیں! بلکہ اس کے علاوہ سب بچا لیا۔“

### ۱۱۸۰۹ نعامہ \*

بنو نمبر کے قیدیوں میں سے تھیں، حسین و جمیل تھیں۔ نبی کریم ﷺ نے انہیں شادی کی پیشکش کی، کچھ ہی عرصے بعد ان کے شوہر حریش آ گئے۔ \*  
حرف حاء میں حریش جن کا ذکر ہے، کے سوانح میں یہ سند کے ساتھ گزر چکا ہے۔

### ۱۱۸۱۰ نغمہ \*

بنت حسان، حضرت شماس بن عثمان مخزومی کی زوجہ تھیں، ابن اسحاق \* نے ان کے وہ اشعار نقل کیے ہیں جو انہوں نے

\* اسد الغابہ (۷۳۱۲) تجرید (۳۰۸/۲) \* اسد الغابہ (۴۰۷/۵)

\* الطبقات الکبریٰ (۲۵۶/۸) \* اسد الغابہ (۷۳۱۳) تجرید (۳۰۸/۲)

\* المعجم الکبیر (۸۳/۲۵) \* اسد الغابہ (۷۳۱۴) تجرید (۳۰۸/۲)

\* اسد الغابہ (۴۰۸/۵) \* اسد الغابہ (۷۳۱۵) تجرید (۳۰۸/۲)

\* السیرۃ النبویہ (۱۳۳/۳)

اپنے خاوند کی احد میں شہادت کے موقع پر مرثیہ میں کہے تھے: ع

”اے میری آنکھ! بلا رکاوٹ آنسو بہاتی چلی جا ایسے نوجوان پر جو شرافت والا اور دشمنوں کو چمہ دینے والا تھا۔ اس کا بے ساختہ حملہ بڑا سخت ہوتا تھا وہ بڑے بخت و نصیب والا تھا۔ اکثر جھنڈا اس کے ہاتھ ہوتا اور یکے بعد دیگرے کئی گھوڑوں پر سوار ہوتا تھا۔ جب اس کی عدم موجودگی کی وجہ سے مجالس خالی ہو گئیں تو میں کہتی ہوں: ہم سے شام کا قرب دور نہ ہوا“

ابن دباغ\* نے بحوالہ ابوعلی الغسانی اپنے استدراک میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۸۱۱) نَعْمَى بِنْتُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ\*

ابن مندہ کا قول ہے کہ ان کا ذکر موجود ہے، اور ان سے کوئی حدیث مروی نہیں۔

میں کہتا ہوں: طبرانی رحمہ اللہ نے عبد الوہاب بن عطاء کے طریق سے، بحوالہ ابن جریج، انہوں نے عطاء سے، انہوں نے اسماء بنت عمیر سے اسے مسنداً نقل کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے نعمی بنت جعفر بن ابی طالب سے فرمایا: ”کیا وجہ ہے کہ جعفر کے بیٹے کمزور نظر آ رہے ہیں، کیا انہیں فقر و فاقہ ہے؟“ انہوں نے کہا: نہیں، انہیں نظر بہت جلد لگ جاتی ہے۔ کیا میں انہیں دم کر دوں؟ فرماتی ہیں: میں نے آپ ﷺ کے سامنے ایسے کلمات پڑھے جن میں کوئی ضرر نہیں تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”انہیں دم کر دو“۔\* ابن اثیر\* کا قول ہے: یہ خبر معروف حضرت اسماء بنت ابی بکر کے بارے میں ہے، مجھے معلوم نہیں کہ یہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی اولاد کے بارے میں ہے۔

میں کہتا ہوں: مجھے لگتا ہے کہ اس حدیث میں لفظی غلطی ہے۔ صحیح یہ ہے کہ آپ ﷺ نے انہیں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر میں یہ فرمایا.... الخ۔

### ۱۱۸۱۲) نَفِيسَةُ بِنْتُ أُمِيَّةٍ\*

حضرت یعلیٰ کی بہن ہیں، ان کے بھائی کے سوانح میں ان کا نسب گزر چکا ہے۔ ابو عمر کا قول ہے: انہیں شرف صحابیت اور روایت حاصل ہے۔ ابن سعد\* کا قول ہے: ان کی والدہ منیہ بنت جابر بن وہب ہیں، نفیسہ بنت منیہ اسلام لائیں، یہ وہی ہیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس نبی کریم ﷺ کا پیغام نکاح لے کر گئی تھیں، یہاں تک کہ آپ ﷺ نے ان سے نکاح کیا۔

### ۱۱۸۱۳) نَفِيسَةُ بِنْتُ ثَعْلَبَةٍ

انیسہ کے سوانح میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

\* اسد الغابۃ (۴۰۸/۵) \* اسد الغابۃ (۷۳۱۶) تجرید (۳۰۸/۲)

\* المعجم الكبير (۸۱/۲۵) \* مسند احمد (۴۳۸/۶)

\* اسد الغابۃ (۴۰۸/۵) \* اسد الغابۃ (۷۳۱۷) الاستیعاب (۳۵۵۹) تجرید (۳۰۷/۲)

\* الطبقات الكبرى (۱۷۸/۸)

### ۱۱۸۱۳ نفیسه بنت عمرو

بن خلدہ بن محمد الانصاری۔ بنو زریق سے ہیں، ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۸۱۵ نفیسه جاریہ زینب بنت جحش

جب نبی کریم ﷺ ان سے ناراض ہوئے اور ایک مہینہ انہیں چھوڑے رکھا تو راضی ہونے کے بعد انہیں آپ ﷺ کو ہبہ کر دیا۔ علی بن احمد بن یوسف نے کتاب اخبار النساء میں ان کا نام لیا ہے، اصل قصہ مسند احمد میں ہے، انہوں نے ان کا نام نہیں لیا۔

### ۱۱۸۱۶ نھیه (ام ولد عمر)

حرف لام میں لہیہ میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

### ۱۱۸۱۷ النُّوَارِ بنت حارث بن قیس

انصاریہ۔ قتیلی بن عمرو کی زوجہ ہیں، ابن سعد نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۸۱۸ النُّوَارِ بنت قیس بن حارث

بن عدی بن جشم بن مجروح بن حارث انصاریہ۔ عدوی نے انصار کے نسب میں ان کا ذکر کیا ہے، ابوعلی بیکانی نے اپنے استدراک میں ان کا ذکر کیا ہے، ابن سعد کا قول ہے: ان کے والد کی کنیت ان کے نام پر تھی، ان سے زید بن ثورہ بن حارث بن عدی بن جشم نے نکاح کیا، جس سے غازی پیدا ہوئے، نوار اسلام لائیں اور رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

### ۱۱۸۱۹ النُّوَارِ بنت قیس

بن لوزان بن عدی بن مجروح انصاریہ۔ ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۸۲۰ النُّوَارِ بنت مالک

بن صرمہ بن مالک بن عدی بن نجار، انصاریہ۔ بنو عدی بن غنم بن نجار سے ہیں۔ ابن سعد کا قول ہے: ان کی والدہ سلمی بنت عامر بن مالک بن عدی ہیں، جو زید بن ثابت کی والدہ ہیں جو مشہور صحابی اور یزید کے بھائی ہیں، انہوں نے نبی کریم ﷺ سے روایت کی، اور ان سے ام سعد، بنت اسعد بن زرارہ نے روایت کیا۔ حضرت ثابت کے بعد ان سے عمارہ بن حزم نے نکاح کیا، جس سے مالک پیدا ہوئے۔ اور ثابت بن عئید کے طریق سے ذکر کیا، فرماتے ہیں: زید بن ثابت نے اپنی والدہ کی نماز جنازہ

اسد الغابۃ (۷۳۱۸) تجرید (۳۰۸/۲) المحبر (۴۲۵) اسد الغابۃ (۷۳۱۹) تجرید (۳۰۸/۲)

تجرید (۳۰۸/۲) الطبقات الکبریٰ (۲۵۵/۸) اسد الغابۃ (۷۳۱۹) تجرید (۳۰۸/۲)

اسد الغابۃ (۲۵۵/۸) اسد الغابۃ (۷۳۱۹) تجرید (۳۰۸/۲)

اسد الغابۃ (۷۳۲۱) الاستیعاب (۳۵۶۰) تجرید (۳۰۸/۲) اسد الغابۃ (۴۰۹/۵)

میں چار تکبیریں کہیں۔

### ۱۱۸۲۱) نُوْبِہ خَادِمِ النَّبِیِّ ﷺ

ابوموسیٰ نے خواتین میں ان کا ذکر کیا ہے، \* اور عبدالغنی بن سعید نے مہمات میں ان کا نسب بیان کیا ہے۔ حدیث زائدہ میں بحوالہ عاصم، انہوں نے ابوواکل سے، انہوں نے مسروق سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ان کا ذکر کیا ہے، فرماتی ہیں: نبی کریم ﷺ شدید بیمار ہوئے، آپ ﷺ کے مرض کی شدت کم ہوئی تو حضرت بریرہ اور نوبہ کے سہارے باہر تشریف لائے۔ میں کہتا ہوں: اس میں تصریح نہیں کہ وہ خاتون ہے، سیف بن عمر کی کتاب الرذۃ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مرد ہیں، بحوالہ مسلمہ بن غنیم، انہوں نے نعیم بن ابی ہند سے، انہوں نے شقیق بن سلمہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے، فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز شروع کراچکے تھے۔ آپ ﷺ نے غلام نوبہ اور بریرہ کا سہارا لیا، پھر حدیث ذکر کی۔ لیکن یعقوب بن سفیان نے اپنی تاریخ میں اسے معتمر بن سلیمان کے طریق سے بحوالہ نعیم بن ابی ہند اس سند سے اسے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: نوبہ اور بریرہ آنکھیں اور آپ ﷺ کو سہارا دیا۔۔۔۔۔ (الحدیث) ابوموسیٰ نے بھی اسے اپنے طریق سے نقل کیا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خاتون ہیں، اگر وہ مرد ہوتے تو مذکر کا صیغہ استعمال کرتے۔ اسی بناء پر انہوں نے کہا ان دونوں مردوں نے آپ ﷺ کو سہارا دیا۔

### ۱۱۸۲۲) نُوْبِہ بنتِ اَسْلَم

یا مسلم النصار یہ حارثیہ، بعض کا قول ہے: نوبہ۔ اسحاق بن ادریس نے بحوالہ جعفر بن محمود اسے نون کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ابراہیم بن حمزہ کی روایت گزر چکی، وہ زیادہ قابل اعتماد ہے۔  
نوٹ: قسم ثانی اور قسم ثالث دونوں خالی ہیں۔

### القسم الرابع از حرف نون

### ۱۱۸۲۳) نُبِیْشہ بنتِ کعب

بعض نے ان کے نام میں لفظی غلطی کی ہے۔ یہ ام عمارہ وہی ہیں جن کا کتبوں میں ذکر ہے۔



\* اسد الغابۃ (۷۳۲۲) تجرید (۳۰۸/۲) \* اسد الغابۃ (۴۰۹/۵)

\* اسد الغابۃ (۷۳۲۳) الاستیعاب (۳۵۶۱) تجرید (۳۰۹/۲)



## حرف الھاء

### القسم الاول از حرف ھاء

#### ۱۱۸۲۳ ھالۃ بنت خويلد \*

بن اسد بن عبد العزی قرشیہ، اسدیہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہن ہیں جو نبی کریم ﷺ کی زوجہ ہیں۔ ابوالعاص بن ربیع کی والدہ ہیں۔ ابن مندہ کا قول ہے: ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کچھ حدیث کا کثرتاً نقل کیا ہے۔ ایسے انہوں نے اسے مختصر کیا ہے شاید انہوں نے صحیح میں بخاری رحمہ اللہ کی روایت کی طرف اشارہ کیا ہے جو علی بن مسہر کے طریق سے بحوالہ ہشام بن عروہ، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے۔ فرماتی ہیں: حضرت ہالہ بنت خویلد جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہن ہیں، نبی کریم ﷺ سے آنے کی اجازت طلب کی، آپ ﷺ کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا اجازت طلب کرنا یاد آ گیا۔ آپ ﷺ گھبرا گئے، اور فرمایا: ”یہ تو ہالہ ہیں“۔ مجھے غیرت آئی اور میں نے کہا: آپ قریش کی ایک بڑھیا کو یاد کرتے ہیں..... (المحدث) اسے ابو نعیم نے اس طریق سے نقل کیا ہے، اصل حدیث صحیحین میں ہے، جس میں ہالہ کا ذکر نہیں۔

#### ۱۱۸۲۵ ھالہ بنت عوف الزھریہ \*

ان کے بھائی عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کا نسب گزر چکا ہے۔ دارقطنی رحمہ اللہ نے حنظلہ بن ابی سفیان جمحی کے طریق سے بحوالہ اپنی والدہ روایت کیا ہے، فرماتی ہیں: میں نے دیکھا کہ عبد الرحمن بن عوف کی بہن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہیں۔ امام رافعی رحمہ اللہ نے شرح الوجیز میں کتاب الکفایۃ میں ان کا نام ھالۃ لکھا ہے۔

#### ۱۱۸۲۶ ھجیمہ \*

بعض کا قول ہے: یہ صماء کا نام ہے جو حضرت عبداللہ بن مسر کی بہن ہیں۔

#### ۱۱۸۲۷ ھریرہ بنت زعمہ القرشیہ \*

اسدیہ، ام المومنین حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کی بہن ہیں، ان کی بہن کے سوانح میں ان کا نسب گزر چکا ہے، طبری رحمہ اللہ نے صحابہ رضی اللہ عنہم میں ان کا ذکر کیا ہے۔ مستغفری رحمہ اللہ کا قول ہے: انہیں شرف صحابیت حاصل ہے۔ معبد بن وہب عبدی کے سوانح میں

\* اسد الغابۃ (۷۳۲۴) تجرید: ۳۰۹/۲ \* بخاری (حدیث: ۳۸۲۱)

\* اسد الغابۃ (۷۳۲۶) تجرید: ۳۰۹/۲

گزر چکا ہے کہ انہوں نے ان سے نکاح کیا۔

### ہزیلہ بنت ثابتؓ

(۱۱۸۲۸)

بن ثعلبہ بن جلاس بن مالک، اغر انصاریہ، ابن حبیبؓ نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ ابن سعدؒ کا قول ہے: ان سے ثابت بن حارث بن ثعلبہ بن جلاس نے نکاح کیا، ان کے بعد عبدالرحمن بن ساعدہ نے نکاح کیا، ابن سعد کا قول ہے: ہزیلہ اسلام لائیں اور بیعت کی۔

### ہزیلہ بنت الحارثؓ

(۱۱۸۲۹)

بن حزن ہلایہ، ام المومنین حضرت میمونہ کی بہن ہیں، بعض کا قول ہے: یہ ام ہفید ہیں، کئیوں میں جن کا ذکر آ رہا ہے۔ یہ ابو عمر کا قول ہے: فرماتے ہیں: انہوں نے دیہات میں شادی کی، یہ وہی ہیں جنہوں نے گوہ ہدیہ میں دی، سلیمان بن یسار وغیرہ نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے ان کی حدیث روایت کی۔

میں کہتا ہوں: امام مالکؒ نے اسے موطاؓ میں بحوالہ عبدالرحمن بن ابی صعصعہ، انہوں نے سلیمان بن یسار سے روایت کی، فرماتے ہیں: نبی کریم ﷺ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے تو وہاں گوہ کا سالن تھا، آپ ﷺ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ کہاں سے آیا؟“ انہوں نے کہا: میری بہن ہزیلہ بنت حارث نے مجھے یہ ہدیہ میں دیا۔ آپ ﷺ نے حضرت عبداللہ اور خالد رضی اللہ عنہما سے فرمایا: ”کھاؤ۔“ ان دونوں نے کہا: کیا آپ ﷺ نہیں کھائیں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے۔“ صحیحین میں اصل حدیث سعید بن جبیر کے طریق سے بحوالہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مروی ہے، فرماتی ہیں: میری خالہ ام ہفید بنت حارث نے نبی کریم ﷺ کی طرف، گھی، پنیر اور گوہ ہدیہ میں بھیجی، آپ ﷺ نے ان عورتوں کو بلایا اور انہوں نے دسترخوان پر ان چیزوں کو کھایا..... (الحدیث) اسے ابوداؤد وغیرہ نے عمر بن خرملہ کی روایت سے بحوالہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کیا ہے۔ مسند ابن ابی عمر عدنی میں اس طریق سے ح کے بجائے عین کے ساتھ ام شقیق مروی ہے۔ معروف ام ہفید ہے۔ واللہ اعلم!

### ہزیلہ بنت سعیدؓ

(۱۱۸۳۰)

بن سہیل بن مالک بن کعب بن عبدالاشہل بن حارث بن دینار بن نجار انصاریہ۔ ابن سعدؓ اور ابن حبیبؓ نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے، ابن سعد کا قول ہے: ان کی والدہ خباب بنت خدیجہ بن اوس بن قراقر بن ضحیان ہیں، جو بنو حرام کے حلیف تھے۔

اسد الغابۃ (۷۳۲۷) تجرید (۳۰۹/۲) المحبر (۴۲۱) الطبقات الکبریٰ (۲۶۳/۸)

اسد الغابۃ (۷۳۲۸) الاستیعاب (۳۵۶۲) تجرید (۳۰۹/۲) مؤطا مالک (الحدیث: ۱۸۵۶)

اسد الغابۃ (۷۳۲۹) تجرید (۳۰۹/۲) الطبقات الکبریٰ (۳۲۰/۸)

### ۱۱۸۳۱) ہزیلہ بنت عتبہ \*

بن عمرو بن خدیج بن عامر بن بشم بن حارث بن خزرج انصاریہ۔ زید بن خارجہ کی والدہ ہیں۔ جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں موت کے بعد بات کی تھی۔ ابن سعد رضی اللہ عنہ کا قول ہے: اسلام لائیں اور بیعت کی۔

### ۱۱۸۳۲) ہزیلہ بنت مسعود \*

بن زید انصاریہ، بنو حرام سے ہیں: ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ \*

### ۱۱۸۳۳) ہمینہ بنت خلف \*

بن اسعد بن عامر بن بیاضہ بن ربیعہ خزاعیہ، ابن سعد کا قول ہے: اسلام کے ابتدائی دور میں اسلام لائیں، اور اپنے شوہر خالد بن سعید کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی، وہاں سعید اور اُمّہ پیدا ہوئے، ابن زبیر اس کے بعد اُمّہ سے شادی کی۔

### ۱۱۸۳۴) ہند بنت ابی بن خلف \*

حمیہ، مسعود بن امیہ بن خلف کی زوجہ اور ان کے بیٹے عامر کی والدہ ہیں، زبیر بن بکار نے ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۸۳۵) ہند بنت اثاثہ \*

بن عباد بن مطلب بن عبد مناف، قرشیہ، مطلبیہ۔ مسطح کی بہن ہیں۔ ابن اسحاق کا قول ہے: مکہ میں اسلام لانے والوں میں ان کا ذکر کیا ہے۔ اُحد کے واقعہ میں فرمایا: جب ہند بنت عتبہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے مسلمانوں کے قتل کی وجہ سے فخر کرنے لگی اور ایک بلند ٹیلے پر چڑھ کر بلند آواز سے پکارا: ع

”ہم نے تمہیں بدر کا بدلہ دیا ہے جنگ کے بعد جنگ بھڑکے گی۔ عتبہ کے بارے مجھ سے صبر نہیں ہو سکتا، میرا والد، میرا چچا اور میرا جوان سال بھائی مارا گیا۔ وحشی نے میرے دل کی بھڑاس نکال دی۔ میرا جی بھی خوش ہو گیا اور میری نذر بھی پوری ہو گئی۔“

فرماتے ہیں، انہیں ہند بنت اثاثہ بن مطلب نے جواب دیا: ع

”مجھے بدر کیا، بدر سے باہر بھی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اے بڑے والے واقعہ ہونے والے کی بیٹی! صبح کے تڑکے، دراز قد، بارونق چہروں والے ہاشمیوں سے اللہ تعالیٰ تیرا سامنا کرائے۔ جن میں دولتِ مملواری کاٹ کر جدا کرنے والے ہوں گے: حمزہ میرا شیر اور علی میرا شکرہ ہے۔“

- |                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| اسد الغابۃ (۷۳۳۰) تجرید (۳۰۹/۲) | الطبقات الکبریٰ (۲۶۴/۸) |
| اسد الغابۃ (۷۳۳۱) تجرید (۳۰۹/۲) | الطبقات الکبریٰ (۲۹۷/۸) |
| اسد الغابۃ (۷۳۳۲) تجرید (۳۰۹/۲) | الطبقات الکبریٰ (۲۰۹/۸) |
| اسد الغابۃ (۷۳۳۳) تجرید (۳۰۹/۲) | السیرۃ النبویۃ (۷۳/۳)   |

ابن اسحاق \* نے نبی کریم ﷺ کے بارے میں ان کا مرثیہ نقل کیا۔ ابن سعد رحمہ اللہ کا قول ہے: نبی کریم ﷺ نے ان کے بھائی مطح کے ساتھ تیس (۳۰) دن کھجوریں کھانے کو دیں، انہوں نے خاندان سے باہر ابو جندب سے نکاح کیا، جس سے ایک بیٹی ریطہ پیدا ہوئی۔

#### ۱۱۸۳۶ ہند بنت اسید \*

بن ہذیل انصاری۔ ان کا نسب ان کے والد کے ساتھ بیان ہو چکا ہے۔ ابن مندہ کا قول ہے کہ محمد بن عبدالرحمن بن سعد بن زرارہ کی حدیث میں ان کا ذکر ہے۔ ابو عمر کہتے ہیں کہ ابو رجاہ نے بواسطہ ان کے نبی ﷺ کی یہ حدیث نقل کی ہے کہ آپ قرآنی الفاظ میں خطاب کرتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے سورہ قاف آپ ﷺ سے منبر پر بکثرت سن کر یاد کر لی۔

#### ۱۱۸۳۷ ہند بنت اوس \*

بن شریق، سعد بن خیشمہ انصاریہ کی والدہ ہیں، بنو ختمہ سے ہیں: ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ \*

#### ۱۱۸۳۸ ہند بنت اوس \*

بن عدی بن امیہ انصاریہ۔ بنو ختمہ سے ہیں۔ ابن حبیب نے ان کا بھی ذکر کیا ہے۔

#### ۱۱۸۳۹ ہند بنت البراء بن معرور \*

انصاریہ۔ جابر بن عتیک کی زوجہ تھیں، ابن سعد \* نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔

#### ۱۱۸۴۰ ہند بنت حارث \*

بن عبدالطلب بن ہاشم، نبی کریم ﷺ کی چچا زاد ہیں۔ محمد بن سعد نے نبی کریم ﷺ کی وفات پر ان کا مرثیہ نقل کیا ہے۔

#### ۱۱۸۴۱ ہند بنت ابی امیہ \*

ان کا نام حذیفہ تھا، بعض کا قول ہے: بہل بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم قرشی مخزومیہ، ام المومنین، ام سلمہ، اپنی کنیت سے مشہور ہیں اور اپنے نام سے پہچانی جاتی ہیں۔ بعض کا شاذ قول یہ ہے کہ ان کا نام رملہ ہے اور ان کے والد کا لقب زاد الراکب \* تھا، کیونکہ وہ بہت بخئی تھے۔ جب وہ سفر کرتے تو ان کے ساتھیوں میں سے کوئی زاد راہ نہ لیتا، کیونکہ وہ ان کی کفایت کرتے تھے، ان کی والدہ عاتکہ بنت عامر کنانیہ ہیں، بنو فراس سے تھیں اور ابوسلمہ بن عبدالاسد کی زوجہ تھیں، جو ان کے چچا زاد تھے، ان کے ساتھ

\* السیرۃ النبویۃ (۳۵/۳) (۷۳) \* اسد الغابۃ (۷۳۳۴) الاستیعاب (۵۶۶۴) تجرید (۳۰۹/۲)

\* اسد الغابۃ (۷۳۳۶) تجرید (۳۱۰/۲) \* اسد الغابۃ (۴۱۴/۵) \* تجرید (۳۱۰/۲)

\* تجرید (۳۱۰/۲) \* الطبقات الکبریٰ (۲۹۲/۸) \* تجرید (۳۱۰/۲)

\* اسد الغابۃ (۷۳۳۵) تجرید (۳۱۰/۲) \* نسب قریش (۳۱۵، ۳۰۰)

جشبہ کی طرف پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی، کہا جاتا تھا کہ وہ پہلی مسافر خاتون ہیں جو ہجرت کر کے مدینہ آئیں۔ جب ان کے شوہر زنجی ہو کر وفات پا گئے تو نبی کریم ﷺ نے انہیں نکاح کا پیغام دیا۔

ابن ابی عاصم \* نے عبدالواحد بن ابی بن کے طریق سے بحوالہ ابوبکر بن عبدالرحمن، انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے، فرماتی ہیں: جب نبی کریم ﷺ نے مجھے نکاح کا پیغام دیا، میں نے آپ ﷺ سے کہا: میری تین صفات ہیں: میں بڑی عمر والی ہوں، صاحب عیال ہوں، سخت غیرت والی ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں تم سے بڑا ہوں، اور عیال اللہ کے سپرد ہیں، رہی غیرت تو میں اللہ سے دعا کروں گا وہ اسے تم سے دور کر دے گا۔“ آپ ﷺ نے ان سے نکاح کیا، جب ان کے پاس آئے تو فرمایا: ”اگر تم چاہو تو ساتواں دن تمہارے لیے مقرر کر دوں۔“ تو وہ تین دنوں پر راضی ہو گئیں۔ صحیح میں یہ حدیث کی طرق سے مروی ہے۔

ابن سعد نے عاصم اُحول کے طریق سے بحوالہ زیاد بن ابی مریم نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا: مجھے معلوم ہوا ہے، جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اور وہ شخص جنتی ہو پھر وہ عورت اس کے بعد نکاح نہ کرے تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اکٹھا کر دے گا، اسی طرح کوئی عورت مر جائے اور خاوند پیچھے رہ جائے۔ آؤ ہم عہد کریں کہ ہم آپ کے بعد نکاح نہ کریں گی، اور آپ میرے بعد شادی نہ کریں۔ انہوں نے کہا: ”کیا تم میرا کہا مانو گی؟“ انہوں نے کہا: میں جب آپ سے مشورہ لیتی ہوں تو آپ کی اطاعت کرتی ہوں۔ انہوں نے کہا: اگر میں مر گیا تو نکاح کر لینا، پھر فرمایا: ”اے اللہ! میرے بعد ام سلمہ کو ایسا خاوند عطا فرما جو اسے رسوا نہ کرے، نہ ہی ایذا دے۔“ فرماتی ہیں، جب وہ فوت ہو گئے تو میں نے کہا: ابوسلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔ تھوڑا عرصہ ہی گزرا تھا کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے نکاح کر لیا۔

صحیح میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کسی کو مصیبت پہنچے تو کہے: ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اے اللہ! تجھ سے ہی میں اپنی مصیبت کے ثواب کی امید رکھتا ہوں، مجھے اس پر ثواب عطا فرما۔“ میں یہ کہنا چاہتی کہ مجھے اس کا بہتر بدلہ دے تو کہتی: ابوسلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ میں یہی دعا مانگی رہی، پھر قصہ ذکر کیا۔

ابن سعد \* کا قول ہے: ہمیں معمر نے بحوالہ زہری، انہوں نے ہند بنت حارث فراہ سے روایت کی، فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”عائشہ کا میرے نزدیک ایک مقام ہے جس تک کوئی اور نہیں پہنچ سکا۔“ جب آپ ﷺ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو لوگوں نے پوچھا: اس مقام کا کیا ہوا؟ تو انہوں نے جان لیا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اس مقام تک پہنچ چکی ہیں۔

فرماتے ہیں: ہمیں محمد بن عمر نے بتایا، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں عبدالرحمن بن ابی زناد نے بحوالہ ہشام بن عروہ، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی، جب رسول اللہ ﷺ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، مجھے ان کے حسن و جمال کا پتہ چلا تو سخت غم ہوا۔ میں نے بہانے سے انہیں دیکھ لیا، اللہ کی قسم! جو مجھ سے ان کی خوبصورتی بیان ہوئی تھی، وہ

اس سے زیادہ حسن و جمال والی تھیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: اللہ کی قسم! یہ تو صرف غیرت ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے بھی انہیں بہانے سے دیکھ لیا اور مجھ سے کہا: نہیں، اللہ کی قسم! تم جیسی کہہ رہی تھی ویسی نہیں بلکہ اس سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ میں نے انہیں بعد میں دیکھا، وہ ویسی ہی تھیں جو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم ﷺ اور ابوسلمہ رضی اللہ عنہ سے بہت سی احادیث روایت کیں۔ ان سے ان کی اولاد عمر، زینب اور ان کے مکاتب نبھان، ان کے بھائی عامر بن ابی امیہ اور ان کے موالی عبداللہ بن رافع، نافع، سفینہ، ابو کثیر اور سلیمان بن یسار نے روایت کیا۔

ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی روایت کیا اور حضرت عائشہ، ابوسعید خدری، قبیصہ بن ذؤیب، نافع مولیٰ ابن عمر، عبدالرحمن بن حارث بن ہشام اور دوسرے لوگوں نے حدیث روایت کی۔ واقدی رضی اللہ عنہ کا قول ہے: ۵۹ھ میں شوال کے مہینے میں وفات پائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی، ان کی عمر چوراسی (۸۴) برس تھی، جیسا کہ قول ہے۔

ان سے ایک جماعل نے حدیث کی روایت لی، یہ قول جید نہیں، صحیح مسلم میں ثابت ہے کہ حارث بن عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عبداللہ بن صفوان یزید بن معاویہ کے دور حکومت میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور ان سے اس لشکر کے بارے میں پوچھا جو زمین میں دھنسا دیا جائے گا..... (الحدیث) ❀

یزید کی حکومت ان کے والد کی وفات کے بعد ۶۰ھ میں تھی۔ ابن حبان کا قول ہے: ۶۱ھ میں حضرت حسین بن علی کی شہادت کی خبر آنے کے بعد وفات پائی۔

میں کہتا ہوں: یہ زیادہ صحیح ہے۔ محارب بن دثار کا قول ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے وصیت کی کہ ان کی نماز جنازہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ پڑھائیں، اس وقت مروان بن حکم مدینہ کے امیر تھے۔ بعض کا قول ہے: ولید بن عتبہ بن ابوسفیان۔ میں کہتا ہوں: دوسرا قول زیادہ صحیح ہے، کیونکہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ تمام اقوال کے مطابق حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے قبل وفات پا گئے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے حالت مرض میں نماز جنازہ کی وصیت حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے لیے کی تھی۔ پھر وہ صحت یاب ہو گئیں اور حضرت سعید رضی اللہ عنہ ان سے پہلے وفات پا گئے۔

### ۱۱۸۳۲ ہند بنت الحسین ❀

بن مطلب۔ ابن سعد نے ان کا ذکر کیا ہے۔ ان کی بہن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سوانح میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

### ۱۱۸۳۳ ہند بنت الحکم

بن ابی العاص بن امیہ، قسم ثالث میں ان کا ذکر آئے گا۔

❀ مسند احمد (۳/۶، ۳۱۳، المعجم الکبیر (۲۳/۴۹۹، ۵۸۶، ۵۰۶، ۵۸۷) الاحاد والمثنانی (۵/۴۲۴، ۱۷۶، ۲۲۲، ۲۶۰)

❀ تجرید (۲/۳۱۰) الطبقات الکبریٰ (۸/۱۶۵)

### ۱۱۸۴۴ ہند بنت ربیعہ \*

بن حارث بن عبدالمطلب، حبان بن واسع کی زوجہ ہیں، یہ ابوعمر کا قول ہے، فرماتے ہیں: وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں وفات پا گئے، تو ان کی ایک اور زوجہ انصاریہ تھیں، جسے انہوں نے دودھ پلانے کے دوران طلاق دے دی، پھر ان کی وفات ہو گئی۔ ایک برس گزر گیا اور انہیں حیض نہ آیا، دونوں اپنا معاملہ لے کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئیں، انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ خاتون ہند کے ساتھ میراث میں شریک ہوں گی، حضرت ہند نے انہیں ملامت کی تو انہوں نے فرمایا: تمہارے چچا زاد علی کا اسی پر عمل ہے۔

میں کہتا ہوں: زبیر بن بکار نے موفقیات میں یہ قصہ ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۸۴۵ ہند بنت زیاد

سہل بن سعد الساعدی کی زوجہ ہیں۔ زبیر بن بکار نے اخبار مدینہ میں اپنی سند کے ساتھ ان سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ حضرت سہل بن سعد کے ہاں تشریف لے گئے اور گھر کے درمیان بیٹھے حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے اس جگہ کو نماز پڑھنے کی جگہ بنالیا۔ فرماتی ہیں: جب میں حضرت سہل رضی اللہ عنہ کے گھر گئی تو میں نے گھر کے درمیان میں نماز پڑھنے کی جگہ دیکھی۔

### ۱۱۸۴۶ ہند بنت ابی سفیان

بن حرب بن امیہ امویہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں، حارث بن نوفل بن عبدالمطلب کی زوجہ تھیں، ان سے محمد پیدا ہوئے، یہ ابن سعد کا قول ہے، اور یہ اضافہ کیا: عبداللہ ربیعہ، عبدالرحمن، رملہ اور ام زبیر فرماتے ہیں: ان کی والدہ صفیہ بنت ابوعمر بن امیہ ہیں۔

### ۱۱۸۴۷ ہند بن ابی سفیان

بعض کا قول ہے کہ وہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا جو ام المؤمنین ہیں ان کا نام ہے، معروف یہ ہے کہ ان کا نام رملہ ہے جیسا کہ گزر چکا ہے۔

### ۱۱۸۴۸ ہند بنت سہاک \*

بن عتیک بن امرئ القیس بن زید بن عبدالاشہل انصاریہ، اسید بن خضیر کی پھوپھی ہیں۔ ابن حبیب کا قول ہے: سعد بن معاذ کی زوجہ ہیں، عمر اور عبداللہ کی والدہ ہیں۔ عدوی رضی اللہ عنہ کا قول ہے: حارث بن اوس بن معاذ کی والدہ ہیں، بیعت کرنے والی صحابیات میں ہیں۔ ابن سعد کا قول ہے: ان کی والدہ جندب بنت رفاعہ ام زہر بن زید بن مالک اوسیہ ہیں، ہند، اسید بن خضیر بن سہاک کی پھوپھی ہیں۔ پہلے وہ اوس بن معاذ کی زوجہ تھیں، جس سے حارث بن اسلم پیدا ہوئے، وہ غزوہ بدر میں شہید ہوئے،

\* اسد الغابۃ (۷۳۳۹) الاستیعاب (۳۵۶۶) تجرید (۳۱۰/۲) \* الطبقات الکبریٰ (۱۷۴/۸)

\* اسد الغابۃ (۷۳۴۰) تجرید (۳۱۰/۲) \* اسد الغابۃ (۴۱۵/۵) \* الطبقات الکبریٰ (۲۳۷/۸)

اس کے بعد ان کے بھائی سعد بن معاذ سے نکاح ہوا جن سے عبداللہ اور عمر کی ولادت ہوئی، اسلام لائیں اور بیعت کی۔

### ۱۱۸۳۹ ہند بنت سہل الجہنیہ

بعض کا قول ہے: معاذ بن جبل کی والدہ ہیں۔ یہ ابن سعد کا قول ہے: حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا کی صحیح حدیث نوحہ کی ممانعت کے بارے میں ہے، اس میں ہے: پانچ عورتوں نے اس عہد کو پورا نہ کیا، ان میں سے ایک ام معاذ ہیں۔

### ۱۱۸۵۰ ہند بنت سہل

بن عمر بن جسم انصاریہ جسمیہ، اسلام لائیں اور بیعت کی۔ یہ واقدی رضی اللہ عنہ نے ابن سعد کے قول سے نقل کیا ہے۔

### ۱۱۸۵۱ ہند بنت ابی طالب

بن عبدالمطلب، بعض کا قول ہے: یہ حضرت ام ہانی کا نام ہے، جو اپنی کنیت سے مشہور ہیں، بعض کا قول ہے: ان کا نام عاتکہ ہے اور مشہور یہ ہے کہ ”فاختہ“ ہے، یہ ابن اسحاق رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ جو یونس بن بکر وغیرہ کی ان سے روایت میں منقول ہے، جو فتح مکہ کے قصبے میں ہے۔ رہا ابن ابی ہبیرہ بن ابی وہب مخزومی، حضرت ام ہانی خاوند تھا اور نجران میں حالت کفر میں میرا، جب اسے حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے اسلام لانے کی خبر ملی تو کہا:

”ہند کیا تمہیں اس کا شوق ہو گیا تھا یا تمہارے پاس اس کا سوال آیا، گھٹلیوں کے ایسے ہی اسباب اور بکھیر ہوتی ہے۔ مضبوط قلعے کی چوٹی میں جو نجران میں ہے، بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔“

### ۱۱۸۵۲ ہند بنت عتبہ

بن ربیعہ بن عبد شمس بن عبد مناف قرشی، حضرت معاویہ بن ابوسفیان کی والدہ ہیں ان کے اسلام سے پہلے کے حالات مشہور ہیں کہ غزوہ اُحد میں شریک تھیں، انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کا مسئلہ کیا، مسلمانوں کے بہت خلافت تھیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کی نعمت سے نواز ا تو ان کے شوہر اسلام لائے پھر فتح کے دن یہ بھی اسلام لائیں، خواتین کی بیعت میں ان کا قول مروی ہے جب آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ چوری کریں گی نہ زنا کریں گی۔“ انہوں نے کہا: کیا آزاد عورت زنا کر سکتی ہے، اور جب آپ ﷺ نے فرمایا: ”اپنی اولادوں کو قتل نہ کریں گی۔“ تو انہوں نے کہا: ہم نے ان کے بچپن میں ان کی پرورش کی اور بڑے ہونے پر آپ نے انہیں قتل کیا، ان کا یہ قول مشہور ہے۔ ابن سعد رضی اللہ عنہ نے اپنے طرق سے صحیح سند کے ساتھ بحوالہ شعبی رضی اللہ عنہ، انہوں نے میمون بن مہران سے مرسل حدیث روایت کی ہے ”وہ زنا نہیں کریں گے۔“ تو ہند نے کہا: کیا آزاد عورت زنا کر سکتی ہے؟ ”اور تم اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرو گی۔“ تو انہوں نے کہا: آپ نے انہیں قتل کیا ہے۔

تجريد (۳۱۰/۲) \* اسد الغابة (۷۳۴۱) الاستيعاب (۳۵۶۷) تجريد (۳۱۰/۲)

السيرة النبوية (۴۹/۴) \* اسد الغابة (۷۳۴۲) الاستيعاب (۳۵۶۸) تجريد (۳۱۰/۲)

سورة الممتحنة (۱۲) \* الطبقات الكبرى (۱۷۰/۸)



ایک روایت میں ہے لیکن انہوں نے کہا: کیا آپ نے بدر کے دن ہماری اولاد کو چھوڑا ہے۔ انہوں نے اپنے خاوند کے مال میں سے بغیر اجازت کے کچھ مال لینے کے بارے میں سوال کیا جو کفایت کرے کہ اس میں انہیں گناہ ہوگا، یہ حدیث صحیحین میں ہے، اس میں ہے: ”ان کے مال میں سے معروف طریقے سے لو جو تمہیں اور تمہاری اولاد کو کافی ہے۔“

یہ ہشام بن عروہ کی بحوالہ ان کے والد روایت ہے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔ عبد اللہ بن محمد بن عروہ نے شاذ روایت نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں: بحوالہ ہشام، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ہند سے روایت کی ہے۔ اسے ابن مندہ نے نقل کیا ہے۔ اس کے شروع میں ہے: ہند نے کہا: میں محمد سے بیعت کرنا چاہتی ہوں، انہوں نے کہا: میں نے تمہیں کفر کرتے دیکھا ہے، انہوں نے کہا: اللہ کی قسم! اس مسجد میں، اس رات سے قبل میں نے کسی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرتے نہیں دیکھا۔ اللہ کی قسم! انہوں نے نماز میں قیام، رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے رات گزاری، انہوں نے کہا: تم سے جو ہوا، سو ہوا۔ اپنے قبیلے کے ایک آدمی کے ساتھ جاؤ۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف گئیں، انہیں ساتھ لیا، انہوں نے ان کے لیے اجازت طلب کی، پھر وہ نقاب کئے ہوئے اندر گئیں، پھر بیعت کا قصہ بیان کیا، اس میں وہی الفاظ ہیں جو گزر چکے ہیں، اس میں ان کا یہ قول ہے: ابوسفیان بنجیل آدمی ہے، مجھے اتنا خرچ نہیں دیتے جو مجھے کافی ہو، اور میں ان کو بتائے بغیر ان کے مال میں سے لے لیتی ہوں..... (الحديث)

اس روایت میں ہے، جو شعبی رحمہ اللہ سے مرسل مروی ہے، حضرت ہند رضی اللہ عنہا نے فرمایا: میں نے ابوسفیان کے مال میں سے خرچ کیا ہے تو حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم نے میرے مال سے جو لیا ہے وہ حلال ہے۔

ابن سعد رحمہ اللہ کا قول ہے، واقدی رحمہ اللہ نے کہا: جب حضرت ہند رضی اللہ عنہا اسلام لائیں تو کلہاڑے سے اپنے گھر میں موجود بت کو مارنے لگیں، یہاں تک کہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کہنے لگیں: ہم تمہارے بارے میں دھوکے میں تھے۔

ابو عمر کا قول ہے: ایک قول کے مطابق حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو تھوڑے عرصہ بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں وفات پائی حضرت ابوقحافہ کی وفات کے دن فوت ہوئیں، صاحب الامثال کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد بھی زندہ رہیں، کیونکہ بلا اختلاف حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں وفات پا گئے، فرماتے ہیں: ایک شخص نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا: ہند کا مجھ سے نکاح کر دیجئے۔ انہوں نے کہا: وہ اولاد سے ناامید ہو گئی ہیں۔ اور انہیں شادی کی حاجت نہیں، اس نے کہا: پھر مجھے فلاں علاقے کی حکومت دے دیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے شعر پڑھا:

”اس نے ایسی چیز کو طلب کیا جسے وہ حاصل نہیں کر سکتا، جب اس سے عاجز ہو گیا تو ایسی چیز کو طلب کیا جو اس سے بھی بعید ہے۔“

میں نے طبقات ابن سعد میں اعتماد کے ساتھ لکھا ہوا پایا کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں وفات پا گئیں۔

۱۱۸۵۳ ہند بنت عتیق

بن عائد بن عبد اللہ بن عمر بن مخزوم، ان کی والدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی کریم ﷺ کی زوجہ تھیں۔ دارقطنی رحمہ اللہ نے کتاب الاخوة

میں ان کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا: اسلام لائیں اور نکاح کیا۔ آپ ﷺ سے کوئی حدیث روایت نہیں کی۔ ابن سعد رحمہ اللہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سوانح میں لکھا ہے: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ابوہالہ کے بعد عتیق بن عائد بن عبد اللہ بن عمر بن مخزوم سے نکاح ہوا، جس سے ایک لڑکی جسے کہا جاتا تھا، پیدا ہوئی، ان سے صفی بن امیہ بن عائد بن عبد اللہ بن عمر بن مخزوم جو ان کا چچا زاد تھا، نکاح کیا۔ اس سے محمد بن صفی پیدا ہوئے۔ محمد کی اولاد کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وجہ سے بنو طاہرہ کہا جاتا تھا۔

### ۱۱۸۵۳ ہند بنت عقبہ

بن ابی معیط امویہ، ولید کی بہن ہیں۔ پہلے گزر چکا ہے کہ ان کے والد بدر میں قتل ہوئے اور ان کی والدہ اردوی بنت کریم اور دونوں بھائی ولید اور خالد فتح کے دن اسلام لائے۔

### ۱۱۸۵۵ ہند بنت عمرو بن الجموح

انصاریہ، ان کے والد کے سوانح میں ان کا نسب گزر چکا ہے۔ ابن سعد نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۸۵۶ ہند بنت عمرو

بن حرام انصاریہ، حضرت جابر بن عبد اللہ کی پھوپھی ہیں، جو مشہور صحابی ہیں۔ ان کے والد کے سوانح میں ان کا نسب گزر چکا ہے۔ ابن مندہ کا قول ہے: واقدی رحمہ اللہ نے ان کی حدیث ایوب بن نعمان سے بحوالہ اپنے والد اور انہوں نے ان سے روایت کیا ہے۔

میں کہتا ہوں: امالی الحاملی میں ہم نے اسے روایت کیا ہے۔

### ۱۱۸۵۷ ہند بنت محمود

بن سلمہ بن خالد بن عدی انصاریہ، ابن سعد رحمہ اللہ اور ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ ابن سعد رحمہ اللہ کا قول ہے: ان کی والدہ شمس بنت عمرو بن حرام بن ثعلبہ سلمیہ ہیں، ان سے عمر بن سعد بن معاذ اشجلی نے نکاح کیا۔

### ۱۱۸۵۸ ہند بنت المقوم

بن عبد المطلب بن ہاشم، ابن سعد رحمہ اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ ابو عمرہ انصاری نے ان سے نکاح کیا، جس سے عبد الرحمن اور عبد اللہ پیدا ہوئے، فرماتے ہیں: ان کی والدہ قلابہ بنت عمرو بن بھونہ سمیہ ہیں۔

اسد الغابۃ (۷۳۴۳) الاستیعاب (۳۵۶۹) تجرید (۳۱۰/۲)

اسد الغابۃ (۴۱۷/۵) طبقات الکبریٰ (۲۸۷/۸) اسد الغابۃ (۷۳۴۴)

الطبقات الکبریٰ (۲۴۳/۸) اسد الغابۃ (۴۱۷/۵) تجرید (۳۱۱/۲)

### ۱۱۸۵۹ ہند بنت منبہ

بن تاج سہمیہ، حضرت عبداللہ بن عمرو کی والدہ ہیں اور فتح کے دن اسلام لائیں۔ واقدی رحمہ اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے، ابن دبارغ نے بحوالہ ابوعلی جیانی اپنے استدراک میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۸۶۰ ہند بنت المنذر

بن جموح بن زید بن منذر انصاریہ، بنو ساعدہ سے ہیں۔ ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۸۶۱ ہند بنت ہبیرہ

میں نے حدیث ثوبان میں ذکر کیا ہے، جسے نسائی نے ابوسلام حبشی کے طریق سے بحوالہ ابواسماء رحمی نقل کیا ہے کہ ثوبان مولیٰ رسول اللہ ﷺ بیان کرتے ہیں کہ ہند بنت ہبیرہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئیں اور ان کے ہاتھ میں سونے کی انگلی تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کے ہاتھ پر مارا تو وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس اس کی شکایت لے کر گئیں۔۔۔۔۔ (الحدیث) اس میں یہ قول بھی ہے: ”تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، جس نے فاطمہ کو آگ سے نجات دی۔“ ابن اثیر کا قول ہے: ابوموسیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے۔

میں کہتا ہوں: جو نسخہ مجھے ملا ہے اس میں صریحین کے قلم سے نہیں لکھا۔

### ۱۱۸۶۲ ہند بنت الولید

بن عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس، بعض کا قول ہے: ان سے ان کے چچا ابو حذیفہ کے مولیٰ سالم نے نکاح کیا۔ سنن ابوداؤد میں یہ حدیث یونس کے طریق سے بحوالہ زہری منقول ہے، وہ فرماتے ہیں: مجھ سے عروہ نے بحوالہ عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما روایت کیا ہے کہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے حضرت سالم کو متبھی بنا لیا تھا پھر اپنی بیٹی ہند بنت ولید بن عتبہ سے ان کا نکاح کیا، قدامہ بن مظعون اور مہاجر بن ابی امیہ سے حدیث مروی ہے۔

### ۱۱۸۶۳ ہند بنت یزید

کلابیہ، برصاء کی بیٹی ہیں۔ ابو عبیدہ نے ان کا نام لیا ہے، اور نبی کریم ﷺ کی ازواج میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۸۶۴ ہند، امرأة بلال قسم ثالث میں ان کا ذکر آئے گا۔

اسد الغابۃ (۷۳۴۵) تجرید (۳۱۱/۲) اسد الغابۃ (۴۱۷/۵) اسد الغابۃ (۷۳۴۶) تجرید (۳۱۱/۲)

الطبقات الكبرى (۲۸۹/۸) اسد الغابۃ (۷۳۴۷) تجرید (۳۱۱/۲) نسائی (۵۱۵۵)

اسد الغابۃ (۴۱۷/۵) اسد الغابۃ (۷۳۴۸) تجرید (۳۱۱/۲) ابوداؤد (۲۰۶۱)

اسد الغابۃ (۷۳۴۹) الاستیعاب (۳۵۷۰) تجرید (۳۱۱/۲)

## ۱۱۸۶۵ ہند الخنہ

ابوموسیٰ نے ذیل میں بحوالہ مستغفری، انہوں نے حسن بن محمد بن ابوعبداللہ بن محفوظ سرقندی، انہوں نے ابوبکر شافعی سے، انہوں نے ابوعباس مسروق سے، انہوں نے عمر بن حکم اور حفص وراق، قاسم بن حسن سے بحوالہ ابن سعد، انہوں نے اپنے والد سے ان کا ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں: اسلام کے ابتدائی زمانے میں ایک نوجوان شخص بشر نامی بنواسد بن عبدالعزیٰ سے تھا، جب وہ نبی کریم ﷺ کی طرف آتا تو جھنجھ سے عہد لیتا۔ اس نے ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھا، جس کے شوہر کا نام سعد بن سعید تھا، وہ اس کے عشق میں مبتلا ہو گئی اور ہر روز صبح بیٹھا کرتی تھی تاکہ وہ اسے دیکھے.... پھر طویل قصہ ذکر کیا۔ رجال کے تحت حرف باء میں بشر اُسدی کے سوانح میں ان کی طرف اشارہ گزر چکا ہے۔

## ۱۱۸۶۶ ہند

بہ نسبت، ابوبکر بن عبدالرحمن بن حارث بن ہشام کی حدیث میں جو مسلم میں ہے ان کا ذکر ہے کہ انہوں نے حضرت ام حبیبہ بنت جحش کے قصے میں استفاضہ کے بارے میں حدیث عائشہ سنی تو فرمایا: اللہ تعالیٰ ہند پر رحم کریں، اگر ان کو یہ فتویٰ معلوم ہوتا تو اللہ کی قسم! روتیں، کیونکہ وہ نماز نہیں پڑھتی تھیں۔

## القسم الثانی از حرف الباء

### ۱۱۸۶۷ ہند بنت الحکم

بن العاص بن امیہ امویہ، حضرت عثمان بن عفان کی چچا زاد اور مروان کی بہن ہیں۔ زبیر بن بکار نے ذکر کیا ہے کہ عبدالرحمن بن سرہ عجمی نے جو مشہور صحابی ہیں، ان سے نکاح کیا جس سے اولاد ہوئی۔ اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں، جو نبی کریم ﷺ کی وفات سے قبل پیدا ہوئیں۔

### ۱۱۸۶۸ ہند بنت زیاد

سہل بن سعد کی زوجہ ہیں، قسم اول میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

## القسم الثالث از حرف الباء

### ۱۱۸۶۹ ہند الخولانیہ

انہوں نے نبوت کا زمانہ پایا، ابن مندہ کا قول ہے: سعید بن عبدالملک نے ان کا نام لیا ہے، بحوالہ اوزاعی، انہوں نے عمیر بن ہانی سے، انہوں نے ہند خولانیہ سے جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہیں، فرماتی ہیں: حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب بستر پر آتے تو کہتے: اے اللہ! میری لغزشوں کو بخش دے اور میری نیکیوں کو قبول فرما، اور میری کمزوریوں میں میرا عذر قبول فرما۔ اس حدیث سند سے ذکر کیا ہے، جسے وہ سعید بن عبدالملک تک لے گئے ہیں۔ فرماتے ہیں: ان سے مسند حدیث مروی ہے جسے جریری نے بحوالہ ابووردہ، انہوں نے بنوعامر کی ایک خاتون سے، انہوں نے ان سے روایت کیا ہے۔

میں کہتا ہوں: ابونعیم نے اسے موصولاً ذکر کیا ہے لیکن اس میں ان کا نام نہیں لیا، مسند یعقوب بن شیبہ میں حسن سند سے ہے جسے وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے بنوعامر کی ایک خاتون نے بحوالہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زوجہ روایت کی کہ نبی کریم ﷺ ان کے پاس آئے اور سلام کیا، پھر فرمایا: کیا بلال یہاں ہے؟ انہوں نے کہا: نہیں، انہوں نے فرمایا: ”شاید آپ بلال سے ناراض ہیں۔“ انہوں نے کہا: وہ جب بھی میرے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بلال جو بات مجھ سے بیان کریں وہ سچ ہے، بلال جھوٹ نہیں بولتے، بلال سے ناراض نہ ہو، جب تک بلال تم سے ناراض رہے گا تمہارا کوئی عمل قبول نہ ہوگا۔“

ابن اثیر کا قول ہے: میرے نزدیک اس میں تردد ہے، کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے خولان کے لوگوں میں، شام میں اقامت اختیار کرنے کے بعد شادی کی تھی، حدیث میں یہ مروی نہیں کہ وہ خولان سے ہیں، احتمال ہے کہ یہ غیر خولانیہ ہیں۔

میں کہتا ہوں: اس کا احتمال ہے، اس وجہ سے مبہمات میں مرفوع حدیث روایت کرنے والی خاتون حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہیں۔

#### ۱۱۸۴۰) ھنیدہ بنت صعضہ

بن ناجیہ تميمیہ مجاشعہ، غالب کی بہن ہیں جو فرزدق کے والد ہیں، زبیرقان بن بدر کی زوجہ ہیں، انہوں نے نبوت کا زمانہ پایا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں حطیہ کے زبیرقان بن بدر کے ساتھ قصبے میں ان کا ذکر ہے، انہیں ذات النخار کہا جاتا تھا۔

ابوعبیدہ نے ذکر کیا ہے کہ وہ کہتی تھیں، جس کے میرے والد صعضہ، میرے بھائی غالب، میرے شوہر زبیرقان، میرے ماموں اقرع بن حابس کی طرح چار شخص ہوں، اس کے لیے جائز ہے کہ ان کے سامنے سر سے اوڑھنی اتار دے۔

#### القسم الرابع از حرف ہاء

#### ۱۱۸۴۱) ھجیمہ

بعض کا قول ہے: غیرہ۔ ام الدرداء۔ ابن اثیر کا قول ہے: ابونعیم نے ان کا ذکر کیا ہے، ان کے کلام سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دونوں ایک ہیں، ان کے نام میں اختلاف ہے، صحیح یہ ہے کہ وہ دو ہیں۔ بڑی کا نام غیرہ اور چھوٹی کا نام ھجیمہ ہے اور اسے شرف صحابیت حاصل نہیں۔

#### ۱۱۸۴۲) ھند بنت حارث

فراسیہ، صحیح بخاری، کتاب الصلوٰۃ میں اصحاب زہری رضی اللہ عنہ کے اختلاف، جو ہند سے بحوالہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ مروی ہے، کے بارے میں اختلاف میں ہے۔ اس کے بعض طرق، اسے یحییٰ بن سعید انصاری نے بحوالہ ابن شہاب، انہوں نے قریش کی ایک خاتون سے، انہوں نے نبی کریم ﷺ سے اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں کیا، یہ روایت ہند بنت حارث کے بارے میں ہے، جنہوں نے ان کا نسب قرشہ لکھا ہے، انہوں نے فراسیہ لکھنے میں لفظی غلطی کی ہے یا وہ قریش کی طرف منسوب ہیں، کیونکہ وہ بنو کنانہ سے ہیں اور بنو فراس کنانہ کے بطن سے ہے۔

✽ مختصر تاریخ دمشق (۱۹۶/۲۷) اسد الغابۃ (۴۱۵/۵) ✽ اسد الغابۃ (۴۱۱/۵)

✽ اسد الغابۃ (۷۳۲۵) تجرید اسماء الصحابة (۳۰۹/۲) ✽ الطبقات الحکبری (۲۴۲/۸)

## حرف واؤ

### القسم الاول از حرف واؤ

#### ۱۱۸۴۳ وده بنت عقبه \*

بن رافع بن امری القیس بن زید بن عبدالاهل، اہلیہ۔ ام حکم ہیں، قیس بن مخرمہ بن مطلب بن عبد مناف کی زوجہ ہیں، ابن سعد رضی اللہ عنہ کا قول ہے: اسلام لائیں اور بیعت کی، محمود بن لبید کی پھوپھی ہیں، ان کی والدہ ام النہین بنت خدیفہ بن ربیعہ قضاعیہ ہیں، جو بنو سلمان سے ہیں۔

#### ۱۱۸۴۴ وثناء بنت الصلت \*

سلمیہ، ابن ماکولا \* نے ذکر کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ان سے نکاح کیا اور رخصتی سے قبل وفات پا گئیں، تجرید میں یہی مذکور ہے، ابن ابی خثمہ اور ابن ابی عمبرہ نے ان کا ذکر کیا ہے، اور ان کے دادا کا نام صلت لکھا ہے۔  
عبدالقاہر بن سری کا قول ہے: ان کا نام سنا ہے اور قتادہ کا قول ہے ان کا نام اسماء ہے، یہ سب پہلے گزر چکا ہے۔

#### ۱۱۸۴۵ وقصاء بنت مسعود \*

بن عامر بن عدی بن حشم انصاریہ، ابن سعد \* کا قول ہے: اسلام لائیں اور بیعت کی، فرماتے ہیں: ان کی والدہ کہوہ بنت اوس بن امیہ بن عامر بن خطمہ ہیں، وقصاء کا نکاح نعمان بن مالک بن عامر بن مجدہ بن حشم بن حارثہ حارثی سے ہوا۔

#### ۱۱۸۴۶ وہبہ بنت ابی \*

بن خلف تجبی، عبداللہ بن حمید کی زوجہ ہیں، زبیر بن بکار نے ان کا ذکر کیا ہے۔

نوٹ: قسم ثانی اور قسم ثالث دونوں خالی ہیں۔

### القسم الرابع از حرف واؤ

#### ۱۱۸۴۷ وصلہ بنت وائل \*

ابن بشکوال نے ان کا ذکر کیا ہے۔

میں کہتا ہوں: وہ لفظی غلطی ہے، وہ فاضلہ ہیں، حرف فاء میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

\* تجرید (۳۱۱/۲) \* الإكمال \* تجرید (۳۱۱/۲)

\* الطبقات الكبرى (۲۴۲/۸) \* تجرید (۳۱۱/۲)

حرف یاء

القسم الاول از حرف پاء

يُسَيِّرُهُ ١١٨٤٨

تقصیر کے ساتھ ہے، بنت ملیکہ (تقصیر کے ساتھ ہے)۔ بن زید بن خالد بن عجلان انصاریہ، بنوعوف بن خزرج سے ہیں، ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ ❀

١١٨٤٩ **يُسِيره**

ام یاسر، بعض کا قول ہے، یاسر انصاریہ، ان کی کنیت ام حمیضہ ہے، ابن سعد کا قول ہے: اسلام لائیں اور بیعت کی، اور حدیث روایت کی، ابو عمر کا قول ہے: ہجرت کرنے والی صحابیات میں سے ہیں۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن سعد نے ہانی بن عثمان کے طریق سے بحوالہ ام حمیضہ بنت یاسر، انہوں نے اپنی دادی یسیرہ سے روایت کیا ہے اور وہ ہجرت کرنے والی صحابیات میں سے تھیں، فرماتی ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تم پر سبحان اللہ، تقدیس اور لا الہ الا اللہ کہنا واجب ہے اور انگلیوں پر شمار کرو، کیونکہ ان سے پوچھا جائے گا اور وہ جواب دیں گی۔“



❁ اسد الغابة (٧٣٥٠) تجريد (٣١١/٢) ❁ اسد الغابة (٤١٩/٥)

❖ اسد الغابة (۷۳۵۱) تجرید (۳۱۲/۲) ❖ ترمذی (الحديث: ۳۵۸۳)

## فصل فیمن عرف بالکنیۃ من النساء

### حرف الف

#### القسم الاول

#### ۱۱۸۸۰ ام ابان بنت عتبہ \*

ابو عمر کا قول ہے: حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خالہ ہیں۔ ابو عمر کا قول ہے: جب وہ شام سے آئیں تو انہیں حضرت عمر، علی، زبیر، طلحہ نے نکاح کا پیغام دیا۔ انہوں نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے پیغام کو قبول کر کے ان سے نکاح کیا، مجھے معلوم نہیں کہ ان سے کوئی روایت مروی ہے۔

میں کہتا ہوں: اسحاق بن طلحہ کی والدہ ہیں، ابان بن سعید بن العاص کی زوجہ تھیں جو روم کی لڑائی میں شہید ہوئے۔

#### ۱۱۸۸۱ ام ازہر العانشیہ \*

ابو عمر کا قول ہے: ان سے حدیث مروی ہے جسے خواتین کے حوالے سے نقل کیا ہے، اس میں تردد ہے، پھر اسے ابو زرعہ رازی کے طریق سے نقل کیا ہے کہ ہم سے محمد بن مرزوق نے روایت کی، وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے انسہ بنت مہذہ العاکشیہ نے روایت کی، وہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے زینب بنت زبرقان عاکشیہ نے بحوالہ ان میں سے ایک خاتون ام ازہر نے روایت کیا کہ ان کے والد انہیں نبی کریم ﷺ کے پاس لے گئے اور آپ ﷺ نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا کی، وہ نیک خاتون تھیں۔ \*  
اسے مطین نے بحوالہ محمد بن مرزوق سے اور باوردی نے مطین سے اور ابن مندہ نے باوردی سے نقل کیا ہے۔

#### ۱۱۸۸۲ ام اسحاق الغنویہ \*

رجال، حرف الف میں ان کے بیٹے اسحاق کے سوانح میں حدیث کے شروع میں ان کا ذکر گزر چکا ہے، اس کا باقی حصہ یہ ہے: پھر میں رسول اللہ ﷺ کے پاس گئی، آپ ﷺ وضو فرما رہے تھے، میں نے کہا: یا رسول اللہ! میں رورہی تھی۔ اسحاق یعنی ان کا بھائی

\* اسد الغابۃ (۷۳۵۲) الاستیعاب (۳۵۷۳) تجرید (۳۱۲/۲)

\* اسد الغابۃ (۷۳۵۳) الاستیعاب (۳۵۷۴) تجرید (۳۱۲/۲)

\* المعجم الكبير (۴۲۰/۲۵) جامع المسانید والسنن (۱۵۹/۱۶)

\* اسد الغابۃ (۷۳۵۴) الاستیعاب (۳۵۷۵) تجرید (۳۱۲/۲)



شہید ہو گیا۔ آپ ﷺ نے جلو بھر پانی لیا اور میرے چہرے پر چھڑکا۔ ام حکیم بنت دینار جوان سے روایت کرنے والی ہیں، فرماتی ہیں: پھر جب کبھی ان کو کوئی بڑی مصیبت پہنچتی تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے لیکن رخساروں پر نہ بہتے۔ \*

امام احمد رحمہ اللہ نے ام حکیم بنت دینار کے طریق سے بحوالہ ان کی مولا ام اسحاق اسے نقل کیا ہے، وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس تھیں شریک کا پیالہ لایا گیا، میں نے آپ ﷺ کے ساتھ کھایا، آپ ﷺ کے ساتھ ذوالیدین تھے، رسول اللہ ﷺ نے انہیں شور بادیا اور کہا: ”اے ام اسحاق! اس میں سے پیو“۔ مجھے یاد آیا کہ میں روزہ سے ہوں، میں بھول گئی تھی، ذوالیدین نے فرمایا: پیٹ بھرنے کے بعد یاد آیا، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: یہ رزق ہے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ مجھے یہ روایت عالی سند سے ملی ہے، میں نے اسے شیخ ابواسحاق تنوخی کے سامنے پڑھا کہ احمد بن ابوطالب نے انہیں بتایا کہ ہمیں ابن لیس، ابوالوقت، ابن داؤد، ابن عین، ابواسحاق شامی نے عبد بن حمید، ابوعاصم نے بحوالہ یار بن عبد الملک بتایا ہے کہ مجھ سے ام حکیم بنت دینار نے بحوالہ اپنی مولا ام اسحاق بیان کیا، فرماتی ہیں: میں رسول اللہ ﷺ کے پاس گئی، آپ ﷺ کے پاس روٹی اور گوشت لایا گیا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”کھاؤ“ میں نے کھایا، پھر آپ ﷺ نے مجھے شور بہ دیا، میں نے اسے اپنے منہ کی طرف اٹھایا، مجھے یاد آیا کہ میں روزہ سے ہوں، اب میں نہ اپنے ہاتھ کو منہ کی طرف بڑھا رہی تھی اور نہ نیچے رکھ رہی تھی (یعنی میں رک گئی)۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اے ام اسحاق! کیا ہوا؟“ میں نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! میں روزہ سے تھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اپنے روزے کو پورا کرو“۔ ذوالیدین کہنے لگے: کیا جب تمہارا پیٹ بھر گیا تو اب کہہ رہی ہو؟ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”وہ رزق ہے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔“

### ۱۱۸۸۳ ام الاسود

ابن ابی شیبہ نے بحوالہ ابن عباس روایت کیا ہے، فرماتے ہیں: نبی کریم ﷺ کی زوجہ ام اسود کی بکری مر گئی..... (الحديث) اس میں ہے: ”تم نے اس کی جلد سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا۔“

بخاری رحمہ اللہ کتاب الایمان والذکر میں بحوالہ ابن عباس، انہوں نے سودہ زوج النبی ﷺ سے یہی الفاظ اختصار کے ساتھ نقل کیے ہیں۔

سودہ بنت زمعہ کا ذکر گزر چکا ہے، نبی کریم ﷺ کی ازواج مطہرات میں ام الاسود نہیں، احتمال ہے کہ یہ حضرت سودہ بنت جحش کی کنیت ہو۔

### ۱۱۸۸۴ ام أسید

ابواسید ساعدی کی زوجہ ہیں۔ صحیح بخاری میں غسان کے طریق سے بحوالہ ابو حازم، انہوں نے سہل بن سعد سے ان کا ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں: جب حضرت ابواسید الساعدی کی شادی ہوئی تو نبی کریم ﷺ نے اپنے اصحاب کو بلایا، حضرت ام اسید نے رات

\* تاریخ کبیر (۱۲۹/۲) مجمع الزوائد (۱۹/۳) جامع المسانید والسنن (۱۶۱/۱۶)

ابونعیم فی معرفة الصحابة (۴۳۷/۲) \* مسند احمد (۳۶۷/۶)

\* اسد الغابة (۷۳۵۵) الاستيعاب (۳۵۷۶) تجرید (۳۱۲/۲) \* بخاری (الحديث: ۵۱۸۲)

کو پتھر کے برتن میں بھجوریں بھجودی تھیں اس کے علاوہ کوئی کھانا بنایا گیا نہ پیش کیا گیا تھا، جب نبی کریم ﷺ کھانے سے فارغ ہوئے تو وہ آئیں اور آپ ﷺ کو پانی پلایا، تاکہ برکت حاصل کریں۔ ابو موسیٰ نے جراح بن موسیٰ کے طریق سے بحوالہ ابو حازم، انہوں نے کہل بن سعد سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں: جب حضرت ابواسید الساعدی نے حضرت ام اسید سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا تو نبی کریم ﷺ اپنے اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف لائے، آپ ﷺ نے ہی ان کا ان سے نکاح کیا تھا، انہوں نے کھانا بنایا، انہوں نے ہی نبی کریم ﷺ اور آپ ﷺ کے ساتھیوں کو کھانا پیش کیا تھا۔

### ۱۱۸۸۵) ام ایاس بنت ثابت

بن اجدع، ام حارث میں ان کا ذکر آئے گا۔

### ۱۱۸۸۶) ام انس الانصاریہ

یہ انس بن مالک نہیں، طبرانی نے عننبہ بن عبد الرحمن کے طریق سے، جو ضعیف راوی ہیں، بحوالہ محمد بن زاذان، انہوں نے ام سعد زوجہ زید بن ثابت، انہوں نے ام انس سے روایت کیا، فرماتی ہیں، میں نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے میری آنکھ لگ جاتی ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے ام انس! عشاء کی نماز جلدی پڑھ لیا کرو، جب ہر وادی پر رات چھا جائے تو نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لو، تم پر کوئی گناہ نہیں۔“ (عشاء کی نماز وقت سے پہلے پڑھنا ان صحابیہ کے لیے خاص ہے)۔

### ۱۱۸۸۷) ام انس بنت البراء

بن معرور، عبد اللہ بن ابونجیح نے ان کی حدیث مجاہد سے انہوں نے ان کے حوالے سے نقل کی ہے، فرماتی ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ”کیا میں تمہیں لوگوں میں سب سے بہتر شخص کے بارے میں بتاؤں؟“ ہم نے کہا: کیوں نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ شخص (اور اپنے ہاتھ سے مغرب کی طرف اشارہ کیا) اپنے گھوڑے کی لگام اللہ کی راہ میں پکڑتا ہے (پھر اس شخص کا ذکر کیا جو بہتر ہونے میں اس کے قریب ہے) اپنی بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ ہوتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تو وہ لوگوں کے شر سے دور ہو گیا۔“

ابن مندہ نے اسے جریر بن حازم کے طریق سے بحوالہ ابن اسحاق، انہوں نے ابن ابی نجیح سے روایت کیا ہے، محمد بن سلمہ نے بحوالہ ابن اسحاق ان کی مخالفت کی ہے، فرماتے ہیں: بحوالہ ام بشر، ابو نعیم نے اسے ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۸۸۸) ام انس

حضرت ابوانس کی زوجہ اور عمران بن ابوانس کی والدہ ہیں، طبرانی رحمہ اللہ نے محمد بن اسماعیل انصاری کے طریق سے بحوالہ

اسد الغابۃ (۷۳۵۸) الاستیعاب (۳۵۷۷) تجرید (۳۱۲/۲)

المعجم الکبیر (۳۵۱۷/۲۵) بیاض فی الأصل \* اسد الغابۃ (۷۳۵۹) تجرید (۳۱۲/۲)

المعجم الکبیر (۲۷۱/۲۵) مجمع الزوائد (۳۰۴/۱۰) جامع المسانید (۱۶۲/۱۶)

اسد الغابۃ (۷۳۶۰) تجرید (۳۱۲/۲) \* المعجم الکبیر (۳۵۹/۲۵)

## الْأَنْبِيَاءُ فِي مَسِيرِ الصَّحَابَةِ (طَرِيقُ الْمَسِيرِ) (جلد ۸) ۴۱۲

موسیٰ بن عمران بن ابوانس، انہوں نے اپنی دادی ام انس سے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتی ہیں: میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آئی اور میں نے کہا: اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت میں رفیق اعلیٰ کا مرتبہ دیا ہے اور میں آپ کے ساتھ ہونا چاہتی ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”نماز قائم کرو، یہ سب سے افضل جہاد ہے اور گناہوں کو چھوڑ دو یہ سب سے افضل ہجرت ہے، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، کیونکہ اعمال میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔“

طبرانی نے اسے اسحاق بن ابراہیم بن نطاس کے طریق سے نقل کیا ہے کہ مجھ سے مرثع نے بحوالہ ام انس روایت کیا کہ انہوں نے کہا: یا رسول اللہ! مجھے وصیت کیجئے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”گناہوں کو ترک کر دو کیونکہ یہ سب سے افضل ہجرت ہے۔“ (الحديث)

اس میں ہے: اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو، کیونکہ تمہارے نامہ اعمال میں کثرت سے اللہ کا ذکر، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔

ابوموسیٰ کا قول ہے: طبرانی \* نے پہلی کا مستقل عنوان قائم کیا ہے اور دوسری کا حضرت ام سلیم کے سوانح میں ذکر کیا ہے جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں، گویا یہ تیسری ہیں، اسی طرح منقول ہے، یہ ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ ظاہر یہ ہے کہ ام سلیم کے علاوہ وہ دونوں ایک ہیں، ابوعمر نے ام سلیم سے علیحدہ ان کا ذکر کیا ہے، لیکن فرمایا: یونس بن عثمان کی دادی ہے۔ بخاری رحمہ اللہ \* نے تاریخ میں لکھا ہے، یونس بن عمران بن ابی انس بحوالہ اپنی دادی پھر یہی حدیث پہلے الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے۔

### ۱۱۸۸۹ ام انس بن عمرو \*

بن مرثعہ انصاریہ۔ بنوعوف بن خزرج سے ہیں، ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ \*

### ۱۱۸۹۰ ام انس بنت واقد \*

بن عمرو بن زید بن مرثعہ بن غنم بن عوف، ابن سعد \* نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا: ان سے عمرو بن ثعلبہ نے نکاح کیا۔

### ۱۱۸۹۱ ام اوس البہزیہ \*

ابوعمر کا قول ہے: اوس بن خالد نے اعلام النبوة سے ان کی حدیث روایت کی ہے، طبرانی \* اور ابن مندہ نے عصمہ بن سلیمان کے طریق سے بحوالہ خلف بن خلیفہ، انہوں نے ابوشامہ رمانی سے، انہوں نے اوس بن خالد بنہزیہ سے، انہوں نے اوس بن خالد بنہزیہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے گھی پکھلایا اور ایک گھی میں ڈال کر آپ ﷺ کو ہدیہ میں بھیجا، آپ ﷺ نے اسے قبول کر

\* المعجم الكبير (۳۱۳/۲۵) \* التاريخ الكبير (۴۰۹/۸)

\* اسد الغابۃ (۷۳۶۱) تجرید (۳۱۲/۲) \* المحبر (۴۲۴) \* تجرید (۳۱۲/۲)

\* الطبقات الكبرى (۷۸۷/۸) \* اسد الغابۃ (۷۳۶۲) الاستيعاب (۳۵۷۸) تجرید (۳۱۲/۲)

\* المعجم الكبير (۳۶۳/۲۵)

کے اس میں سے لے لیا، برکت کی دعا دی، اور کچی انہیں واپس بھیج دی۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ گھی سے بھری ہوئی ہے۔ انہوں نے خیال کیا کہ آپ ﷺ نے اسے قبول نہیں فرمایا، لہذا وہ آئیں، اور ان کی آواز بلند ہو رہی تھی، آپ ﷺ نے فرمایا: ”انہیں اس بارے میں بتاؤ۔“ انہوں نے اس کچی میں سے نبی کریم ﷺ کے زمانے میں، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم کے دور خلافت میں یہاں تک کہ حضرت علی و معاویہ رضی اللہ عنہما کے تنازع تک کھایا، ابن سکین نے اسے حسن بن عرفہ کے طریق سے بحوالہ خلیفہ نقل کیا ہے، انہوں نے سند میں اوس بن خالد کا ذکر نہیں کیا۔

### ۱۱۸۹۲) ام ایاس بنت انس

بن رافع بن امری القیس بن زید بن عبدالاشہل النصارۃ، اشہلیہ۔ ابن کی والدہ ام شریک بنت خالد بن ثنیس بن لوزان بن عبدوڈ بن زید بن ثعلبہ بن خزرج بن ساعدہ ہیں۔ ابن سعد **\*** کا قول ہے: اسلام لائیں اور بیعت کی، ابوسعبد بن طلحہ کی زوجہ تھیں جو بنوعبدالدار سے تھے۔

### ۱۱۸۹۳) ام ایاس بنت ابی الجسر

انصارۃ۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف کی زوجہ تھیں، جب ان سے شادی ہوئی تو آپ ﷺ نے ان سے فرمایا: ”ولیمہ کرو، اگرچہ ایک بکری سے کیوں نہ ہو۔“ ابن قدام نے انساب اوس میں ان کا اور ابوہیسر کا نام لیا ہے، انس بن رافع اوسی۔

### ۱۱۸۹۴) ام ایمن (مولاة النبی ﷺ)

اور آپ ﷺ کی ماما تھیں، ابوہریرہ کا قول ہے: ان کا نام برکہ بنت ثعلبہ بن عمرو بن حصن بن مالک بن سلمہ بن عمرو بن نعمان ہے، انہیں ام الظباء کہا جاتا تھا۔ ابن ابی خنیسہ کا قول ہے: ہم سے سلیمان بن ابی شیخ نے روایت کیا، فرماتے ہیں: ام ایمن کا نام برکہ تھا، وہ رسول اللہ ﷺ کی والدہ کی باندی تھیں، رسول اللہ ﷺ فرماتے: ”میری والدہ کے بعد ام ایمن میری والدہ ہیں۔“ **\*** ابویعم کا قول ہے: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہن کی باندی تھیں، انہوں نے نبی کریم ﷺ کو بہہ کر دیں۔ ابن سعد کا قول ہے: بعض نے کہا کہ آپ ﷺ کو اپنی والدہ کی وراثت سے ملی تھی، آپ ﷺ نے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو انہیں آزاد کر دیا، عبید بن زید جو بنو حارث بن خزرج سے تھے، انہوں نے حضرت ام ایمن سے نکاح کیا، جس سے حضرت ایمن کی ولادت ہوئی، انہوں نے غزوات میں شرکت کی اور خیبر کے دن شہید ہوئے، حضرت زید بن حارثہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام تھے، انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو بہہ کر دیئے، آپ ﷺ نے انہیں آزاد کر دیا اور نبوت کے بعد حضرت ام ایمن سے نکاح کر دیا، جس سے اسامہ پیدا ہوئے۔ پھر واقدی رضی اللہ عنہ سے شیخ کے طریق سے جو بنوسعبد بن بکر سے تھے، مسنداً نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ حضرت ام ایمن سے فرماتے: ”اے والدہ!“ اور جب انہیں دیکھتے تو فرمایا: ”یہ میرے گھر والوں کے باقی ماندہ لوگوں میں سے ہیں۔“

الاستیعاب (۳۵۷۹) تجرید (۳۱۳/۲) **\*** الطبقات الکبریٰ (۲۳۲/۸)

اسد الغابۃ (۷۳۶۳) تجرید (۳۱۳/۲) **\*** مسند احمد (۲۱۲/۳) جامع المسانید والسنن (۱۶۷/۱۶)

## الاصحاب في الحديث الصحيح (جلد ۱۲)

ابن سعد رحمہ اللہ کا قول ہے: ہمیں ابوامامہ نے بحوالہ جریر بن حازم بتایا کہ میں نے عثمان بن قاسم کو فرماتے ہوئے سنا: جب حضرت ام ایمن نے نے ہجرت کی تو راستے میں شام ہو گئی، وہ روجاء کے قریب تھیں، انہیں پیاس لگی، ان کے پاس پانی نہیں تھا اور وہ روزے سے تھیں، انہیں بہت سخت پیاس لگی، ان کے سامنے آسمان سے ڈول لٹکایا گیا، جس میں نہایت سفید پانی تھا، انہوں نے اسے پکڑ لیا اور اس میں سے پانی پیا، یہاں تک کہ وہ سیراب ہو گئیں۔ وہ کہتی ہیں: اس کے بعد مجھے پیاس نہیں لگی، سخت گرمی کے دنوں میں روزے کی وجہ سے میں چاہتی تھی کہ مجھے پیاس لگے لیکن پھر بھی مجھے پیاس نہیں لگی۔

ابن سکین نے اسے ہشام بن حسان کے طریق سے بحوالہ عثمان اسی طرح نقل کیا ہے، اپنی روایت میں فرمایا: وہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلیں، وہ پیدل چل رہی تھیں اور ان کے پاس زاد راہ نہیں تھا۔ فرماتے ہیں کہ اس روایت میں ہے: جب سورج غروب ہوا تو میرے سر کے پاس ایک برتن لٹکا ہوا تھا، فرماتی ہیں، اس روایت میں ہے، اس کے بعد میں گرمیوں میں روزے رکھتی اور دھوپ میں پھرتی تاکہ مجھے پیاس لگے، لیکن کبھی مجھے پیاس نہ لگی۔

ہمیں عبداللہ بن موسیٰ نے بتایا کہ ہمیں فضیل بن مرزوق نے بحوالہ سفیان بن عیینہ بتایا، فرماتے ہیں: حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جسے یہ پسند ہے کہ اہل جنت میں سے کسی خاتون سے شادی کرے تو ام ایمن سے شادی کرے۔“ تو ان سے حضرت زید بن حارثہ نے نکاح کیا، ابن سکین بغوی نے نقل کیا ہے، بطریق سعید بن عبدالعزیز، انہوں نے نکحول سے، انہوں نے ام ایمن سے نقل کیا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماما تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض اہل سے فرمایا: ”شراب سے بچو....“۔ (الحدیث) ابن سکین رحمہ اللہ کا قول ہے: یہ روایت مرسل ہے۔

بخاری رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ میں اور مسلم اور ابن سکین نے زہری رحمہ اللہ کے طریق سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: حضرت ام ایمن کے حالات میں سے یہ ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن عبدالمطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں، ان کی خادمہ تھیں، حبشی تھیں، جب حضرت آمنہ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد وفات پا چکے تھے، حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتی تھیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہو گئے، پھر ان سے حضرت زید بن حارثہ نے نکاح کیا۔ \* یہ ابن سکین کے الفاظ ہیں۔

احمد اور بخاری نے اسی طرح نقل کیا ہے اور ابن سعد نے سلیمان بنی کے طریق سے بحوالہ انس روایت کیا ہے کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کے درخت ہدیہ میں دیتے تھے، جب قرظہ اور نصیر کی فتح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ درخت واپس کرنے لگے، میرے گھر والوں نے مجھے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ درخت واپس مانگوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درخت ام ایمن کو دیئے تھے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے واپس کر دیئے۔ اتنے میں حضرت ام ایمن تشریف لائیں، تو کپڑا ہلا کے وہ کہہ رہی تھیں، ہرگز نہیں۔ اللہ کی قسم! آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہرگز یہ درخت نہیں دیں گے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ درخت دے چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تمہارے لیے اتنے اور اتنے ہیں۔“ اور وہ کہہ رہی تھیں، ہرگز نہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمایا، میرا خیال ہے، فرمایا: ”اس طرح کے دس یا اس طرح کے دس کے قریب دیئے۔“ \*

\* بخاری (الحدیث: ۲۶۳۰) مسلم (الحدیث: ۴۵۷۸)

\* بخاری (الحدیث: ۳۱۲۸، ۴۰۳۰) مسلم (الحدیث: ۴۵۷۹) مسند احمد (الحدیث: ۲۱۹/۳)

ابن سکین نے عبدالملک بن حصین کے طریق سے بحوالہ نافع بن عطاء انہوں نے ولید بن عبدالرحمن سے، انہوں نے حضرت ام ایمن سے روایت کیا ہے، فرماتی ہیں: نبی کریم ﷺ کا برتن تھا، جس میں رات کو پیشاب کرتے، جب صبح ہوتی تو میں اسے پھینک دیتی، ایک رات میں سوئی، مجھے بہت سخت پیاس لگی، غلطی سے میں نے اسے پی لیا، میں نے اس کا ذکر نبی کریم ﷺ سے کیا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”آج کے بعد تمہارے پیٹ میں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔“ ❊

میں کہتا ہوں: احتمال ہے کہ یہ اس قصے کے علاوہ ہے جو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی خادمہ کے ساتھ پیش آیا، جیسا کہ ان کے سوانح میں گزر چکا ہے۔ لیکن ابن سکین رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کی وجہ سے فرمایا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کی خادمہ کی کنیت ام ایمن تھی۔ واللہ اعلم!

www.KitaboSunnat.com

ابن سکین نے سلیمان بن مغیرہ کے طریق سے بحوالہ ثابت، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، فرماتے ہیں: نبی کریم ﷺ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے، انہوں نے آپ ﷺ کو دودھ پیش کیا، یا تو آپ روزے سے ہوتے یا فرماتے میری خواہش نہیں ہے۔ پھر وہ آپ ﷺ کے پاس آتیں اور خوش کن باتوں سے آپ ﷺ کا دل بہلاتیں۔ جب رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوگئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: چلو! ام ایمن کی زیارت کو چلتے ہیں جیسے رسول اللہ ﷺ ان کی زیارت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب یہ دونوں حضرات ان کے پاس پہنچے تو وہ رو پڑیں، یہ دونوں کہنے لگے: اماں! آپ کس لئے روتی ہیں؟ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کے رسول ﷺ کے لیے بہت بہتر ہے۔ فرمایا: مجھے تو اس پر رونا آ رہا ہے کہ آسمان کی وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ جس سے ان حضرات کو بھی رونا آ گیا اور یہ اور وہ دونوں حضرات مل کے رونے لگے۔ اس روایت کو مسلم، امام احمد اور ابویعلیٰ نے اسی سند سے نقل کیا ہے۔ اس میں ہے، لیکن مجھے اس وحی پر رونا آتا ہے جس کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ واقعہ فرماتے ہیں: ام ایمن غزوہ احد میں شریک تھیں، وہ پانی پلاتیں اور مرہم پٹی کرتی تھیں۔ غزوہ خیبر میں بھی شرکت کی، اس کی سند میں یحییٰ حمانی ہیں، ابونعیم نے اپنے طریق سے بواسطہ شریک منصور سے، انہوں نے عطاء سے بواسطہ ام ایمن کے بیٹے بحوالہ ایمن روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”چور کا ہاتھ ڈھال کی وجہ سے کاٹا جائے۔“ جس کی قیمت نبی ﷺ کے دور میں ایک دینار یا دس درہم لگائی گئی، لیکن اس کی سند میں کلام ہے۔

طبرانی کی روایت ہے کہ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے نماز پڑھنے کی جگہ سے جائے نماز پکڑا دو۔“ میں نے عرض کی: میں ایام میں ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس کا اثر ہاتھوں میں کہاں۔“ لیکن اس روایت میں انقطاع ہے۔ ابن سعد نے صحیح سند کے ذریعے بحوالہ طارق بن شہاب نقل کیا ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی تو ام ایمن بے تحاشہ روئیں، کسی نے وجہ پوچھی تو فرمایا: مجھے آسمانی وحی پر رونا آتا ہے۔ اسی میں ہے: جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تو ام ایمن خبر ملتے ہی رو پڑیں، کسی نے پوچھا تو فرمایا: آج اسلام کمزور ہو گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ام ایمن رسول اللہ ﷺ کی وفات پر رو رہی تھیں، کسی نے آپ کو تسلی دی تو فرمایا: اللہ کی قسم! یہ تو مجھے معلوم تھا کہ رسول اللہ ﷺ نے فوت ہونا ہے (اس کا

صدمہ تو ہے ہی) لیکن اب مجھے وحی کے منقطع ہونے پر رونا آ رہا ہے۔

واقدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ام ایمن خلافت عثمانی میں فوت ہوئیں۔ ابن سکین نے صحیح سند کے ذریعے بحوالہ زہری رحمہ اللہ نقل کیا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے پانچ ماہ بعد فوت ہوئیں، یہ روایت مرسل ہے۔ حدیث طارق اس کے معارض ہے وہ موصول اور قوی ہے۔ ابن مندہ وغیرہ نے اس پر اعتماد کر کے یہ اضافہ بھی نقل کیا ہے کہ ان کا انتقال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیس (۲۰) دن بعد ہوا، ابن سکین نے دونوں قولوں کو جمع کر کے ذکر کیا ہے کہ جن کا زہری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے وہ مولانا النبی تھیں اور جس کا طارق بن شہاب نے ذکر کیا ہے۔ وہ مولانا ام حبیبہ، برکتھیں دونوں کا نام برکتھا، اور کنیت ام ایمن تھی یہ دور کا احتمال ہے۔

### ۱۱۸۹۵ ام ایمن

یہ دوسری ہیں، حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا کی مولانا تھیں، جو نبی کریم ﷺ کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں، اسحاق بن راہویہ نے اپنی مسند میں مرسل سند سے ان کا ذکر کیا ہے، فرمایا: ہمیں قبیصہ بن عقیبہ نے بحوالہ سفیان ثوری، انہوں نے جعفر بن محمد سے، انہوں نے اپنے والد سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: حضرت ام ایمن حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا کی باندی تھیں، جو نبی کریم ﷺ کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں، جب وہ آئیں تو کہتیں: سلام الایکم (صرف تم پر سلام ہو) نبی کریم ﷺ نے انہیں السلام علیکم کہنے کی رخصت دی۔

### ۱۱۸۹۶ ام ایوب بنت قیس

بن عمرو بن امرئ القیس خزر جیہ النصار، حضرت ابویوب النصار کی زوجہ ہیں جو مشہور صحابی ہیں۔ ترمذی رحمہ اللہ نے ابن عیینہ کے طریق سے، عبداللہ بن ابی یزید سے، انہوں نے اپنے والد سے نقل کیا ہے کہ ام ایوب نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے، ہم نے آپ ﷺ کے لیے کھانا تیار کیا جس میں سبزیاں تھیں، آپ ﷺ نے اسے کھانا پسند نہ کیا، اور اپنے ساتھیوں سے کہا: ”اسے کھاؤ! میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے ڈر ہے کہ میرے ساتھی کو ایذا نہ پہنچے۔“

فرماتے ہیں: حمیدی کا قول ہے، حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے نبی کریم ﷺ کو خواب میں دیکھا، میں نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! یہ حدیث ہے جو ام ایوب آپ سے روایت کرتی ہیں کہ فرشتوں کو اس چیز سے ایذا ہوتی ہے، جس سے بخود آدم کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”حق ہے۔“

### ۱۱۸۹۷ ام ایوب بنت قیس

بن سعد بن عمرو بن امرئ القیس بن مالک آخر۔ واقدی رحمہ اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے اور فرمایا: اسلام لائیں اور بیعت کی۔ ابن سعد رحمہ اللہ کا قول ہے، ان کے علاوہ اور کسی نے ان کا ذکر نہیں کیا۔

اسد الغابۃ (۷۳۶۴) تجرید (۳۱۳/۲) ترمذی (الحديث: ۱۸۱۰) حمیدی (۳۳۹)

تجرید (۳۱۳/۲) الطبقات الكبرى (۲۶۳/۸)

### ۱۱۸۹۸ ام ایوب بنت مسعود

ابوموسیٰ نے ذیل میں ان کا ذکر کیا ہے، اور مستغفری کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ بخاری\* نے ان کا ذکر کیا ہے اور ان سے کوئی حدیث نقل نہیں کی۔

### القسم الثانی

### ۱۱۸۹۹ ام ابان بنت جندب

بن عمرو بن حمید دوسیہ، زبیر بن بکار نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے، جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ان کی شادی کی۔





## حرف الباء الموحدة

### القسم الأول

#### ۱۱۹۰۰ أم بُجید الأنصاریہ \*

حارثیہ۔ ان کا نام خولہ ہے، اسماء میں ان کا ذکر گزر چکا ہے اور یہ اپنی کنیت سے مشہور ہیں۔

#### ۱۱۹۰۱ أم بُردہ بنت المنذر \*

بن زید بن لید بن عامر بن عدی بن نجار الأنصاریہ، نجاریہ، اپنی کنیت سے مشہور ہیں۔ اسماء میں حرف حاء میں گزر چکا ہے کہ ان کا نام خولہ ہے۔ ابن سعد رحمہ اللہ کا قول ہے: یہ زینب بنت سفیان بن قیس بن زعوراء ہیں، عدی بن نجار سے ہیں، ان سے براء بن اوس بن جعد بن عوف بن مبذول نے نکاح کیا، یہ وہی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کو دودھ پلایا، جب حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا کے گھرانہ کی ولادت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سپرد کر دیا۔ وہ انہیں دودھ پلاتی رہیں یہاں تک کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی۔ ابو موسیٰ کا قول ہے: مشہور یہ ہے کہ انہیں ام سیف نے دودھ پلایا، ممکن ہے دونوں نے دودھ پلایا ہو۔ \*

#### ۱۱۹۰۲ أم بُردہ انصاریہ المازنیہ \*

زبیر نے اخبار مدینہ میں بحوالہ محمد بن حسن، انہوں نے علی بن موسیٰ بن عروبہ سے، انہوں نے یعقوب بن محمد بن مصعب سے ان کا ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مازن میں حضرت ام بردہ کے گھر نماز پڑھی۔

#### ۱۱۹۰۳ أم بشر \*

بنت براء بن معرور، ان کے والد اور ان کے بھائی بشر کے سوانح میں ان کا نسب گزر چکا ہے۔ بعض کا قول ہے: ان کا نام خُلیدہ ہے، بعض نے کہا: سلاف ہے۔ تلاش کرنے پر مجھے معلوم ہوا کہ خُلیدہ بشر بن براء کی والدہ ہیں۔ زہری رحمہ اللہ نے بحوالہ عبدالرحمن بن عبد اللہ بن کعب بن مالک، انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں: جب حضرت کعب رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو ام بشر بنت براء بن معرور ان کے پاس آئیں اور کہنے لگیں: اے ابو عبدالرحمن! اگر تم

\* اسد الغابۃ (۷۳۶۶) الاستیعاب (۳۵۸۱) تجرید (۳۱۳/۲)

\* اسد الغابۃ (۷۳۶۷) تجرید (۳۱۳/۲) \* الطبقات الکبریٰ (۳۱۹/۸)

\* اسد الغابۃ (۴۲۶/۵) \* اسد الغابۃ (۷۳۶۸) الاستیعاب (۸۵۸۳) تجرید (۳۱۳/۲)

میرے والد سے ملو تو انہیں میری طرف سے سلام کہنا، انہوں نے کہا: اللہ کی قسم! اے ام بشر! ہم اس سے زیادہ مشغول ہوتے ہیں، انہوں نے کہا: کیا تم نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا: ”مومنوں کی روحیں ایک جان ہیں جو جنت میں جہاں چاہتی ہیں پھرتی ہیں۔ جبکہ کافر کی جان سبچین میں ہوتی ہے۔“ انہوں نے کہا: کیوں نہیں! آپ نے فرمایا: وہ یہی ہے۔

ابن مندہ نے حارث بن فضیل کی روایت سے زہری سے ان کے حوالے سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: یونس اور زبیدی \* نے زہری کے حوالے سے اسے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں: ابو یوسف ابو نعیم کا قول ہے: ابن اسحاق کے تلامذہ نے زہری کے حوالے سے انہوں نے ان سے اختلاف کیا ہے، بعض نے کہا: ام بشر، بعض نے کہا: ام بشر، پھر مسند حسن بن سفیان سے اپنی سند سے جسے وہ علی بن ابولید تک لے گئے ہیں، نقل کیا ہے۔ بحوالہ عبد اللہ بن یزید، انہوں نے ام بشر بنت براء بن معرور سے روایت کیا ہے، فرماتی ہیں: نبی کریم ﷺ اپنے اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ میرے گھر میں تشریف فرما تھے، میں نے ان کے لیے کھانا بنایا، جسے وہ کھا رہے تھے، انہوں نے آپ ﷺ سے ارواح کے بارے میں پوچھا: پھر انہوں نے یہ واقعہ ذکر کیا جس میں ایک قوم نے کھانے سے منع کیا تھا، پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”مومنوں کی روحیں سبز پرندوں میں ہوتی ہیں، وہ جنت کے میوہ جات کھاتے، مشروبات پیتے اور آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔“

### ۱۱۹۰۳ ام بشر

بنت عمرو بن عثمہ بن عدی بن سنان بن نابی بن عمرو بن سواد بن غنم بن کعب بن سلمہ۔ ابن سعد رحمہ اللہ \* نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا: ان کی والدہ ام زید بنت خدیجہ بن سنان بن نابی ہیں، ان سے عبد الرحمن بن خراش بن صہ بن حرام نے نکاح کیا، ان کے بعد عبد اللہ بن بشیر بن بشر بن امیہ نے نکاح کیا۔

### ۱۱۹۰۵ ام بشر براء بن معرور کی زوجہ ہیں، خلیدہ میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

### ۱۱۹۰۶ ام بشر بنت البراء ابن سعد نے ام بشر کی بعض احادیث میں فرمایا: ام بشر، یہ ایک ہیں۔

### ۱۱۹۰۷ ام بلال

حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہیں، ابو موسیٰ نے ذیل \* میں ان کا ذکر کیا ہے، اور مستغفری کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ بخاری نے خزانہ کے ان لوگوں میں ان کا ذکر کیا ہے جنہوں نے نبی کریم ﷺ سے روایت کی۔

### ۱۱۹۰۸ ام بلال بنت ہلال السلمیہ

ابو عمر کا قول ہے: مزنیہ، اور یہ وہم ہے۔ فرماتے ہیں، انہوں نے یہ حدیث روایت کی: ”بکرے یا بچھڑے کی قربانی کیا کرو۔“

\* اتحاف السادة المتقين (۳۸۷/۱۰) الطبقات الكبرى (۲۹۸/۸)

\* اسد الغابۃ (۷۳۶۹) تجرید (۳۱۳/۲) اسد الغابۃ (۴۲۷/۵)

\* اسد الغابۃ (۷۳۷۰) تجرید (۳۱۳/۲)

## الاصالة في تبيين الصحابة (جلد ۲۰)

میں کہتا ہوں: اسے مسدّد اور احمد \* نے نقل کیا ہے۔ فرمایا: ہم سے یحییٰ قطان نے بحوالہ محمد، انہوں نے ابو یحییٰ اسلمی سے انہوں نے اپنی والدہ ام بلال سے روایت کیا ہے، ان کے والد حدیبیہ کے دن نبی کریم ﷺ کے ساتھ تھے۔ میں نے کہا: نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”بکرے کی قربانی کیا کرو کیونکہ یہ جائز ہے۔“

اسے ابن سکین نے یحییٰ قطان کی روایت سے نقل کیا ہے۔ اس کے سیاق میں فرمایا: بحوالہ ام بلال جو قبیلہ اسلم کی خاتون ہیں۔ ابن مندہ کا قول ہے: حاتم بن اسماعیل اور قاسم بن حکم نے بحوالہ محمد بن ابی یحییٰ اسلمی کی پیروی کی ہے، پھر فرمایا: وہ اور ابن سکین، اسے ابو ضرہ نے محمد بن ابی یحییٰ کے حوالے سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں: بحوالہ ان کی والدہ، انہوں نے ام بلال سے، انہوں نے ان کے والد سے روایت کیا ہے۔

میں کہتا ہوں: اسے ابن ماجہ نے بحوالہ محمد بن ابی نجیح اسی طرح نقل کیا ہے، علی نے بھی ثقات تابعین میں ان کا ذکر کیا ہے۔

القسم الثانی خالی ہے۔

القسم الثالث

۱۱۹۰۹ ام بیان بنت زید \*

بن مالک النصار، سعد بن زید کی بہن ہیں۔ ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ \*

۱۱۹۱۰ ام البنین بنت عیینہ

بن حصن فزاری، ان کے والد کو شرف صحابیت حاصل ہے، انہوں نے نبوت کا زمانہ پایا، ان سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا، طبقات ابن سعد میں ان کا، ان کے ساتھ قصہ مذکور ہے۔

## حرف تاء (نقطوں والا)

خالی ہے۔

\* مسند احمد (۳۶۸/۶)

\* اسد الغابۃ (۷۳۷۱) تجرید (۳۱۳/۲)

\* اسد الغابۃ (۴۲۷/۵)

## حرف ثاء (تین نقطوں والا)

## القسم الاول

## ۱۱۹۱۱ ام ثابت بنت ثابت بن سنان

ابن سعد رحمہ اللہ نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا: محمد بن عمر نے ان کا ذکر کیا ہے۔

## ۱۱۹۱۲ ام ثابت بنت ثعلبہ

بن عمرو بن مھسن، ابن سعد رحمہ اللہ نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ ابن سعد رحمہ اللہ نے بنو عامر بن مالک بن نجار تک ان کا نسب پہنچانے کے بعد فرمایا: ان کی والدہ کوشہ بنت مالک بن قیس ہیں، جو بنو مازن بن نجار سے ہیں۔ ان سے علاء بن عمرو بن ربیع نے نکاح کیا جو بنو غنم بن نجار سے ہیں، ام ثابت اسلام لائیں اور بیعت کی۔

## ۱۱۹۱۳ ام ثابت بنت جبر

بن عتیک انصاریہ، ابن حبیب نے بھی بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ رحمہ اللہ اسی طرح ابن سعد رحمہ اللہ کا قول ہے: بعضہ بنت عمروان کی والدہ ہیں۔

## ۱۱۹۱۴ ام ثابت بنت حارثہ

بن زید بن ثعلبہ بن عبید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمہ انصاریہ، ابن سعد رحمہ اللہ نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا: ان کی والدہ ہند بنت مالک بن عامر ہیں، جو بنو یاضہ سے ہیں، عبداللہ بن حمیر اشجعی نے ان سے نکاح کیا، ام ثابت اسلام لائیں اور بیعت کی۔

## ۱۱۹۱۵ ام ثابت بنت سنان

بن عبید انصاریہ۔ ابن حبیب رحمہ اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے۔

## ۱۱۹۱۶ ام ثابت بنت سہل بن عتیک

ام سہل میں ان کے حالات آئیں گے۔

الطبقات الكبرى (۲۶۹/۸) رحمہ اللہ اسد الغابۃ (۷۲۷۲) تجرید (۳۱۳/۲)

الطبقات الكبرى رحمہ اللہ اسد الغابۃ (۷۳۷۳) تجرید (۳۱۳/۲) رحمہ اللہ المحبر (۴۱۳)

الطبقات الكبرى (۲۵۶/۸) رحمہ اللہ تجرید (۳۱۴/۲) رحمہ اللہ الطبقات الكبرى (۲۹۵/۸)

اسد الغابۃ (۷۳۷۴) تجرید (۳۱۴/۲) رحمہ اللہ المحبر (۴۲۲)

### ۱۱۹۱۷ ام ثابت بنت قیس \*

بن شماس انصاریہ، حضرت ثابت کی بہن ہیں، ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ \* ابن سعد کا قول ہے: ان سے ثابت بن سفیان بن عدی بن عمرو نے نکاح کیا، اس سے ساک پیدا ہوئے، لیلیٰ بنت ساک کے سوانح میں ان کا ذکر ہے۔

### ۱۱۹۱۸ ام ثابت بنت مسعود \*

بن سعد بن قیس بن خلدہ انصاریہ زرقیہ، ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ \* ابن سعد نے ان کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا: یہ ام سعد کی سگی بہن ہیں۔

### ۱۱۹۱۹ ام ثعلبہ بنت ثابت \*

بن جذع انصاریہ، بنو حرام سے ہیں، ابن حبیب نے بھی ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۹۲۰ ام ثعلبہ بنت زید \*

بن حارث بن حرام، ابن سعد نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا: ثعلبہ بنت زید بن جذع کی بہن ہیں، ان سے عمرو بن اوس بن عائد بن صامت بن خالد بن عطیہ بن عدی بن کعب نے نکاح کیا، ان کی والدہ لبابہ بنت خالد بن مخلد ہیں۔



\* اسد الغابہ (۷۳۷۵) تجرید (۳۱۴/۲) \* اسد الغابہ (۴۲۷/۵)

\* الطبقات الکبریٰ (۲۶۸/۸) \* اسد الغابہ (۷۳۷۶) تجرید (۳۱۴/۲)

\* اسد الغابہ (۴۲۸/۵) \* الطبقات الکبریٰ (۲۸۶/۸)

\* اسد الغابہ (۷۳۷۷) تجرید (۳۱۴/۲) \* اسد الغابہ (۴۲۸/۵)

\* تجرید (۳۱۴/۲) \* الطبقات الکبریٰ (۲۹۰/۸)

## حرف جیم

### القسم الاول

۱۱۹۲۱ ام جعدہ ایک کے بعد ان کا ذکر آئے گا۔

۱۱۹۲۲ ام الجلاس التیمیہ

یہ اسماء ہیں، عبد اللہ بن عباس بن ابی ربیعہ کی والدہ ہیں، اسماء میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

۱۱۹۲۳ ام الخلدج

اشعب طماع کی والدہ ہیں، ابو الفرج اصبہانی نے مطلب بن عبد اللہ بن یزید بن عبد الملک کے طریق سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں: میرے پاس اشعب اور ایک جماعت تھی، میں نے ایک دینار پر ان میں مقابلہ کرایا، اُن میں اشعب جیت گئے، اور کہنے لگے: میں ابن ام خلدج ہوں جو نبی کریم ﷺ کی ازواج کے درمیان پھوٹ ڈالتی تھیں، میں نے اس سے کہا: تمہاری ہلاکت! کیا کوئی اس چیز پر فخر کر سکتا ہے؟ اس نے کہا: اگر وہ ان کے نزدیک قابل اعتبار نہ ہوتی تو اس کی بات قبول نہ کرتیں۔ میں کہتا ہوں: انہیں ام حمیدہ اور ام جعدہ بھی کہا جاتا ہے۔

۱۱۹۲۴ ام جمیل بنت اوس المرئیہ

بنو امی القیس سے ہیں، ابو موسیٰ اور مستغفری نے ان کا ذکر کیا ہے اور فرمایا: ان کے والد کے سواخ میں ان کا ذکر گزر چکا ہے\* میں کہتا ہوں: پہلے گزر چکا ہے کہ ابو علی غسانی نے استیعاب کے حاشیے میں ذکر کیا ہے کہ ان کا نام جمیلہ ہے۔

۱۱۹۲۵ ام جمیل بنت الجلاس

بن سوید بن صامت بن خالد بن عطیہ انصاری، بنو عبد اشہل سے ہیں۔ ابن سعد رحمہ اللہ کا قول ہے: اسلام لائیں اور بیعت کی، ان سے سالم بن عقبہ بن سالم بن سلمہ بن امیہ بن زید نے نکاح کیا۔

۱۱۹۲۶ ام جمیل بنت الحباب

بن منذر بن جموح بن زید بن حرام خزرجیہ، ابن سعد نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا:

\* اسد الغابۃ (۷۳۷۹) تجرید (۳۱۴/۲) \* اسد الغابۃ (۴۲۹/۵)

\* اسد الغابۃ (۷۳۸۰) تجرید (۳۱۴/۲) \* الطبقات الکبریٰ (۲۵۷/۸)

\* اسد الغابۃ (۷۳۸۱) تجرید (۳۱۴/۲)

ان سے منذر بن عمرو خرمی جو بنو ساعدہ کے نقیب ہیں، نے نکاح کیا، فرماتے ہیں: ان کی والدہ زینب بنت صمیٰ بن صخر بن خضاء اسمیہ ہیں۔ ❀

❀ ۱۱۹۲۷ ❀ ام جمیل بنت ابی اخزم ❀ بن عتیک بن نعمان انصاریہ، بنو مالک سے ہیں۔

❀ ۱۱۹۲۸ ❀ ام جمیل بنت الخطاب القرشیہ ❀

عدویہ، سعد بن زید کی زوجہ ہیں، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ ان کے بیٹے عبدالرحمن اکبر کی والدہ ہیں۔ زبیری نے ان کا ذکر کیا ہے، بعض کا قول ہے: یہ فاطمہ ہیں حرف فاء میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

❀ ۱۱۹۲۹ ❀ ام جمیل بنت عبداللہ ❀

بنو یثرب نے موسیٰ بن عبیدہ ربیعہ کے طریق سے بحوالہ اپنے بھائی عبداللہ، انہوں نے ام جمیل بنت عبداللہ سے نقل کیا ہے کہ ان کے شوہر نے انہیں مارا، انہوں نے نبی کریم ﷺ سے اس کا ذکر کیا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا تم اسے جدا کرنا چاہتے ہو، چنانچہ انہوں نے اس سے جدائی اختیار کر لی۔“ ❀

❀ ۱۱۹۳۰ ❀ ام جمیل بنت قطبہ ❀

بن عامر انصاریہ، بنو سواد سے ہیں۔ ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ ❀ ابن سعد ❀ کا قول ہے: ان سے حضرت عثمان بن غلہ بن خالد بن عامر بن زریق نے نکاح کیا، جس سے امامہ پیدا ہوئیں، اس کے بعد حضرت زید بن ثابت نے ان سے نکاح کیا، اس کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کیا۔

❀ ۱۱۹۳۱ ❀ ام جمیل بنت المجمل ❀

بن عبداللہ یا عبید بن ابی قیس قرشیہ عامریہ، بنو عامر بن لوی سے ہیں۔ اسلام کے ابتدائی دور میں اسلام لانے والی تھیں۔ ابن سعد ❀ کا قول ہے: ان کی والدہ ام حبیب بنت العاص ہیں، جو ابواجمہ کی بہن ہیں، ام جمیل مکہ میں اسلام لائیں بیعت کی اور حبشہ کی طرف ہجرت کی، دوسری ہجرت انہوں نے اور ان کے شوہر حاطب بن حارث نے کی، فرماتے ہیں: ان کے ساتھ ان کے دونوں بیٹے محمد اور حارث تھے، ان کے بیٹے محمد بن حاطب کے سوانح میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اسے عبدالرحمن بن عثمان بن ابراہیم بن محمد بن حاطب کے طریق سے بحوالہ ان کی والدہ ام جمیل بنت مجمل روایت کیا ہے، فرماتی ہیں: حبشہ کی زمین

❀ الطبقات الکبریٰ (۲۸۹/۸، ۲۹۰، ۲۸۹/۵) ❀ اسد الغابہ (۷۳۸۲) ❀

❀ اسد الغابہ (۷۳۸۳) تجرید (۳۱۴/۲) ❀ اسد الغابہ (۳۷۸۴) تجرید (۳۱۴/۲) ❀

❀ جامع المسانید (۱۸۳/۱۶) طبقات الکبریٰ (۲۹۹/۸) ❀ اسد الغابہ (۷۳۸۵) تجرید (۳۱۴/۲) ❀

❀ اسد الغابہ (۴۲۹/۵) ❀ الطبقات الکبریٰ (۲۹۹/۸) ❀ اسد الغابہ (۷۳۸۶) الاستیعاب (۳۵۸۶) تجرید (۳۱۴/۲) ❀

❀ الطبقات الکبریٰ (۲۹۹/۸) ❀

سے میں تمہیں لائی اور مدینہ سے ایک یا دو دن کی مسافت کے قریب پہنچی تھی تو تمہارے لیے کوئی چیز پکائی، ایدھن ختم ہوا تو اس کی تلاش میں نکلی، ہنڈیا ابل کر تمہارے بازو پر الٹ گئی تھی..... (الحدیث)

### ۱۱۹۳۲ ام جندب

حضرت ابوذر کی والدہ ہیں، حضرت ابوذر غفاری کے اسلام لانے کے قصے میں مسلم کے حوالہ سے حمید بن ہلال کے طریق سے، عبد اللہ بن صامت سے بحوالہ ابوذر مروی ہے، فرماتے ہیں: جب میں اسلام لایا تو اپنے بھائی اور والدہ کے پاس آیا، دونوں کہنے لگے: ہمیں تمہارے دین سے کوئی اعراض نہیں پھر میری والدہ اور بھائی اسلام لے آئے..... (الحدیث)

### ۱۱۹۳۳ ام جندب الازدیہ

سلیمان بن عمرو بن احوص کی والدہ ہیں، احمد اور ابن سعد دونوں نے ان کی حدیث بحوالہ یزید بن ہارون، انہوں نے جاج بن ارطاع سے، انہوں نے یزید مولیٰ عبد اللہ بن حارث سے، انہوں نے ام جندب ازدیہ سے روایت کی ہے، فرماتی ہیں، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”کنکری جتنے ریزوں سے رمی جرات کرو“۔ (حج کے دوران شیطان کو کنکریاں مارنا)۔

اسے ابن سعد نے عبد اللہ بن ادریس سے بحوالہ یزید بن ابی زیاد، انہوں نے سلیمان بن عمرو بن احوص سے، انہوں نے اپنی والدہ سے نقل کیا ہے، اور اس روایت سے زیادہ مکمل ہے، اس روایت میں ہے: آپ کے پیچھے ایک صحابی تھے، جو انہیں لوگوں کے پتھروں سے بچا رہے تھے، میں نے ان کے بارے میں دریافت کیا، جواب ملا: عباس بن عبد المطلب، اسے مندول بن علی کے طریق سے بھی بحوالہ یزید، انہوں نے سلیمان سے، انہوں نے ان کی والدہ ام جندب سے نقل کیا ہے، لیکن فرمایا: مجھے جواب ملا، فضل بن عباس اور یہ صحیح ہے، اسے ابن مندہ نے پہلے طریق سے نقل کیا ہے، پھر فرمایا: حماد بن سلمہ نے اس کی مخالفت کی ہے، فرمایا: بحوالہ جاج، انہوں نے یزید بن حارث سے، انہوں نے جندب سے، انہوں نے اپنی والدہ سے نقل کیا ہے۔

ابو نعیم نے ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے، چنانچہ انہوں نے ام جندب جو سلیمان کی والدہ ہیں ام جندب ازدیہ کے علاوہ قرار دیا ہے، اور ام جندب جو ابوذر کی والدہ ہیں ان کا عنوان دونوں کے درمیان قائم کیا ہے جو وہم ہے تعجب کی بات ہے کہ ازدیہ کے بارے میں وہ لکھتے ہیں: سلیمان کی والدہ ہیں۔

### ۱۱۹۳۴ ام جندب بنت مسعود

بن اوس انصاری، بنو ظفر سے ہیں، ابن حبیب اور ابن سعد نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے، ابن سعد کا قول ہے: ان کی اور ان کی بہن کی والدہ ام سلمہ شمس بنت عمرو ہیں، ان سے نصر بن حارث بن عبد رزاح بن ظفر نے نکاح کیا،

اسد الغابۃ (۷۳۸۷) تجرید (۳۱۵/۲) مسند طیالسی (الحدیث: ۴۵۸)

اسد الغابۃ (۷۳۸۹) تجرید (۳۱۵/۲) مسند احمد (۲۷۰/۵)

اسد الغابۃ (۷۳۹۰) تجرید (۳۱۵/۲) اسد الغابۃ (۴۳۱/۵)

الطبقات الکبریٰ (۲۴۸/۸)



جس سے حارث پیدا ہوئے۔

### ۱۱۹۳۵ ام جندره

ابو قرق صافہ، جندره بن حبشیہ کی والدہ ہیں، طبرانی میں ان کے والد کی سند میں ان کا ذکر ہے۔

القسم الثانی خالی ہے۔

### القسم الثالث

### ۱۱۹۳۶ ام جمیل الدوسیہ

جنہوں نے ضرار بن خطاب وغیرہ کو پناہ دی تھی، جب قبیلہ دوس نے انہیں ابوازیہر کے بدلے قتل کرنا چاہا تھا۔ ابو عبیدہ نے ان کا ذکر کیا ہے، دوسرے راویوں کا قول ہے: یہ ام غیلان دوسیہ ہیں، یہی مشہور ہے، حرف غین میں ان کا ذکر آئے گا۔

### القسم الرابع

### ۱۱۹۳۷ ام جندب الأزدیہ

سلیمان کی والدہ ہیں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔ ابو نعیم نے انہیں دو قرار دیا ہے، صحیح یہ ہے کہ یہ دونوں ایک ہیں، ابو عمر نے اسی کا اعتبار کیا ہے۔



## حرف حاء بے نقط

www.KitaboSunnat.com

## القسم الاول

## ۱۱۹۳۸ أم الحارث بنت ثابت\*

بن جذع انصاریہ، ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔\* ابن سعد\* نے بھی ان کا ذکر کیا ہے، اور یہ اضافہ کیا ہے۔ بعض کا قول ہے: یہ ام ایاس ہیں، فرماتے ہیں: ان سے مرداس بن مروان بن جذع نے نکاح کیا، ان کی والدہ امامہ بنت عثمان بن غلہ ذرقیہ ہیں۔

## ۱۱۹۳۹ أم الحارث بنت الحارث

بن ثعلبہ انصاریہ، بنو نجار سے ہیں، ابن سعد\* نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں: ان کی والدہ سمیرا بنت قیس بن مالک ہیں، جن کا ذکر گزر چکا ہے، ان سے عمرو بن عزیہ بن عمرو بن ثعلبہ نے نکاح کیا، جس سے حارث اور عبدالرحمن پیدا ہوئے، اس کے بعد ان سے حارث بن خزیمہ نے نکاح کیا، جس سے سہمہ کی ولادت ہوئی۔

## ۱۱۹۴۰ أم الحارث بنت الحارث\*

بن عروہ بن عبدالرزاق بن ظفر انصاریہ، ابن سعد\* نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں: ان کی والدہ سہلہ بنت امری القیس بن ذؤیب بن عامر ہیں۔

## ۱۱۹۴۱ أم الحارث بنت عیاش\*

بن ابوربیعہ مخزومیہ، ابن ابی عاصم\* نے وُحدان میں ان کا ذکر کیا ہے، اور ابن جریج کے طریق سے بحوالہ محمد بن یحییٰ بن حبان، انہوں نے ام حارث سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے بدیل بن ورقاء کو خاستری رنگ کے اونٹ پر طواف کرتے دیکھا، مٹی میں اہل منازل کے مقام پر وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے تمہیں ان دنوں میں روزے رکھنے سے منع کیا ہے، یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں۔

ابو عمر نے اس حدیث میں ان کی ذکر کیا ہے، لیکن اس کی سند بیان نہیں کی۔

\* اسد الغابۃ (۷۳۹۲) تجرید (۳۱۵/۲) \* اسد الغابۃ (۴۳۲/۵) \* الطبقات الکبریٰ (۲۹۰/۸)

\* الطبقات الکبریٰ (۳۲۱/۸) \* تجرید (۳۱۵/۲) \* الطبقات الکبریٰ (۲۵۰/۸)

\* اسد الغابۃ (۷۳۹۳) الاستیعاب (۳۵۸۸) تجرید (۳۱۵/۲) \* الاحاد والمثنائی (۲۴۰/۶)

ابونعیم نے ابن ابوعاصم اور معمری کے طریق سے وہ دونوں ہشام بن عمار سے، وہ شعیب بن اسحاق سے، بحوالہ ابن جریج اسے مندا نقل کیا ہے۔ اور مصعب بن سلام کے طریق سے بحوالہ ابن جریج، اس میں سے وہ روایت جسے ابن مندہ نے مروان بن شجاع کے طریق سے بحوالہ ابن جریج نقل کیا ہے۔

### ۱۱۹۳۲ ام الحارث بنت مالک

بن خضاء بن سنان الناصریہ، ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ابن سعد نے بھی ان کا ذکر کیا ہے، اور یہ اضافہ کیا ہے۔ ان سے ثابت بن مضر بن امیہ نے نکاح کیا، طفیل بن مالک کی سگی بہن ہیں، ان کی والدہ اسماء بنت قین بن کعب بن سواد ہیں۔

### ۱۱۹۳۳ ام الحارث بنت النعمان

بن خضاء، ابن سعد نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ بنی غزیہ الناصریہ، بنو خزرج سے ہیں۔ ابو عمر کا قول ہے، نبی کریم ﷺ کے ساتھ حنین میں شریک تھیں۔

### ۱۱۹۳۵ ام حارثہ

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی پھوپھی ام ربیع بنت براء میں ان کا ذکر آئے گا۔

### ۱۱۹۳۶ ام حارثہ

یہ ربیع بنت نصر ہیں، اسماء میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

### ۱۱۹۳۷ ام العباب بنت حباب

ام رافع، ان کا نام فزریہ ہے، حرف فاء میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

### ۱۱۹۳۸ ام حبان

بنت عامر بن ثابی، عقبہ کی بہن ہیں، ان کے بھائی کے ساتھ ان کا نسب گزر چکا ہے، ابن سعد نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں: ان کی والدہ فکیہ بنت سکن بن زید سلیمہ ہیں، ان سے حرام بن حصہ نے نکاح کیا، اور لکھا ہے کہ یہ وہی ہیں جن کے لیے ان کے بھائی عقبہ بن عامر نے نذر کا مسئلہ پوچھا تھا، جبکہ ایسا نہیں کیونکہ عقبہ جنہوں نے مسئلہ پوچھا تھا، وہ ابن عامر جہنی ہیں اور یہ انصاری ہیں، جن کی روایت کوئی نہیں یہ اشتباہ ان کے والد اور نام کے اتفاق کی وجہ سے ہوا۔

### ۱۱۹۳۹ ام حبیب بنت ثمامہ

بنو نیم بن وودان بن اسد بن خزیمہ سے ہیں، ابن اسحاق نے بنو اسد میں سے ہجرت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا

اسد الغابۃ (۷۳۹۶) تجرید (۳۱۵/۲) \* اسد الغابۃ (۴۳۲/۵) \* الطبقات الکبریٰ (۲۹۳/۸)

تجرید (۳۱۵/۲) \* الطبقات الکبریٰ (۲۹۳/۸) \* اسد الغابۃ (۷۳۹۱) تجرید (۳۱۵/۲)

اسد الغابۃ (۷۳۹۶) تجرید (۳۱۵/۲) \* الطبقات الکبریٰ (۲۸۸/۸)

الاستیعاب (۳۵۹۰) تجرید (۳۱۵/۲)

کیا ہے، جو قریش کے حلیف تھے، ابن دباغ نے اپنے استدراک میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۹۵۰ ام حبیب بنت سعید

بن یربوع، بلاذری نے ذکر کیا کہ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔

### ۱۱۹۵۱ ام حبیب بنت العاص

بن امیہ بن عبد شمس قرشیہ امویہ، خالد بن سعید بن العاص اور ان کے بھائیوں کی پھوپھی ہیں، مستغفری اور ابو موسیٰ نے ذیل میں ان کے حوالے سے ان کا ذکر کیا ہے، اور ایسی کوئی بات ذکر نہیں کی، جو ان کے اسلام لانے پر دلالت کرے، بلکہ فرمایا: عمرو بن عبدود کی زوجہ تھیں، یعنی قرشی عامری، جسے غزوہ خندق میں علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب نے قتل کیا، شاید یہ فتح تک زندہ رہیں اور اسلام لائیں۔ حکم بن ابوالعاص بن امیہ کی چچا زاد تھیں جو مروان کا والد ہے۔\*

### ۱۱۹۵۲ ام حبیب، او ام حبیبہ

بنت عباس بن عبد المطلب، پہلا نام مشہور ہے، ابو عمر کا قول ہے: ان کی والدہ ام الفضل ہیں، یہ فضل اور عبد اللہ کی سگی بہن ہیں، حدیث ام فضل میں ان کا ذکر ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اگر ام حبیبہ بن عباس بالغ ہوئی اور میں زندہ رہا (اپنے چچا کی خوشی کی خاطر) اس سے نکاح کر لوں گا۔“

ان سے اسود بن سنان بن عبد الاسد مخزومی نے نکاح کیا۔ ابن اثیر\* کا قول ہے، ابن اسحاق\* نے یونس بن بکر کی ان سے مروی روایت میں بحوالہ حسین بن عبد اللہ بن عبید اللہ بن عباس، انہوں نے عکرمہ سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی، فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے ام حبیب بنت عباس کو اپنے سامنے ہاتھوں چلتے دیکھا تو فرمایا: ”اگر یہ بالغ ہوگئی اور میں زندہ ہوا تو (اپنے چچا کی خوشی کے لیے) اس سے نکاح کر لوں گا۔“

آپ ﷺ ان کے بالغ ہونے سے قبل وفات پا گئے، ان سے اسود نے نکاح کیا، جس سے لبابہ پیدا ہوئیں، انہوں نے اپنی والدہ کے نام پر ان کا نام رکھا۔

میں کہتا ہوں: اس کا تقاضا ہے کہ انہیں دیدار حاصل ہو، تو وہ قسم ثانی میں سے ہوں گی، ابن سعد نے صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے کہ اسود سے ان کے ہاں دوسری بیٹی پیدا ہوئی، جس کا نام زرقاء ہے۔ فرماتے ہیں: ان کی اولاد مکہ میں رہتی ہے۔

### ۱۱۹۵۳ ام حبیب بنت غانم

معاذہ میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

\* اسد الغابۃ (۷۳۹۷) تجرید (۳۱۶/۲) \* اسد الغابۃ (۴۳۲/۵) نسب قریش (۱۷۴، ۱۷۵)

\* اسد الغابۃ (۷۳۹۸) تجرید (۳۱۶/۲) \* اسد الغابۃ (۴۳۳/۵)

\* السیر والمغازی (۲۶۸)

### ۱۱۹۵۴ ام حبیب بنت العوام

بن خویلد قرشیہ اسدیہ، بہن کی بہن ہیں۔ زیر بن بکار نے ان کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا: خالد بن حزام کی زوجہ تھیں، جو حکیم بن حزام کا بھائی تھا، اس سے ام حسن پیدا ہوئیں، خالد بن حزام پہلی ہجرت حبشہ سے لوٹتے ہوئے وفات پا گئے، جیسا کہ ان کے سوانح میں گزر چکا ہے۔

### ۱۱۹۵۵ ام حبیب بنت مُعْتَب ان کا نام حبیبہ ہے، جیسا کہ گزر چکا ہے۔

### ۱۱۹۵۶ ام حبیب بنت نباتہ اسدیہ \* مکہ میں اسلام لائیں اور ہجرت کی، ابن سعد نے ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۱۹۵۷ ام حبیب ام عطیہ کی مولاہ ہیں، ام حبیبہ اور بنت جحش میں ان کا ذکر آئے گا۔

### ۱۱۹۵۸ ام حبیبہ \*

بن جحش حضرت زینب بنت جحش کی بہن ہیں جو نبی کریم ﷺ کی زوجہ تھیں، حضرت عبدالرحمن بن عوف کی زوجہ تھیں، انہیں استخاضہ کا مرض تھا۔ مسلم \* نے عمرو بن حارث کے طریق سے بحوالہ زہری، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ بنت ابی بکر سے روایت کیا ہے کہ حضرت ام حبیبہ بنت جحش رسول اللہ ﷺ کے سرال میں سے تھیں اور عبدالرحمن بن عوف کی زوجہ تھیں، انہیں سات سال تک استخاضہ کا مرض رہا، انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے اس بارے میں پوچھا، آپ ﷺ نے فرمایا:.... (الحدیث) اسے معمر نے بحوالہ زہری روایت کیا ہے، فرمایا: ام حبیب، یحییٰ بن ابوکثیر نے بحوالہ ابوسلمہ، انہوں نے ام حبیبہ سے روایت کیا ہے، ابن قتیبہ کا قول ہے، بحوالہ زہری کہ ام حبیب یا ام حبیبہ شک کے ساتھ ہے، محمد بن اسحاق نے بحوالہ زہری، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے ام حبیبہ بنت جحش سے روایت کیا ہے کہ انہیں استخاضہ کا مرض تھا، انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا، آپ ﷺ نے انہیں ہر نماز کے وقت غسل کرنے کا حکم دیا۔ وہ اس حال میں پانی کے ٹب یا لگن سے نکلتی تھیں کہ سارا پانی خون سے رنگین ہو جاتا تھا، پھر وہ نماز پڑھتیں۔ ابن ابی ذؤیب کی روایت اسماء میں حضرت ام حبیبہ بنت جحش کے عنوان میں گزر چکی ہے۔

### ۱۱۹۵۹ ام حبیبہ بنت ابی سفیان

صحرا بن حرب بن امیہ قرشیہ امویہ، نبی کریم ﷺ کی زوجہ ہیں، ان کا نام رملہ تھا، اسماء میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

### ۱۱۹۶۰ ام حبیبہ بنت نباتہ اسدیہ \*

ابن سعد نے ان کا ذکر کیا ہے اور فرمایا: مکہ میں اسلام لائیں، بیعت کی اور اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ ہجرت کی۔

\* تجرید (۳۱۶/۲) اسد الغابہ (۷۴۰۰) الاستیعاب (۷۴۰۰) الاستیعاب (۳۵۹۱) تجرید (۳۱۶/۲)

\* مسلم (۷۵۴) تجرید (۳۱۶/۲)

### ۱۱۹۶۱ ام حبیبہ

حضرت ام عطیہ کی مولاء ہیں، فرماتی ہیں، میں ان خواتین میں سے تھی جنہوں نے نبی کریم ﷺ کی کسی بیٹی کی طرف ہدیہ بھیجا تھا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم عورتیں ناپاک کا غسل کیا کرو تو اپنے سر پر تین چلو پانی بہا لیا کرو۔“

امام احمد اور طبرانی رحمہما نے شریک کے طریق سے بحوالہ عبدالملک بن ابوسلیمان، ان کے حوالے سے نقل کیا ہے، مسند احمد میں ام حبیبہ اور طبرانی میں ام حبیب ہے۔

### ۱۱۹۶۲ ام الحجاج

امامہ کی باندی، ذہبی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ مسند قبی میں ان کی ایک حدیث ہے۔

### ۱۱۹۶۳ ام حرام بنت ملحان

حضرت انس بن مالک کی خالہ ہیں، رجال، حرف حاء ان کے بھائی حرام بن ملحان کے سوانح میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔ بعض کا قول ہے: وہ رمیضاء ہیں، اسی طرح ابو نعیم نے اسے نقل کیا ہے، جو صحیح نہیں، صحیح یہ ہے کہ یہ ام سلیم کا وصف ہے، نسائی میں حضرت انس اور حضرت جابر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

ابو عمر نے ام حرام کے سوانح میں فرمایا: مجھے ان کا صحیح نام معلوم نہیں۔ صحیح بخاری وغیرہ میں یہ موطا مالک کے طریق سے بحوالہ اسحاق بن، ابی طلحہ، اور انس سے ان کا ذکر ثابت ہے کہ نبی کریم ﷺ جب قباء تشریف لے جاتے تو حضرت ام حرام بنت ملحان کے پاس تشریف لے جاتے، وہ آپ ﷺ کو کھانا کھلاتی تھیں، آپ ﷺ ان کے پاس تشریف لے گئے۔ انہوں نے آپ ﷺ کو کھانا کھلایا اور آپ ﷺ کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگیں، آپ ﷺ سو گئے پھر ہنستے ہوئے بیدار ہوئے.... سمندر کے شہداء کے بارے میں حدیث ہے، اس کے آخر میں ہے، فرمایا: حضرت ام حرام نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آخری جنگ میں شرکت کی اور اپنی سواری سے گر گئیں، جب وہ خشکی پر پہنچیں تو وفات پا گئیں۔

بخاری میں اس کے بعض طرق میں بحوالہ انس مروی ہے، انہوں نے ام حرام بنت ملحان سے روایت کیا ہے، وہ آپ ﷺ کی خالہ تھیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کے گھر میں قیلولہ کیا، آپ ﷺ ہنستے ہوئے بیدار ہوئے اور آپ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے میری امت کے وہ لوگ دکھائے گئے جو سبز سمندر میں اس طرح سفر کر رہے ہیں جیسے تخت پر بادشاہ بیٹھے ہوں۔“ فرماتی ہیں، میں نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھے ان لوگوں میں شامل کرے۔

آپ ﷺ پھر سو گئے، اور ہنستے ہوئے بیدار ہوئے، میں نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”میری امت میں سے وہ لوگ مجھے دکھائے گئے جو سبز سمندر پر اس طرح سوار ہیں جیسے بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوں۔“

اسد الغابۃ (۷۳۹۹) تجرید (۳۱۶/۲) المعجم الكبير (۹۳/۲۵)

المعجم الكبير (۱۶۹/۲۵) الحدیث (۲۳۹/۲۵) تجرید (۳۱۶/۲)

اسد الغابۃ (۷۴۰۳) الاستیعاب (۹۵۹۳) تجرید (۳۱۶/۲) مسند احمد (۴۲۳/۶)

## الکتاب فی مناقب الصحابة (جلد ۲) ۲۳۲

میں نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے ان لوگوں میں کر دے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم پہلے لوگوں میں ہو۔“ راوی فرماتے ہیں: ان سے حضرت عبادہ بن صامت نے شادی کی وہ انہیں اپنے ساتھ بحری غزوے میں لے گئے، جب ان لوگوں نے سمندر پار کیا تو جس سواری پر یہ سوار تھیں اس کے بدکنے سے شہید ہو گئیں۔

ابن اشیر \* کا قول ہے: وہ غزوہ فُمرص تھا، وہ اس میں فُن کی گئیں، اس لشکر کے امیر معاویہ بن ابوسفیان تھے، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا واقعہ ہے۔ ان کے ساتھ حضرت ابوذر، حضرت ابودرداء اور دوسرے صحابہ تھے۔ یہ ستائیس (۲۷) ہجری کا قصہ ہے، ابو عمر کا قول ہے: حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس غزوے میں خود جہاد کیا، ان کے ساتھ، ان کی زوجہ فاختہ بنت قرظہ تھیں، جو بنونوفل بن عبدمناف سے ہیں۔

میں کہتا ہوں: موطا ابن وہب میں بحوالہ ابن لہیعہ مروی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وہ زوجہ جو اس غزوہ میں ان کے ساتھ تھیں، کنود بنت قرظہ تھیں، شاید فاختہ کا لقب کنود تھا، وہ ان کی بہن تھیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک کے بعد دوسری سے نکاح کیا، بعض اہل تاریخ نے اس کا یقین کیا ہے، فرماتے ہیں: حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس سال ان سے صلح کر لی اور واپس لوٹ آئے۔ ام حرام سے ان کے شوہر عبادہ بن صامت، اس کے علاوہ عمیر بن اسود، عطاء بن یسار اور یعلیٰ بن شداد بن اوس نے روایت کی۔

### ۱۱۹۶۳ ام حرملة بنت عبد الاسود \*

بن خزیمہ بن اقیس بن عامر بن بیاضہ خزاعیہ، خالده میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

### ۱۱۹۶۵ ام الحسن بنت خالد

بن حرام بن خولید بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی، ان کی والدہ ام حبیب بنت عوام بن خولید بن اسد کے سوانح میں ان کا ذکر ہے، حبشہ میں داخل ہونے سے قبل ان کے والد کے وفات پا جانے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مکہ یا راستے میں پیدا ہوئی ہوں، اور نبی کریم ﷺ کی وفات کے وقت دس برس سے زائد تھیں۔

### ۱۱۹۶۶ ام الحُصین الاحمسیہ \*

صحیح مسلم \* میں زید بن ابوانیسہ کے طریق سے بحوالہ یحییٰ بن حصین، انہوں نے اپنی دادی ام حصین سے حدیث روایت کی ہے، فرماتی ہیں: میں نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر حج کیا، میں نے اسامہ اور بلال کو دیکھا، ان میں سے ایک نبی کریم ﷺ کی اونٹنی کی لگام پکڑے ہوئے تھا اور دوسرا آپ ﷺ کو گرمی سے بچانے کے لیے کپڑا اتانے ہوئے تھے، یہاں تک کہ حجرۃ العقبہ پر کنکریاں ماریں، ابو عمر کا قول ہے: ان سے یحییٰ بن حصین اور عیزار بن خریث نے روایت کی، ان کے والد اسحاق نے ان کا نام لیا ہے، کسی اور کے ہاں میں نے ان کا تذکرہ نہیں دیکھا۔ عیزار بن خریث کی ان سے مروی روایت ابن مندہ کے پاس، ابونعیم کے طریق سے، بحوالہ یونس بن ابی اسحاق، انہوں نے عیزار بن خریث سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں: میں نے احمیہ یعنی ام الحُصین

\* اسد الغابۃ (۵/۵۴۵) \* اسد الغابۃ (۴/۷۴۰) تجرید (۲/۳۱۶)

\* اسد الغابۃ (۶/۷۴۰) الاستیعاب (۵/۳۵۹) تجرید (۲/۳۱۷) \* مسلم (الحديث: ۳۱۲۶)

سے فرماتے ہوئے سنا: میں نے رسول اللہ ﷺ پر ایک چادر دیکھی، جسے آپ ﷺ نے بغلوں کے نیچے سے نکال کر لپیٹا ہوا تھا، آپ فرما رہے تھے: ”اے لوگو! اللہ سے ڈرو، اگر تم پر حبشی غلام بھی امیر بنایا جائے اس کی بات سنو اور جب تک وہ تم میں اللہ تعالیٰ کی کتاب قائم کرے، اس کی اطاعت کرو۔“

کئی طرق سے اسے ابواسحاق سے، بحوالہ یحییٰ بن حصین، انہوں نے اپنی دادی سے طویل اور مختصر حدیث روایت کی ہے، اسے اسرائیل نے اپنے دادا ابواسحاق سے، بحوالہ عیزار بن حرث، انہوں نے ام النخسین سے اور بحوالہ ابواسحاق، انہوں نے یحییٰ بن حصین سے، انہوں نے اپنی دادی سے روایت کیا ہے، ابو نعیم نے اسے معرفۃ میں روایت کیا ہے اور ہمیں یہ حدیث عالی سند سے فوائد ابو بکر بن ابوالہیثم سے ملی ہے۔

### ۱۱۹۶۷ ام حنیظہ

بنت حارث ہلالیہ، ام الفضل کی بہن اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی والدہ ہیں، ان کا نام ہزلیہ ہے، ان کا ذکر گزر چکا ہے، اسماء میں حرف حاء کے تحت ان کی حدیث ہے۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے نبی کریم ﷺ کو گودہ ہدیہ میں دی تھی۔

### ۱۱۹۶۸ ام الحکم بنت الزبیر

بن عبدالمطلب بن ہشام قرشیہ ہاشمیہ، نبی کریم ﷺ کی چچا زاد تھیں، زبیر بن بکار کا قول ہے، بعض نے کہا: یہ آپ ﷺ کی رضاعی بہن تھیں، آپ ﷺ مدینہ میں ان سے ملاقات کے لیے جاتے تھے، بعض نے کہا: ام حکیم ہیں، ضباعہ کی بہن ہیں، اسماء میں جن کا نام گزر چکا ہے۔ دارقطنی نے کتاب الاخوة میں فرمایا: ربیعہ بن حارث بن عبدالمطلب کی زوجہ تھیں، ابن سعد نے بھی یہی فرمایا، اور یہ اضافہ کیا ہے: یہ ان کی سگی بہن تھیں، ان کے ہاں عبدشمس اور عبدالمطلب اردی کبریٰ، محمد، عبد اللہ، عباس، حارث اور امیہ پیدا ہوئے، فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے ام الحکم کو خیر سے تیس (۳۰) وقت کھانے کو دیئے، فرماتے ہیں: ام الحکم نے نبی کریم ﷺ سے روایت کیا اور ابوداؤد نے عباس بن عقبہ کے طریق سے بحوالہ فضل بن حسن بن عمرو بن امیہ ضمری نقل کیا ہے کہ ابن ام حکم یا ضباعہ، زبیر کی دونوں بیٹیوں میں سے ایک نے روایت کی کہ وہ فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ کے پاس قیدی تھے، میں اور میری بہن فاطمہ بنت رسول اللہ ﷺ نبی کریم ﷺ کے پاس شکایت لے کر آئے، ہم نے آپ سے قیدی کا سوال کیا، آپ ﷺ نے فرمایا: تم پر بنو بدر کی خواتین سبقت لے گئیں، لیکن میں تمہیں اس سے بہتر چیز کے بارے میں بتاتا ہوں..... (الحدیث) ہر نماز کے بعد ذکر کے بارے میں ہے۔ ابن مندہ نے اس روایت کو، اس طریق سے نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں: مجھے ابن ام حکم نے بتایا کہ مجھ سے میری والدہ بنت زبیر نے حدیث روایت کی.... پھر اسے ذکر کیا۔ پھر فرمایا: اسے ابن لہیعہ نے فضل کے حوالے سے اسی طرح روایت کیا ہے۔

اسد الغابۃ (۷۴:۷) الاستیعاب (۳۵۹۶) تجرید (۳۱۷/۲)

بخاری (الحدیث: ۲۵۷۵، ۷۳۵۸) مسلم (الحدیث: ۵۰۱۳) نسائی (الحدیث: ۴۳۲۹)

مسند احمد (الحدیث: ۲۵۴/۱، ۲۵۵، طبرانی فی المعجم الكبير (۲/۲۴۴۱) (۱۳/۴۱۳)

اسد الغابۃ (۷۴:۸) تجرید (۳۱۷/۲) الطبقات الكبرى (۳۱/۸) ابوداؤد (۲۹۸۷)

مسند احمد (۶/۴۱۹)



### ۱۱۹۶۹) أم الحكم بنت أبي سفيان

بن حرب امویہ، حضرت معاویہ کی سگی بہن اور ام المومنین حضرت ام حبیبہ کی باپ شریک بہن ہیں۔ ابو عمر کا قول ہے: فتح کے دن اسلام لائیں، ان خواتین میں سے تھیں جن کے بارے میں نازل ہوا: ”تم کافروں کی عورتوں کو روک کر نہ رکھو“۔ تو عیاض بن غنم نے انہیں جدا کر دیا اور عبد اللہ بن عثمان ثقفی نے ان سے نکاح کر لیا۔ عبد الرحمن بن ام حکم کی والدہ ہیں، ان کی طرف نسبت سے مشہور ہیں۔

### ۱۱۹۷۰) أم الحكم بنت عبد الرحمن

بن مسعود بن ثعلبہ بن اسیرہ بن عسیرہ بن عطیہ بن خدارہ انصاریہ، بعض کا قول ہے: ام حکیم، ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ ابن سعد کا قول ہے: ان سے ابو مسعود عقبہ بن عمرو البدری نے نکاح کیا۔ یہ اسلام لانے والے اور بیعت کرنے والے لوگوں میں سے ہیں۔

### ۱۱۹۷۱) أم الحكم بنت عقبه

حرف واؤ، وڈہ میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

### ۱۱۹۷۲) أم الحكم الصمریه

ابوموسیٰ نے ذیل میں ان کا ذکر کیا ہے، اور مستغفری کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے انہیں خیبر سے تیس دن کھجوریں کھانے کو دیں۔

### ۱۱۹۷۳) أم الحكم الغفاریه

حسن بن سفيان نے اپنی مسند میں ان کا ذکر کیا ہے، اور ام جعفر بنت نعمان کے طریق سے بحوالہ ام حکم غفاریہ نقل کیا ہے کہ ان سے پوچھا گیا: کیا تم نے نبی کریم ﷺ سے قیامت کا ذکر سنا ہے، انہوں نے کہا: جی ہاں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جب عرب کم ہو جائیں گے۔“

ابوموسیٰ نے ذیل میں اسے اپنے طریق سے نقل کیا ہے، اس کی سند ضعیف ہے۔

### ۱۱۹۷۴) أم حکیم بنت أبي أمیه

بن حارثہ سلمیہ، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہیں، ابن کلبی نے بحوالہ ابوصالح، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے

اسد الغابۃ (۷۴:۹) الاستیعاب (۳۵۹۷) تجرید (۳۱۷/۲) سورة الممتحنة الآية (۱۰)

اسد الغابۃ (۷۴:۱۱) تجرید (۳۱۷/۲) اسد الغابۃ (۴۳۸/۵) الطبقات الكبير (۲۶۶/۸)

اسد الغابۃ (۷۴:۱۰) تجرید (۳۱۷/۲) الاحاد والمثنائ (۲۴۳/۶) اسد الغابۃ (۷۴/۲) تجرید (۳۱۷/۲)

مسلم (الحديث: ۷۳۱۹) ترمذی (۳۹۳۰) مسند احمد (۴۶۲/۶) المعجم الكبير (۲۴۹/۲۵)

اسد الغابۃ (۷۴:۱۶) تجرید (۳۸۸/۲)

اس آیت ﴿اے ایمان والو! تم پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیں﴾ کی تفسیر میں ان کا نسب بیان کیا ہے۔

ابن مندہ نے بیان کیا ہے کہ ام حکیم حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہیں، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اعتکاف کرتی تھیں، اسے عمر بن ذر کے طریق سے بحوالہ مجاہد مرسل نقل کیا ہے۔ ابو نعیم نے اس کا تعاقب کیا ہے کہ صحیح بنت حکیم ہیں اور وہ خولہ ہیں، جیسا کہ قول ہے، لیکن ام حکیم یہ خولہ بنت حکیم ہیں، جیسا کہ تفسیر ابن کلبی میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔

### ۱۱۹۷۵ ام حکیم بنت ابی جہل

بن ہشام بن مغیرہ، ولید بن عبد شمس مخزومی کی والدہ ہیں، ان کے بیٹے ولید کے سوا خ میں ان کا ذکر ہے۔

### ۱۱۹۷۶ ام حکیم بنت الحارث

بن ہشام بن مغیرہ مخزومیہ، عکرمہ بن ابو جہل کی زوجہ ہیں، ابو عمر کا قول ہے: اُحد کے دن شریک تھیں لیکن اسلام نہیں لائی تھیں، پھر فتح کے دن اسلام لائیں، ان کے شوہر یمن کی طرف بھاگ گئے، وہ نبی کریم ﷺ کی اجازت سے ان کی طرف گئیں، وہ ان کے ساتھ آئے اور اسلام لائے، پھر وہ ان کے ساتھ روم کے غزوہ میں شریک ہوئیں، وہاں وہ شہید ہو گئے تو ان سے حضرت خالد بن سعید بن العاص نے نکاح کیا، جب مرج الصفر کا مقام آیا تو حضرت خالد نے رخصتی کا ارادہ کیا، انہوں نے کہا: ٹھہر جائیں، یہاں تک کہ اس لشکر کو شکست ہو، انہوں نے کہا: میری دل میں خیال آتا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں گا، انہوں نے کہا: ٹھیک ہے، چنانچہ ایک بل کے پاس ان کی رخصتی ہوئی۔ جسے بعد میں قطرہ ام حکیم کہا جاتا تھا۔ صبح ہوئی تو ولیدہ کیا، جب کھانے سے فارغ ہوئے تو رومیوں سے آمنا سامنا ہوا، اور لڑائی شدت سے ہونے لگی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ ام حکیم نے اپنے کپڑے باندھ لیے اور ظاہر ہو گئیں، ان پر زرد رنگ کا نشان تھا۔ مسلمانوں نے نہر کے کنارے لڑائی کی، حضرت ام حکیم نے اس خیمے کی چوب سے لڑائی کی جس میں ان کی رخصتی ہوئی تھی، اور سات رومیوں کو قتل کیا۔

ابن مندہ نے بحری کے طریق سے، بحوالہ ابن اسحاق، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے عروہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں: حضرت ام حکیم بنت حارث حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں، حضرت فاختہ بنت ولید بن مغیرہ حضرت صفوان بن امیہ کے نکاح میں تھیں، دونوں اسلام لائیں، ام حکیم بنت حارث نے حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ کے لیے امان مانگا تو نبی کریم ﷺ نے انہیں امن دے دیا۔ موسیٰ بن عقبہ نے اپنے مغازی میں بحوالہ زہری ذکر کیا ہے: ام حکیم بنت حارث بن ہشام فتح کے دن اسلام لائیں، انہوں نے نبی کریم ﷺ سے اپنے شوہر عکرمہ کے طلب کرنے کی اجازت مانگی، آپ ﷺ نے اجازت دی اور امان دے دیا۔

سورة المائدة ﴿اسد الغابة﴾ (۴۳۹/۵)

اسد الغابة (۷۴۱۳) الاستيعاب (۳۵۹۸) تجريد (۳۱۷/۲)

جامع المسانيد والسنن (۲۲۰/۱۶)

### ۱۱۹۷۷ ام حکیم بنت حزام

ابن حبیب کا قول ہے کہ بدر کے دن قیدی بنائی گئیں، پھر اسلام لائیں اور بیعت کی۔  
میں کہتا ہوں: ابن اثیر نے اسی طرح ان کا ذکر کیا ہے، انہوں نے بنت کے بجائے ابن لکھ کر لفظی غلطی کی ہے، حکیم بن حزام کی والدہ ہیں، جو مشہور صحابی ہیں، ان کے قصے کا ذکر مہمات میں آئے گا۔ ان شاء اللہ!

### ۱۱۹۷۸ ام حکیم بنت الزبیر

بن عبدالمطلب بن ہاشم، بعض کا قول ہے: ان کا نام صفیہ ہے، بعض کا قول ہے: ام حکم ہیں، جن کا ذکر قریب میں گزر چکا ہے، بعض نے کہا: ضباع ہیں، جن کا ذکر اسماء میں گزر چکا ہے۔

خلیفہ نے کہا: مجھ سے بنو ہاشم کے کئی لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ زبیر بن عبدالمطلب کی ضباع کے علاوہ کوئی بیٹی نہیں۔ ابو عمر نے اس کا ذکر کیا ہے، اور ام حکم کا ذکر نہیں کیا، بلکہ فرمایا: ام حکیم بنت ضباع، ربیعہ بن حارث کی زوجہ تھیں، اسلام لائیں اور ہجرت کی، ان سے ان کے بیٹے عبداللہ بن حارث بن نوفل نے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ ضباع کے پاس گئے اور ان کے ہاں کندھے کا گوشت دانتوں سے کاٹا، پھر نماز پڑھی اور اس کے لیے دوبارہ وضو نہیں کیا۔

میں کہتا ہوں: یہ حدیث حارث بن ابواسامہ نے اپنی مسند میں نقل کی ہے، اور ابن مندہ نے حماد بن سلمہ کے طریق سے، انہوں نے عمار بن ابوعمار سے انہوں نے ام حکیم سے، فرماتی ہیں: نبی کریم ﷺ نے میرے گھر میں کندھے کا گوشت کھایا، پھر نماز پڑھی اور نیا وضو نہیں کیا۔ اس میں قتادہ سے آگے اختلاف ہے، فرماتے ہیں: سعید بن ابو عمرو بہ نے ان سے روایت کی، بحوالہ صالح ابی خلیل، انہوں نے اسحاق بن عبداللہ بن حارث سے، انہوں نے ام حکم سے، انہوں نے ان کی بہن ضباع سے روایت کی، بعض کا قول ہے: بحوالہ سعید، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے ابوخلیل سے، انہوں نے عبداللہ بن حارث بن نوفل سے روایت کی ہے کہ ام حکیم بنت زبیر نے ان سے بیان کیا اور ضباع کا ذکر نہیں کیا۔

امام احمد رحمہ اللہ نے اسے نقل کیا ہے اور فرمایا: ہمام بحوالہ قتادہ، انہوں نے اسحاق سے اور ابوخلیل کا ذکر نہیں کیا، ابن مندہ نے اسے نقل کیا ہے۔

ابن مندہ رحمہ اللہ کا قول ہے: اسے داؤد بن ابوہند نے بحوالہ اسحاق، انہوں نے ام حکیم صفیہ سے اور ضباع کا ذکر نہیں کیا، ابراہیم حربی نے ذکر کیا ہے کہ سعید بن بشر نے بحوالہ قتادہ، انہوں نے اسحاق بن عبداللہ بن حارث سے، انہوں نے اپنی دادی ام حکیم سے یہ حدیث روایت کی ہے، فرماتے ہیں: انہیں وہم ہوا ہے، یہ ان کی والدہ کی طرف سے ان کی جدہ ہیں، یہ ہند بنت ابوسفیان ہیں، ان کی والدہ صفیہ بنت ابو عمرو بن امیہ ہیں۔

میں کہتا ہوں: اسحاق بن راہویہ نے اپنی مسند میں یہ حدیث داؤد بن ابوہند کی روایت سے نقل کی ہے کہ ام حکیم بنت زبیر

وہ ضباعہ ہیں، نبی کریم ﷺ کے لیے کھانا تیار کرتی تھیں..... (حدیث) بکری کے کندھے کا گوشت کھانے کے بارے میں حدیث ہے، آپ ﷺ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ام حکیم کی کنیت ضباعہ تھی۔ واللہ اعلم!

### ۱۱۹۷۹ ام حکیم بنت طارق الكنانيہ

ابن سعد کا قول ہے: اسلام لائیں اور حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی۔

### ۱۱۹۸۰ ام حکیم بنت عبدالرحمن

ابن مسعود، ام حکم میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

### ۱۱۹۸۱ ام حکیم بنت عقبہ

ابن ابی وقاص، ہاشم اور نافع کی بہن ہیں، ابو عمر کا قول ہے کہ ہجرت کرنے والی صحابیات میں سے ہیں۔

### ۱۱۹۸۲ ام حکیم بنت عقبہ

بن ابی معیط، ان کے والد بعد کے دن قتل ہوئے۔ ان کی والدہ فتح کے دن اسلام لائیں، مطلب بن ابی بختری بن ہاشم بن مطلب اسدی سے نکاح کیا، جس سے اُمّہ اللہ بن مطلب پیدا ہوئیں، یہ زبیر نے ذکر کیا ہے، اس بات کا تقاضا ہے کہ ان کا شمار صحابہ نبی ﷺ میں ہو۔

### ۱۱۹۸۳ ام حکیم بنت النضر

ربیع بنت نضر بن ضمضم بن زید بن حرام انصاریہ کی بہن ہیں۔ ان کی والدہ ہند بنت زید بن سواد بن مالک بن غنم بن مالک بن نجار ہیں۔

ابن سعد کا قول ہے: ان سے ثعلبہ بن وہب بن عدی بن مالک نے نکاح کیا، جس سے ابو حکیم، عبدالرحمن، ام حکیم سہلہ پیدا ہوئے۔

### ۱۱۹۸۴ ام حکیم بنت وداع

بعض کا قول ہے: بنت وداع خزاعیہ، ابو نعیم کا قول ہے: ہجرت کرنے والی صحابیات میں سے ہیں، ابو عمر کا قول ہے، میں نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ”افطار میں جلدی کرو اور سحری میں تاخیر کرو“۔ ان سے صفیہ بنت جویر نے روایت کیا۔ میں کہتا ہوں: ابو یعلیٰ نے اسے موصولاً نقل کیا ہے اور ابن مندہ نے کئی طرق سے بحوالہ ابوسلمہ، موسیٰ بن اسماعیل، انہوں

المعجم الكبير (۲۱۳/۲۵) مجمع الزوائد (۲۵۳/۱) الاحاد والمثنائ (۴۶۵/۵) تجريد (۳۱۸/۲)

الطبقات الكبرى (۲۱۸/۸) اسد الغابة (۷۴۱۷) الاستيعاب (۳۶۰۰) تجريد (۳۱۸/۲) تجريد (۳۱۸/۲)

الطبقات الكبرى (۳۱۰/۸) اسد الغابة (۷۴/۸) الاستيعاب (۳۶۰۲) تجريد (۳۸۴۹) (۳۱۸/۲)

المعجم الكبير (۳۹۵/۲۵) مجمع الزوائد (۱۵۵/۳) جامع المسانيد والسنن (۲۲۴/۱۶)

نے خبابہ بنت عجلان سے، انہوں نے اپنی والدہ ام حفص سے، انہوں نے صفیہ سے نقل کیا ہے۔ اور ان اسناد کے ساتھ چار دوسری احادیث روایت کیں، اس میں سے ہے، فرماتی ہیں: میں نے نبی ﷺ سے عرض کی، آپ نے پائے واپس کر دیئے تھے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا ہی برے تھے اگر میری طرف پائے بھیجے جاتے تو میں انہیں قبول کرتا، اگر مجھے اس کے کھانے کی دعوت دی جاتی تو قبول کر لیتا، اس میں سے وہ روایت ہے، جسے ابن ماجہ نے اس سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ والد کی دعا نور کے پردہ تک پہنچ جاتی ہے۔

ابن سعد رحمہ اللہ نے بحوالہ موسیٰ اس اسناد کے ساتھ اسے نقل کیا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: خیر خواہی اور دعا کرنا، فرماتی ہیں: ام حکیم نے اس اسناد کے ساتھ احادیث روایت کی ہیں۔

### ۱۱۹۸۵ ام حمید

ابو حمید الساعدی کی زوجہ ہیں۔ ابن ابی عاصم اور قحی بن مخلد نے عبد الحمید بن منذر بن ابو حمید کے طریق سے بحوالہ ان کے والد، انہوں نے اپنی دادی ام حمید سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں نے کہا: یا رسول اللہ! ہمارے شوہر ہمیں آپ کے ساتھ نماز پڑھنے سے روکتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم عورتوں کی اپنے کمروں میں نماز تمہارے حجروں سے افضل ہے اور حجروں میں پڑھی جانے والی نماز تمہارے گھروں کی نماز سے افضل ہے اور تمہاری گھروں والی نماز جماعت کی نماز سے افضل ہے۔ ابن ابی خنیس نے ابن وہب کی روایت سے بحوالہ داؤد بن قیس، انہوں نے عبد اللہ بن سید انصاری، انہوں نے اپنی پھوپھی ام حمید سے جو ابو حمید ساعدی کی زوجہ ہیں کہ وہ نبی کریم ﷺ کے پاس آئیں اور کہنے لگیں: یا رسول اللہ ﷺ! مجھے آپ کے ساتھ نماز پڑھنا پسند ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: مجھے معلوم ہے کہ تمہیں میرے ساتھ نماز پڑھنا پسند ہے (لیکن تمہاری گھر کی نماز زیادہ بہتر ہے)۔ پھر اسی مفہوم کی روایت ذکر کی۔ لیکن مفرداً، اس میں یہ اضافہ نقل کیا ہے: ”تمہاری حویلی میں پڑھی جانے والی نماز تمہاری قوم کی مسجد سے بہتر ہے، اور تمہاری قوم کی مسجد والی نماز میری مسجد کی نماز سے بہتر ہے“۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مسجد بنوانے کا حکم دیا، تو ان کے گھر سے دور، تاریک جگہ پر مسجد بنائی گئی، جہاں وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہونے تک نماز پڑھتی رہیں۔

### ۱۱۹۸۶ ام حمید

اشعب طامع کی والدہ ہیں، ام خلد ج میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

### ۱۱۹۸۷ ام حنظلہ

بنت رومی بن وقش انصاریہ اشہلیہ۔ ابن سعد رحمہ اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ اور فرمایا: اسلام لائیں اور بیعت کی، محمد بن عمر کی روایت میں ہے، ان کی والدہ سہیمہ بنت عبد اللہ بن رفاعہ اوسیہ ہیں اور ان کے شوہر ثعلبہ بن عدی اشہلی ہیں۔

## القسم الثانی

## ۱۱۹۸۸ ام حبیب بنت العباس

بن عبدالمطلب۔ پہلی قسم میں ان پر تنبیہ گزر چکی ہے۔

## ۱۱۹۸۹ ام حکیم بنت قارظ

بن خالد بن عبید بن سوید بن قارظ، بنو لیث میں سے ہیں، جو بنو زہرہ کے حلیف ہیں، عبدالرحمن بن عوف کی زوجہ ہیں، بخاری نے صحیح میں تعلیقاً ان کا ذکر کیا ہے، کتاب النکاح میں انہوں نے یہ عنوان باندھا ہے، جب ولی خود ہی نکاح کا پیغام دے، عبدالرحمن بن عوف نے ام حکیم بنت قارظ سے کہا: کیا تم اپنا معاملہ میرے سپرد کرتی ہو؟ انہوں نے کہا: ہاں! انہوں نے کہا: میں نے تم سے نکاح کیا۔ اس قول کو ابن سعدؒ نے ابن ابوشیبہ کے طریق سے بحوالہ سعید بن خالد اور قارظ بن شیبہ روایت کیا ہے کہ ام حکیم بنت قارظ نے عبدالرحمن بن عوف سے فرمایا کہ مجھے کئی لوگوں نے نکاح کا پیغام دیا ہے، ان میں سے آپ جس سے چاہیں میرا نکاح کر دیں، انہوں نے کہا: تم اس معاملے کو میرے سپرد کرتی ہو؟ انہوں نے کہا: ہاں! انہوں نے کہا: میں نے تم سے نکاح کیا۔ سعید بن خالد بن عبداللہ بن قارظ تابعی ہیں، نسائی نے انہیں ضعیف قرار دیا ہے، دارقطنی نے انہیں برقرار رکھا ہے، قارظ بن شیبہ کا قول ہے: اس میں کوئی حرج نہیں، وہ ابن قارظ ہیں، ان کے والد قارظ.....

## القسم الثالث

## ۱۱۹۹۰ ام حبیب بنت عامر

بن خالد بن عمر بن قریط، انہوں نے نبوت کا زمانہ پایا۔ واقدیؒ نے ذکر کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ۹ھ میں بنو حارثہ بن عمرو کی طرف خط لکھا اور انہیں اسلام کی دعوت دی، انہوں نے صحیفے کو دھو ڈالا اور اس سے اپنے ڈول سی لئے، ام حبیبہ بنت عامر انہیں تکبیر کرتے ہوئے کہتی ہیں:

”جب ان کے پاس محمد (ﷺ) کی طرف سے کوئی نشانی آتی ہے تو اسے کنوئیں کے پانی سے مٹا ڈالتے ہیں، اور اسے نچوڑ دیتے ہیں۔“

## ۱۱۹۹۱ ام حرزہ

ان کا نام عبیدہ ہے، ان کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔

## القسم الرابع

### ۱۱۹۹۲ أم الحكم الضميريه

ابوموسیٰ نے اپنے استدراک میں ان کا ذکر کیا ہے اور ان کے سوانح میں حدیث ام حکم بنت زبیر ذکر کی کہ وہ اور فاطمہ نبی کریم ﷺ سے قیدی کا سوال کرنے گئیں، یہ ہاشمیہ ہیں، ضمیر یہ نہیں۔ ابن اثیر رحمہ اللہ کا قول ہے، اگر ان کا گمان یہ ہے کہ وہ کوئی اور ہیں تو انہیں وہم ہوا ہے۔



## حرفِ خاء

### القسم الاول

#### ۱۱۹۹۳ ام خارجہ بنت النضر

بن ضمضم انصاریہ، بنوعدی بن نجار سے ہیں، ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔

#### ۱۱۹۹۴ ام خارجہ

زید بن ثابت کی زوجہ ہیں، ابن ابوعاصم نے عبداللہ بن ابوزیاد کے طریق سے نقل کیا ہے کہ ہم سے ابوبکر بن عبداللہ بن ابوربیعہ نے وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ام خارجہ جو حضرت زید بن ثابت کی زوجہ ہیں، روایت کیا، فرماتے ہیں: نبی کریم ﷺ ہمارے پاس ایک باغ میں تشریف لائے، آپ ﷺ کے ساتھ آپ کے اصحاب تھے، آپ نے فرمایا: ”تمہارے پاس جو سب سے پہلا شخص آئے گا وہ اہل جنت میں سے ہے۔“

ہم میں سے ہر شخص یہ تمنا کرنے لگا کہ وہ دیوار کے پیچھے ہو، فرماتی ہیں: اسی اثناء میں ہم نے قدموں کی چاپ سنی، ہم نے دیکھنے کے لیے نظریں اٹھائیں، آپ نے فرمایا: ”یہ علی بن ابوطالب ہوں گے۔“ ابو نعیم نے ذکر کیا ہے کہ کئی بن ابراہیم نے بحوالہ ابوبکر ان کی پیروی کی ہے، اسے ابن مندہ نے دو طریق سے نقل کیا ہے، بحوالہ ابوعبدالرحیم حرافی، انہوں نے محمد بن عبداللہ بن ابوصحہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ام خارجہ بنت سعد بن ربیع سے، انہوں نے ابومرثد سے، عنقریب اس کا ذکر آ رہا ہے۔

#### ۱۱۹۹۵ ام خالد بنت الأسود

بن عبدیفوت قرشید زہریہ، اسماء میں خالدہ کے تحت اس کا ذکر گزر چکا ہے۔

#### ۱۱۹۹۶ ام خالد بنت خالد

بن سعید بن العاص بن امیہ بن عبد شمس قرشید امویہ، یہ اپنی کنیت سے مشہور ہیں اور ان کا نام اُمّہ ہے۔ انہیں اور ان کے والدین کو شرف صحابیت حاصل ہے، یہ ان لوگوں میں سے تھیں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور جب وہ چھوٹی تھیں انہیں لے کر

اسد الغابۃ (۷۴۲۱) تجرید (۳۱۸/۲) المحبر (۴۲۹) اسد الغابۃ (۷۴۲۰) تجرید (۳۱۸/۲)

الاحاد والمثنائی (۲۳۴/۶) الاحاد والمثنائی (۲۳۴/۶) اسد الغابۃ (۷۴۲۲) تجرید (۳۱۸/۲)

اسد الغابۃ (۷۴۲۳) الاستیعاب (۳۶۰۳) تجرید (۳۱۸/۲)



## الْأَنْصَارِي فِي تَيْسِيرِ الصَّحَابَةِ (رواه ابن حجر)

آئے، ان کا قصہ بخاری \* میں خالد بن سعید بن عمرو بن سعید بن العاص کے طریق سے بحوالہ ان کی والدہ ام خالد سے مروی ہے، فرماتی ہیں: میں رسول اللہ ﷺ کے پاس اپنے والد کے ساتھ آئی، میں نے زرد قیص پہنی ہوئی تھی، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا.... حرف الف میں لمتہ کے سوانح میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

### ۱۱۹۹۷ ام خالد بنت خالد \*

بن یعیش بن قیس بن عمرو بن زید مناۃ، بنو عدی بن نجار سے ہیں، ابن سعد \* نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں: ان سے حارثہ بن نعمان نے نکاح کیا جس سے عبداللہ، سودہ، عمرہ اور ام ہشام پیدا ہوئے۔

### ۱۱۹۹۸ ام خالد بنت یعیش \*

بن قیس بن عمرو انصاریہ۔ ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ \* میرا گمان ہے کہ یہ پہلے والی ہیں جو اپنے دادا کی طرف منسوب ہیں۔

### ۱۱۹۹۹ ام خزیمہ \*

جہم بن قیس کی زوجہ ہیں، ان کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی، وہیں فوت ہوئیں۔ بلاذری نے ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۲۰۰۰ ام خُلاۃ الأنصاریہ \*

انہوں نے اپنے والد کے بارے میں پوچھا جب وہ شہید ہو گئے، ابن اثیر نے اپنے استدراک میں ان کا ذکر کیا ہے۔ \*

### ۱۲۰۰۱ ام خُناَس \*

ابن ماکولا \* کا قول ہے: یہ مسعود کی زوجہ ہیں، انہیں شرف صحابیت حاصل ہے۔

### ۱۲۰۰۲ ام الخیر بنت صخر \*

بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ، بعض کا قول ہے: بنت صخر بن عمرو بن عامر قرشیہ تمیمیہ، ابوبکر صدیق کی والدہ ہیں، اسلام کے ابتدائی دور میں اسلام لائیں، ابن ابی عاصم اور طبرانی نے واضح سند سے بحوالہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کیا ہے، فرماتے ہیں: حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی والدہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی والدہ، حضرت ام زبیر کی والدہ، عبدالرحمن بن عوف کی والدہ، حضرت عمار بن یاسر کی والدہ \* اسلام لائیں۔

\* بخاری (۳۰۷۱) \* تجرید (۳۱۸/۲) \* الطبقات الکبریٰ (۳۳۳/۸)

\* اسد الغابہ (۷۴۲۴) تجرید (۳۱۸/۲) \* اسد الغابہ (۴۴۲/۵) الطبقات الکبریٰ (۳۳۳/۸)

\* اسد الغابہ (۷۴۲۵) الاستیعاب (۳۶۰۵) تجرید (۳۱۸/۲) \* اسد الغابہ (۴۴۲/۵)

\* اسد الغابہ (۷۴۲۶) تجرید (۳۱۸/۲) \* الاکمال (۱۸۲/۱)

\* اسد الغابہ (۷۴۲۸) الاستیعاب (۳۶۰۶) تجرید (۳۱۹/۲) \* المعجم الکبیر (۳/۱) مجمع الزوائد (۲۵۹/۹)

مسلسل سند بالطلحین سے جسے وہ محمد بن عمران بن طلحہ تک لے گئے ہیں، بحوالہ قاسم بن محمد، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے، فرماتی ہیں: جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو کھڑے ہو کر لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی دعوت دینے لگے، مشرک ان پر ٹوٹ پڑے اور انہیں مارنے لگے..... (الحدیث) اور اس میں ہے، انہوں نے نبی کریم ﷺ سے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! یہ میری والدہ ہیں، ان کے لیے دعا کیجئے، اور اسلام کی دعوت دیجئے۔ آپ ﷺ نے ان کے لیے دعا کی اور اسلام کی دعوت دی، تو وہ اسلام لے آئیں۔ ایک طویل قصے میں ہے کہ انہوں نے ہوش میں آنے کے بعد رسول اللہ ﷺ کے بارے میں پوچھا، ان کی والدہ نے کہا: ہمیں معلوم نہیں، انہوں نے کہا: ام جمیل بنت خطاب سے پوچھئے، وہ ان کے پاس گئیں اور آپ ﷺ کے بارے میں پوچھا، وہ ان کے ساتھ آئیں تو کہنے لگے:.....

انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ وہ دار ارقم میں ہیں، اور طبرانی نے یثیم بن عدی کے طریق سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ ام خیر بنت صخر ہیں، جب ابوبکر رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو ان کے ماں باپ ان کے وارث ہوئے، ام الخیر ابو قحافہ سے پہلے وفات پا گئیں۔ وہ دونوں اسلام لائے تھے۔



## حرفِ دال

### القسم الاول

#### ۱۲۰۰۳ ام الدحداح

ابودحداح کی زوجہ ہیں، جن کے سوانح میں ان کا یہ قول گزر چکا ہے۔ اے ام دحداح! باہر آؤ، دوہری حدیث جسے امام احمد رحمہ اللہ نے شعبہ کے طریق سے بحوالہ ساک، انہوں نے جابر بن سمرہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت ام دحداح کی نماز جنازہ پڑھی۔

یہ امام احمد رحمہ اللہ کی روایت ہے بحوالہ محمد بن جعفر، انہوں نے شعبہ سے روایت کیا ہے اور انہوں نے حجاج بن محمد سے بحوالہ شعبہ روایت کیا ہے، فرماتے ہیں: ابودحداح یا ابن دحداح کی نماز جنازہ پڑھی، اسی طرح مسلم، ابوداؤد اور ترمذی میں کئی طرق سے بحوالہ شعبہ مروی ہے، مسلم میں محمد بن ثنی سے انہوں نے محمد بن جعفر سے شک کے ساتھ بحوالہ ابودحداح یا ابن دحداح نقل کیا ہے۔

#### ۱۲۰۰۴ ام الدرداء الكبرى

ان کا نام خیرہ ہے، اسماء میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔



اسد الغابۃ (۷۴۲۹) تجرید (۳۱۹/۲)

اسد الغابۃ (۷۴۳۰) الاستیعاب (۳۶۰۷) تجرید (۳۱۹/۲)

## حرف ذال

القسم الاول

۱۲۰۰۵ ام ذرہ

ابو ذر غفاری کی زوجہ ہیں، ابن مندہ کا قول ہے: ابو ذر کی وفات میں ان کا ذکر ہے، البوصم نے یہ موصولاً نقل کیا ہے، بطریق مجاہد، انہوں نے ابراہیم بن اسیر سے روایت کیا ہے، اس روایت میں ایسی کوئی بات نہیں جس سے معلوم ہو کہ انہیں شرف صحابیت حاصل ہے، بلکہ اس میں احتمال ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد ان سے نکاح کیا۔ لیکن ان کی ایک حدیث کا مجھے پتہ چلا جس میں تصریح ہے کہ وہ ابو ذر کے ساتھ اسلام کے ابتدائی دور میں اسلام لائیں۔ فاکہی نے اسے کتاب مکہ میں نقل کیا ہے کہ ہم سے میمون بن ابو حمزہ کوئی نے وہ فرماتے ہیں: مجھ سے ابوصباح کوئی نے اپنی سند سے جو نبی کریم ﷺ سے مرفوع روایت ہے۔ آپ ﷺ جب مسکرانے کا ارادہ فرماتے تو ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرماتے: ”ابو ذر! ذرا اپنے اسلام لانے کا قصہ تو سنانا“۔ وہ عرض کرتے ہمارا ایک بت ہوتا تھا، جس کا نام ہم تھا، ایک دن میں اس کے پاس آیا اور اس کے لیے دودھ ڈال کر چلا گیا، اچانک مجھے خیال آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ کتاب دودھ پی رہا ہے، اور جب دودھ پی کر فارغ ہوا تو ٹانگ اٹھا کر بت پر پیشاب کرنے لگا، تو میں بے ساختہ کہنے لگا: ”اے ہم! مجھے پتہ چل گیا ہے، تیری شرافت جو مجھ سے تیرے قرب کو دور کئے ہوئے تھی، میں نے کتاب دیکھا جو تیرے برابر کھڑا ہوا، آج تیری گردن اس کتے کو بھی نہ روک سکی۔“

ام ذر نے جب یہ الفاظ سنے تو وہ بھی کہنے لگی: ”آج تم نے صحیح جرم کیا ہے، اور یہ جرم اتنا بڑا ہے جب تم نے خُصم کی برائی بیان کی۔“

میں نے اسے سارا واقعہ سنایا تو وہ کہنے لگی: ”اگر یہی بات ہے تو ہمارے لیے عزت مندرت تلاش کرو جو فضائل میں اسے ابن وہب! خفی ہو۔ جس کے برابر میں حقیر کتا کھڑا ہوا اور اس کے ہاتھ اسے روک نہ سکیں وہ ہمارا رب نہیں، پتھروں کے پجاری دیکھے ہوئے ہیں، کم عقل ہیں، جنہیں سمجھ بوجھ نہیں۔“

فرماتے ہیں کہ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”ام ذر نے سچ کہا کہ پتھروں کی پوجا دیکھے ہوئے ہی کرتے ہیں۔“

۱۲۰۰۶ ام ذرہ

صحابیات میں ان کا ذکر ہے، محمد بن منکدر کے ہاں ان کی حدیث ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے فرماتے ہوئے سنا: ”میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے قیامت کے دن ان دو انگلیوں کی طرح ہوں گے۔“ استیعاب کے بعض نسخوں میں اسی طرح ہے۔

## حرفِ راء

### القسم الاول

#### ۱۲۰۰۷ ام رافع بنت اسلم

ابن سعد اور ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔

#### ۱۲۰۰۸ ام رافع بنت عامر

بن گریز، عبداللہ بن اسود بن عوف کی زوجہ ہیں، زبیر نے ان کا ذکر کیا ہے۔

#### ۱۲۰۰۹ ام رافع بنت عبداللہ

بن نعمان، ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔

#### ۱۲۰۱۰ ام رافع بنت عثمان الرقیہ

ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔

#### ۱۲۰۱۱ ام رافع

ابورافع کی زوجہ ہیں، جو مولیٰ رسول اللہ ﷺ ہیں، ان کا نام سلمیٰ ہے۔ اپنے نام اور کنیت سے مشہور ہیں، اسماء میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

#### ۱۲۰۱۲ ام زبہ

بنت خدام، ابن اعرابی نے ان کی حدیث روایت کی، بحوالہ عطاء فرماتے ہیں: خدام نے اپنی بیٹی ام زبہ کا نکاح کیا، اس کی مرضی نہ تھی، اس نے نبی کریم ﷺ کو بتایا، تو آپ ﷺ نے اسے اس کے خاوند سے جدا کر دیا تو اس سے ابولبابہ نے نکاح کیا۔ ابو موسیٰ کا قول ہے: تمام روایات میں ہے کہ وہ خنساء بنت خدام ہیں، شاید ان کی کنیت ہے۔

#### ۱۲۰۱۳ ام الربیع بنت اسلم

بن حریش انصاریہ، بردع ظفری کی زوجہ اور یزید بن یزوع کی والدہ ہیں، ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں

اسد الغابۃ (۷۴۳/۶) تجرید (۳۱۹/۲) \* اسد الغابۃ (۴۴۵/۵) \* اسد الغابۃ (۷۴۳/۴) تجرید (۳۱۹/۲)

اسد الغابۃ (۴۴۵/۵) \* اسد الغابۃ (۷۴۳/۵) تجرید (۳۱۹/۲) \* اسد الغابۃ (۷۴۳/۷) تجرید (۳۱۹/۲)

اسد الغابۃ (۴۴۶/۵) \* اسد الغابۃ (۷۴۳/۸) تجرید (۳۱۹/۲)

ان کا ذکر کیا ہے۔ ابن سعد \* کا قول ہے: ان کی والدہ سعاد بنت رافع بن ابوعمر بن ثعلبہ بن غنم بن مالک بن نجار ہیں، اور یہ سلمہ بن اسلم بدری کی سگی بہن ہیں، ان سے ابوخیثمہ بن ساعدہ نے نکاح کیا، جس سے سہل، عمیرہ ام ضرہ پیدا ہوئے۔ ام ربیع اسلام لائیں اور بیعت کی۔

### ۱۲۰۱۳) ام الربیع بنت البراء \*

بخاری رحمہ اللہ نے سفیان کے طریق سے بحوالہ قتادہ، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں: حضرت ام ربیع بنت البراء نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ آپ میرے بیٹے حارثہ کا مرتبہ جانتے ہیں..... (الحدیث) حارثہ سراقہ کے بیٹے ہیں جو شہید ہو گئے تھے، ان کی والدہ بہت غمگین تھیں جیسا کہ ان کے سوانح میں گزر چکا ہے، بعض کا قول ہے: یہ ربیع بنت نصر حضرت انس کی پھوپھی تھیں۔

صحیح مسلم اور نسائی \* میں حماد بن سلمہ کے طریق سے بحوالہ ثابت، انہوں نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ ام ربیع جو حارثہ کی والدہ ہے، انہوں نے کسی کو زخمی کر دیا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”قصاص، قصاص.....“۔ (الحدیث) اس کے آخر میں ہے: ”اللہ کے بندوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ اگر اللہ پر قسم کھالیں تو اللہ اسے پورا کر دیتا ہے“۔ بعض کا قول ہے کہ وہ ربیع بنت نصر ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث انس سے ثابت ہے، جو تخریج کی روایت سے بحوالہ انس مروی ہے، لیکن اس میں ہے کہ انہوں نے کسی عورت کے سامنے والے دانت توڑ دیئے تھے، بعید نہیں کہ یہ کئی قصبے ہوں۔

### ۱۲۰۱۵) ام الربیع بنت عبید \*

بن نعمان بن وہب بن عبیدہ بن ثعلبہ بن غنم بن مالک بن نجار انصاریہ۔ ابن سعد \* نے بیعت کرنے والی صحابیات رضی اللہ عنہن میں ان کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا: ان سے گزیم بن عدی بن حارثہ بن عمرو بن زید مناة بن عدی نے نکاح کیا۔

### ۱۲۰۱۶) ام رزن بنت سواد \*

بن رزن بن زید بن ثعلبہ بن عبیدہ بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمہ انصاریہ۔ ابن سعد \* نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا: ان کی والدہ ام حارثہ بنت نعمان بن خضاء بن سنان ہیں، ان سے یزید بن ضحاک بن حارثہ بن زید بن ثعلبہ نے نکاح کیا۔

### ۱۲۰۱۷) ام رعلہ \*

ان کی حدیث کو مستغفری نے ایک طریق سے اور ابو موسیٰ نے دوسرے طریق سے نقل کیا ہے، دونوں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما

\* الطبقات الكبرى (۲۴۳/۸) \* اسد الغابہ (۷۴۲۹) تجرید (۳۱۹/۲)

\* نسائی (۴۷۶۹) \* تجرید (۳۱۹/۲) \* الطبقات الكبرى (۳۲۶/۸)

\* تجرید (۳۲۰/۲) \* الطبقات الكبرى (۲۹۶/۸) \* اسد الغابہ (۷۴۴۰) تجرید (۳۲۰/۲)

## الکتاب فی تفسیر الصحاح (جلد ۸)

سے حدیث روایت کرتے ہیں کہ ایک خاتون جنہیں رعلہ قشیرہ کہا جاتا تھا۔ نبی ﷺ کے پاس آئیں، وہ بڑی شیریں زبان، فصاحت والی خاتون تھیں، کہنے لگیں: اللہ کے رسول ﷺ! آپ پر سلام اور اللہ کی رحمت و برکت ہو، ہم پردے والیاں اور خاوندوں کے ازار کے مقامات والیاں، بچوں کو پالنے والیاں ہیں، جہاد میں ہمارا کوئی حصہ نہیں، ہمیں کوئی ایسی چیز تعلیم فرمائیے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم عورتیں اللہ کے ذکر کی رات دن کی گھڑیوں میں پابندی کرو، اپنی آوازیں اور نظریں جھکا کر رکھو۔“ اسی میں ہے انہوں نے عرض کی: میں ایک مخفی عورت ہوں، عورتوں کا بناؤ سنگھار کرتی ہوں، انہیں ان کے خاوندوں کے لیے حشرین کرتی ہوں، اگر یہ گناہ کا کام ہے تو میں اسے چھوڑ دوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ام رعلہ! انہیں زیب و زینت سے آراستہ کر دیا کرو جب وہ ماند پڑ جائیں۔

پھر رسول اللہ ﷺ کی حیات میں ان کا انتہ پتہ نہ چلا، فتنہ ارتداد کے موقع پر یہ مدینہ آئیں۔ پھر ان کا نبی ﷺ کے بارے میں غم و افسوس کا قصہ ذکر کیا اور حسنین کریمین کو اپنے ساتھ لے کر مدینہ کی گلیوں میں آپ ﷺ کے بارے میں روتے ہوئے چکر لگانے کا ذکر کیا۔ ان کا وہ مرثیہ نقل کیا ہے جس کا مطلع یہ ہے: **ع**

”اے فاطمہ کے گھرانے! جس کا صحن آباد ہے، تو آباد رہے، میرے لیے غم کو برا سمجھتے کر دیا ہے۔“

ابوموسیٰ اس سند کو بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں: اس کا احتمال نہیں، اس کی ساری ذمہ داری ابوالقاسم جعفر بن محمد بن ابراہیم سرمدی پر ہے جو غیر معروف راوی ہے، اور نہ اس کا تذکرہ اصہبان کے راویوں میں ملتا ہے، پھر بطریق عبداللہ بن محمد بلوی بواسطہ عمارہ بن زید، ابراہیم بن سعد سے بحوالہ ابن اسحاق انہوں نے یحییٰ بن حارث بن نوفل انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ قشیرہ اپنے خاوند ابورعلہ کے ساتھ آئی وہ دیہاتی اور گفتگو کرنے والی خاتون تھی، آپ ﷺ اس کے طرزِ مخاطب کو پسند کرتے تھے، پھر اسی طرح حدیث روایت کی، اور حدیث کے آخر میں فرمایا کہ مدینے میں غم کا کھرام بچ گیا۔ انصار مدینہ کا ہر گھر رونے لگا، ابوموسیٰ فرماتے ہیں: یہ سند اسی حدیث کے لائق ہے یعنی بلوی جھوٹ گھڑنے میں مشہور ہے۔ واللہ اعلم!

۱۲۰۸۰ ام رملہ

ابوعمر کا قول ہے، خیبر میں حاضر تھیں، مجھے اس کے علاوہ ان کی کوئی حدیث معلوم نہیں۔ ابن اسحاقؒ نے یونس بن بکر کی روایت میں ان کا ذکر کیا ہے، ان لوگوں کے ناموں میں جنہیں نبی کریم ﷺ نے خیبر میں عطا فرمایا تھا کہ ”ام رملہ کو چالیس (۴۰) وسق دیئے۔“

میں کہتا ہوں: ابن سعدؒ نے ان کا ذکر کیا ہے، اور کھجور کے ساتھ پانچ وسق کا اضافہ کیا ہے، ان کا نسب بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں: ام رملہ بنت عمرو بن ہاشم بن عبدالمطلب بن عبدمناف، بعض کا قول ہے ام زمیعہ (تغیر کے ساتھ ہے) اسلام لائیں اور بیعت کی۔ فرماتے ہیں: وہ حکیم کی والدہ ہیں جو قنقاع کے والد ہیں، مہاجرات میں سے نبی کریم ﷺ سے بیعت کرنے والوں میں

اسد الغابۃ (۵/۴۴۶) \* اسد الغابۃ (۷۴۴۱) الاستیعاب (۳۶۰۸) تجرید (۲/۳۲۰)

السیرۃ النبویۃ (۳/۲۷۳) \* الطبقات الکبریٰ (۸/۱۶۵)

ان کا ذکر ہے۔

۱۲۰۱۹ ام رومان

بنت عامر بن عویمیر بن عبد شمس بن عتاب بن اؤینہ بن سبیح بن دھمان بن حارث بن غنم بن مالک بن کنانہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زوجہ اور حضرت عبدالرحمن اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ ہیں۔ ابوعمر کا قول ہے: مصعب نے ان کا یہی نسب بیان کیا ہے، دوسرے راویوں نے اس سے اختلاف کیا ہے، ان کے نسب میں عامر سے لے کر کنانہ تک اختلاف ہے۔ لیکن اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ بنو غنم بن مالک بن کنانہ سے ہیں، ابن اسحاق رضی اللہ عنہ کا قول ہے: ام رومان کا نام زینب بنت عبد بن دھمان ہے، جو بنو فراس بن غنم سے ہیں۔

میں کہتا ہوں: صحیح بخاری میں ثابت ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس پیالے کے قصے میں ان سے فرمایا، جب قسم کھائی تھی کہ ان کے مہمانوں میں سے کوئی اس میں سے نہیں کھائے گا، اے بنو فراس کی خاتون، ان کے نام میں اختلاف ہے، بعض کا قول ہے: زینب ہے، کسی نے کہا: وعدہ ہے۔ واقدی رضی اللہ عنہ کا قول ہے: ام رومان کنانیہ، عبداللہ بن حارث بن سخرہ بن جرثومہ ازدی کی زوجہ تھیں، مکہ آ کر اسلام سے قبل حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے معاہدہ (حلف) کیا ہے۔ طفیل کی ولادت کے بعد وہ ام رومان کو بیوہ چھوڑ کر مر گیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کر لیا۔

ابن سعد کا قول ہے: حارث بن سخرہ بن جرثومہ کی زوجہ تھیں، اور ان کا نسب ازد تک لے گئے ہیں، جس سے طفیل پیدا ہوئے، وہ سراقہ سے آئے تھے، ان کے ساتھ ان کی زوجہ اور بیٹا تھا، وہ ابوبکر کے حلیف بنے اور مکہ میں وفات پا گئے، ان سے ابوبکر نے نکاح کیا، اسلام کے ابتدائی زمانے میں اسلام لائیں، بیعت کی اور ہجرت کی۔

زبیر نے بحوالہ محمد بن حسن بن زبالہ اپنی سند سے بحوالہ عائشہ روایت کیا ہے، فرماتی ہیں: جب رسول اللہ ﷺ نے ہجرت کی تو ہم مکہ میں رہ گئے اور آپ ﷺ کی صاحبزادیاں بھی وہیں تھیں۔ جب آپ ﷺ نے مدینہ میں قیام فرمایا تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور ان کے ساتھ ابورافع تھے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن ارقطہ کو بھیجا اور عبداللہ بن ابوبکر کو خط لکھا کہ ام رومان اور اسماء کو سوار کر کے لے آئیں، اتفاق سے انہیں طلحہ مل گئے، جو ہجرت کرنا چاہتے تھے، یہ سب لوگ اکٹھے نکلے، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں طویل حدیث روایت کی۔

ابن سعد رضی اللہ عنہ کا قول ہے: ذی الحجہ ۶ھ میں نبی کریم ﷺ کے زمانے میں وفات پا گئیں، پھر قاسم بن محمد کے حوالے سے روایت کرتے ہیں: جب حضرت ام رومان کو ان کی قبر میں اتارا گیا تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جو کسی حور عین کو دیکھنا چاہے وہ ام رومان کو دیکھ لے۔“

ابوعمر کا قول ہے: ام رومان، نبی کریم ﷺ کے زمانے میں وفات پا گئیں، یہ ۶ھ کا واقعہ ہے۔ نبی کریم ﷺ ان کی قبر میں

الاستیعاب (۳۶۰۹) المغازی (۶۹۸) الطبقات الکبریٰ (۲۰۲/۸)

الطبقات الکبریٰ (۲۰۲/۸) کنز العمال (۳۴۴۱۸) الطبقات الکبریٰ (۲۰۲/۸) تاریخ جرجان (۱۹۹)



اترے اور ان کے لیے بخشش مانگی اور فرمایا: ”اے اللہ! جو تکلفیں ام رومان کو آپ کی راہ میں اور آپ کے رسول ﷺ کی خاطر پہنچی ہیں وہ آپ سے مخفی نہیں۔“

www.KitaboSunnat.com

ابو عمر کا قول ہے: ان کے خیال میں ان کی وفات ذی الحجہ ۳۲ھ یا ۵۵ھ خندق کے سال ہوئی۔ ابن اثیر کا قول ہے: ۶۰ھ میں۔ اسی طرح واقدی رحمہ اللہ کا قول ہے: ذی الحجہ ۶۰ھ میں وفات پائی۔ ابن اثیر \* نے ان کا تعاقب کیا ہے جن کا قول ہے کہ وہ ۴۰ھ یا ۵۵ھ میں فوت ہوئیں، کیونکہ ثابت ہے کہ وہ اقلک کے سال بقید حیات تھیں، اور اقلک کا واقعہ شعبان ۶۰ھ میں ہوا تھا۔

میں کہتا ہوں: تاریخ اقلک کے مؤرخین کا اتفاق نہیں، لہذا اس بارچہ میں وہم کرنے کا کوئی مطلب نہیں، وہ روایت جو ابن سعد رحمہ اللہ \* نے روایت کی ہے، اسے بخاری نے اپنی تاریخ میں بحوالہ قاسم بن محمد روایت کیا ہے، فرماتے ہیں: جب حضرت ام رومان کو ان کی قبر میں اتار دیا گیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو کسی عورین کو دیکھنا چاہے وہ انہیں دیکھ لے۔“ بعض نے یہ اضافہ کیا ہے: بحوالہ قاسم، انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔ بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرمایا: اس میں تردد ہے اور مسروق کی حدیث سند کے ساتھ روایت کی ہے، یعنی وہ حدیث جسے انہوں نے حصین بن مسروق کے طریق سے بحوالہ ام رومان روایت کیا ہے۔ ابونعیم اصبہانی نے فرمایا: بعض کا قول ہے: یہ قول کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں وفات پا گئیں وہم ہے، دوسرے مقام پر فرماتے ہیں: عرصہ دراز تک نبی کریم ﷺ کے بعد زندہ رہیں، ابراہیم حربی کا قول ہے: مسروق نے ام رومان سے پندرہ سال کی عمر میں سماعت کی۔

میں کہتا ہوں: اس کا تقاضا یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں سماعت کی، کیونکہ ہجرت کے پہلے سال ان کی ولادت ہوئی، خطیب نے مراہیل میں اس کی تردید کی ہے۔ انہوں نے اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا جسے بخاری نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث بحوالہ مسروق مروی ہے، مجھ سے ام رومان نے حدیث بیان کی، پھر واقعہ اقلک کا کچھ حصہ ذکر کیا: یہ حدیث غریب ہے، ہمیں معلوم نہیں کہ اسے حصین کے علاوہ کسی نے روایت کیا ہو اور مسروق نے ام رومان کا زمانہ نہیں پایا، یعنی وہ نبی کریم ﷺ کی وفات کے بعد یمن سے آئے تھے، جس سے حصین کو ان کی اس بات سے وہم ہو گیا کہ مجھ سے انہوں نے حدیث بیان کی، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی ناقل نے سنیلت کو الف کے ساتھ لکھ دیا ہو، جو سألْتُ بن گیا اور یوں لفظ بگڑ گیا۔ بعض راویوں نے اس کا مفہوم نقل کیا ہے، تو انہوں نے حدیثی کے لفظ کو حصین سے بعض راویوں کا عنعنہ مراد لیا ہے، خطیب کا قول ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے تاریخ میں مسروق کی روایت نقل کی ہے۔ میں نے ام رومان سے پوچھا، امام بخاری رحمہ اللہ کو اس کی علت معلوم نہ ہو سکی۔

میں کہتا ہوں: بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ مذکورہ علت پہچان گئے تھے اور اس کی تردید کی جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے اور اس روایت کو ترجیح دی ہے جس میں ہے کہ وہ نبی ﷺ کی زندگی میں فوت ہوئیں، کیونکہ یہ مرسل روایت ہے اور اس کا راوی علی بن زید ہے جو ابن جعد عان سے مشہور ہے اور ضعیف ہے۔

میں کہتا ہوں: کسی کا یہ دعویٰ کہ وہ چار، پانچ یا چھ ہجری میں فوت ہوئیں، اس کی تردید زبیر بن بکار بحوالہ علی بن زید کی ہے

کہ عبدالرحمن بن ابی بکر فتح مکہ سے پہلے قریش کے چند نوجوانوں کے ساتھ نبی کریم ﷺ کے پاس گئے، ایسا ہی محمد بن سعدؒ نے لکھا ہے کہ وہ صلح حدیبیہ میں مسلمان ہوئے، اس میں اختلاف نہیں کہ ذوالقعدہ ۶ھ میں یہ پہلی صلح تھی اور فتح مکہ رمضان ۸ھ میں ہوئی۔

صحیحین کی ابو عثمان نہدی سے مروی روایت سے ثابت ہے کہ اصحاب صفہ نادار لوگ تھے، پھر وہ حدیث ذکر کی جس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی مہمان نوازی کا واقعہ ہے، عبدالرحمن فرماتے ہیں: وہ میں، میری والدہ، میری اہلیہ اور ہمارے گھر کی خادمہ تھیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب الادب میں اس کے کسی طریق میں ہے، جب ابوبکر رضی اللہ عنہ آگئے تو میری والدہ نے ان سے کہا: آپ اپنے مہمانوں سے پیچھے کیوں رہ گئے؟ اور اس میں اختلاف نہیں کہ عبدالرحمن کی والدہ ام رومان ہیں، اور عبدالرحمن کا اسلام لانا حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی عرصے میں ہوا، جیسا کہ ابھی میں نے آگاہ کیا ہے اور یہ واقعہ یقیناً ان کے مسلمان ہونے کے بعد کا ہے، لہذا یہ صحیح نہیں ہو سکتا کہ وہ ۶ھ کے آخر میں فوت ہوں، اور عبدالرحمن اس سے پہلے اسلام نہ لائے ہوں، وفات نبوی سے ان کی وفات کے بارے میں جو سب سے قریبی قول ہے وہ یہ ہے کہ ان کی وفات ذوالحجہ ۶ھ میں ہوئی اور حدیبیہ کا واقعہ بھی ذوالقعدہ ۶ھ میں پیش آیا۔ اور عبدالرحمن کی آمد ذوالحجہ ۶ھ کے بعد ہوئی۔ لہذا اگر یہ دعویٰ کیا جائے کہ حدیبیہ سے واپسی اور پیالے کا مذکورہ واقعہ عبدالرحمن بن ابی بکر کی آمد اور ام رومان کی وفات، یہ سب واقعات ذوالحجہ ۶ھ میں پیش آئے تو یہ انتہائی بعید قول ہے، مجھے ایک اور واقعہ ملا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ام رومان کی وفات ۶ھ بلکہ ۷ھ یا ۸ھ کے بعد ہوئی۔

چنانچہ مسند امام احمد رحمہ اللہ نے بطریق ابوسلمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت نقل کی ہے کہ جب آیت تخیر نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آغاز کیا، آپ ﷺ نے فرمایا: عائشہ! میں تم سے ایک بات کہنے لگا ہوں، جس کا اپنے والدین ابوبکر اور ام رومان سے مشورہ کئے بغیر مجھے کوئی جواب نہ دینا۔ کہنے لگیں: اللہ کے رسول ﷺ! وہ کیا بات ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿اے نبی! اپنی ازواج سے کہہ دو، اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینب کی خواہش مند ہو.....﴾ ﴿الآیہ﴾۔ فرماتی ہیں، میں نے کہا: میں تو اللہ اور اس کے رسول ﷺ اور آخرت کا گھر چاہتی ہوں اور اس میں مجھے ابوبکر اور ام رومان سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ ﷺ مسکرا پڑے۔ اس کی سند عمدہ ہے اور واقعے کی اصل صحیحین میں دوسرے طریق سے بحوالہ ام سلمہ مروی ہے۔

واقعہ تخیر ۹ھ میں پیش آیا اور حدیث سے اس کی صراحت ہوتی ہے کہ ام رومان اس وقت زندہ تھیں، اس مسئلے میں، میں نے فتح الباری کے مقدمے میں ایک فصل جو اس شخص کے رد میں ہے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ صحیح میں قابل مذمت علت ہے، میں نے تفصیلاً بحث کی ہے۔ الحمد للہ! اس علت کو جو حدیث ام رومان کی انقطاع کے بارے میں ہے، خطیب سے علماء کی ایک جماعت نے قبول کیا ہے، جس میں وہ سب ان کی مقلد ہیں ان کا عذر واضح ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے صحیح کی روایت کو صحیح بیان کرنے کے لیے سینہ کھول دیا اور اس شخص کی غلطی کے بیان کے لیے شرح صدر فرمادیا، جس کا کہنا ہے کہ وہ ۶ھ یا اس کے علاوہ میں فوت ہوئی تھیں۔

اس باب کو سب سے پہلے صحیح کے مصنف نے کھولا ہے، جیسا کہ انہوں نے پہلے ذکر کیا، انہوں نے علی بن زید کی روایت

## الْأَثَرُ فِي تَبَيُّنِ الصَّحَابَةِ (الرُّو) جلد ۱

۴۵۲

کے مقابلے میں مسروق کی روایت کو ترجیح دی۔ کیونکہ مسروق کے معتبر ہونے پر اتفاق ہے اور علی بن زید کے حافظے کے کمزور ہونے پر اتفاق ہے۔ پھر مجھے خطیب سے پہلے بھی ایک شخص مل گیا چنانچہ ابوعلی بن الاسکن کتاب الصحابہ میں ام رومان کے حالات میں لکھتے ہیں کہ ان کا انتقال حیاتِ نبی ﷺ میں ہوا۔ فرماتے ہیں: حصین، ابووائل سے بحوالہ مسروق روایت کرتے ہیں کہ میں نے ام رومان سے پوچھا، ابن الاسکن لکھتے ہیں: یہ غلط ہے پھر حصین کی سند سے بواسطہ ابووائل بحوالہ مسروق روایت کی ہے کہ ام رومان نے ان سے حدیث بیان کی۔ پھر الک کا وہ واقعہ ذکر کیا جو امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں: اس میں حصین منفرد ہے، ایک قول یہ ہے کہ ام رومان سے مسروق کا سامع نہیں، کیونکہ وہ نبی ﷺ کے دور میں فوت ہو گئی تھیں۔ واللہ التوفیق!



## حرف الزاي المنقوطة

### التسم الاول

۱۲۰۲۰ ام زينب بنت ثعلبه

۱۲۰۲۱ ام الزبير

بن عبدالمطلب بن ہاشم ہاشمیہ۔ ابن سعد \* نے ذکر کیا ہے کہ ضباع کی سگی بہن ہیں، نبی کریم ﷺ نے خیبر سے چالیس (۴۰) وسق کھانے کو دیئے۔

۱۲۰۲۲ ام زفر الحبشہ

سوداء طویلہ، صحیح بخاری میں حدیث ابن جریج میں ان کا ذکر کیا ہے، مجھ سے عطاء نے بیان کیا کہ انہوں نے ام زفر کو جو حبشیہ خاتون تھیں، کعبہ کی سیڑھیوں پر دیکھا اور عمران بن بکر کے طریق سے مروی ہے کہ مجھ سے عطاء نے بیان کیا، فرماتے ہیں کہ مجھ سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: کیا تمہیں اہل جنت میں سے ایک خاتون نہ دکھاؤں؟ میں نے کہا: جی ہاں! انہوں نے کہا: یہ حبشیہ خاتون نبی کریم ﷺ کے پاس آئیں اور کہنے لگیں: مجھے مرگی کا مرض ہے جس سے میرا ستر کھل جاتا ہے، اللہ سے میرے لیے دعا کر دیجئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر تم چاہو تو صبر کرو اور تمہارے لیے جنت ہے اور اگر چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تمہیں عافیت دے۔“ انہوں نے کہا: میں صبر کروں گی اور میرا ستر کھل جاتا ہے، اللہ سے دعا کیجئے کہ میرا ستر نہ کھلے، آپ ﷺ نے اس کے لیے دعا کی۔

عبدالرزاق نے اسے بحوالہ ابن جریج، انہوں نے حسن بن مسلم سے، انہوں نے طاؤس سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے انہیں فرماتے ہوئے سنا: نبی کریم ﷺ کے پاس دیوانوں کو لایا جاتا تھا، آپ ان کے سینہ پر ہاتھ مارتے تو وہ صحیح ہو جاتے، ایک مجنونہ عورت کو لایا گیا، جسے ام زفر کہا جاتا تھا، آپ ﷺ نے اس کے سینہ پر مارا، وہ ٹھیک نہ ہوئی اور اس کا شیطان نہ نکلا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یہ اس کے لیے دنیا میں عیب اور آخرت میں بھلائی ہے۔“ \*

ابن جریج کا قول ہے: مجھے عطاء نے بتایا کہ انہوں نے اس حبشیہ خاتون ام زفر کو کعبہ کی سیڑھیوں پر دیکھا اور مجھے عبدالکریم نے بحوالہ حسن بتایا کہ انہوں نے ان کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک عورت کا مسجد میں دم گھٹنے لگتا تھا، اس کے بھائی آ کر نبی ﷺ سے

\* تجرید أسماء الصحابة (۳۲۰/۲) \* الطبقات الكبرى (۳۲/۸)

\* اسد الغابۃ (۷۴۴۳) الاستیعاب (۳۶۱۰) تجرید (۳۲۰/۲) \* فتح الباری (۱۱۵/۱۰)

اس کی شکایت کرنے لگے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر تم چاہو تو میں اللہ سے دعا کروں اور وہ ٹھیک ہو جائے اور اگر تم چاہو تو یہ اسی حال میں رہے اور آخرت میں اس سے کوئی حساب نہ ہو۔“ تو ان کے بھائیوں نے انہیں اختیار دیا، انہوں نے کہا: میں جس حال میں ہوں مجھے اسی میں چھوڑ دو، یہ ثقات کی روایت ہے جو عطاء سے مروی ہے، اسے عمر بن قیس نے بحوالہ عطاء روایت کیا ہے، اور اس میں لفظی غلطی کی ہے۔ فرماتے ہیں: بحوالہ ام قرط، وہ فرماتی ہیں: میں نبی کریم ﷺ کے پاس آئی اور کہا: میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتی ہوں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم کیا چاہتی ہو، اگر تم چاہو تو میں اللہ سے تمہارے لیے دعا کروں اور اگر چاہو تو صبر کرو، اور تمہارے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔“ اس نے کہا: میں صبر کرتی ہوں، طبرانی \* اور خطیب نے اسے اپنے طریق سے نقل کیا ہے۔

میں کہتا ہوں: اس کی سند عمر بن قیس تک پہنچتی ہے جو ضعیف راوی ہیں، اس میں لفظی غلطی کے ساتھ اس حدیث کو عطا کی روایت سے بحوالہ ام زفر کے قرار دینا شاذ ہے تو عطاء نے بحوالہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کیا ہے، حرف سین مہملہ میں گزر چکا ہے کہ ان کا نام سُغیرہ ہے، مرگی کے بارے میں ان کا قصہ دوسرے طریق سے گزر چکا ہے، میں نے حرف شین میں ان کا ذکر کیا ہے کہ بعض نے ان کا نام سُغیرہ لیا ہے۔ واللہ اعلم!

### ۱۲۰۲۳ ام زفر \*

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ماما ہیں۔ عبدالغنی بن سعید نے مہمات میں ذکر کیا ہے کہ یہ وہ خاتون ہیں جن کے بارے میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے زمانے میں یہ خاتون ہمارے پاس آتی تھی۔“ زبیر بن بکار کے طریق سے بحوالہ سلیمان بن عبد اللہ بن سلیم نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اہل مکہ میں سے ایک شخص نے خبر دی، فرماتے ہیں: ام زفر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ماما تھیں، یعنی بڑھیا، جن کے بارے میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”یہ خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے زمانے میں ہمارے پاس آتی تھیں۔“ \*

میں کہتا ہوں: خواتین کے ناموں میں جثامہ کے تحت، ابو عاصم کے طریق سے بحوالہ ابو عامر خزرجی گزر چکا ہے، انہوں نے ابن ابی ملیکہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا نام جثامہ مزنہ تھا، نبی کریم ﷺ نے اسے بدل دیا اور فرمایا: ”بلکہ تم حضانہ ہو۔“ اور ایک روایت میں ہے: ”حُثَّانہ۔“ ان کا مزنہ ہونا اور ان کا نام حضانہ ہونا اس بات کو تقویت دیتا ہے کہ وہ حبشیہ نہیں، اگرچہ ان کی کنیت میں اتفاق ہو، ابو عمر اور ابو موسیٰ کا کلام تقاضا کرتا ہے کہ وہ دونوں ایک ہیں۔ لیکن ابو موسیٰ نے ام زفر کے ترجمہ میں فرمایا: اس کا احتمال ہے، البتہ ابو عمر نے ان کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تعلق اور مرگی کا قصہ ایک ہی عنوان میں جمع کر دیا ہے۔ اصل علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔

### ۱۲۰۲۴ ام زیاد الاشجعیہ \*

رافع بن سلمہ بن زیاد اشجعی نے ان کی حدیث بحوالہ خزرج بن زیاد اشجعی، انہوں نے ان کی دادی یعنی ان کے والد کی والدہ

\* المعجم الكبير (۱۱۳۵۲/۲) \* اسد الغابۃ (۷۴۴۴) تجرید (۳۲۰/۲)

\* مسند احمد (۴۴۱/۲) \* اسد الغابۃ (۷۴۴۵) تجرید (۳۲۰/۲)

کے حوالے سے روایت کیا ہے کہ وہ نبی کریم ﷺ کے ساتھ غزوہ خیبر میں نکلیں، وہ چھٹی خاتون تھیں، فرماتی ہیں: نبی کریم ﷺ تک یہ بات پہنچی تو آپ ﷺ نے ہمارے پاس پیغام بھیجا: ”کس کی اجازت سے تم یہاں آئی ہو؟“ اور ہم نے آپ ﷺ کے چہرے پر غصہ کے آثار دیکھے۔ ہم نے کہا: ہم ادویات لے کر آئی ہیں، جس سے زخمیوں کا علاج کریں گی اور ہم تیر پکڑائیں گی اور ستوں پلائیں گی..... (الحديث) اس میں ہے کہ آپ ﷺ نے ان میں کھجوریں تقسیم کیں، اسے ابوداؤد، نسائی اور ابن ابی عاصم \* نے نقل کیا ہے۔

### ۱۲۰۲۵) ام زید بنت حرام \*

بن عمرو النصاریہ، بنو مالک سے ہیں، انہیں اونٹ والی کہا جاتا ہے۔ ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ \*

### ۱۲۰۲۶) ام زید بنت السکن \*

بن عتبہ بن عمرو بن خدیج بن عامر بن جشم النصاریہ، پھر جشمیہ۔ ابن سعد \* نے اور ابن حبیب \* نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ ابن سعد \* کا قول ہے: ان سے سراقہ بن کعب بن عبد العزیٰ بن غزہ نے نکاح کیا، جس سے زید پیدا ہوئے، اسلام لائیں اور بیعت کی۔

### ۱۲۰۲۷) ام زید بنت عمرو \*

بن حرام بن زید مناة، بنو عمرو بن مالک بن نجار سے ہیں۔ ابن سعد \* نے بحوالہ محمد بن عمران کا ذکر کیا ہے کہ وہ اسلام لائیں اور بیعت کی، بعض کا قول ہے: یہ اونٹ والی ہیں۔

### ۱۲۰۲۸) ام زید بنت قیس \*

بن نعمان بن سنان النصاریہ، ابن سعد \* نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا: ان کی والدہ اِدَام بنت قیس بن کعب بن سواد ہیں، ان سے خالد بن عدی بن عمرو بن عدی بن سنان بن نابی نے نکاح کیا۔

### ۱۲۰۲۹) ام زید (غیر منسوبہ) \*

اللہ تعالیٰ کے اس قول کے سبب میں ان کا تذکرہ ہے: ﴿اگر مومنوں میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو﴾۔ \* یہ اسباط بن نصر کی روایت میں بحوالہ سُدی مذکور ہے، فرماتے ہیں: انصار میں سے ایک خاتون جنہیں ام زید کہا جاتا تھا، ان

\* الاحاد والمثنائی (۳۲۹۴/۶) \* اسد الغابۃ (۷۴۴۶) تجرید (۳۲۰/۲) \* المحبر (۴۳۰)

\* اسد الغابۃ (۷۴۴۷) تجرید (۳۲۰/۲) \* الطبقات الکبریٰ (۲۷۵/۸) \* المحبر (۴۲۱)

\* اسد الغابۃ (۷۴۴۶) تجرید (۳۲۰/۲) \* الطبقات الکبریٰ (۳۳۳/۸)

\* تجرید اسماء الصحابة (۳۲۰/۲) \* الطبقات الکبریٰ (۲۹۵/۸)

\* اسد الغابۃ (۷۴۴۸) تجرید (۳۲۰/۲) \* سورة الحجرات الآية (۹)

کا اپنے شوہر سے جھگڑا ہوا، تو اس کے گھر والے اس کے شوہر سے مل گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی.... الخ۔ ابن اثیر\* کا قول ہے: اسلام کے ابتدائی دور میں اسلام لانے والوں میں سے ایک ہیں۔

### ۱۲۰۳۰) ام زینب بنت نبیط\*

بن جابر، ان کی والدہ فزیرہ بنت ابی امامہ، اسعد بن زرارہ ہیں، حبیبہ میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

### ۱۲۰۳۱) ام زینب التیمیہ\*

پھر غزیرہ، ابن مندہ نے ان خواتین میں ان کا ذکر کیا ہے، جن کی کنیت ام زینب ہے، عسکری نے اسی طرح لکھا ہے، جیسا کہ ان کے بیٹے کے سوانح میں گزر چکا ہے: زینب بن ثعلبہ۔

میں کہتا ہوں: وہی قابل اعتماد ہے، رجال میں حرف ذال میں ذؤیب کے سوانح میں گزر چکا ہے، اس میں ہے کہ آپ ﷺ نے ان کے بیٹے ذؤیب بن ثعلبہ سے فرمایا: ”اے لڑکے! اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے اور تمہاری والدہ کے لیے تم میں برکت فرمائے۔“

ذہبی نے تجرید\* میں لکھا ہے: نبی کریم ﷺ نے انہیں دعا دی، ایک منکر حدیث میں اس کا ذکر ہے، ابن مندہ نے اس کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا: بلکہ اس کی سند حسن ہے۔



\* اسد الغابہ (۴۴۹/۵) \* اسد الغابہ (۷۴۴۹) تجرید (۳۲۰/۲)

\* اسد الغابہ (۷۴۵۰) تجرید (۳۲۰/۲) \* التجرید (۲۰۱)

## حرف سین مہملہ

### القسم الاول

#### ۱۲۰۳۲ ام سارہ کنود

یہ وہی ہیں جنہیں حاطب بن ابی بلتعہ نے قریش کی طرف خط دے کر بھیجا تھا، ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی: ﴿تم میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ﴾۔

قائدہ نے بحوالہ انس مختصر حدیث میں ان کا نام لیا ہے، اسے ابن مندہ نے ایک طریق سے بحوالہ قائدہ، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ام سارہ قریش کی باندی تھیں، وہ نبی کریم ﷺ کے پاس آئیں، اور اپنی حاجت پیش کی، پھر ایک شخص نے ان کے ساتھ، اہل مکہ کی طرف خط بھیجا، تاکہ وہ اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرے، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی: ﴿اے ایمان والو! میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ.....﴾۔ (الآیۃ)

ابو نعیم کا قول ہے: مجھے معلوم نہیں کہ کسی نے صحابہ رضی اللہ عنہم میں ان کا ذکر کیا ہو اور اسلام کی طرف نسبت کی ہے۔ میں کہتا ہوں: انہوں نے ذکر کیا کہ نبی کریم ﷺ نے ان کا خون بغیر قصاص قرار دیا، پھر فتح کے دن ان کو امان دی، سارہ میں اس کا بیان گزر چکا ہے، انہوں نے ان کے نام اور کنیت میں اختلاف کیا، بعض کا قول ہے: سارہ ام کنود اور بعض نے کہا: کنود ام سارہ ہیں۔

#### ۱۲۰۳۳ ام سالم الأشجعیہ

ابن ابی عاصم نے ان کی حدیث حبیب بن ابی ثابت کے طریق سے، انہوں نے ایک شخص سے، انہوں نے ان سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یہ اچھا ہے اگر مردار نہ ہو.....“۔

#### ۱۲۰۳۴ ام سالم

مولیٰ ابو حذیفہ، رجال کے اسماء میں حرف سین کے تحت، ان کے بیٹے کے سوانح میں ان کا ذکر گزر چکا ہے، ابن سعد رضی اللہ عنہ نے صحیح سند سے بحوالہ عبد اللہ بن شداد ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ام سالم کو ان کے بیٹے کی میراث دی تھی، جب وہ

اسد الغابۃ (۷۴۵۲) تجرید (۳۲۱/۲) سورة الممتحنة الآية (۱) سورة الممتحنة الآية (۱)

اسد الغابۃ (۷۴۵۱) تجرید (۳۲۱) الاحاد والمثنائی (۱۹۵/۶) بیاض فی الأصل

مسند احمد (۴۳۷/۶) الاحاد والمثنائی (۳۴۲۴/۶) جامع المسانید والسنن (۲۴۵/۱۶)

المعجم الكبير (۳۷۵/۲۵) مجمع الزوائد (۲۱۷/۱)



یہ امامہ میں شہید ہوئے۔

### ۱۲۰۳۵) ام السائب الأنصاریہ \*

ابو عمر کا قول ہے، ان سے ابو قلابہ نے نبی کریم ﷺ سے بخار کے بارے میں روایت کی ہے، بعض کا قول ہے، اس میں ہے: ام میتب، اسی طرح فرمایا، صحیح مسلم، ابن سعد رحمہ اللہ، اور ابو یعلیٰ \* وغیرہ نے حجاج الصواف کے طریق سے بحوالہ ابو زبیر انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ ام سائب کے ہاں گئے جو ام میتب ہیں، وہ کپکار ہی تھیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے ام سائب یا ام میتب تمہیں کیا ہوا کہ کپکار ہی ہو؟“ انہوں نے کہا: بخار سے، اللہ اس میں برکت نہ دے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اسے گالی نہ دو، کیونکہ یہ ابن آدم کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جیسے بھٹی، لوہے کا میل پچھل دور کر دیتی ہے۔“ ابو یعلیٰ کے الفاظ ہیں: ہاں! ابو نعیم نے اسے حسن بن ابو جعفر اور ابو زبیر کے طریق سے بحوالہ جابر روایت کیا ہے، فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ انصار کی ایک خاتون جنہیں ام میتب کہا جاتا تھا، کے پاس آئے۔ پھر اسی طرح روایت کی، اور فرمایا: اسے داؤد بن زبرقان نے بحوالہ ایوب، انہوں نے ابی زبیر سے روایت کیا ہے، فرمایا: ام سائب۔

میں کہتا ہوں: ابن مندہ نے اسے داؤد کے طریق سے موصولاً نقل کیا ہے، انہوں نے کہا: یہ ام سائب ہی ہیں، اور اسے ثقفی کے طریق سے بحوالہ ایوب، انہوں نے ابو زبیر سے، انہوں نے جابر سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں: یہ ثابت ہے کہ نبی کریم ﷺ ام سائب کے ہاں تشریف لے گئے۔ پھر اسی طرح کی حدیث نقل کی، ان کے طرق میں کوئی ایسی بات نہیں جس سے معلوم ہو کہ یہ انصاریہ ہیں بلکہ ابن کعب نے مہاجرین و انصار کے درمیانی قبائل عرب میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۲۰۳۶) ام السائب الغفاریہ

سائب غفاری، حرف سین میں گزر چکا ہے کہ ان کی والدہ انہیں لے کر نبی کریم ﷺ کے پاس آئیں، آپ نے ان کا نام عبداللہ رکھا۔۔۔۔۔ (الحدیث)

### ۱۲۰۳۷) ام السائب النخعیہ \*

انہیں شرف صحابیت حاصل ہے، ابو عمر نے اسی طرح ان کا مختصر ذکر کیا ہے۔

### ۱۲۰۳۸) ام سباع \*

عقیقہ کے بارے میں ان کی حدیث محمد بن سعد نے نقل کی ہے۔

بحوالہ عبداللہ بن ادریس وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے اسلم مقری نے بحوالہ عطاء روایت کیا ہے کہ ام سباع نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا: کیا ہم اولاد کا عقیقہ کریں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں۔“

\* اسد الغابۃ (۷۴۵۳) تجرید (۳۲۱/۲) \* الطبقات الکبریٰ (۲۲۶/۸) \* مسند ابو یعلیٰ (۲۰۸۳/۴)

\* اسد الغابۃ (۷۴۵۴) الاستیعاب (۳۶۱۲) تجرید (۳۲۱/۲) \* تجرید (۳۲۱/۲)

### ۱۲۰۳۹ ام سبرہ

ابوموسیٰ نے ذیل میں بحوالہ مستغفری ان کا ذکر کیا ہے اور رشید بن سعد کے طریق سے بحوالہ ابوبکر انصاری، انہوں نے سمرہ سے، انہوں نے اپنی والدہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ”جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، جس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، اس کا وضو نہیں۔“ (الحدیث) فرماتے ہیں: ان کی حدیث کی اسناد میں تردد ہے۔

### ۱۲۰۴۰ ام سعد الأنصاریہ

سعد بن معاذ کی والدہ ہیں، ابوعمر نے ان کا ذکر کیا ہے، حرف کاف میں گزر چکا ہے کہ ان کا نام کبشہ ہے، یحییٰ بنت خلیم اوسیہ کے سوانح میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

### ۱۲۰۴۱ ام سعد بنت زید

بن ثابت انصاریہ، ابوعمر کا قول ہے: ان سے احادیث مروی ہے، ان میں سے پچھنے لگوانے سے خون کے بارے میں ہے، جو محمد بن زاذان کی ان سے مروی روایت ہے، بعض کا قول ہے: انہوں نے ان سے حدیث نہیں سنی۔  
میں کہتا ہوں: ابن ماجہ، حسن بن سفیان، ابویعلیٰ، ابن مندہ وغیرہ نے اسے موصولاً نقل کیا ہے۔  
ابن مندہ نے ایک نسخہ روایت کیا ہے جو کئی احادیث پر مشتمل ہے، فرماتے ہیں: ہمیں علی بن محمد بن نصر نے بتایا، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے محمد بن ایوب نے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے عثمان بن مالک نے روایت کی، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے عنبسہ بن عبد الرحمن نے بحوالہ محمد بن زاذان، انہوں نے ام سعد سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ پچھنے لگانے کے بعد خون کو دفن کرنے کا حکم دیتے تھے۔

ان سے مروی ہے: میں رسول اللہ ﷺ کے پاس گئی۔ آپ ﷺ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے اور پیٹ کی تکلیف سے آہ آہ کر رہے اور یہ کہہ رہے تھے: ہائے میرا پیٹ، اور ان سے مروی ہے، میں نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! کوئی ایسی شے ہے جس کی بیج حلال نہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”پانی کی بیج حلال نہیں۔“

اس میں ہے: جب رسول اللہ ﷺ سفر کرتے تو آپ ﷺ کی کوئی زوجہ اور سرمہ آپ کے ساتھ ہوتے۔  
اس میں ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”وضو ایک مند پانی سے ہے اور غسل ایک صاع پانی سے ہے، میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو اسے سمجھیں گے، وہ میری سنت کے خلاف کریں گے، میری سنت کو لازم پکڑنے والا جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔“  
عنبسہ بن عبد الرحمن متروک راوی ہے۔

### ۱۲۰۴۲ ام سعد بنت سعد

بن ربیع انصاریہ، ان کے والد کے سوانح میں ان کا نسب گزر چکا ہے، ابوداؤد نے بحوالہ ابونعیم، ابن اسحاق کے طریق

اسد الغابۃ (۷۴۵۵) تجرید (۳۲۱/۲) جامع المسانید والسنن (۲۴۶/۱۶)

اسد الغابۃ (۷۴۵۶) الاستیعاب (۶۴۱۳) تجرید (۳۲۱/۲) جامع المسانید والسنن (۲۴۶/۱۶) اسد الغابۃ (۴۵۱/۵)

ابوداؤد، کتاب الفرائض باب نسخ میراث العقد بمیراث الرحم (۲۹۲۳)

سے، انہوں نے داؤد بن حصین سے ان کی حدیث روایت کی ہے، فرماتے ہیں: میں ام سعد بنت سعد بن ربیع اور ان کے پوتے مویہ بن سعد، وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی پرورش میں یتیم تھیں میں نے ان کے سامنے پڑھا: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾۔  
 انہوں نے کہا: نہیں، بلکہ یہ ہے: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾۔ یہ آیت حضرت ابوبکر اور عبدالرحمن بن ابی بکر کے بارے میں نازل ہوئی، جب (عبدالرحمن نے) اسلام لانے سے انکار کیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ میں اسے وارث نہیں بناؤں گا۔  
 ابن سعد نے بحوالہ واقدی، انہوں نے ابن ابوزنا سے، انہوں نے ابراہیم بن یحییٰ بن زید بن ثابت سے، انہوں نے ام سعد بنت ربیع سے روایت کیا ہے، فرماتی ہیں: میرے پاس زید بن ثابت آئے اور کہا: اگر تم اپنے والد کی میراث کے بارے میں کچھ کہنا چاہتی ہو تو کہہ لو، کیونکہ آج حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پیٹ کے بچے کو وارث قرار دیا ہے۔ ان کے والد اُحد میں جب شہید ہوئے تھے تو یہ ماں کے پیٹ میں تھیں۔

ابن سعد کا قول ہے: ان کی والدہ خلدہ بنت انس بن سنان ہیں جو بنو ساعدہ سے ہیں، سعد کے قتل کے ایک ماہ بعد ان کی ولادت ہوئی، ان سے زید بن ثابت نے نکاح کیا، جس سے خارجہ، سعد، عثمان، سلیمان اور ام زید کی ولادت ہوئی، خارجہ بن زید بن ثابت نے بحوالہ ام سعد بنت سعد بن ربیع، انہوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سعد بن ربیع کے مناقب بیان کئے ہیں، ابن سعد نے خارجہ بن زید کے سوانح میں فرمایا، غرض یہ ان کی والدہ ام سعد، جمیلہ بنت سعد بن ربیع ہیں، اسی طرح فرمایا، ام علاء میں ان کا ذکر آئے جو ان کے مخالف ہے۔

### ۱۲۰۴۳ ام اسعد

بعض کا قول ہے: ام سعید بنت عبداللہ بن ابومالک خزرجیہ، عبداللہ اور جمیلہ کی بہن ہیں، ان کے والد عبداللہ بن ابی بن سلول ہیں۔ ابن سعد نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ ان کی والدہ لبنی بنت عبادہ بن نھلہ خزرجیہ ہیں، ان سے جبیر بن ثابت بن ضحاک بن ثعلبہ خزرجی نے نکاح کیا۔

### ۱۲۰۴۴ ام سعد بنت عقبہ

بن رافع بن امری القیس بن یزید بن عبدالشمل اشجلیہ۔ ابن سعد نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ اور فرمایا: ان کی والدہ سلمیٰ بنت عمرو بن حنیس ساعدیہ ہیں، جو محمود بن لبید کی پھوپھی ہیں، ان کی بہن وردہ کے بعد ان سے قیس بن مخرمہ بن عبدالطلب قرشی نے نکاح کیا، جس سے اولاد ہوئی۔

### ۱۲۰۴۵ ام سعد بنت قیس

بن حصین بن خالدہ بن مخلد بن عامر بن زریق انصاریہ ذرقیہ، ابن سعد نے ان کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا: ان کی والدہ خولہ

سورہ النساء الآیہ (۳۳) تجرید (۳۲۲/۲) الطبقات الکبریٰ (۲۳۲/۸)

تجرید (۳۲۲/۲) الطبقات الکبریٰ (۲۸۴/۸) تجرید (۳۲۲/۲)

الطبقات الکبریٰ (۲۸۴/۸)

بنت فاکہ بن قیس بن مخلد ہیں، ان سے قیس بن عمرو بن حصین بن خالدہ بن مخلد نے نکاح کیا اس کے بعد مسعود اکبر بن عبادہ بن سعد بن عثمان بن خالدہ بن مخلد نے نکاح کیا، ام سعد اسلام لائیں اور بیعت کی۔

### ۱۲۰۳۶ ام سعد

بعض کا قول ہے: ام سعید، بن مرہ بن عمرو فہرہ، بعض نے کہا: جحیم، ابو عمر نے ان کا ذکر کیا ہے اور فرمایا: بنت عمر۔ بعض نے کہا: عمیرہ جحیم۔ ان سے یتیم کی کفالت کرنے والے کے بارے میں حدیث مروی ہے، اس کی اسناد میں صفوان کے بارے میں اختلاف ہے۔

میں کہتا ہوں: رجال کے حصے میں حرف میم میں مرہ بن عمرو کے سوانح میں اختلاف کا بیان گزر چکا ہے۔ واللہ الحمد! جملہ اختلاف میں سے یہ بھی ہے جسے ابن مندہ نے محمد بن عمرو کے طریق سے بحوالہ صفوان، انہوں نے ام سعد بنت عمرو جحیم سے روایت کیا ہے، فرماتی ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ”جس نے اپنے کسی یتیم یا لوگوں میں سے کسی یتیم کی کفالت کی، میں اور وہ جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح ہوں گے“۔ \*

حدیث کا مدار صفوان بن سلیم پر ہو تو میں اسے جائز قرار دوں کہ ام سعید بنت مرہ فہرہ، ام سعید بنت عمرو یا عمیرہ جحیم کے علاوہ ہیں، میں نے اسماء الرجال میں مرہ بن عمرو کے سوانح میں اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ ابن سکین، ام سعید بنت عمرو جحیم نے ان کا نام اسیرہ لیا ہے اور ابواسامہ کے طریق سے بحوالہ محمد بن عمر، انہوں نے صفوان بن سلیم سے، انہوں نے ام سعید اسیرہ بنت عمرو جحیم سے ان کی حدیث روایت کی ہے۔ فرماتی ہیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا..... پھر اسے ذکر کیا، پھر فرمایا، بعض نے کہا: بحوالہ ام سعد بنت مرہ، انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا ہے، اس میں بہت سا اختلاف ہے۔

مجھے یہ خدشہ ہے کہ اسیرہ مذکورہ کو لفظی غلطی سے اسیرہ لکھا گیا، جیسا کہ مرہ بنت عمرو کے سوانح میں ہے۔ وباللہ التوفیق!

### ۱۲۰۳۷ ام سعد بنت مسعود

بن سعد بن قیس بن خالدہ بن عمرو بن عامر بن ذریق النصارہ، ذرقہ، ابن سعد \* نے رسول اللہ ﷺ سے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے، فرمایا: ان کی والدہ کہوہ بنت فاکہ بن قیس بن مجلل ہیں۔

### ۱۲۰۳۸ ام سعد بنت ثابت

بن عتیک، ان کا نام کہوہ ہے، ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

### ۱۲۰۳۹ ام سعید بنت ابی جہل

بن ہشام مخزومیہ۔ مسند عبد اللہ بن عمرو بن العاص میں ان کے قصے میں ان کا ذکر ہے، اور مسند احمد میں اور معجم کبیر طبرانی

\* المعجم الكبير (۲۵۵/۲۵) مجمع الزوائد (۱۶۳/۱) جامع المسانيد والسنن (۲۵۰/۱۶) اسد الغابۃ (۵۳/۵)

\* الطبقات الكبرى (۲۸۶/۶)

میں، یہ ہذیل کے ایک شخص کے طریق سے ہے۔ فرماتے ہیں: میں نے عبد اللہ بن عمرو کو دیکھا.... پھر قصہ ذکر کیا۔ انہوں نے ام سعید بنت ابوجہل کو کمان لٹکائے ہوئے دیکھا، وہ مردوں کی طرح چل رہی تھیں، پھر مردوں کی طرح مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں کے بارے میں حدیث ذکر کی، ان کے رجال سوائے ہذیل کے ثقات ہیں، اس کا نام نہیں لیا گیا۔

۱۲۰۵۰) ام سعید بنت سہل معاذہ میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

۱۲۰۵۱) ام سعید بنت صخر

بن حکیم بن امیہ بن حارثہ بن اقص سلمیہ، میتب بن حزن مخزومی کی زوجہ اور ان کی اولاد سعید، سائب اور عبد الرحمن کی والدہ ہیں، ان کے والد حالت کفر میں قتل ہوئے اور ان کے شوہر فتح کے دن اسلام لائے، اس سے ان کی اولاد ہوئی، یہ اس قسم میں سے ہیں، زیر نے ان کا ذکر کیا ہے۔

۱۲۰۵۲) ام سعید بنت عبد اللہ بن ابی ام سعد میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

۱۲۰۵۳) ام سعید بنت مرہ ام سعد میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

۱۲۰۵۴) ام سعید

سعید بن زید بن عمرو بن نفیل کی والدہ ہیں، وہ لکھتے ہیں..... بیہقی کی سنن کبریٰ میں کتاب الجنائز کے باب الکافور۔

۱۲۰۵۵) ام سفیان بنت الضحاک

ابن مندہ کا قول ہے: صحابہ رضی اللہ عنہم میں ان کا تذکرہ ہے، اور یہ ثابت نہیں، حماد بن سلمہ نے بحوالہ یعلیٰ بن عطاء، انہوں نے موسیٰ بن عبد الرحمن سے ان کی حدیث ذکر کی ہے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حدیث روایت کی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے انہیں صلوٰۃ کسوف پڑھائی تو عذاب قبر سے پناہ مانگی۔

میں کہتا ہوں: اسے عبد اللہ بن احمد نے مسند کی زیادات سے نقل کیا ہے، بحوالہ ہدب بن خالد، انہوں نے حماد سے روایت کیا ہے، اس کے الفاظ ہیں، بحوالہ موسیٰ بن عبد الرحمن، انہوں نے ام سفیان سے روایت کیا ہے کہ ایک یہودیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی اور بات چیت کرتی تھی، جب وہ جانے لگی تو اس نے کہا: اللہ تمہیں عذاب قبر سے بچائے، جب رسول اللہ ﷺ تشریف لائے تو انہوں نے آپ ﷺ کو بتایا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس نے جھوٹ کہا، یہ اہل کتاب کے لیے ہے۔“ پھر کسوف شمس ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔“ (المحدث) طبرانی نے بحوالہ عبد اللہ بن احمد اور ابن ابی عاصم نے بحوالہ ہدب بن خالد اسی طرح نقل کیا ہے۔

❖ بیاض فی الأصل ❖ اسد الغابۃ (۷۴۶۳) تجرید (۳۲۲/۲)

❖ المعجم الكبير ❖ (۳۹۱/۲۵)

### ۱۲۰۵۶) ام سفیان بنت الضحاک السلمیہ

منصور بن صفیہ کی نانی ہیں، ابو موسیٰ نے ذیل میں فرمایا: جعفر مستغفری نے ان کا ذکر کیا ہے اور ان کی کوئی حدیث روایت نہیں کی، ابن اثیر نے اس پر اعتماد کیا ہے کہ یہ پہلے والی ہیں اس میں تردد ہے، اس سے فرق کا احتمال ہے۔

### ۱۲۰۵۷) ام سلمہ بنت ابی امیہ

بن مغیرہ بن عبد اللہ بن عمرو بن مخزوم قرشیہ مخزومیہ، ام المؤمنین، ان کا نام ہند ہے، ابو عمر کا قول ہے، بعض نے کہا کہ ان کا نام رملہ ہے۔ اس قول کی کوئی حیثیت نہیں، ان کے والد کا نام حذیفہ ہے۔ بعض کا قول ہے: سہیل۔ ان کا لقب زاد الراکب ہے۔ کیونکہ وہ نہایت خنی تھے، جب وہ سفر کرتے تو زاد راہ میں اپنے رفیقوں کی کفایت کرتے تھے۔ ان کی والدہ عاتکہ بنت عامر بن ربیعہ بن مالک کنانیہ ہیں، جو بنو فراس سے ہیں۔ اپنے چچا زاد ابوسلمہ بن عبد الاسد بن مغیرہ کی زوجہ ہیں جن کی وفات ہو گئی جیسا کہ ان کے سوانح میں گزر چکا ہے۔ پھر آپ ﷺ نے ۴۲ یا ۳۳ ہجری الثانیہ میں ان سے نکاح کر لیا۔ یہ اور ان کے خاوند بہت پہلے اسلام لا کر حبشہ کی طرف مہاجر ہوئے تھے۔ وہاں سلمہ پیدا ہوئے، پھر دونوں مکہ آئے اور مدینہ کی طرف ہجرت کی، جہاں عمر، ذرہ اور زینب پیدا ہوئیں، یہ ابن سعد کا قول ہے۔ جبکہ یونس بن بکر وغیرہ کی بحوالہ ابن اسحاق روایت میں ہے کہ جب ابوسلمہ مدینہ جانے کا ارادہ کر چکے تو اپنا اونٹ تیار کیا، مجھے اس پر بٹھایا اور میرے بیٹے سلمہ کو سوار کر دیا اور اپنا اونٹ پکڑ کر چل دیئے۔

بنی مغیرہ کے لوگوں نے آپ کو دیکھا، آ کر کہنے لگے: تم اپنی جان کو مصیبت میں ڈالتے ہو تو ڈالو۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم تمہاری بیوی کو ایسے ہی شہروں میں چلتا چھوڑ دیکھو گے؟ اور ان کے ہاتھ سے اونٹ کی مہار چھین لی اور مجھے لے لیا، جس پر بنو عبد الاسد نے ناراض ہو کر سلمہ کو اٹھالیا اور کہنے لگے: ہم اپنا بیٹا اس کے پاس کیوں چھوڑیں جب تم نے اسے ہمارے شخص سے چھین لیا، اسی چھینا جھٹی میں سلمہ کا بازو اتر گیا۔ بنو اسد اسے لے کر چل دیئے، ادھر بنو مغیرہ نے مجھے اپنے پاس روک لیا، خیر میرے خاوند ابوسلمہ مدینہ جا پہنچے، یوں مجھ میں، میرے خاوند میں اور میرے بیٹے میں جدائی پڑ گئی۔

میں روزانہ باہر نکل کر بطحا میں بیٹھتی اور شام تک روتی رہتی۔ ہفتہ عشرہ اسی میں گزرا کہ میرے چچا زادوں میں سے کوئی شخص وہاں سے گزرا، اس نے میری حالت دیکھ کر بنو مغیرہ سے کہا: اس بے چاری کو کیوں نہیں جانے دیتے ہو؟ تم لوگوں نے اسے اس کے خاوند اور اس کے بیٹے سے جدا کر دیا ہے۔ وہ کہنے لگے: اگر چاہتی ہو تو اپنے خاوند کے پاس چلی جاؤ۔ ادھر بنو عبد الاسد کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے میرا بیٹا بھی مجھے واپس کر دیا۔ میں نے اپنی سواری کا اونٹ لیا، بیٹے کو گود میں بٹھایا اور اپنے خاوند کے ارادے سے مدینہ کی طرف چل نکلی۔ اللہ کی مخلوق میں سے میرے ساتھ کوئی نہ تھا، جو مجھے ملتا، میں کہتی میں پہنچ جاؤں گی یہاں تک کہ میں متعیم میں پہنچی تو عثمان بن طلحہ، جو بنی عبد الدار کے فرد تھے، وہ مل گئے۔ کہنے لگے: ابوامیہ کی بیٹی! کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا: اپنے خاوند کے ارادے سے جا رہی ہوں۔ پوچھا: ساتھ کوئی ہے؟ میں نے کہا: اللہ کی قسم! میرے اس بیٹے کے علاوہ کوئی نہیں، کہنے لگے: اللہ کی قسم! تمہیں ایسے نہیں چھوڑا جائے گا، اور پھر اونٹ کی مہار پکڑ کر آگے آگے چل دیئے۔ اللہ کی قسم! میں نے کسی عرب کو ان سے زیادہ

شریف نہیں دیکھا، وہ جب کسی جگہ فروکش ہوتے، میرا اونٹ بٹھاتے اور کسی درخت کی اوٹ میں چلے جاتے۔ اس کے نیچے لیٹ جاتے۔ جب کوچ کا وقت ہوتا تو میرے اونٹ کو میرے سامنے لا بٹھاتے، سامان رکھتے اور پیچھے ہٹ جاتے، فرماتے: سوار ہو جاؤ، میں جب اچھے طریقے سے سوار ہو جاتی تو مہار پکڑتے اور چل دیتے، یہاں تک کہ کوئی بڑاؤ آ جاتا، اسی طرح وہ مجھے مدینہ لے آئے، جب انہیں بنی عمرو بن عوف کی بستی قباء میں نظر آئی تو کہنے لگے: تمہارا خاوند اسی بستی میں ہوگا۔ ابوسلمہ وہیں فروکش ہوئے تھے۔ بقول بعض: یہ پہلی خاتون ہیں جو حبشہ ہجرت کر کے نکلی تھیں، اور پہلی مسافر عورت ہیں جو مدینہ آئیں۔ ایک قول ہے کہ لیلیٰ زوجہ عامر بن ربیعہ اس فضیلت میں ان کی شریک ہیں۔ اسی طرح نسائی کی صحیح سند سے بحوالہ ام سلمہ روایت ہے کہ جب ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی عدت پوری ہوئی تو ابوبکر نے انہیں پیغام دیا، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر نبی ﷺ نے پیغام بھیجا، تو انہوں نے کہلوایا بھیجا میں غیرت مند عورت ہوں۔ صاحب اولاد ہوں، یہاں میرا کوئی والی وارث بھی نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس سے کہو، تمہاری یہ بات کہ میں غیرت مند ہوں تو میں اللہ سے دعا کروں گا تو اس طرح کی غیرت ختم ہو جائے گی۔ رہی یہ بات کہ میں بچوں والی ہوں تو تمہارے بچوں کی کفایت کر لی جائے گی اور یہ بات کہ تمہارا کوئی والی وارث نہیں، تو تمہارا کوئی والی وارث جو یہاں موجود ہے، اس بات کو ناپسند نہیں سمجھے گا تو انہوں نے اپنے بیٹے عمر سے کہا: جاؤ! رسول اللہ ﷺ سے نکاح کر دو، چنانچہ انہوں نے نکاح کر دیا۔

نسائی ہی میں صحیح سند سے مروی ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا جب مدینہ آئیں تو انہوں نے بتایا کہ وہ ابوامیہ بن مغیرہ کی بیٹی ہیں، تو وہ کہنے لگے، ملے جلتے ناموں کی وجہ سے لوگ کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر ان میں سے کچھ لوگ حج کے لیے جانے لگے تو ان سے کہا: کیا تم اپنے گھر والوں کی طرف کوئی خط بھیجنا چاہتی ہو، چنانچہ انہوں نے خط لکھ دیا، جب یہ لوگ واپس آئے تو ان کی تصدیق کرنے لگے یوں ان کی قدر و منزلت اور بھی بڑھ گئی، جب میرے ہاں زینب پیدا ہوئیں تو آپ ﷺ نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا، میں نے عرض کی مجھ جیسی عورت شادی نہیں کرتی، میرے ہاں اولاد ہوتی نہیں ہے، کیونکہ میں بہت غیرت مند اور عیال دار عورت ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میں تم سے بھی بڑا ہوں، جہاں تک غیرت کا تعلق ہے تو اللہ اسے ختم کر دے گا، رہے بچے تو یہ اللہ کے رسول ﷺ کے سپرد ہیں، جب شادی ہوگئی تو آپ تشریف لائے، فرمانے لگے: ”زینب کہاں ہے؟“ ایک دن عمار بن یاسر آئے تو انہیں ساتھ لے گئے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا انہیں دودھ پلاتی تھیں، عمار کہنے لگے: یہ رسول اللہ ﷺ کی حاجت برآری میں رکاوٹ ڈالتی ہے۔ چنانچہ ایک دن آپ آئے، پوچھا: زینب کہاں ہے؟ تو اتفاق سے اس دن قریبہ بنت امیہ وہاں تھیں۔ کہنے لگیں: عمار اسے لے گئے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اچھا! میں رات کے وقت آؤں گا.....“۔ (الحدیث)

دونوں روایتوں کو یوں جمع کیا جاسکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبانی نبی ﷺ کا پیغام پہنچا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نبی ﷺ سے ان کا نکاح کرانے والا سلمہ تھا، یہ بات ابن اسحاق نے نقل کی ہے اور سلمہ کے حالات میں بھی گزر چکی ہے۔ ابن سعد رضی اللہ عنہ کی ایسی سند سے بحوالہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت ہے، جس میں واردی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی تو مجھے



نخت صدمہ ہوا، کیونکہ ہمارے سامنے ان کے حسن و جمال کا تبرہ ہوا تھا، تو میں چپکے سے انہیں دیکھنے لگی، اللہ کی قسم! جیسا مجھے بتایا گیا تھا، اس سے کہیں بڑھ کر پایا، میں نے حصہ سے اس کا تذکرہ کیا، وہ کہنے لگیں: ایسی ہی ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی دیکھا تو کہنے لگے: واقعی ایسی ہی ہے۔ جیسی تم نے دیکھی اور وہ خوبصورت ہیں۔ فرماتی ہیں: بعد میں میں نے دیکھا تو وہ ویسی ہی ثابت ہوئیں جیسا حصہ نے کہا تھا، چونکہ میں غیرت کرتی اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا بے حد خوبصورت اور بہت عقلمند، درست رائے والی تھیں۔ اور آپ ﷺ کو انہوں نے حدیبیہ کے روز جو مشورہ دیا تھا، اس سے بھی ان کی درست رائے اور زیادہ عقلمندی کا پتہ چلتا ہے۔

وہ نبی علیہ السلام، ابوسلمہ اور فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہما سے روایت کرتی ہیں، ان سے روایت کرنے والے ان کا بیٹا عمر اور بیٹی زینب، بھائی عامر، بھتیجا مصعب بن عبد اللہ اور مکاتیب بھان، موالیٰ میں سے عبد اللہ بن رافع، نافع، سفینہ، ان کا بیٹا ابو کثیر، خیرہ، حسن کی والدہ شامل ہیں، اور صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے صفیہ بنت شیبہ، ہند بنت حارث فراسیہ، قبیصہ بن ذویب، عبد الرحمن بن حارث بن ہشام، اکابر تابعین میں سے ابو عثمان نہدی، ابو اہل، سعید بن مسیب، ابوسلمہ اور حمید، صاحبزادگان عبد الرحمن بن عوف، عروہ، ابوبکر بن عبد الرحمن اور سلیمان بن یسار شامل ہیں۔ امام واقدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ۵۹ھ میں شوال میں فوت ہوئیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جنازہ پڑھایا۔ ابن حبان فرماتے ہیں: ۶۱ھ کے اخیر میں فوت ہوئیں جب حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی اطلاع پہنچی۔ ابن ابی خیشمہ کا قول ہے: خلافت یزید بن معاویہ میں وفات پائی۔

میں کہتا ہوں: ان کی خلافت ۶۰ھ کے آخر میں تھی۔ ابونعیم لکھتے ہیں: ۶۲ھ میں فوت ہوئیں اور امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن میں سب سے آخر میں یہی فوت ہوئیں۔

میں کہتا ہوں: بلکہ ان میں سے سب سے آخر میں فوت ہونے والی ہیں۔ صحیح مسلم میں حارث بن عبد اللہ بن ابی ربیعہ اور عبد اللہ بن صفوان سے مروی ہے کہ وہ دونوں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس خلافت یزید بن معاویہ میں آئے، دونوں نے زمین میں دھنس جانے والے لشکر کے بارے میں پوچھا، انہی ایام میں یزید بن معاویہ نے مسلم بن عقبہ کو شامی لشکر دے کر مدینہ روانہ کیا تھا اور واقعہ ۶۳ھ میں آیا۔ اس سب تفصیل سے واقدی کے قول کی تردید ہوتی ہے، اور اس کی قلعی بھی کھل جاتی ہے جو ابن عبد البر نے نقل کیا ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے وصیت کر رکھی تھی کہ ان کا جنازہ سعید بن زید پڑھائیں، جبکہ ان کا انتقال ۵۰ھ یا ۵۱ھ یا ۵۲ھ میں ہو چکا تھا۔ جس سے یہ لازم آتا ہے کہ وہ اس سے پہلے وفات پا چکی تھیں۔ جب ایسا نہ ہونے پر اتفاق ہے تو اس کی تاویل یوں ممکن ہے کہ انہوں نے بیماری میں اس کی وصیت کی تھی، پھر جانبر ہو گئیں اور سعید ان سے پہلے فوت ہو گئے۔ واللہ اعلم!

۱۲۰۵۸) ام سلمہ بنت ابی حکیم ام سلیمان کے سواغ میں ان کا ذکر آئے گا۔

۱۲۰۵۹) ام سلمہ بنت رافع ان کا نام سعاد ہے، ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

۱۲۰۶۰) ام سلمہ بنت مخیمہ

بن جرز بیدی، عدوی نے ذکر کیا ہے کہ یہ وہی ہیں جن سے ابو عامر فضل بن عباس نے نکاح کیا۔



### ۱۲۰۶۱) ام سلمہ بنت مسعود

بن اوس بن مالک بن سواد بن ظفر۔ ابن سعد\* نے بیعت کرنے والی صحابیات نبی ﷺ میں ان کا ذکر کیا ہے، فرمایا: ان کی والدہ شمس بنت عمرو بن خزام نجاریہ ہیں، ان سے اوس بن مالک بن قیس بن مخرث نے نکاح کیا، جس سے حارث پیدا ہوئے۔

### ۱۲۰۶۲) ام سلمہ بنت یزید

بن سکن، یہ اسماء ہیں جن کا ذکر گزر چکا ہے۔ ترمذی\* نے بحوالہ عبد بن حمید اپنی سند سے ان کی حدیث روایت کی ہے، بحوالہ شہر بن حوشب، انہوں نے ام سلمہ انصاریہ سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں، ایک خاتون نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! وہ کونسی عیسیٰ ہے جس میں ہمیں آپ کی نافرمانی جائز نہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”نوحہ نہ کرو۔۔۔“۔ (الحدیث) عبد کا قول ہے، ام سلمہ اسماء بنت یزید ہیں۔

### ۱۲۰۶۳) ام سلیط

ابو عمر کا قول ہے: بیعت کرنے والی صحابیات میں سے ہیں، احد کے دن نبی کریم ﷺ کے ساتھ حاضر تھیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہ ان خواتین میں سے ہیں جو احد کے دن ہمارے لیے مشکیزہ بھر کر لاتی تھیں۔  
میں کہتا ہوں: صحیح بخاری\* میں بحوالہ عمران کا ذکر ثابت ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے بیٹے سلیط بن ابوسلیط بن ابو حارثہ پر ان کی کنیت رکھی، وہ ام قیس بنت عئید ہیں، ابن سعد\* نے یہ ذکر کیا ہے جیسا کہ حرف قاف میں آئے گا، بعض کا قول ہے کہ انہوں نے ابوسلیط کے بعد مالک بن سنان سے نکاح کیا جو ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، ان سے ابوسعید پیدا ہوئے جو سلیط بن ابوسلیط کے ان کی والدہ کی طرف سے بھائی ہیں۔

### ۱۲۰۶۴) ام سلیم بنت حکیم

ام سلیمان میں ان کا ذکر آئے گا۔

### ۱۲۰۶۵) ام سلیم بنت خالد

بن یعیش بن عمرو، بوغتم بن مالک بن نجار سے ہیں، ابن سعد\* نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا: ان سے قیس بن کبد نے نکاح کیا، جس سے سلیم پیدا ہوئے۔

### ۱۲۰۶۶) ام سلیم بنت سحیم الغفاریہ

یہ امۃ یا امتہ ہیں۔

\* تجرید (۳۲۲/۲) الطبقات الکبریٰ (۲۴۸/۸) \* اسد الغابۃ (۷۴۶۶) تجرید (۳۲۲/۲)

\* ترمذی (الحدیث: ۳۳۰۷) \* اسد الغابۃ (۷۴۶۹) الاستیعاب (۳۶۱۸) تجرید (۳۲۲/۲)

\* بخاری (۲۸۸۱) \* الطبقات الکبریٰ (۳۰۶/۸) \* تجرید (۳۲۳/۲)

\* الطبقات الکبریٰ (۳۳۳/۸) \* اسد الغابۃ (۷۴۷۰) الاستیعاب (۳۶۱۹) تجرید (۳۲۳/۲)

### ۱۲۰۶۷ ام سلیم بنت عمرو

بن عباد، ابویسر کعب بن عمرو سلمیٰ کی بہن ہیں، ابن سعدؒ نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے، فرمایا: ان سے نابی بن زید بن حرام نے نکاح کیا، ان کی والدہ نسیم بنت قیس بن اسود ہیں۔

### ۱۲۰۶۸ ام سلیم بنت قیس

بن عمرو بن عبید بن مالک بن عدی بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار، ابن سعدؒ کا قول ہے، محمد بن عمر نے ذکر کیا کہ وہ اسلام لائیں اور بیعت کی۔

### ۱۲۰۶۹ ام سلیم بنت ملحان

بن خالد بن زید بن حرام بن جذبہ انصاریہ، ان کے بھائی حرام بن ملحان کے سوانح میں ان کا نسب گزر چکا ہے۔ یہ ام انس ہیں جو رسول اللہ ﷺ کی خادمہ ہیں، اپنی کنیت سے مشہور ہیں۔ ان کے نام میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا: سہلہ، بعض کا قول ہے: زُمیلہ، بعض کا کہنا ہے: زُمیلہ، ایک قول ہے: مُلکیہ، بعض نے کہا: غمیسہ یا رمیسہ، انہوں نے دور جاہلیت میں مالک بن نضر سے شادی کی تھی۔ جن سے جاہلیت میں ہی انس پیدا ہوئے۔ پھر یہ تو اسلام کی طرف پہل کرنے والے انصار کے ساتھ مسلمان ہو گئیں اور مالک ناراض ہو کے شام چلا گیا، جہاں اس کا انتقال ہوا، اس کے بعد انہوں نے ابوطحہ سے شادی کر لی۔

ہم نے مسند احمد میں غیلانیات میں عالی سند سے بطریق عمار بن سلمہ، ثابت سے بحوالہ اسماعیل بن عبد اللہ بن ابی طلحہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ ابوطحہ نے اسلام لانے سے پہلے ام سلیم کا ہاتھ مانگا، انہوں نے فرمایا: ابوطحہ! تم جانتے ہو، جس معبود کی تم عبادت کرتے ہو وہ اسی زمین کی پیداوار ہے؟ آپ نے کہا: ہاں! انہوں نے کہا: کیا ایک درخت پوجتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اگر تم اسلام لے آؤ تو اس کے علاوہ میں تم سے کوئی مہر نہیں لوں گی۔ تو انہوں نے کہا: مجھے سوچنے کا موقع دو۔ اس وقت تو وہ چلے گئے بعد میں آ کر کہنے لگے: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا: انس! ابوطحہ سے شادی کر دو۔ انہوں نے ان سے نکاح کرادیا۔

اس حدیث کے متعدد طرق ہیں۔ ابن سعدؒ فرماتے ہیں: ہمیں خالد بن مخلد نے بحوالہ انس بن مالک فرمایا: ابوطحہ نے ام سلیم کو نکاح کا پیغام دیا، وہ کہنے لگیں: میں اس شخص پر ایمان لائی ہوں، اور گواہی دی کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اگر تم میری پیروی کرو تو تم سے نکاح کر لوں گی۔ انہوں نے کہا: میں تمہارے مذہب پر ہوں۔ تو ان سے ام سلیم نے نکاح کیا، ان کا مہر اسلام تھا۔ اس حدیث میں ہے: ابوطحہ نے ام سلیم کو نکاح کا پیغام دیا، ام سلیم فرماتی تھیں، میں انس کے بالغ ہونے اور مجلسوں میں

تجريد (۳۲۳/۲) الطبقات الكبرى (۲۹۷/۸) تجريد (۳۲۳/۲)

الطبقات الكبرى (۳۰۸/۸) نسائی، كتاب النكاح، باب التزويج على الإسلام (۳۳۴۰) مصنف عبد الرزاق (۱۰۴۱۷)

المعجم الكبير (۲۷۳/۲۵) و (۲۷۴/۲۵) جامع المسانيد والسنن (۴۲۷/۱۶) الطبقات الكبرى (۳۱۱/۸)

## الْاِسْمَاءُ فِي تَرْكِهَا الصَّحَابَةُ (جلد ۴)

بیٹھنے سے پہلے کاح نہیں کروں گی۔ وہ کہتے تھے: ”اللہ تعالیٰ میرے بارے میں میری ماں کو اچھی جزا دے، کیونکہ انہوں نے ان کی اچھی پرورش کی تھی، ان سے ابو طلحہ نے فرمایا: انس اب محفلوں میں بیٹھنے اور بات چیت کرنے لگا ہے، تو انہوں نے ان سے کاح کر لیا۔

مسلم بن ابراہیم نے بحوالہ انس بن مالک روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ ام سلیم کی زیارت کے لیے جاتے، تو وہ آپ کو وہ چیز تحفے میں پیش کرتیں جو آپ کے لیے بنائی ہوتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ اپنی ازواج کے علاوہ ام سلیم کے گھر جاتے تھے، کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا: ”مجھے ان پر ترس آتا ہے، ان کا بھائی اور والد میرے ساتھ شہید ہوئے۔“

میں کہتا ہوں: آپ ﷺ کا ام حرام اور ان کی بہن کے گھر جانے کا جواب یہ ہے کہ ام حرام اور ان کی بہن ایک ہی حویلی میں رہتی تھیں، اور رسول اللہ ﷺ کے ساتھ غزوے میں شرکت کرتی تھیں، ان کے قصے مشہور ہیں، ان میں سے وہ قصہ بھی ہے جسے ابن سعد رضی اللہ عنہ نے صحیح سند سے نقل کیا ہے کہ حنین کے دن ام سلیم نے ایک خنجر تیار کیا، ابو طلحہ کہنے لگے: اے رسول اللہ ﷺ! یہ ام سلیم ہیں۔ ان کے پاس خنجر ہے۔ انہوں نے کہا: میں نے یہ خنجر اس لیے بنایا ہے تاکہ اگر کوئی مشرک میرے پاس پھنکا تو میں اس کے پیٹ میں گھونپ دوں گی۔

ان کا ایک واقعہ صحیح میں مذکور ہے، جب ان کا ابو طلحہ سے بیٹا فوت ہوا، فرماتی ہیں: جب ابو طلحہ آئے تو مجھ سے پہلے ابو طلحہ سے اس کا ذکر کوئی نہ کرے۔ چنانچہ جب وہ آگئے تو بچے کے بارے میں پوچھا، یہ کہنے لگیں: پہلے سے سکون ہے۔ ابو طلحہ سمجھے کہ وہ ٹھیک ہو گئے ہیں، چنانچہ وہ اٹھے، کھانا کھایا، پھر انہوں نے ان کے لیے زیب و زینت کر کے خوشبو لگائی، وہ ان کے ساتھ سو گئے، ان سے ہمستری کی، جب صبح ہوئی تو ان سے کہنے لگیں: اپنے بچے کے بارے میں صبر سے کام لو۔ پھر انہوں نے نبی ﷺ سے اس کا تذکرہ کیا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ تم دونوں کو تمہاری اس رات میں برکت دے۔“ چنانچہ ان کے ہاں ایک بیٹا عبد اللہ بن ابو طلحہ پیدا ہوا جو بڑا نیک بخت ثابت ہوا، اسے اللہ تعالیٰ نے کئی اولادیں دیں، ان میں سے دس نے مکمل قرآن پڑھا تھا۔ اسی طرح صحیح میں ہے کہ جب نبی ﷺ آئے تو ام سلیم نے کہا: اللہ کے رسول ﷺ! یہ انس آپ کی خدمت کرے گا۔ اس وقت ان کی عمر دس سال تھی، چنانچہ نبی ﷺ کی مدینہ آمد سے لے کر انہوں نے نبی ﷺ کی خدمت کی اور خادم النبی ﷺ کے نام سے مشہور تھی۔ حضرت ام سلیم نبی ﷺ سے کئی احادیث کی راویہ ہیں۔ ان سے ان کے بیٹے انس ابن عباس، زید بن ثابت اور ابوسلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ ابوعمر نے ابن مندہ کی کتاب سے ان کا نسب بعینہ نقل کیا ہے۔ البتہ اس میں یہ لکھا ہے کہ ان کی والدہ کا نام ملیکہ ہے۔ جبکہ ابن سکین کی کتاب میں ان کی والدہ کا نام انیقہ ہے۔ ابن فقہون نے اس سے متنبہ کیا ہے۔ ابوعمر نے یہ قول ابن سعد سے لیا ہے۔ انہوں نے اس بات کا اعتماد ظاہر کیا ہے کہ ان کی والدہ کا نام ملیکہ بنت مالک بن عبدی بن زید بن مناة ہے۔

### ۱۳۰۶۰ ام سلیمان بنت ابی حکیم

بعض کا قول ہے: سلیمان بن ابویثمہ کی والدہ ہیں، پہلے گزر چکا ہے کہ ان کا نام شفاء ہے۔ بعض کا قول ہے، وہ اس کے علاوہ ہیں، ابوعمر کا قول ہے: سلیمان کی والدہ ہیں، بعض کا قول ہے: ام سلیم عدویہ ہیں، بعض نے کہا: ام سلمہ ان سے عبد اللہ بن طیب یا

طیب نے روایت کیا کہ وہ فرماتی ہیں: انہوں نے ان خواتین کا زمانہ پایا جو نبی کریم ﷺ کے ساتھ فرض نماز پڑھتی تھیں۔  
میں کہتا ہوں: ابن مندہ نے احمد بن یونس کے طریق سے بحوالہ ام سلیمان بنت ابی حکیم سے موصولاً نقل کیا ہے، پھر اسے ذکر کیا، لیکن اس کے آخر میں فرائض لفظ نہیں کہا۔ فرماتے ہیں: اسے محمد بن عبد الوہاب نے بحوالہ ابن شہاب روایت کیا ہے، فرماتے ہیں: بحوالہ ام سلمہ بنت حکیم۔

میں کہتا ہوں: محمد بن عبد الوہاب کی روایت کو طبرانی نے اوسط میں موصولاً بحوالہ موسیٰ بن ہارون، انہوں نے ان کے حوالے سے روایت کیا ہے، ذہبی رحمہ اللہ نے ابن یونس کی روایت پر اعتماد کیا ہے، انہوں نے قواعد کی تفسیر قواعد ابراہیم سے کی ہے، ایسا نہیں جو ان کا خیال ہے، بلکہ قواعد سے مراد گھروں میں رہنے والی عورتیں ہیں۔

ابوبکر بن ابوشیبہ نے بحوالہ احمد بن یونس اسی طرح روایت کیا ہے، جس میں یہ الفاظ ہیں: جو باجماعت فرض نمازیں نہیں پڑھتیں، ابن ابی لیلیٰ جو محمد ہیں، ان کی وجہ سے سند ضعیف ہے۔ اس کے شیخ عبدالکریم ہیں، جو ابن ابی بخاری ہیں۔

ابن مندہ نے اسی طرح ام سلیمان بن ابی حمزہ کے سوانح میں ابوصحن بن حصین بن نمیر سے بحوالہ ابن ابی لیلیٰ اسی طرح روایت کیا ہے، فرماتے ہیں: عبداللہ بن طیب پھر ان کا ذکر کیا، اسے ابونعیم نے مسند حسن بن سفیان سے بحوالہ ابن ابی لیلیٰ اسی طرح روایت کیا ہے۔

۱۲۰۶۱) **ام سماء بنت ثابت** ان کا نام اذینہ ہے، ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

۱۲۰۶۲) **ام سماء بنت سہل** ان کی والدہ امامہ بنت سہل کے سوانح میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

۱۲۰۶۳) **ام سماء بنت فضالہ**

بن عدی انصاریہ جو انس بن فضالہ کی بہن ہیں۔ ابن سعد نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں: ان کی والدہ سودہ بنت سوید بن حرام بن یثیم بن وہب ہیں۔

۱۲۰۶۴) **ام سمرہ** اسماء الرجال میں سمرہ کے سوانح میں ان کا ذکر ہے۔

۱۲۰۶۵) **ام سنان الأسلمیہ**

مطین نے صحابہ رضی اللہ عنہم میں ان کا ذکر کیا ہے، اور محمد بن عمر بن صالح کے طریق سے بحوالہ ثنیۃ بنت حنظلہ بحوالہ ان کی والدہ ام سنان اسلمیہ نقل کیا ہے کہ وہ بیعت کرنے والی صحابیات میں سے ہیں۔

فرماتی ہیں: میں نبی کریم ﷺ کے پاس آئی اور کہا: یا رسول اللہ ﷺ میں آپ کے پاس حاجت لے کر آئی ہوں۔

طبرانی المعجم الكبير (۳۱۵/۲۵) الاحاد والمثنائ (۲۳۱۴/۶) مجمع الزوائد (۳۳/۲) (۳۴۱۲)

تجريد (۳۲۳/۲) الطبقات الكبرى (۲۵۱/۸) اسد الغابة (۷۴۷۴) تجريد (۳۲۳/۲)

اسد الغابة (۷۴۷۵) الاستيعاب (۳۶۲۳) تجريد (۳۲۳/۲)

آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر تم سوال نہ کرتی تو یہ تمہارے لیے بہتر تھا۔“ \*

بقول ابو عمر: ام سنان اسلمیہ نے فرمایا: میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بیعت علی الاسلام کی، آپ ﷺ نے میرے ہاتھ دیکھ کر فرمایا: ”تمہیں اپنے ناخن رنگین کرنے میں کوئی حرج نہیں۔“ \* فرماتی ہیں: ہم عورتیں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جمعہ اور عیدین کی نماز میں شریک ہوتیں۔ ان سے شیعہ بنت حظلہ روایت کرتی ہیں۔

میں کہتا ہوں: یہی روایت خلیب نے ”الموتلف“ \* بحوالہ شیعہ اور ابن سعد نے بواسطہ واقدی، شیعہ بنت حظلہ کی سند سے بحوالہ ان کی والدہ ام سنان نقل کی ہے۔ نیز یہی روایت صفیہ بنت حی کے حالات میں بحوالہ ام سنان اسلمیہ نقل کی، فرمایا: حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی شادی میں میں بھی موجود تھی۔ ہم نے انہیں گنگھی کی، عطر لگایا، وہ بہت بارونق خاتون تھیں، آپ ﷺ نے ان سے شب باشی کی تو ہم نے (اگلے روز) ان سے پوچھا: وہ کہنے لگیں آپ ﷺ کو مجھ سے خوشی ہوئی۔ اور اس رات آپ نہیں سوئے بلکہ ان سے باتیں کرتے رہے اور صبح ولیمہ کیا۔

واقدی کی روایت بواسطہ شیعہ بحوالہ ان کی والدہ مروی ہے جب رسول اللہ ﷺ نے خیبر کی طرف جانے کا ارادہ کیا، میں نے عرض کی: اللہ کی قسم! میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی (جنگی ضروریات میں) مشکیزے سیوں گی اور زخمیوں کی مرہم پٹی کروں گی..... (حدیث) اسی میں ہے: تمہاری عمر کی کئی عورتوں کو میں نے اجازت دی ہے جن کا تعلق تمہاری اور دوسری قوم سے ہے، اور فرمایا: ”تم ام سلمہ کے ساتھ رہنا۔“

### ۱۲۰۷۶ ام سنان الأنصاریہ \*

ابن مندہ نے انہیں اسلمیہ کے ساتھ ملا دیا ہے، ابوموسیٰ نے اپنے استدراک میں ان کا ذکر کیا ہے، اور حبیب معلم کے طریق سے بحوالہ ابن عباس روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ جب انصار کی ایک خاتون سے جنہیں ام سنان کہا جاتا ہے، ملے تو فرمایا: ”رمضان المبارک میں عمرہ کرنا ایک حج یا میرے ساتھ حج کے برابر ہے۔“ \*

ابن مندہ نے اسے صدیق بن عبداللہ کے طریق سے بحوالہ ابن عباس روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے انصار کی ایک خاتون سے فرمایا: تم ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کرتیں؟ (الحدیث)

ابن جریج کا قول ہے: میں نے داؤد بن ابو عاصم سے سنا کہ وہ عطاء سے حدیث بیان کرتے ہیں، بحوالہ ابو بکر بن عبدالرحمن نے اس حدیث کے ساتھ ذکر کیا ہے اور خاتون کا نام ام سنان رکھا ہے۔

### ۱۲۰۷۷ ام سنبلة الأسلمیہ \*

ابن مندہ کا قول ہے، ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا، ابن سکین کا قول ہے: ان کی حدیث اہل مدینہ سے مروی

\* المعجم الكبير (۴۲۴/۲۵) مجمع الزوائد (۹۳/۳) جامع المسانيد والسنن (۴۳۸/۱۶)

\* اسد الغابة (۵۵۸/۵) الطبقات الكبرى (۲۱۴/۸) \* بیاض نحو کلمتین

\* الطبقات الكبرى (۲۱۴/۸) \* اسد الغابة (۷۴۷۶) تجرید (۳۲۳/۲) \* تجرید (۳۲۳/۲)

\* اسد الغابة (۷۴۷۷) الاستیعاب (۳۲۲۴) تجرید (۳۲۳/۲)

ہے۔ پھر ابو اویس کی روایت سے بحوالہ عبدالرحمن بن حرمہ، انہوں نے عبداللہ بن نبار اسلمی سے انہوں نے عروہ سے روایت کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہوئے سنا: ام سنبلیہ اسلمیہ نے رسول اللہ ﷺ کو دودھ کا ہدیہ دیا، جب وہ آئیں تو آپ ﷺ موجود نہ تھے، میں نے ان سے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے دیہاتیوں کے ہدیہ کو کھانے سے منع فرمایا ہے، اتنے میں رسول اللہ ﷺ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ آگئے، فرمایا: ام سنبلیہ! یہ تمہارے پاس کیا ہے؟ عرض کی: دودھ ہے، آپ ﷺ کو ہدیہ دینے لائی ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ام سنبلیہ! ذال دو۔ آپ ﷺ نے نوش فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگیں: اللہ کے رسول ﷺ آپ نے تو ہمیں دیہاتیوں کے کھانے سے منع کیا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: عائشہ! یہ اعرابی نہیں، بلکہ ہمارے باہر والے لوگ ہیں اور ہم ان کے شہر والے لوگ ہیں، جب یہ ہماری دعوت کریں گے تو ہم قبول کریں گے، یہ وہ (مشرک) اعرابی نہیں۔

ابن مندہ نے یہ روایت سلیمان بن بلال کے حوالے سے نقل کی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: برتن میں ذال کر ابو بکر کو دے دو، پھر فرمایا: برتن میں ذال کر عائشہ کو دے دو۔ پھر فرمایا: برتن میں ذال کر مجھے دے دو۔ پھر آپ ﷺ نے نوش فرمایا۔ محمد بن اسحاق نے اس روایت کا مفہوم نقل کیا ہے، ابو نعیم نے ابن اسحاق کی روایت کو موصولاً نقل کیا ہے، جبکہ ابن سعد نے عبداللہ بن جعفر بن عبدالرحمن بن حرمہ سے طویل نقل کیا ہے۔ اور امام احمد رحمہ اللہ نے فضل بن فضالہ بحوالہ عبدالرحمن بن حرمہ طویل نقل کیا ہے۔

نسائی نے کتاب الکلی میں طبرانی اور ابو عروبہ نے عمرو بن قنطلی کے طریق سے ام سنبلیہ کی حدیث نقل کی ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ہدیہ لے کر آئیں تو آپ کی ازواج نے لینے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں آپ آگئے، فرمایا: اس سے لے لو، کیونکہ ام سنبلیہ ہمارے دیہات والی اور ہم اس کے شہر والے ہیں۔ طبرانی \* نے یہ اضافہ نقل کیا ہے کہ آپ نے انہیں کسی علاقے کی پوری وادی بطور جاگیر دے دی تھی، جسے ان لوگوں سے عبداللہ نے خرید کر اس کے بدلے اونٹ دے دیئے تھے۔ عمرو بن قنطلی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا کچھ علاقہ دیکھا ہے۔ ابن مندہ نے اسی سند سے مختصر نقل کیا ہے، فرماتی ہیں کہ میں نبی ﷺ کے پاس دودھ کا ہدیہ لے کر آئی تو آپ ﷺ نے اسے قبول کر لیا۔

### ۱۲۰۷۸) ام سہل بنت ابی حثمہ \*

عبداللہ بن ساعدہ، ابن سعد \* نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ ان کی بہن امیمہ بنت ابی حثمہ کے سوانح میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔ وہ ان کی سگی بہن ہیں۔ ابن سعد کا قول ہے: ان سے یزید بن براء بن عازب بن حارث بن عدی بن بشم نے نکاح کیا جس سے مخلد پیدا ہوئے۔

### ۱۲۰۷۹) ام سہل بنت رومی \*

بن وقش۔ واقدی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ وہ اسلام لائیں اور بیعت کی۔ ابن سعد \* نے یہی کہا ہے، فرماتے ہیں: یہ ام حظلہ کی بہن ہیں، جن کا ذکر گزر چکا ہے۔ ام سہل، سلمان بن سلامہ کی زوجہ ہے، جس سے اولاد ہوئی۔

\* المعجم الكبير (۳۹۶/۲۵) \* تجرید (۳۲۴/۲) \* طبقات الكبرى (۲۴۱/۸)

\* تجرید (۳۲۴/۲) \* طبقات الكبرى (۲۳۶/۸)

### ۱۲۰۸۰) ام سہل بنت سہل \*

بن عتیک، بعض کا قول ہے: ام ثابت بنت سہل بن عتیک بن نعمان بن عمرو بن مبذول بن مالک بن نجار۔ ابن سعد \* نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے، فرمایا: امیمہ بنت عقبہ بن عمرو ان کی والدہ ہیں، ان سے سنان بن حارث بن علقمہ نے، ان کے بعد عبداللہ بن زید بن عاصم نے نکاح کیا۔

### ۱۲۰۸۱) ام سہل بنت عمرو \*

بن قیس بن مالک بن عدی بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار انصاریہ نجاریہ، ابن سعد \* کا قول ہے: اسلام لائیں اور بیعت کی، ان کی والدہ امیمہ بنت اوس بن حجرہ ہے، ان سے محرز بن عامر بن عدی بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار نے نکاح کیا۔

### ۱۲۰۸۲) ام سہل بنت مسعود \*

بن سعد زرقیہ، ابن سعد \* نے بھی ان کا ذکر کیا ہے اور فرمایا: ام ثابت اور ام سعد کی سگی بہن ہیں۔

### ۱۲۰۸۳) ام سہل بنت نعمان انصاریہ \*

بنو ظفر سے ہیں، قتادہ بن نعمان کی بہن ہیں۔ ابن سعد \* نے بھی ان کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا: ان کی والدہ امیمہ بنت قیس بن عمرو نجاریہ ہیں، ام سہل اسلام لائیں اور بیعت کی۔

### ۱۲۰۸۴) ام سہلہ الانصاریہ \*

عاصم بن عدی انصاریہ کی زوجہ ہیں، ان سے سہلہ کی خیر میں ولادت ہوئی۔ یہ واقدی کا قول ہے، ابن دباغ نے اپنے استدراک میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۲۰۸۵) ام سیف \*

نبی کریم ﷺ کے صاحبزادے کو دودھ پلاتی تھیں، ابوسیف قین کی زوجہ ہیں، رجال کی کشتیوں میں ابوسیف کے سوار خ میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔



تجريد (۳۲۴/۲) \* الطبقات الكبرى (۲۳۱/۸) \* تجريد (۳۲۴/۲)

طبقات الكبرى (۳۰۸/۸) \* تجريد (۳۲۴/۲) \* طبقات الكبرى (۲۸۶/۸)

تجريد (۳۲۴/۲) \* طبقات الكبرى (۲۴۷/۸) \* اسد الغابة (۷۴۷/۹) تجريد (۳۲۴/۲)

## حرفِ شینِ معجمہ

### القسم الاول

۱۲۰۸۶ ام شبات

www.KitaboSunnat.com

شبات میں ان کا ذکر گزر چکا ہے، ام منیع میں ان کا ذکر آئے گا۔

۱۲۰۸۷ ام شبيب زوجة ضحاک

بن سفیان کلابی، ضحاک نے اپنی بہن کو نبی ﷺ پر پیش کیا تھا، جیسا کہ زہری نے ذکر کیا، بطریق حجاج بن ابی یونس، انہوں نے اپنی وادی کے حوالے سے، جنہوں نے ان سے روایت کیا کہ ضحاک بن سفیان نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ کیا آپ کو ام شبيب کی بہن کے بارے میں رغبت ہے؟ بن مندہ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ ضحاک نبی ﷺ کے عامل تھے۔

۱۲۰۸۸ ام شرحبیل بنت قروه

بن عمرو انصاریہ، بنویاضہ سے ہیں، ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔

۱۲۰۸۹ ام الشريد

ابوداؤد نے محمد بن عمر کے طریق سے بحوالہ شریدان کی حدیث نقل کی ہے کہ ان کی والدہ نے انہیں وصیت کی تھی کہ ان کی طرف سے ایک مسلمان غلام آزاد کر دے اور میرے پاس ایک باندی نویہ تھی..... (الحدیث) نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”اے آزاد کر دو، کیونکہ یہ مسلمان ہے۔“

۱۲۰۹۰ ام شريك بنت انس

بن رافع بن امری القیس بن زید انصاریہ، بنو عبد شہل سے ہیں، ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا شمار کیا ہے۔

۱۲۰۹۱ ام شريك بنت جابر الغفاريہ

ابو عمر کا قول ہے: احمد بن صالح نے ان ازواجِ نبی ﷺ میں ان کا ذکر کیا ہے جن کی رخصتی نہیں ہوئی۔ ابن اثیر کا قول

اسد الغابۃ (۷۴۸۲) تجرید (۳۲۴/۲) \* اسد الغابۃ (۷۴۸۳) تجرید (۳۲۴/۲) \* المحبر (۴۲۶)

اسد الغابۃ (۷۴۸۴) تجرید (۳۲۴/۲) \* ابوداؤد (الحدیث: ۳۲۸۲) \* اسد الغابۃ (۷۴۸۵) تجرید (۳۲۴/۲)

اسد الغابۃ (۴۶۰/۵) \* اسد الغابۃ (۷۴۸۶) استیعاب (۳۶۲۵) تجرید (۳۲۴/۲) \* اسد الغابۃ (۴۶۰/۵)



ہے: ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۲۰۹۲ ام شریک بنت خالد

بن تخیس بن لوزان بن عبد و بن زید بن ثعلبہ بن خزرج بن ساعدہ انصاریہ خزرجیہ۔ ابن سعدؒ اور ابن حبیب کا قول ہے: انہوں نے نبی کریم ﷺ سے بیعت کی، ابن سعد کا قول ہے: ان کی والدہ ہند بنت وہب بن عمرو بن قش ہیں، ام شریک نے انس بن رافع بن امری القیس بن زید بن عبد اشہل سے نکاح کیا، جس سے حارث بن انس پیدا ہوئے۔

### ۱۲۰۹۳ ام شریک انصاریہ

بعض کا قول ہے: یہ بنت انس ہیں، جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ بعض نے کہا: بنت خالد ہیں، اس سے پہلے جن کا ذکر ہے، بعض کا قول ہے: یہ ان دونوں کے علاوہ کوئی اور ہیں، ایک قول یہ ہے: یہ ام شریک بنت ابو سکر بن سکی ہیں، ابن ابوشیثہ نے قتادہ کے طریق سے ان کا ذکر کیا ہے، فرمایا: نبی کریم ﷺ نے ام شریک انصاریہ نجاریہ سے نکاح کیا اور فرمایا: ”مجھے انصار میں نکاح کرنا پسند ہے۔“ پھر فرمایا: ”مجھے انصار کی غیرت پسند نہیں۔“ ان کی رخصتی نہیں ہوئی۔

میں کہتا ہوں: مسلم کی صحیح حدیث میں فاطمہ بنت قیس کی روایت میں ان کا ذکر ہے۔ جو تمیم داری سے جسارہ کے قصے کے بارے میں مروی ہے۔ اس میں ہے: ام شریک انصار میں سے ایک مالدار خاتون تھیں، اللہ عزوجل کے راستے میں بہت زیادہ خرچ کرتی تھیں، ان کے ہاں مہمان کثرت سے آتے تھے۔

ان کی ایک اور حدیث ہے، جسے ابن ماجہ نے شہر بن حوشب کے طریق سے نقل کیا ہے کہ مجھ سے ام شریک انصاریہ نے روایت کیا، فرماتی ہیں: نبی کریم ﷺ نے ہمیں میت پر سورۃ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا، بعض کا قول ہے: یہ وہی ہیں کہ فاطمہ بنت قیس کو حکم ملا تھا کہ وہ ان کے پاس عدت گزاریں، پھر ان سے کہا گیا: ابن ام مکتوم کے ہاں عدت گزاریں۔

### ۱۲۰۹۴ ام شریک الدوسیہ

یونس بن کبیر نے سیرۃ کی روایت میں بحوالہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کا ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں: قبیلہ دوس کی ایک خاتون جنہیں ام شریک کہا جاتا تھا، رمضان میں اسلام لائیں، وہ اس تلاش میں تھیں کہ کوئی انہیں نبی کریم ﷺ کے پاس لے جائے۔ انہیں یہود میں سے ایک شخص ملا، اس نے کہا: اے ام شریک! تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا: میں کسی شخص کو ڈھونڈ رہی ہوں جو مجھے نبی کریم ﷺ کے پاس لے جائے، اس نے کہا: آؤ! میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔۔۔۔۔ پھر طویل حدیث ذکر کی۔

ابن سعدؒ نے اسے یحییٰ بن سعید انصاری کے طریق سے مرسل روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں: ام شریک نے ہجرت کی، راستے میں ایک یہودی مل گیا، شام تک وہ روزے سے تھیں۔ یہودی اپنی بیوی سے کہنے لگا، اگر تو نے اس عورت کو پانی پلا دیا تو میں

اسد الغابۃ (۷۴۸۷) تجرید (۳۲۴/۲) طبقات الکبریٰ (۲۷۱/۸)

اسد الغابۃ (۷۴۸۸) تجرید (۳۲۴/۲) السیر والمغازی (۲۸۴)

طبقات الکبریٰ (۱۱۲/۸)

ضرور کچھ کروں گا، تو وہ برابر انکار کرتی رہی یہاں تک کہ جب رات کا آخری پہر ہوا تو ان کے سینے پر ایک ڈول رکھا گیا اور ایک زنبیل پھرتا رہی میں ان لوگوں کو چلنا پڑا۔ یہودی اپنی بیوی سے کہنے لگا: مجھے تو اس عورت کے پانی پینے کی آواز آئی ہے۔ وہ کہنے لگی: نہیں! اللہ کی قسم! نہیں۔ تم نے مجھے پانی پلایا ہوگا۔ بعد والی شخصیت میں ان کا دوسرا قصہ بیان ہوگا۔

واقدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ہمارے ہاں قابل اعتماد بات یہ ہے کہ ہبہ کرنے والی خاتون دوس بن ازد کی تھی۔ جو خوبصورت تھی لیکن عمر رسیدہ تھی۔ اپنے آپ کو رسول اللہ ﷺ کے لیے ہبہ کر دیا، ان کے الفاظ یہ ہیں: ”میں اپنے آپ کو آپ ﷺ کے لیے ہبہ کرتی ہوں اور اپنی جان کو آپ ﷺ کے لیے صدقہ کرتی ہوں“ جسے آپ ﷺ نے قبول کر لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہنے لگیں: اس عورت میں کیا بھلائی ہے جو اپنے آپ کو کسی مرد کے لیے ہبہ کر دے۔ وہ کہنے لگیں: میں ہوں۔ جس پر ان کے بارے میں یہ آیت اتری۔

### ۱۲۰۹۵ ام شریک قرشیہ عامریہ \*

بنو عامر بن لؤی سے ہیں، ابن کلبی رحمہ اللہ نے ان کا نسب بیان کیا ہے۔ فرمایا: بنت دودان بن عوف بن عمرو بن خالد بن ضباب بن حجر بن معیص بن عامر، دوسرے راویوں کا قول ہے: عمرو بن عامر بن رواحہ بن حجر، ابن سعد \* کا قول ہے: ان کا نام غزیہ بنت جابر بن حکیم ہے، محمد بن عمر فرماتے تھے، وہ بنو معیص بن عامر بن لؤی سے ہیں، دوسرے راویوں کا قول ہے: دوسرے ہیں، قبیلہ ازد سے ہیں، پھر واقدی رحمہ اللہ سے مسند روایت کیا ہے، بحوالہ موسیٰ بن محمد بن ابراہیم تمیمی، انہوں نے اپنے والد سے ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں: ام شریک، بنو عامر بن لؤی معیصہ ہیں، انہوں نے اپنا نفس نبی کریم ﷺ کے لیے ہبہ کر دیا تھا، نبی کریم ﷺ نے اسے قبول نہ کیا، انہوں نے وفات تک نکاح نہیں کیا۔

ابو عمر کا قول ہے: ابو عمر بن سہمی بن حارث ازدی، دوسری زوجہ تھیں، جس سے شریک پیدا ہوئے، بعض کا قول ہے: ان کا نام غزیہ ہے، بعض نے کہا: غزیہ ہے، ابن مندہ کا قول ہے: ان کے نام میں اختلاف ہے، بعض نے کہا: غزیہ ہے۔ ابو عمر کا قول ہے، بعض نے کہا کہ نبی کریم ﷺ نے ان سے نکاح کیا، فرماتے ہیں کہ مکہ میں نکاح کیا۔

یہ عجیب ہے کیونکہ اپنے نفس کو ہبہ کرنے کا قصہ مدینہ میں پیش آیا تھا، اور کئی طریق سے مروی ہے کہ یہ وہی ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو نبی کریم ﷺ کے لیے ہبہ کیا تھا۔

ابو نعیم نے محمد بن مروان سدی کے طریق سے جو متروک راوی ہیں اور ابو موسیٰ سے بطریق ابراہیم بن یونس سے بحوالہ ابن عباس روایت کیا ہے، فرماتے ہیں: ام شریک کے دل میں جبکہ وہ مکہ میں تھیں اسلام گھر کر گیا، وہ قریشی خاتون تھیں، بنو عامر بن لؤی میں سے تھیں، اور ابو عمر دوسری کی زوجہ تھیں، اسلام لائیں، اور چپکے چپکے قریش کی خواتین کو اسلام کی طرف دعوت دیتیں اور راغب کرتی تھیں، یہاں تک کہ اہل مکہ کو خبر ہوئی، انہوں نے انہیں پکڑ لیا، اور کہنے لگے: اگر تمہاری قوم نہ ہوتی تو ہم تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کرتے۔ اب ہم تمہاری قوم کی طرف تمہیں لوٹا دیں گے۔

فرماتی ہیں: انہوں نے مجھے ایک اونٹ پر سوار کرایا جس پر بیٹھنے کی کوئی چیز نہ تھی، پھر مجھے تین دن تک کھانا پینا نہ دیا گیا۔ فرماتی ہیں، تین دن ایسے گزرے کہ میں نے زمین پر کوئی بات نہ سنی، پھر وہ ایک مقام پر اترے، جب وہ اترتے تو مجھے دھوپ میں باندھ دیتے اور خود سائے میں چلے جاتے۔ انہوں نے میرا کھانا پینا بند کر رکھا تھا، پھر وہ روانہ ہوئے۔ اسی اثناء میں مجھے کسی چیز کے آثار نظر آئے جیسے ٹھنڈک سی مجھ پر پڑ رہی ہو، پھر وہ بلند ہو گئی، پھر واپس لوٹی، میں نے اس کو پکڑا۔ وہ ایک ڈول تھا جس میں پانی تھا، میں نے اس میں سے تھوڑا سا پیا، پھر وہ غائب ہو گیا، پھر واپس آیا، میں نے اسے پکڑا، اور اس میں سے تھوڑا سا پیا، پھر وہ بلند ہوا۔ پھر اسی طرح لوٹ آیا، پھر بلند ہوا۔ اس طرح کئی مرتبہ ہوا یہاں تک کہ میں سیراب ہو گئی۔ پھر میں نے باقی پانی اپنے جسم اور کپڑوں پر ڈالا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو انہیں پانی کے آثار نظر آئے اور مجھے اچھی صورت میں دیکھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا: تم کھل گئی تھی؟ تم نے ہمارا پانی پی لیا اور اس میں سے پیا ہے؟ میں نے کہا: نہیں، اللہ کی قسم! میں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ انہوں نے کہا: اگر تم سچی ہو تو تمہارا دین ہمارے دین سے بہتر ہے، پھر انہوں نے مشکیزوں کو دیکھا، وہ اسی طرح تھے جیسے انہوں نے رکھے تھے۔ بعد میں وہ اسلام لے آئے۔ وہ نبی کریم ﷺ کے پاس آئیں اور اپنا نفس آپ ﷺ کے لیے بغیر مہر بہہ کر دیا۔ آپ ﷺ نے انہیں قبول فرمایا، اور رخصتی ہوئی۔ جب آپ ﷺ نے انہیں بڑی عروالی پایا تو انہیں طلاق دے دی۔

یہ قصہ بحوالہ ام شریک دوسرے الفاظ میں، کسی اور طریق سے خواتین کی کیتوں میں بنت ابو عکر کے سوانح میں گزر چکا ہے، اس کی سند مرسل ہے۔ اس میں واقعی بھی ہیں۔ ذیل میں ابو موسیٰ نے یہودی کے ساتھ مدینے جانے کا دوسرا قصہ نقل کیا ہے اور اسی طرح ڈول سے پانی پینے کا واقعہ نقل کیا ہے۔ ابو موسیٰ نے بھی دوسرے طریق سے بحوالہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نقل کیا ہے، جو مرسل روایت میں مذکور اس قصے جیسا ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ انہوں نے کبھی سے آگے قصے کے سیاق میں اختلاف کیا ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر یہ روایت محفوظ ہے تو ڈول کا قصہ ام شریک کو تین مرتبہ پیش آیا۔ ابن اثیر کا قول ہے: ابو نعیم نے اس قصے سے استدلال کیا ہے کہ عامریہ، دوسرے ہیں۔

میں کہتا ہوں: اس سے یہ لازم آتا ہے کہ بنو عامر کی طرف ان کی نسبت مجازی ہو، اس کے برعکس کا احتمال بھی ہے کہ قریشیہ، عامریہ نے قبیلہ دوس میں نکاح کیا ہو، اور ان کی طرف منسوب ہو گئی ہوں۔

حمیدی نے اپنی سند میں جالد کی روایت سے بحوالہ فاطمہ بنت قیس نقل کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ان سے فرمایا: ام شریک بنت ابو عکر کے ہاں عدت گزارو، یہ اس کے خلاف ہے جو گزر چکا ہے کہ وہ ابو عکر کی زوجہ ہیں، جمع کرنا ممکن ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے والد اور شوہر کی کفایت ہو، دونوں جمع ہو گئی ہوں یا بنت، بیت سے بدل گیا ہو، بیوی کو گھر والی کہا جاتا ہے۔ لہذا دونوں روایتوں میں اتفاق ہے۔

میں نے ابو عکر کے سوانح میں ابو عکر کا قول ذکر کیا ہے کہ ابو عکر ان کا بیٹا ہے۔ ام شریک کے حوالے سے تین احادیث مسند روایت کی گئی ہیں، کچھ میں ان کا نسب بیان نہیں کیا گیا۔ اور بعض میں ان کی پہلی نسبت کی روایت اختلاف کے ساتھ نسب بیان کیا گیا ہے۔ اسے مسلم نے فتن میں اور ترمذی نے مناقب میں زبیر کی روایت سے بحوالہ ام شریک روایت کیا ہے، فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”دجال کی وجہ سے لوگ متفرق ہوں گے“۔ ام شریک کہنے لگیں: یا رسول اللہ ﷺ! اس وقت عرب کہاں ہوں گے؟ آپ

ﷺ نے فرمایا: ”وہ تھوڑے ہوں گے۔“

ابن ماجہ\* نے حدیث ابوامامہ میں نبی کریم ﷺ سے رجال کے ذکر میں نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: ”مدینہ کی زمین تین مرتبہ ہلائی جائے گی (یعنی تین مرتبہ زلزلہ آئے گا) اس میں کوئی منافق مرد یا عورت نہ رہے گی بلکہ اس میں سے نکل جائیں گے، اس دن کو یوم حلام کہا جائے گا۔“ ام شریک بنت ابوعکر کہنے لگیں: یا رسول اللہ ﷺ اس وقت عرب کہاں ہوں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس وقت وہ تھوڑے ہوں گے۔“\* اسے طویل حدیث میں ذکر کیا۔

حمیدی وغیرہ نے جو نقل کیا یہ اس کے موافق ہے، بطریق جالہ بحوالہ فاطمہ بنت قیس کہ نبی کریم ﷺ نے ان سے فرمایا: ”ام شریک بنت ابوعکر کے ہاں عدت گزارو۔“ اگر یہ روایت محفوظ ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ انصاریہ ہیں جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، گویا ان کی نسبت مجازی ہے۔

دوسری بات: اسے شیخین نے نے سعید بن مسیب کی روایت سے بحوالہ ام شریک روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے انہیں اوزاع کے قتل کا حکم دیا، اس روایت میں ان کا نسب بیان نہیں کیا گیا، ابوعوانہ سے بحوالہ سماک کی روایت میں ان کا نسب بیان کیا گیا ہے۔

تیسری بات: اس روایت کونسانی نے ہشام بن عروہ کی روایت سے بحوالہ ام شریک نقل کیا ہے کہ یہ ان خواتین میں سے تھیں جنہوں نے اپنے نفس نبی کریم ﷺ کے لیے ہبہ کر دیئے، اس کے رجال ثقہ ہیں، ان کا نسب بیان نہیں کیا گیا، اسے ابن سعد رحمہ اللہ نے بحوالہ شعبی رحمہ اللہ روایت کیا ہے۔ وہ خاتون جسے رسول اللہ ﷺ نے چھوڑ دیا تھا، ام شریک انصاریہ ہیں، یہ مرسل روایت ہے، اس کے رجال ثقہ ہیں۔

شریک قاضی اور شعبہ کے طریق سے، شریک بحوالہ علی بن حسین فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ام شریک دوسرے نکاح کیا، لفظ شریک ہے۔ فرماتے ہیں: شعبہ نے اپنی روایت میں فرمایا: وہ خاتون جنہوں نے اپنے نفس کو نبی کریم ﷺ کے لیے ہبہ کر دیا تھا، ام شریک ازد کی خاتون ہیں، ابن سعد نے عکرمہ کے طریق سے اور عبدالواحد بن ابوعون کے طریق سے نقل کیا ہے، اس آیت کے بارے میں ﴿مومن عورت اگر اپنا نفس نبی کریم ﷺ کو ہبہ کر دے﴾ فرماتے ہیں: یہ ام شریک ہیں، اور ان کی سند میں واقدی ہیں، اور ان کا نسب بیان نہیں کیا گیا۔

ان تمام روایتوں کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ام شریک ایک ہیں، ان کی نسبت میں اختلاف ہے کہ انصاریہ ہیں یا قریش میں سے عامریہ ہیں یا قبیلہ دوس سے اذبیہ ہیں۔ ان تینوں انساب کا اجتماع ممکن ہے۔ وہ ان تینوں کی طرف منسوب ہیں۔ پھر انہوں نے انصار میں نکاح کیا، اور ان کی طرف منسوب ہوئیں، یا ان میں نکاح نہیں کیا، بالمعنی الاصل انصار کی طرف منسوب ہوئیں۔

### ۱۲۰۹۶) أم شهاب الغنوية

ابن سعد نے مؤلف میں ان کا ذکر کیا ہے۔ اعرابی کے ترجمہ میں اختلاف ہے، ان کا نام عبداللہ بن احمد ہے۔ اور ان کی

## الْأَكْبَلُ فِي مَنَاسِبِ الْأَصْحَاءِ (جلد ۸) ۲۷۸

طرف سند چلائی ہے، فرماتے ہیں: ہم سے ماویہ بنت ماجد نے حدیث بیان کی، وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میری مولاۃ ام شہاب غنویہ نے حدیث بیان کی، میں نبی کریم ﷺ کے پاس آئی، آپ ﷺ نے مجھے ایک دن جو اور کپڑا پہننے کے لیے دیا۔ رشاطی نے ان کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا: ابو عمر اور ابن فتحون نے ان کا ذکر نہیں کیا۔

### ۱۲۰۹۷ ام شیبہ الأزدیہ

ابو عمر کا قول ہے، مکہ ہیں۔ ان سے عبدالملک بن عمیر نے مجالس کے ادب کے بارے میں حدیث روایت کی، وہ حسن حدیث ہے۔ ابن مندہ کا قول ہے: حماد بن سلمہ کی حدیث میں بحوالہ عبدالملک بن عمیر ان کا ذکر ہے۔

### القسم الثاني خالی ہے۔

### القسم الثالث

### ۱۲۰۹۸ ام شدہ بنت صفصہ

بن ناجیہ بن محمد بن سفیان بن مجاشع، غالب بن صفصہ جو مشہور شاعر ہیں، ان کی بہن ہیں۔ یہ زبرقان بن بدر تھمی صحابی کی والدہ ہیں۔ انہوں نے نبوت کا زمانہ پایا، حلیمہ شاعر کے ساتھ ان کا قصہ مشہور ہے۔ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخر یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے شروع کا قصہ ہے، میں نے حلیمہ کے سوانح میں اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔

### ۱۲۰۹۹ ام شرحبیل

ذی الکلاع کی زوجہ ہیں، تاریخ دمشق میں ان کے شوہر کے سوانح میں ان کا ذکر ہے جو اس پر دلالت کرتا ہے کہ انہیں ادراک حاصل ہے۔

### القسم الرابع

### ۱۲۱۰۰ ام شبث

یہ ام منیعؓ ہیں۔ ان کے بیٹے شبث کے سوانح میں ان کا ذکر ہے۔ ابو موسیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے کہ انہیں استدراک حاصل نہیں، کیونکہ اگرچہ شبث کی والدہ ہیں، لیکن ان کی کنیت کوئی اور مشہور ہے۔ اگر ہر خاتون کی کنیت ہر بچے پر ہوتی تو حضرت ام المؤمنین ام سلمہ کی کنیت ام عمر، ام زینب، ام ذرہ ہوتی۔ اس سے تو یہ لازم تھا کہ تمام جگہوں میں استدراک میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ جبکہ ایسا نہیں، کتیبوں میں ان کا ذکر ہوتا ہے، چاہے کنیت مرد پر رکھی جائے یا عورت پر۔

اسد الغابۃ (۷۴۹۰) الاستیعاب (۳۶۲۷) تجرید (۳۲۵/۲)

اسد الغابۃ (۵/۴۶۲)

اسد الغابۃ (۷۴۸۱) تجرید (۳۲۴/۲)

## حرف صاد مہمل

### القسم الاول

۱۲۱۰۱ أم صبیح

ان کا نام عبہ \* تھا۔ عنقودہ میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

۱۲۱۰۲ أم صبیہ الجہنیہ \*

ابو عمر کا قول ہے، ان کی حدیث اہل مدینہ کے ہاں ہے، یہ خارجہ بن حارث بن رافع بن مکیف کی دادی ہیں، ان سے ابو نعمان سالم بن سرج نے روایت کی جو ابن عمرؓ و خیرؓ ہیں، اور ان کے بھائی نافع نے ان سے روایت کی، یہ بخاری و ترمذی کی کتاب ادب المفرد، سنن ابوداؤد، ابن ماجہ میں ہے۔

احمد، \* ابن ابی شیبہ وغیرہ نے ان کی حدیث نقل کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ فرماتی ہیں: میں اور رسول اللہ ﷺ ایک ہی برتن سے وضو فرماتے تھے، ابن مندہ کی کتاب معرفۃ میں یہ حدیث ہمیں عالی سند سے ملی ہے۔ ابن سعد \* وغیرہ نے بحوالہ خولہ بنت قیس اصبیہ اسے روایت کیا ہے۔

خولہ بنت قیس میں ان کا ذکر گزر چکا ہے، جن کے سوانح پہلے گزر چکے ہیں۔

۱۲۱۰۳ أم صخر بنت شریک بن انس بن رافع بن امری القیس، ان کی والدہ امامہ بنت سماک میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

۱۲۱۰۴ أم الصہباء ذہبی رحمہ اللہ نے تجرید میں ذکر کیا ہے کہ مسند قحی بن مخلد میں ان کی ایک حدیث ہے۔

۱۲۱۰۵ أم صہیب مسند ابن ابی عمر میں ان کا ذکر ہے۔ مسند عمر اور عائشہ میں بھی دیکھ لیا جائے۔

### القسم الثاني

۱۲۱۰۶ أم صابر بنت نعیم \*

بن مسعود اشجعی، ابن مندہ کا قول ہے: انہوں نے نبی کریم ﷺ کا زمانہ پایا، انہوں نے بحوالہ اپنے والد روایت کی ہے۔ ابراہیم بن صابر نے اپنے والد کے حوالے سے، انہوں نے ان سے حدیث روایت کی ہے۔ \*

\* اسد الغابۃ (۷۴۹۲) \* الاستیعاب (۳۶۲۸) \* مسند احمد (۳۶۷/۶) \* الطبقات (۲۱۶/۸)

\* اسد الغابۃ (۷۴۹۱) تجرید (۳۲۵/۲) \* اسد الغابۃ (۴۶۳/۵)

## حرفِ ضادِ معجمہ

### ۱۲۱۰۷ ام الضحاک بنت مسعود الأنصاریہ \*

حارثیہ، ابو عمر کا قول ہے، واقدی نے بحوالہ محمد بن عبدالرحمن مدنی، انہوں نے بحوالہ ام ضحاک روایت کیا ہے کہ وہ خیبر میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حاضر ہوئیں، آپ ﷺ نے انہیں ایک مرد جتنا حصہ دیا۔

میں کہتا ہوں: ابن سعد رضی اللہ عنہ نے طبقات میں بحوالہ واقدی روایت کیا ہے کہ وہ اسلام لائیں، بیعت کی اور بدر میں حاضر ہوئیں، ابن سعد کا قول ہے، انصار کے نسب میں مجھے ان کا ذکر نہیں ملا۔

میں کہتا ہوں: عمر بن شبہ نے ذکر کیا ہے کہ وہ محیصہ اور حویصہ کی بہن ہیں، میں نے کتاب اخبار مدینہ میں ان کی سند سے بحوالہ یزید بن عیاض بن جعدہ جو ضعیف راوی ہیں، پڑھا ہے کہ انہیں خیبر کا حال معلوم ہوا، پھر قصہ ذکر کیا۔

اس میں ہے کہ آپ ﷺ نے دو خواتین کو جو لڑائی میں حاضر تھیں حصہ دیا، وہ ام ضحاک بنت مسعود حویصہ اور محیصہ کی بہن اور حذیفہ بن یمان کی بہن تھیں، آپ ﷺ نے ان دونوں کو مرد کے حصہ کے برابر دیا۔ ابن ابوعاصم \* نے وحدان میں عبدالرحمن امامی کے طریق سے بحوالہ ام ضحاک بنت مسعود حارثیہ روایت کیا ہے۔ فرماتی ہیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے ہدیے کو حقیر نہ جانے، اگر چہ وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔“

### ۱۲۱۰۸ ام ضہیرہ \*

رجال کے تحت حرفِ ضاد میں ضمیرہ میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

\* اسد الغابۃ (۷۴۹۴) الاستیعاب (۳۶۲۹) تجرید (۳۲۵/۲)

\* الطبقات الکبریٰ (۲۴۶/۸)

\* الاحاد والمثنائی (۳۴۷۶/۶)

\* اسد الغابۃ (۷۴۹۵) تجرید (۳۲۵/۲)

## حرف طاء مہملہ

### القسم الاول

۱۲۱۰۹ ام طارق

سعد بن عبادہ انصاری جو خزیج کے سردار ہیں، کی مولاۃ ہیں۔ ان کی حدیث احمد رحمہ اللہ، ابن سعد رحمہ اللہ، ابوبکر بن ابوشیبہ رحمہ اللہ، حسن بن سفیان رحمہ اللہ، ابن ابوعاصم، حسن مروزی نے باب البر والصلاۃ کے زیادات میں اعمش کے طریق سے بحوالہ ام طارق مولاۃ سعد نقل کی ہے۔ فرماتی ہیں: نبی کریم ﷺ ہمارے ہاں تشریف لائے اور کئی مرتبہ اجازت طلب کی، ہم نے آپ ﷺ کے سلام کا جواب نہ دیا، آپ ﷺ واپس تشریف لے گئے، ایک روایت میں ہے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ تین مرتبہ خاموش رہے، نبی کریم ﷺ واپس تشریف لے گئے تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے مجھے ان کی طرف بھیجا کہ ہم نے آپ کے سلام کا جواب اس لیے نہیں دیا تھا تا کہ آپ ﷺ زیادہ سے زیادہ ہم پر سلام بھیجیں۔

اس کے الفاظ یہ ہیں، حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ کے پاس جاؤ اور آپ کو سلام کہو، اور بتاؤ کہ ہم نے سلام کا جواب اس امید کی وجہ سے نہیں دیا تھا کہ آپ ﷺ ہمیں مزید سلام کہیں گے۔ فرماتی ہیں: جب میں آپ ﷺ کے پاس گئی اور اجازت طلب کی تو آپ ﷺ نے پوچھا: ”کون ہے؟“ فرماتی ہیں: میں ام مہملہ ہوں..... (الحدیث) جو تیز سے تیز تر ہے۔ اسے ابن ابودنیانے مرض اور کفارات میں اس طریق سے نقل کیا ہے۔

۱۲۱۱۰ ام طارق

ابوموسیٰ نے ان کا ذکر بحوالہ مستغفری کیا ہے، اور ان کی سند کو ابن اسحاق تک لے گئے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے خیبر سے چالیس وسق انہیں دیئے۔

۱۲۱۱۱ ام طالب بنت ابوطالب

بن عبدالمطلب بن ہاشم ہاشمیہ، علی اور ان کے بہن بھائیوں کی بہن ہیں، بعض کا قول ہے: ان کا نام ریٹھ ہے۔ ابن سعد کا قول ہے: واقدی نے ان لوگوں میں ان کا ذکر کیا ہے جنہیں رسول اللہ ﷺ نے خیبر سے چالیس وسق کھانے کو دیئے۔ فرماتے ہیں: ہشام بن کلبی نے کتاب النسب میں طالب بن ابوطالب کی اولاد میں ام طالب کا ذکر نہیں کیا، بلکہ ریٹھ کا ذکر کیا ہے، شاید وہ

اسد الغابۃ (۷۴۹۶) الاستیعاب (۳۶۳۰) تجرید (۳۲۵/۲) الطبقات الکبریٰ (۲۲۲/۸)

الاحاد والمثنائی (۳۴۵۰/۶) اسد الغابۃ (۷۴۹۷) تجرید (۳۲۵/۲) السیرۃ النبویۃ (۲۷۲/۳)

تجرید (۳۲۶/۲) طبقات (۳۲/۸)



ام طالب ہوں۔

### ۱۲۱۱۲ ام طفیل زوجہ ابی بن کعب

سید القراء ہیں۔ احمد، طبرانی، حسن بن سفیان نے بسر بن سعید کے طریق سے بحوالہ ابی بن کعب روایت کی ہے، فرماتے ہیں: مجھ سے عمر نے اس عورت کے بارے میں بحث کی جس کا خاندان فوت ہو گیا ہو جبکہ وہ حاملہ ہو، میں نے کہا: جب وضع حمل ہو جائے تو نکاح کرے۔ کہنے لگے: ام طفیل جو میرے بیٹوں کی والدہ ہیں، رسول اللہ ﷺ نے سبیحہ اسمیہ کو وضع حمل کے بعد نکاح کا حکم دیا تھا، اس کی سند میں ابن لہیعہ ہیں اور نقل کیا ہے۔

ابو عمر کا قول ہے: ان سے محمد بن ابی بن کعب اور عمارہ بن عمرو بن حزم نے روایت کی۔

میں کہتا ہوں: عمارہ کی روایت کو دارقطنی نے مروان بن عثمان سے ان کے حوالے سے بحوالہ ام طفیل زوجہ ابی بن کعب روایت کیا ہے، فرماتی ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ”میں نے خواب میں اپنی والدہ کو دیکھا۔۔۔“۔ (الحدیث) مروان متروک ہے، ابن معین کا قول ہے: مروان کون ہے کہ اس کی تصدیق کی جائے۔

### ۱۲۱۱۳ ام طلیق زوجہ ابوطلیق

قسم ثالث میں رجال کی کئیوں میں ابوطلیق کے سوانح میں ان کا ذکر گر چکا ہے۔

### القسم الاول

### ۱۲۱۱۴ ام طلق

انہوں نے نبوت کا زمانہ پایا، ابن سعد نے ان سے روایت کی ہے۔ فرماتی ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گورنروں کو لکھا، اپنی عمارتوں کو بلند نہ کرو، تمہارا براؤں وہ ہوگا جس میں تم اپنی عمارتوں کو بلند کرو گے۔

اسد الغابۃ (۷۴۹۸) الاستیعاب (۳۶۳۱) تجرید (۳۲۶/۲) مسند احمد (۳۷۵/۶)

بیاض فی الأصل مسند احمد (۷۴۹۹) تجرید (۳۲۶/۲)

## حرف عین مہملہ

## التسم الاول

۱۳۱۱۵ ام عاصم السوداء \*

نبی کریم ﷺ کے پاس بیعت کرنے کے لیے آئیں، تجرید میں یہی لکھا ہے۔

۱۳۱۱۶ ام عامر بنت سعید

بن سکن، اسماء بنت یزید بن سکن اشہلیہ کی چچا زاد ہیں، ابن مندہ نے ان کا ذکر کیا ہے، اور ان سے حدیث عرق نقل کی جو عنقریب آگے آرہی ہے۔ لیکن اس میں ان کا نسب موجود نہیں، اس میں صرف عن ام عامر ہے۔

۱۳۱۱۷ ام عامر بنت سلیم \*

بن ضج بن عامر بن مجد بن شمس بن حارثہ انصاریہ، ان کا نام حبانہ ہے، ناموں میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔ ابن سعد \* کا قول ہے: اسید بن ساعدہ سے ان کا نکاح ہوا جس سے یزید کی ولادت ہوئی، ابن عمارہ کے قول کے مطابق بیعت کی۔

۱۳۱۱۸ ام عامر بنت سُوید \*

ابوموسیٰ نے ذیل میں بحوالہ مستغفری ان کا ذکر کیا ہے، ان سے کوئی روایت مروی نہیں۔

۱۳۱۱۹ ام عامر بنت ابوقحافہ

ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں، ام فروہ جن کا ذکر آگے آ رہا ہے، ان کی سگی بہن ہیں۔ ابن سعد \* نے ان کا ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں: ان سے عامر بن ابوقحافہ نے نکاح کیا، جس سے ضیفہ کی ولادت ہوئی۔

۱۳۱۲۰ ام عامر بنت کعب أنصاریہ \*

ان سے لیلیٰ مولاۃ حبیب بن عبد الرحمن نے روایت کی کہ نبی کریم ﷺ نے ان سے فرمایا: ”آؤ اور کھاؤ“۔ انہوں نے کہا: میں روزہ سے ہوں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”جب روزہ دار کے سامنے کھایا جاتا ہے تو فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں۔“

\* تجرید (۳۲۶/۲) \* تجرید (۳۲۶/۲) \* طبقات الکبریٰ (۲۴/۸)

\* اسد الغابہ (۷۵۰۲) تجرید (۳۲۶/۲) \* طبقات (۸۱/۸)

\* اسد الغابہ (۷۵۰۳) الاستیعاب (۳۶۳۴) تجرید (۳۲۶/۲)

### ۱۲۱۲۱ ام عامر بنت یزید \*

بن سکن انصاریہ اشہلیہ، ابو عمر نے ان کا ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں: اگر یہ صحیح ہے تو یہ اسماء بنت یزید یا ان کی بہن ہیں۔ میں کہتا ہوں: یہ ان کی بہن ہیں، ابن سکن نے ان کا نام فکیہہ لیا ہے، اسماء میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔ بیعت کرنے والی صحابیات میں سے ہیں۔ جمیلہ بنت ثابت بن ابوالقحح میں ان کا ذکر گزر چکا ہے، اسی طرح حواء بنت یزید بن سکن میں بھی ان کا ذکر گزر چکا ہے۔ حدیث میں ان کی کنیت منقول ہے، جسے امام احمد \* اور عمر بن شہبہ نے عبدالرحمن بن عبداللہ اشہلی کی روایت سے ان کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ وہ نبی کریم ﷺ کے پاس گوشت والی ہڈی لے آئیں، آپ ﷺ نے اسے نوش فرمایا، آپ ﷺ کسی مسجد میں تھے، پھر آپ ﷺ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور وضو نہیں کیا۔

اسے ابن سعد \* نے اس طریق سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: بحوالہ ام عامر بنت یزید بن سکن، بیعت کرنے والی صحابیات میں سے ہیں، پھر اس کا ذکر کیا، فرماتے ہیں: ایک روایت میں ہے؟ وہ مسجد بنو عبدالشہل میں تھے۔ اور بحوالہ عبدالرحمن بن ثابت نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: ام عامر بنت یزید بن سکن آئیں، وہ نبی کریم ﷺ سے بیعت کرنے والی صحابیات میں سے ہیں، یہ وہی ہیں جو گوشت کا ٹکڑا لائیں آپ نے اسے نوش فرمایا، پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔

### ۱۲۱۲۲ ام عامر بنت یزید \*

بن سکن، ان کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، ابن سعد نے ان کا ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں: ان کا نام فکیہہ ہے۔ بعض نے کہا: اسماء ہے، واقدی کے حوالے سے بحوالہ ام عامر اسماء بنت یزید بن سکن روایت کیا ہے، فرماتی ہیں: میں نے مغرب کے وقت رسول اللہ ﷺ کو اپنی مسجد میں دیکھا، میں گھر آئی، میں آپ ﷺ کے پاس گوشت اور چپاتی لے کر گئی، میں نے کہا: رات کا کھانا کھائیں۔ آپ ﷺ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا: ”کھاؤ“۔ آپ ﷺ اور آپ ﷺ کے ساتھ آئے ہوئے اصحاب نے کھایا، اور گھر میں موجود لوگوں نے بھی کھایا، یہ سب چالیس مرد تھے، اس ذات کی قسم! جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے دیکھا کہ کچھ گوشت اور زیادہ تر روٹی باقی تھی۔ فرماتی ہیں: آپ نے میرے پاس نیم بریدہ مشک میں پانی پیا، میں نے وہ لے کر تیل لگایا اور لپیٹ لیا۔ ہم اس میں مریضوں کو پلاتے تھے اور برکت کے لیے خود پیتے۔

### ۱۲۱۲۳ ام عامر اشہلیہ \*

ابو عمر کا قول ہے: نبی کریم ﷺ کے پاس گئیں، ان سے ابوسفیان مولیٰ ابن ابوالاحمد نے واقدی رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کیا ہے۔

میں کہتا ہوں: ان کی حدیث کو، ان کے حوالے سے ابن سعد \* نے واقدی کے حوالے سے، عبداللہ بن ابوسفیان سے، ان

\* اسد الغابۃ (۷۵۰/۵) تجرید (۳۲۶/۲) \* مسند احمد (۳۷۲/۶) (۳۷۲/۶)

\* طبقات (۲۳۳/۸) (۲۳۴/۸) \* اسد الغابۃ (۷۵۰/۵) تجرید (۳۲۶/۲)

\* طبقات (۲۳۳/۸)

کے والد کے حوالے سے نقل کیا ہے، میں نے ام عامر اشہلیہ سے سنا، انہوں نے نبی کریم ﷺ سے بیعت کی تھی، فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ جب ہمارے گھروں کو دیکھتے تو فرماتے: ”ان گھروں میں کتنی خیر و برکت ہے، یہ انصار کے بہترین گھر ہیں۔“  
واقدی رحمہ اللہ کا قول ہے: ام عامرہ اشہلیہ خیبر میں حاضر ہوئیں۔

### ۱۲۱۲۴ ام عامر الفہریہ

ابوعبیدہ بن جراح کی والدہ ہیں، خلفہ بن خیاط نے ان کا ذکر کیا ہے، ابوموسیٰ نے اپنے استدراک میں ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۲۱۲۵ ام عامر

ابوطیف بن وائلہ کی والدہ ہیں، ابن ابوعاصم نے ان کا ذکر کیا ہے اور جابر جعفی کے طریق سے بحوالہ ابوطیف روایت کیا ہے، فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فتح مکہ کے دن دیکھا، مجھے آپ ﷺ کے چہرے کی سفیدی کے ساتھ آپ ﷺ کے سیاہ بال یاد ہیں۔ میں نے اپنی والدہ سے پوچھا: یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا: یہ رسول اللہ ﷺ ہیں۔ ابونعیم نے اسے اپنے طریق سے پھر ابوموسیٰ نے اسے نقل کیا ہے، جابر ضعیف ہے۔

### ۱۲۱۲۶ ام عبداللہ بن اسلم

ان کا نام سلمیٰ ہے، ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

### ۱۲۱۲۷ ام عبداللہ بنت اوس انصاریہ

شداد بن اوس انصاریہ کی بہن ہیں، ان کے سوانح میں ان کا نسب گزر چکا ہے۔ ابوعمر کا قول ہے: شامیہ ہیں، ان سے ضمہ بن حبیب نے روایت کی۔

میں کہتا ہوں: ان کی حدیث احمد رحمہ اللہ نے زہد میں اور طبرانی رحمہ اللہ نے اور ابن مندہ نے اور معانی بن عمران نے تاریخ موصل میں نقل کی ہے، الفاظ اسی کے ہیں، کئی طریق سے، بحوالہ ضمہ بن حبیب، انہوں نے ام عبداللہ سے، انہوں نے اخت شداد بن اوس سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کو ایک پیالے میں افطار کے وقت دودھ بھیجا، آپ ﷺ روزے سے تھے، جبکہ دن طویل اور گرمی کی شدت تھی، آپ ﷺ نے ان کی طرف قاصد کو لوٹایا اور پوچھا: ”تمہارے پاس یہ دودھ کہاں سے آیا؟“ انہوں نے کہا: میری بکری کا ہے۔ آپ ﷺ نے ان کی طرف قاصد کو لوٹایا اور پوچھا: ”تمہارے پاس یہ بکری کہاں سے آئی؟“ انہوں نے کہا: میں نے اسے اپنے مال سے خریدا۔ آپ ﷺ نے اسے قبول فرمایا۔

جب دوپہر ہوئی تو ان کے پاس ام عبداللہ آئیں اور کہنے لگیں: یا رسول اللہ ﷺ! سخت گرمی اور طویل دن کی وجہ سے ترس کھاتے ہوئے آپ کے پاس دودھ بھیجا، آپ نے قاصد کو واپس بھیجا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس لیے کہ رسولوں کو حکم ہے کہ ہم پاکیزہ چیزیں کھائیں اور نیک عمل کریں۔“

اسد الغابۃ (۷۵۰/۱) تجرید (۳۲۶/۲) اسد الغابۃ (۷۵۰/۴) تجرید (۳۲۶/۲)

الاحاد والمثنائی (۳۴۲۹/۶) اسد الغابۃ (۷۵۰/۵) تجرید (۳۲۶/۲)

المعجم الکبیر (۴۲۸/۲۵)

۱۲۱۲۸) ام عبدالله بنت ابی خيثمه ان کا نام لیلیٰ ہے، ان کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔

۱۲۱۲۹) ام عبدالله بنت حنظلہ بن قسامہ، نعیم بن نحام کی زوجہ ہیں، اس کے بعد ان کا ذکر آئے گا۔

۱۲۱۳۰) ام عبدالله بنت ابی دومی ابو موسیٰ کی زوجہ ہیں، ان کے بعد ذکر آئے گا۔

۱۲۱۳۱) ام عبدالله بنت سلمہ بنت خرمہ تمیمیہ، ان کا نام اسماء ہے، پہلے ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

۱۲۱۳۲) ام عبدالله بنت سواد

بن رزن، بن زید بن ثعلبہ بن عبید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمہ انصاریہ، ابن سعدؓ نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں: ان کی والدہ ام حارث بنت نعمان بن خضاء، ابو محمد بن معاذ بن انس نے ان سے نکاح کیا۔

۱۲۱۳۳) ام عبدالله بنت عازب انصاریہ

ان کے بھائی برا اور والد کے سواخ میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔ ابن سعدؓ نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں: براء کی سگی بہن ہیں، ان کی والدہ ام حبیبہ بنت ام حبیبہ بن حباب نجاریہ ہیں، بعض کا قول ہے: وہ ام خالد بنت ثابت بن سان بن عبید بن ابجر ہیں، اسلام لائیں اور بیعت کی۔

۱۲۱۳۴) ام عبدالله بنت عدی

بن خولید، اسدیہ۔ حضرت خدیجہؓ کی بہتی ہیں۔ حصین بن حارث بن مطلب کی زوجہ ہیں۔ ابن سعدؓ نے حصین کے سواخ میں ان کا ذکر کیا ہے، عبد اللہ بن حصین مذکور کی والدہ ہیں۔

۱۲۱۳۵) ام عبدالله بنت معاذ

بن جبل، ان کے والد کے سواخ میں ان کا نسب گزر چکا ہے۔ ابن سعدؓ کا قول ہے: اسلام لائیں اور بیعت کی، ان کی والدہ ام عمرو بنت خلاہ، ان سے عبد اللہ بن مروان نے نکاح کیا۔

۱۲۱۳۶) ام عبدالله بنت ملحان

ام سلیم کی بہن ہیں، واقدیؓ نے بیعت کرنے والی خواتین میں ان کا ذکر کیا ہے۔ ابن سعدؓ نے اسے بیان کیا ہے۔

۱۲۱۳۷) ام عبدالله بنت نبیہ

بن حجاج بن حذیفہ سمیہ، عبد اللہ بن عمرو بن عاص سہمی کی والدہ ہیں۔ حارث بن ابی اسامہ نے اپنی مسند میں عبد اللہ بن

تجريد (۳۲۷/۲) طبقات (۲۹۵/۸) تجريد (۳۲۷/۲) طبقات (۲۴۲/۸) تجريد (۳۲۷/۲)

طبقات (۳۰۰/۸) تجريد (۳۲۷/۲) طبقات (۳۱۹/۸) اسد الغابہ (۷۵۱۴) تجريد (۳۲۷/۲)

قدامہ کے طریق سے بحوالہ عمرو بن شعیب اور وہ عمرو کے بھائی ہیں، اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ پر شفقت کرتی تھیں، آپ ﷺ ایک دن ان کے پاس آئے اور فرمایا: اے ام عبداللہ! کیسی ہو؟ انہوں نے کہا: خیریت سے ہوں، عبداللہ ایسے شخص ہیں جو دنیا چھوڑ چکے ہیں..... (الحدیث) ❀

### ۱۲۱۳۸) ام عبداللہ بنت ولید

بن عبد شمس بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمرو بن مخزوم مخزومیہ، ان کے والد یمامہ میں شہید ہوئے، جیسا کہ ان کے سوانح میں گزر چکا ہے۔ ان سے حضرت عثمان بن عفان امیر المومنین نے نکاح کیا، جس سے ولید اور سعید حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بیٹے پیدا ہوئے۔ زبیر بن بکار نے ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۲۱۳۹) ام عبداللہ دوسیہ ❀

ابن ابوعاصم ❀ نے وحدان میں ان کا ذکر کیا ہے اور معاویہ بن یحییٰ کے طریق سے جو ایک ضعیف راوی ہیں، بحوالہ ام عبداللہ دوسیہ روایت کیا ہے، اور انہوں نے نبی کریم ﷺ کا زمانہ پایا، کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جمعہ ہر سبتی پر واجب ہے، اگرچہ اس میں چار فرد ہوں۔“

### ۱۲۱۴۰) ام عبداللہ ❀

نسر مازنی کی زوجہ ہیں، یزید بن خمیر کا قول ہے: میں نے عبداللہ بن بسر کو فرماتے ہوئے سنا: ہمارے ہاں رسول اللہ ﷺ تشریف لائے، میری والدہ نے آپ ﷺ کے لیے چادر بچھائی، آپ ﷺ اس پر بیٹھ گئے، پھر وہ آپ کے پاس کھجوریں لائیں، آپ ﷺ کھانے لگے..... (الحدیث) اس میں ہے: آپ ﷺ نے ان کے لیے دعا کی، فرمایا: ”اے اللہ! انہیں برکت دے اور انہیں بخش دے اور ان پر رحم کر۔“ ❀

حضرت عبداللہ فرماتے ہیں: میں اس دعا کی برکت ساری زندگی محسوس کرتا رہا۔ اے مسلم، اصحاب سنن نے نقل کیا ہے، ہمیں یہ روایت مسند ابوداؤد و طیالسی ❀ میں عالی سند سے ملی ہے۔

### ۱۲۱۴۱) ام عبداللہ

بنو ہرہہ ❀ کی ایک خاتون ہیں، ابوموسیٰ کا قول ہے: مستغفری نے ان کا ذکر کیا ہے لیکن ان سے کوئی حدیث روایت نہیں کی۔

❀ اسد الغابۃ (۶۶۹/۵) ❀ اسد الغابۃ (۷۵۰۹) تجرید (۳۲۷/۲)

❀ الأحاد والمثنائی (۳۴۰/۶) ❀ اسد الغابۃ (۷۵۰۸) الاستیعاب (۳۶۳۷) تجرید (۳۲۷/۲)

❀ مسلم (۵۲۹۶) ابوداؤد (۳۷۲۹) ترمذی (۳۵۷۶) ❀ مسند ابوداؤد (۱۲۷۵)

❀ اسد الغابۃ (۷۵۱۰) تجرید (۳۲۷/۲)

### ۱۲۱۳۲ ام عبداللہ

ابوموسیٰ اشعریؓ کی زوجہ ہیں، مسند میں ان کی حدیث ابراہیم کے طریق سے بحوالہ قرطیب نے ابوموسیٰ اشعری سے سنا کہ ان کی بیوی نے میت پر چیخ و پکار کی، تو انہوں نے ان سے کہا: تمہیں معلوم نہیں رسول اللہ ﷺ نے کیا فرمایا ہے؟ وہ کہنے لگیں: کیوں نہیں! پھر وہ خاموش ہو گئیں۔ ان سے کسی نے پوچھا: رسول اللہ ﷺ نے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا: رسول اللہ ﷺ نے اس عورت پر لعنت کی جو سرمندائے یا کپڑے پھاڑے یا بدن نوچے۔

ان سے عیاض اشعری نے بھی روایت کی ہے جو مسلم میں ہے۔ ان سے یزید بن اوس، عبدالرحمن بن ابولیلیٰ اور دوسرے لوگوں نے روایت کیا ہے۔ موسیٰ بن ہارون اس روایت میں فرماتے ہیں، جسے دین نے اپنے فوائد میں ان سے بحوالہ عبداللہ بن براد اشعری روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں: ابوبردہ کا نام عامر ہے، اور ان کی والدہ ام عبداللہ بنت دوی ہیں، انہوں نے ابوموسیٰ کے ساتھ ہجرت کی، دوسرے راویوں کا قول ہے: بنت ابی دوی۔

### ۱۲۱۳۳ ام عبداللہ

عبداللہ بن انیس حمذیہ کی والدہ اور کعب بن مالک انصاری کی زوجہ ہیں، ابن وہب نے بحوالہ عبداللہ، انہوں نے اپنی والدہ سے روایت کیا ہے۔ وہ کعب بن مالک کی زوجہ تھیں کہ رسول اللہ ﷺ کعب بن مالک کے پاس آئے اور وہ مسجد نبوی میں اشعار کہہ رہے تھے، جب انہوں نے آپ ﷺ کو دیکھا تو وہ شرمائے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ہمیں بھی شعر سناؤ، تو انہوں نے اشعار سنائے..... (الحدیث)

### ۱۲۱۳۴ ام عبداللہ

نعم بن نحام کی زوجہ ہیں، ابن مندہ نے ان کا ذکر کیا ہے اور ضحاک بن عثمان کے طریق سے بحوالہ عبداللہ بن عمر روایت کیا ہے کہ وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا: میں نے بنت نعم بن نحام کو نکاح کا پیغام دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں، اور ان سے میرے بارے میں بات کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نعم کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، اس کے پاس ان کا یتیم بھتیجا ہے۔ وہ اسے ہی رشتہ دے گا۔ آپ نے کہا: اس کی والدہ نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر تم ضرور جانا چاہتے ہو تو اپنے چچا زید بن خطاب کو ساتھ لے جاؤ۔ وہ کہتے ہیں: وہ دونوں ان کے پاس گئے اور انہوں نے ان سے بات کی، فرماتے ہیں: گویا نعم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات سن لی، اس نے کہا: تمہیں خوش آمدید ہو، تم بڑی منزلت اور شرف رکھتے ہو، پھر کہنے لگے: میرا ایک یتیم بھتیجا ہے، میں بھتیجے کو چھوڑ کر کسی اور کو رشتہ نہیں دوں گا۔ فرماتے ہیں: ان کی والدہ گھر کے کونے

اسد الغابۃ (۷۵۱۳) الاستیعاب (۳۶۳۶) تجرید (۳۲۷/۲)

مسند احمد (۴۰۵/۴) اسد الغابۃ (۷۵۰۶) تجرید (۳۲۶/۲)

اسد الغابۃ (۴۶۷/۵) جامع المسانید والسنن (۴۵۴/۱۶) ابن مندہ نے اسے نقل کیا ہے۔

اسد الغابۃ (۷۵۱۵) تجرید (۳۲۷/۲)

سے بولیں: اللہ کی قسم! یہ اس وقت تک نہ ہوگا جب تک رسول اللہ ﷺ ہمارے درمیان فیصلہ نہ کر دیں، کیا تم بنو عدی کی لڑکی کو اپنے بے وقوف یا کہنے لگیں کمزور بھیجے کی وجہ سے روکے رکھو گے۔ پھر وہ چلی گئیں، یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئیں، اور آپ ﷺ کو بتایا، آپ ﷺ نے نعیم کو بلایا، انہوں نے جو کچھ عبد اللہ بن نعیم کو کہا تھا، عرض کر دیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”صلہ رحمی کرو، اپنی بیٹی اور اس کی ماں کو راضی رکھو، کیونکہ انہیں ان کے معاملے میں حق ہے۔“ ❀

میں کہتا ہوں: زبیر بن بکار نے یہ قصہ مختصر ذکر کیا ہے، اور ام عبد اللہ کا قصہ ذکر نہیں کیا۔ نہ ان کی بات اور مرفوع حدیث کا ذکر کیا، فرماتے ہیں، اس میں ہے: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نعیم سے کہا: تمہیں تمہارے بھیجے نے نکاح کا پیغام دیا، تم نے اسے رد کر دیا؟ انہوں نے کہا: میرا ایک کمزور بھیجتا ہے جسے لوگ رشتہ نہیں دیں گے، اگر میں نے اپنا گوشت چھوڑ دیا تو اس کی حفاظت کون کرے گا؟

### ❀ ام عبد الحمید (۱۲۱۳۵)

رافع بن خدیج کی زوجہ ہیں، باوردی نے صحابہ رضی اللہ عنہم میں ان کا ذکر کیا ہے، عمرو بن مرزوق کے طریق سے بحوالہ یحییٰ بن عبد الحمید بن رافع بن خدیج، انہوں نے اپنی دادی سے جو رافع بن خدیج کی زوجہ ہیں، نقل کیا ہے، فرماتی ہیں: اُحد کے دن رافع کو ناف پر تیر لگا۔

نبی کریم ﷺ تشریف لائے، انہوں نے کہا: تیر کھینچ لو، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر تم چاہو تو میں تیر اور چادر بھی کھینچ لوں، اور اگر تو چاہے تو تیر کھینچ لوں اور چادر چھوڑ دوں اور میں تمہارے لیے قیامت کے دن گواہی دوں گا کہ تم شہید ہو“۔ انہوں نے کہا: تیر کھینچ لیں اور چادر چھوڑ دیں، اور آپ قیامت کے دن گواہی دیں کہ میں شہید ہوں۔ راوی فرماتے ہیں: انہوں نے ایسا ہی کیا، پھر وہ نبی کریم ﷺ کی حیات مبارکہ میں اور حضرت ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم کے زمانے تک زندہ رہے، جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ یا اس کے بعد تھا تو ان کا زخم ہرا ہو کر بہہ پڑا جس سے وہ وفات پا گئے۔

اسے ابن مندہ نے باوردی سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ طبرانی ❀ نے ابو ولید طلیسی کے طریق سے آخرین میں بحوالہ عبد الحمید اسی طرح فرمایا، اور اس کے آخر میں فرمایا: وہ زندہ رہے یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ان کا زخم ہرا ہو کر بہہ پڑا جس سے عصر کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔

### ❀ ام عبد الرحمن (۱۲۱۳۶)

ابو عمر کا قول ہے: ان سے ایک حدیث مروی ہے جو انہوں نے اہل کوفہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے فرماتے ہوئے سنا: بککریوں کی مقدار رومی جمرات کیا کرو۔ عبد الرحمن بن اذینہ کی والدہ ہیں۔



### ۱۲۱۳۷) ام عبد الرحمن

طارق بن علقمہ کی زوجہ ہیں، ابن ابوعاصم \* نے عبد اللہ بن ابویزید کی روایت سے بحوالہ عبد الرحمن بن طارق، انہوں نے اپنی والدہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ دار یعلیٰ میں ایک گھر میں تشریف لاتے تھے، آپ ﷺ قبلہ رخ ہو کر دُعا کرتے، یعلیٰ آپ کے ساتھ نکلتے اور ہم مسلمان خواتین بھی ساتھ ہوتیں۔

### ۱۲۱۳۸) ام عبد الرحمن

کعب بن مالک کی زوجہ اور ان کی اولاد عبد الرحمن وغیرہ کی والدہ ہیں، ابو موسیٰ نے بحوالہ جعفران کا ذکر کیا ہے اور ان کی کوئی حدیث روایت نہیں کی۔

### ۱۲۱۳۹) ام عبید بنت سراقہ

بن حارث بن عدی بن مالک بن عدی بن عامر بن غنم بن نجار، ابن سعد \* نے ان کا ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں: حارث بن سراقہ کی بہن ہیں۔ ان کی والدہ ربیع بنت نصر، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی چھوٹی بہن ہیں، سراقہ کے بعد ان سے نسیم بن غزیہ نے نکاح کیا۔

### ۱۲۱۵۰) ام عبید بنت صخر

بن مالک بن عمرو بن غزیہ، اسلت کی زوجہ تھیں، جو فوت ہو گیا۔ اس کے بعد ان سے ابوقیس بن اسلت \* نے نکاح کیا۔ اسلام نے ان دونوں کے درمیان جدائی کرا دی کیونکہ وہ اس کے باپ کی بیوی تھی، ابو موسیٰ نے اسے محمد بن ثور کے طریق سے بحوالہ ابن جریج روایت کیا ہے۔

### ۱۲۱۵۱) ام عبید بنت حارث

بن یزید ہذلیہ، جعفر مستغری نے مختصران کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۲۱۵۲) ام عبید بنت سود

بن قُریم بن صاہلہ، ہذلیہ، عبد اللہ بن مسعود کی والدہ ہیں۔ ابن عبد البر نے اسی طرح ان کا نسب بیان کیا ہے، اس میں تردد ہے۔ ابن کلبی رحمہ اللہ کا قول ہے: ام عبد بنت عبدو بن سود بن قریم ہیں، یہ قول قابل اعتماد ہے۔ صاہلہ اور عبد اللہ بن مسعود کے درمیان پانچ آباء ہیں۔

اسد الغابۃ (۷۵۱۹) تجرید (۳۲۸/۲) \* الاحاد والمثنانی (۳۳۷۸/۶)

اسد الغابۃ (۷۵۲۰) تجرید (۳۲۸/۲) \* اسد الغابۃ (۷۵۲۴) تجرید (۳۲۸/۲)

الطبقات الکبریٰ (۳۰۷/۸) \* اسد الغابۃ (۷۵۲۵) تجرید (۳۲۸/۲)

اسد الغابۃ (۴۷۱/۵) \* اسد الغابۃ (۷۵۲۲) تجرید (۳۲۸/۲)

اسد الغابۃ (۷۵۲۱) تجرید (۳۲۸/۲)

ابن سعد\* کا قول ہے: اسلام لائیں اور بیعت کی، حفص بن سلمان نے ان کی حدیث بحوالہ عبد اللہ بن مسعود روایت کی ہے۔ فرماتے ہیں: میری والدہ نے مجھے رات گزارنے کے لیے رسول اللہ ﷺ کے پاس بھیجا تا کہ میں دیکھوں کہ آپ ﷺ وتر کس طرح ادا کرتے ہیں، میں نے آپ ﷺ کے پاس رات گزاری، آپ ﷺ نے جتنی چاہی نماز پڑھی، جب رات کا آخری وقت ہوا اور آپ ﷺ نے وتر پڑھنے کا ارادہ کیا تو پہلی رکعت میں سورۃ اعلیٰ پڑھی۔ دوسری رکعت میں سورۃ کافرون پڑھی، پھر تشهد کیا، پھر کھڑے ہوئے اور سلام کے ساتھ دونوں میں تفریق نہ کی۔ پھر سورۃ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ پڑھی، جب یہ پڑھ چکے تو تکبیر کہی، پھر دعائے قنوت پڑھی اس کے بعد دعا کی، پھر تکبیر کہی اور رکوع کیا۔ یہ سند بہت زیادہ ضعیف ہے، ابان اور راوی کی وجہ سے جو ان سے روایت کرتے ہیں۔

سفیان ثوری نے بحوالہ ابراہیم اس سند سے روایت کیا ہے کہ وہ نبی کریم ﷺ نے وتر میں دعائے قنوت پڑھی۔ وکیع نے بحوالہ مصعب بن یزید روایت کیا ہے، فرماتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مہاجر خواتین کو دو ہزار درہم مقرر کئے، ان میں ام عبید بھی ہیں، ابن سعد نے بحوالہ ابواسحاق اسی طرح روایت کیا ہے، لیکن فرمایا: ہزار درہم، پہلی روایت زیادہ ثابت ہے۔ ابو موسیٰ کا قول ہے: میں ابن مسعود اور ان کی والدہ کو رسول اللہ ﷺ کے گھر کثرت سے آنے جانے کی وجہ سے نبی کریم ﷺ کے گھر آنے میں شمار کرتا تھا۔

ابن مندہ نے مسعودی کے طریق سے بحوالہ ابواسحاق سہمی روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ام عبید کے آنے کا انتظار فرما رہے تھے، پھر وہ آئیں اور اپنے بیٹے عتبہ بن مسعود کی نماز جنازہ میں شریک ہوئیں۔

### ۱۲۱۵۳) ام عبیس بنت مسلمہ انصاریہ\*

محمد بن مسلمہ کی بہن ہیں، محمد کے سوانح میں ان کا نسب گزر چکا ہے۔ ابو عبس بن جبر کی زوجہ تھیں، جن سے اولاد ہوئی، اسلام لائیں اور بیعت کی۔ محمد بن سعد\* کا قول ہے: ان کی والدہ خلیدہ بنت ابو عبید بن وہب بن لوزان ہیں۔

### ۱۲۱۵۴) ام عبیس بنت سراقہ\*

بن حارث بن عدی انصاریہ، ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا شمار کیا ہے، اگر یہ روایت محفوظ ہے تو یہ ام عبید کی بہن ہیں، جن کا ذکر ابھی گزرا ہے۔

### ۱۲۱۵۵) ام عبیس\*

یہ ان لوگوں میں سے تھیں جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت حاصل کی، اور مشرکین انہیں ایذا دیتے تھے۔ ابو بشر دولابی نے بحوالہ شعری روایت کیا ہے کہ اسلام لائیں، کریم بن ربیعہ بن حبیب بن عبد شمس کی زوجہ ہیں، ان سے عیس کی ولادت ہوئی، جس پر ان کی کنیت ہے۔

\* طبقات (۲۱۲/۸) \* اسد الغابہ (۷۵۲۳) تجرید (۳۲۸/۲) \* طبقات الکبریٰ (۲۴۲/۸)

\* اسد الغابہ (۷۵۲۶) تجرید (۳۲۸/۲) \* اسد الغابہ (۷۵۲۷) تجرید (۳۲۸/۲)

## الاصحاب فی التبت والصحیحۃ الشریعۃ (اردو)

یونس بن کبیر نے ابن اسحاق \* نے زیادات مغازی میں بحوالہ ہشام بن عروہ، انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سات لوگوں کو جنہیں مشرکین اید اذیتے تھے، آزاد کیا، وہ یہ ہیں: بلال، عامر بن فہرہ، زہرہ، بنو مائل کی باندی، نہدیہ اور ان کی بیٹی، ام عیس، محمد بن عثمان بن ابوشیبہ نے اپنی تاریخ میں بحوالہ انس روایت کیا ہے، فرماتے ہیں: ام ہانی بنت ابوطالب فرماتی ہیں: حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کیا اور ان کے ساتھ چھ اور لوگوں کو آزاد کیا، جن میں ام عیس شامل ہیں۔ ابوعبید اور ابوموسیٰ نے اپنے طریق سے اسے نقل کیا ہے۔ زہیر بن بکار کا قول ہے: بنو قیم بن مرہ کی ایک نوجوان عورت اسلام کے ابتدائی زمانے میں اسلام لائی، مشرکین انہیں کمزور سمجھ کر اید اذیتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا، ان کے بیٹے عیس بن کریز پر ان کی کنیت تھی۔

میں کہتا ہوں: بلاذری کا قول ہے: وہ بنو زہرہ کی باندی تھیں اور اسود بن عبدالغوث انہیں اید اذیتا تھا۔

### ۱۴۱۵۶ ام عثمان بنت خثیم خزاعیہ \*

مستغفری نے ان کا ذکر کیا ہے اور حسین بن حسن مروزی کے طریق سے بحوالہ وہب بن جریر، انہوں نے اپنے والد سے نقل کیا ہے۔ میں نے قیس بن سعد سے سنا کہ وہ عطاء سے، وہ ام عثمان بنت خثیم خزاعیہ سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے عقیقہ کے بارے میں سوال کیا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”لڑکے کی طرف سے دو بکریاں بدلے میں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری۔“ \* ابوموسیٰ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں: یہ حدیث ام کرز کے نام سے معروف ہے۔ میں کہتا ہوں: یہ بھی خزاعیہ ہیں، غنقریب ان کا اور ان کی حدیث روایت کرنے والے کا ذکر آئے گا۔

### ۱۴۱۵۷ ام عثمان بنت خلدہ \*

مسند ابویعلیٰ میں ان کے بیٹے نے ان سے روایت کی، تجرید میں اسی طرح ہے۔

### ۱۴۱۵۸ ام عثمان بنت سفیان \*

بنو شیبہ اکابر کی والدہ ہیں، بیعت کرنے والی صحابیات میں سے ہیں۔ یہ ابوعمر کا قول ہے، فرماتے ہیں: عبداللہ بن مسافع نے اپنی والدہ سے، انہوں نے ان کے حوالے سے روایت کی ہے۔

ابن مندہ کا قول ہے: بنو شیبہ کی والدہ نے نبی کریم ﷺ سے بیعت کی، پھر انہوں نے طبرانی اور احمد \* نے ہشام بن ابوعبداللہ کے طریق سے بحوالہ ام ولد شیبہ روایت کی، وہ فرماتی ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کو صفا اور مروہ کے درمیان سہی کرتے

\* السیر والمغازی (۱۹۱) \* تجرید (۳۲۸/۲)

\* ابوداؤد (۲۸۳۴) ابن ماجہ (۳۱۶۲) مسند احمد (۳۸۱/۶) سنن کبیری (۳۰۱/۹)

معجم الکبیر (۳۹۸/۲۵) مسند حمیدی (۳۴۶)

\* اسد الغابۃ (۷۵۲۸) تجرید (۳۲۸/۲) \* اسد الغابۃ (۷۵۲۹) تجرید (۳۲۹/۲)

\* مسند احمد (۴۰۴/۶، ۴۰۵)

ہوئے دیکھا، آپ ﷺ فرما رہے تھے: ”وادی بطناء کو صرف سفر کر کے ہی پار کیا جاسکتا ہے۔“

ابو نعیم نے اسے ذکر کیا ہے، پھر فرمایا: اسے حماد بن زید نے بحوالہ صفیہ اپنی قوم کی ایک خاتون سے روایت کیا جبکہ اس کا نام نہیں بتایا۔

ابو نعیم نے مسند حسن بن سفیان سے پھر ابن مبارک کی روایت سے بحوالہ ام عثمان بنت سفیان سے روایت کی اور وہ بنو شیبہ اکرر کی والدہ ہیں، انہوں نے نبی کریم ﷺ سے بیعت کی، آپ ﷺ نے شیبہ کو بلایا، بیت اللہ کو کھولا، پھر اس میں داخل ہوئے، جب باہر تشریف لائے تو ان سے فرمایا: ”چھت ڈھا پ دو، کیونکہ بیت اللہ میں نمازی کو غافل کرنے والی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔“

### ۱۲۱۵۹ ام عثمان ثقفیہ

مشہور صحابی عثمان بن ابوالعاص کی والدہ ہیں، عبد اللہ بن عثمان بن ابوسلیمان نے بحوالہ عثمان بن ابوالعاص ان کی حدیث روایت کی ہے کہ وہ نبی کریم ﷺ کی ولادت کے وقت حضرت آمنہ کے ہاں موجود تھیں، یہ طویل قصہ ہے جسے ابن مندہ نے روایت کیا ہے۔

### ۱۲۱۶۰ ام عجرد خزاعیہ

ابو عمر کا قول ہے: ثنی بن صباح کے پاس ان کی حدیث ہے، وہ بہت ضعیف راوی ہیں، بحوالہ عمرو بن شعیب، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا سے روایت کیا ہے کہ میں نے ام عجرد خزاعیہ کو رسول اللہ ﷺ سے سوال کرتے ہوئے سنا۔ انہوں نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! کچھ کام ہم جاہلیت میں کرتے تھے، کیا ہم انہیں اسلام میں کریں؟ آپ ﷺ نے پوچھا: ”وہ کیا ہیں؟“ انہوں نے کہا: عقیقہ۔ آپ ﷺ نے فرمایا: لڑکے کی طرف سے دو بکریاں بدلے میں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری۔ \* ام کرز کی حدیث کی طرح ہے۔

### ۱۲۱۶۱ ام عصمہ الغوصیہ

طبرانی نے ان کا ذکر کیا ہے اور ابو مہدی، سعید بن سنان کے طریق سے بحوالہ ام عصمہ غوصیہ جو ابن قیس کی زوجہ ہیں نقل کیا ہے۔ فرماتی ہیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے تو جو فرشتہ اس کے گناہوں کو شمار کرنے پر مقرر ہے وہ تین گھڑیاں رکارتا ہے اس دوران اگر وہ اپنے گناہ کی بخشش مانگ لے تو قیامت کے دن اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔“ \* اسے حاکم نے مستدرک میں اس طریق سے نقل کیا، کہتے ہیں: اس کی اسناد صحیح ہیں۔ اسے ابن مندہ نے اس طریق سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: اسی طرح فرمایا یعنی سعید بن جنان، فرماتے ہیں: دوسرے راویوں کا قول ہے: عن ام عصمہ۔

\* ادس الغابۃ (۷۵۳۰) تجرید (۳۲/۲) \* اس کا حوالہ ام عثمان عجم کے سوانح میں گزر چکا ہے۔

\* اسد الغابۃ (۷۵۳۱) تجرید (۳۲۹/۲) \* مسند احمد (۴۰۷/۶) جامع المسانید والسنن (۴۶۲/۱۶)

میں کہتا ہوں: وہ خطا ہے، عوصیہ بن عوف بن عذرہ کی طرف نسبت ہے۔

### ۱۲۱۶۲ ام عطاء

زبیر بن عوام کی مولاۃ ہیں، ابوعمر کا قول ہے: انہیں شرف صحابیت اور روایت حاصل ہے۔  
میں کہتا ہوں: رہی شرف صحابیت تو وہ انہیں حاصل ہے اور رہی روایت تو انہوں نے اپنے مولا زبیر سے روایت کی ہے، احمد \* نے ابن اسحاق کے طریق سے بحوالہ عبداللہ بن عطا جو زبیر بن عوام کے مولیٰ ہیں، انہوں نے اپنی والدہ اور دادی ام عطاء کے حوالے سے روایت کی، فرماتی ہیں: گویا ہم زبیر بن عوام کو دیکھ رہے ہیں، جب وہ ہمارے پاس سفید خنجر پر آئے اور کہنے لگے، اے ام عطاء! رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں کو قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ کھانے سے روکا ہے، وہ کہنے لگیں: جو ہمیں ہدیہ بھیجا گیا ہے اس کا کیا کریں فرمایا: جو تمہیں ہدیہ میں بھیجا گیا ہے اسے استعمال کرو۔

### ۱۲۱۶۳ ام عطیہ انصاریہ

ان کا نام نسیمہ ہے۔ اپنے نام اور کنیت سے مشہور ہیں، بنت حارث ہیں، بعض کا قول ہے: بنت کعب، ابوعمر نے اس کا انکار کیا ہے، کیونکہ نسیمہ بنت کعب ام عمارہ ہیں جن کا ذکر آگے آ رہا ہے۔  
ام عطیہ نے نبی کریم ﷺ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ، محمد اور حفصہ جو سیرین کی اولاد ہیں، اسماعیل بن عبدالرحمن بن عطیہ، عبدالملک بن عمیر اور دوسرے لوگوں نے روایت کی۔  
ان کی حدیث نبی ﷺ کے برتن دھونے کے بارے میں صحیح میں مشہور ہے۔ علمائے تابعین میں سے ایک جماعت اس حکم کو لیتے ہیں، ابوداؤد میں قتادہ کے طریق سے بحوالہ محمد بن سیرین روایت ہے کہ وہ غسل کرنے کا طریقہ پوچھا کرتے تھے، ام عطیہ سے، یہاں تک کہ میت کو غسل دینے کا طریقہ بھی ان سے پوچھتے، صحیحین میں ان کی ایک حدیث یہ ہے: رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ ہم عیدین کی نماز میں جوان اور باپردہ عورتوں کو نکالیں..... الحدیث۔  
نبی کریم ﷺ نے بیعت کے وقت ہم سے عہد لیا کہ ہم نوحہ نہ کریں..... الحدیث، اس کے بعض طرق سے اسناد کا ذکر ہے۔ حدیث۔ ہم طہر کے بعد میٹھے اور زرد رنگ کو کچھ شمار نہ کریں۔ ایک حدیث یہ ہے: ہمیں جنازے کے پیچھے جانے سے منع فرمایا اور ہم پر اس بارے میں سختی نہیں کی۔

ایک حدیث ہے: نبی کریم ﷺ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے اور پوچھا: ”کیا تمہارے پاس کوئی شے ہے؟“ انہوں نے کہا: نہیں، سوائے صدقہ کی بکری کے گوشت کے جو نسیمہ ہمارے پاس لائی، آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ اپنے مقام پر پہنچ چکا۔“ صحیح مسلم میں ان سے مروی ہے: میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سات غزوات میں جہاد کیا، میں ان کے کجاووں کے ساتھ رہتی صحیح میں بھی اسی طرح بحوالہ حفصہ بنت سیرین مروی ہے کہ حضرت ام عطیہ بصرہ آئیں، اور قصر بنو خلف میں اتریں، ابوسعہ کا قول ہے: ہمیں ابو عاصم نبیل نے بحوالہ ام شراحیل مولاۃ ابوعطیہ بتایا، فرماتی ہیں: علی بن ابوطالب ام عطیہ کے ہاں قیلولہ کیا کرتے

تھے، میں درس سے ان کی بغلیں چنتی تھی۔

### ۱۲۱۶۳ ام عطیہ انصاریہ \*

خافضہ ابن منہ اور مستغفری نے پہلے والی سے الگ ان کا ذکر کیا ہے، ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پہلے والی ہیں۔ اور ولید بن صالح کے طریق سے بحوالہ عطیہ قبظی روایت کرتے ہیں، فرماتی ہیں: مدینہ میں ایک خاتون عورتوں کا ختنہ کیا کرتی تھیں، نبی ﷺ نے اس سے فرمایا: ”اچھی طرح ختنہ کرنا، بالکل نہ کاٹ دینا، کیونکہ اس سے چہرے کو خوشی اور خاوند کے ہاں مرتبہ ملتا ہے۔“ \*

ابو موسیٰ کا قول ہے: اس سند کے بغیر یہ متن مردی ہے۔

### ۱۲۱۶۵ ام عقیف \*

بعض کا قول ہے: ام عقیف بنت مسروح ہذلیہ، حمل بن مالک ہذلی کی زوجہ ہیں، ملکہ میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

### ۱۲۱۶۶ ام عقیف نہدیہ \*

ابو عمر کا قول ہے، ابو عثمان نہدی نے النبیہ میں ان کی حدیث روایت کی ہے۔

میں کہتا ہوں: اسے طبرانی \* نے صلت بن دینار کے طریق سے بحوالہ ابو عثمان نہدی، انہوں نے ایک خاتون جنہیں ام عقیف کہا جاتا ہے، سے روایت کیا، فرماتی ہیں، جب خواتین نے بیعت کی تو ہم نے رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی، آپ ﷺ نے ہم سے عہد لیا کہ محرم کے علاوہ مردوں سے بات چیت نہ کرنا اور ہمیں حکم دیا کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھیں۔

### ۱۲۱۶۷ ام عقیف بنت میمونہ \*

ام المؤمنین، ام حید میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

### ۱۲۱۶۸ ام عقیل \*

ان سے اسحاق بن عبد اللہ بن ابوفروہ جو ضعیف راوی ہیں، حدیث روایت کی، بحوالہ ام عقیل، فرماتی ہیں: میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آئی اور عرض کیا: ابو عقیل وفات پا گئے ہیں، اور اس اونٹ کو اللہ کی راہ میں دینے کی وصیت کر گئے ہیں، اور یہ کمزور ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے ام عقیل! عمرہ کرو۔ کیونکہ رمضان المبارک میں عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے۔“ \*

اسے ابن منہ نے فضل بن ذکین کے طریق سے بحوالہ اسحاق روایت کیا ہے، ابو نعیم کا قول ہے، صحیح یہ ہے کہ ام معقل ہیں، اسی طرح فرمایا: ابن اثیر \* نے اسے برقرار رکھا ہے، جبکہ اس میں تاثر ہے، کیونکہ دونوں احادیث اور دونوں قصوں کا مخرج مختلف

\* اسد الغابۃ (۷۵۴۳) تجرید (۳۲۹/۲) \* ابوداؤد (۵۲۷۱) جامع المسانید (۴۶۴/۱۶)

\* اسد الغابۃ (۷۵۳۶) تجرید (۳۲۹/۲) \* اسد الغابۃ (۷۵۳۷)

\* المعجم الکبیر (۴۱۰/۲۵) \* اسد الغابۃ (۷۵۳۸) تجرید (۳۲۹/۲)

\* مسند احمد (۴۰۵/۶) سنن کبریٰ (۳۴۶/۴) معجم کبیر (۳۷۳/۲۵) جامع المسانید والسنن (۵۵۰/۱۶)

\* اسد الغابۃ (۴۷۴/۵)

ہے، اور فتویٰ عمرہ کرنے اور اونٹ کے ذکر کے بارے میں ہے۔

### ۱۲۱۶۹ ام عکاشہ بنت محصن

طبقات ابن سعد میں زینب بنت جحش کے سوانح کے آخر میں ان کا ذکر ہے۔

### ۱۲۱۷۰ ام علاء انصاریہ

ابو عمر کا قول ہے: بیعت کرنے والی صحابیات میں سے ہیں، اہل مدینہ کے پاس ان کی حدیث ہے۔

میں کہتا ہوں: دوسرے راویوں نے ان کا نسب بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں: بنت حارث بن ثابت بن حارث بن ثعلبہ بن جلاس بن امیہ بن خدرہ بن عوف بن حارث بن خزرج، بعض کا قول ہے: خارجہ بن زید بن ثابت کی والدہ ہیں، ان کی حدیث کے راوی شعیب ہیں۔ بروایت زہری رحمہ اللہ بحوالہ خارجہ بن زید بن ثابت بحوالہ ام انصاریہ، فرماتی ہیں: جب انصار الگ ہوئے تو حضرت عثمان بن مظعون نے گھر دینے میں تاخیر کی، پھر حضرت عثمان بن مظعون کی شہادت کے بارے میں حدیث نقل کی، اس میں ہے: انہوں نے حضرت عثمان بن مظعون کے لیے جاری چشمہ دیکھا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”یہ اس کا عمل ہے۔“ حدیث میں ان کا قول ہے: ابوسائب! میری گواہی تمہارے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عزت بخشی۔

ابراہیم بن سعد کی روایت میں بحوالہ زہری مروی ہے کہ ام علاء وہ انہی میں سے ایک خاتون ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، اسی طرح اسحاق بن یحییٰ کلبی کے نسخے میں بحوالہ زہری، ابن سکین سے مروی ہے۔

میں کہتا ہوں: یزید بن ابوصیب کے طریق سے بحوالہ ام خارجہ بن زید بن ثابت مروی ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون کی جب وفات ہوگئی تو ام حارثہ فرمانے لگیں: ابوسائب! خوشخبری ہو..... (الحدیث) اسے احمد رحمہ اللہ اور طبرانی نے نقل کیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ام علاء خارجہ مذکور کی والدہ ہیں۔ زہری رحمہ اللہ کی روایت میں ان کے مبہم ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ کوئی اور ہیں کیونکہ انسان اپنا ذکر تو چھوڑ دیتا ہے چہ جائیکہ اپنی والدہ۔

### ۱۲۱۷۱ ام علاء

حکیم بن حزام انصاری کی پھوپھی ہیں، ابن سکین کا قول ہے: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عبادت کی، اہل شام سے ان کی حدیث نقل کی ہے، پھر انہوں نے اور ابن مندہ نے زبیدی کے طریق سے بحوالہ یونس بن سیف اسے نقل کیا ہے کہ حزام بن حکیم نے انہیں بتایا بحوالہ اپنی پھوپھی ام علاء کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار کی وجہ سے ان کی عبادت کی اور انہیں دیکھا کہ بیماری کی شدت سے کانپ رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: ”صبر کرو، یہ مومن کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جیسے آگ کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔“

ابن سکین کا قول ہے: مجھے اس حدیث کے علاوہ ان کی کوئی روایت معلوم نہیں۔

### ۱۲۱۷۲ ام علاء

ابن سکین رضی اللہ عنہ کا قول ہے: ان سے عبدالملک بن عمیر نے روایت کی، یہ ان سے پہلی والی نہیں، پھر ابو عوانہ کے طریق سے بحوالہ عبدالملک روایت کیا کہ ایک ام علاء نامی خاتون نے ان سے روایت کی، فرماتی ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی حالت میں میری عیادت کی اور ان سے فرمایا: ”اے ام علاء! خوشخبری ہو، مسلمان کی بیماری سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو دور کر دیتا ہے، جیسا کہ آگ لوہے اور چاندی کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔“

میں کہتا ہوں: ابوداؤد رحمہ اللہ نے ابو عوانہ کی روایت سے اسی طرح نقل کیا ہے، دوسرے راویوں کے نزدیک یہ دونوں ایک ہیں، کیونکہ دونوں کی حدیث ایک ہے، اگرچہ ان کے مخرج میں اختلاف ہے، لیکن ابن سکین کے قول کو تقویت ملتی ہے کہ حزام بن حکیم کی پھوپھی نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ انصاریہ ہیں، حدیث کے سیاق میں ان کا ذکر آیا ہے۔ بحوالہ عبدالملک بن عمیر، انہوں نے ام علاء سے جو انہی میں سے ایک خاتون ہیں، اور عبدالملک رحمہ اللہ، تو یہ نغمہ ہوں گی، اور جو ان سے قبل گزری ہیں وہ انصاریہ ہیں، اس سے تعدد کو تقویت ملتی ہے۔

### ۱۲۱۷۳ ام علی بنت خالد

بن تیم بن یاضہ بن خُفاف بن سعید بن مرہ بن مالک بن اوس انصاریہ اوسیدہ رحمہ اللہ نے بحوالہ ابن دباغ پہلے لکھی گئی کتابوں میں اپنے استدراک میں ان کا ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں: اذان کا حکم ان کے گھر میں نازل ہوا، یہ ابن کلبی کا قول ہے، عدوی کا قول ہے: مجھے معلوم نہیں کہ اہل حجاز اسے جانتے ہوں۔

میں کہتا ہوں: ابن کلبی کے تذکرے میں اس کا ذکر انصار کے نسب کے آخر میں ہے۔ لیکن اس بات کی تصریح نہیں کہ انہیں شرف صحابیت حاصل ہے۔

### ۱۲۱۷۴ ام عمارہ

نسبہ بنت کعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم، بنو مازن بن نجار انصاریہ نجاریہ سے ہیں۔ عبداللہ اور حبیب جو بنو زید بن عاصم سے ہیں، ان کی والدہ ہیں، ابو عمر کا قول ہے: بیعت عقبہ میں شریک ہوئیں رحمہم اللہ اور اپنے شوہر اور ان سے اپنی اولاد کے ساتھ اُحد میں شریک تھیں۔ رحمہم اللہ ابن اسحاق کا قول ہے، بیعت رضوان میں شریک تھیں، پھر یرامہ میں مسلمہ کے ساتھ لڑائی میں شریک تھیں، اس دن انہیں بارہ (۱۲) زخم آئے، ان کا ہاتھ کٹ گیا اور ان کا بیٹا حبیب شہید ہوا۔

انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی احادیث روایت کیں، ان سے ان کے بیٹے عباد بن تمیم بن زید اور حارث بن عبداللہ بن کعب، عکرمہ، لیلیٰ ان کی مولا نے روایت کی۔

ابوداؤد (۳۰۸۹) اسد الغابۃ (۷۵۴۱) تجرید (۳۳۰/۲) اسد الغابۃ (۴۷۵/۵)

اسد الغابۃ (۷۵۴۳) تجرید (۳۳۰/۲) السیرۃ النبویۃ (۸۳/۲)

السیرۃ النبویۃ (۶۶/۳)



## الْاَكْبَرُ فِي تَسْبِيحِ النَّبِيِّ ﷺ (ابن ماجہ)

ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے شعبہ کے طریق سے بحوالہ حبیب بن زید، انہوں نے اپنی مولا علیؑ سے، انہوں نے اپنی دادی ام عمارہ بنت کعب سے ان کی حدیث روایت کی کہ نبی کریم ﷺ ان کے پاس تشریف لائے، وہ آپ ﷺ کے پاس کھانا لائیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”کھاؤ۔“ وہ کہنے لگیں: میں روزے سے ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”روزہ دار کے سامنے جب کھایا جاتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔“ ❀

ابوداؤد نے شعبہ کے طریق سے بحوالہ حبیب انصاری روایت کیا کہ میں نے عباد بن تمیم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مجھ سے میری پھوپھی نے اور وہ ام عمارہ ہیں، روایت کیا کہ نبی کریم ﷺ نے وضو کیا، آپ ﷺ کے پاس ایک برتن لایا گیا جس میں ایک منہ کا دوتہائی پانی تھا..... (الحدیث)

ابن مندہ نے ایک سند سے جس میں واقدی بھی ہیں اسے وہ حارث بن عبد اللہ بن کعب تک لے گئے ہیں، بحوالہ ام عمارہ بنت کعب روایت کیا ہے، فرماتی ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ وہ کھڑے ہوئے، اپنے اونٹ کو نیزہ سے نحر کر رہے تھے..... (الحدیث)

ابن سعد ❀ کا قول ہے: عبد اللہ بن کعب کی بہن ہیں، وہ اور ابولیلیٰ بن کعب کی بہن ہیں، جن کا نام عبد الرحمن ہے، ان کی بہن بدر میں شریک تھیں، وہ زیادہ رونے والوں میں سے ایک تھے۔ فرماتے ہیں: زید بن عاصم کے بعد غزیہ بن عمرو نے ان سے نکاح کیا۔ جس سے تمیم اور خولہ کی ولادت ہوئی، وہ عقبہ میں حاضر تھیں اور اس رات بیعت کی، پھر اُحد، حدیبیہ، خیبر، قفہ، فتح حسین، یمامہ میں حاضر ہوئیں۔

واقدی نے ابن ابوصعصعہ کے طریق سے مسنداً روایت کیا ہے، ام عمارہ فرماتی ہیں: لیلہ عقبہ میں رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ مبارک پر لوگ بیعت کر رہے تھے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے، جب میں اور ام سبیح باقی رہ گئے تو میرے شوہر غزیہ بن عمرو نے پکارا: یا رسول اللہ ﷺ ایہ دونوں عورتیں ہمارے ساتھ آپ ﷺ سے بیعت کرنے آئی ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جس بات پر میں نے تم سے بیعت لی ہے، میں نے ان سے اسی پر بیعت لے لی ہے، میں عورتوں سے بیعت نہیں کرتا۔“ اس میں فرمایا: ام سعید بنت سعد بن ربیع فرماتی ہیں، میں ان کے پاس آئی، میں نے کہا: مجھے اُحد کے دن کا اپنا واقعہ بتائیں۔ انہوں نے کہا: دن چڑھا تو میں نکلی اور میرے پاس مشکیزے میں پانی تھا، میں رسول اللہ ﷺ کے پاس گئی، آپ ﷺ اپنے اصحاب میں تھے، مسلمانوں کا پلڑہ بھاری تھا، جب مسلمانوں کو شکست ہونے لگی، تو میں رسول اللہ ﷺ کی طرف بڑھی اور لڑنے لگی، آپ ﷺ سے دشمنوں کو تلوار کے ساتھ دور کرنے لگی، کمان سے تیر چلانے لگی، یہاں تک کہ مجھے کئی زخم آئے۔ فرماتی ہیں: میں نے ان کے کندھے پر گہرا گھاؤ دیکھا۔ پھر ابن قبیہ کا قصہ ذکر کیا۔ دوسری سند سے جو عمارہ بن غزیہ تک پہنچی ہے ذکر کیا کہ انہوں نے اس دن مشرکین کا ایک شہسوار قتل کیا، دوسرے طریق سے بحوالہ عمر مروی ہے، فرماتی ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ”میں اُحد کے دن جب بھی دائیں بائیں متوجہ ہوتا، انہیں اپنے سامنے لڑتے ہوئے دیکھتا۔“

### ۱۲۱۷۵ ام عمارہ انصاریہ \*

ابن مندہ نے پہلی والی خاتون سے علیحدہ ان کا ذکر کیا ہے، سلیمان بن کثیر کے طریق سے بحوالہ ام عمارہ انصاریہ نقل کیا ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئیں، اور کہنے لگیں: میں دیکھتی ہوں کہ ہر چیز میں مردوں کا ذکر ہے، عورتوں کا کسی حکم میں ذکر نہیں، اس پر یہ آیت ﴿بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں﴾۔ \*  
میں کہتا ہوں: یہ حدیث ابو عمر نے اس سے پہلے والے حالات میں ذکر کی ہے، فرماتے ہیں: عکرمہ نے روایت کیا.... پھر اسے ذکر کیا۔ پھر فرماتے ہیں: بعض کا خیال ہے کہ ام عمارہ وہی ہیں جن سے عکرمہ نے روایت کی، یہ پہلی نہیں، جبکہ میرے نزدیک یہ پہلی ہیں۔

صاحب اطراف نے اس کی پیروی کی ہے اور پہلے والی صحابیہ کے سوانح میں ترمذی \* سے مروی اس طریق اور اس سند کی حدیث نقل کی، فرماتے ہیں: حسن غریب، ہم اس حدیث کو اس طریق سے جانتے ہیں، اسی طرح فرمایا: حدیث ام سلمہ رضی اللہ عنہا میں اس کا مفہوم مروی ہے، اسے نسائی نے محمد بن عمرو کے طریق سے بحوالہ ام سلمہ نقل کیا ہے۔ اس کے کئی طرق ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہیں۔ سلیمان بن کثیر نے اپنی مسند میں اس کی مخالفت کی ہے۔ بروایت ابو عوانہ بحوالہ حصین، فرماتے ہیں، اس میں ہے: بحوالہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: انصاری ایک خاتون نبی کریم ﷺ کے پاس آئیں، ہاں! سلیمان بن جریر نے بحوالہ حصین متابعت کی ہے۔ اسے ابن مردویہ اور ہشیم نے بحوالہ حصین نقل کیا ہے، ابن مندہ نے اس کا ذکر کیا ہے، گویا ابو عوانہ کی روایت شاذ ہے۔ گویا انہوں نے حسب عادت ایسا کیا ہے۔ کیونکہ عکرمہ، ابن عباس سے بہت زیادہ روایت کرتے ہیں، اسے قابوس بن ابوظبیاں نے بحوالہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کیا ہے، فرماتے ہیں: میں نے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے کہا..... پھر اسی طرح روایت کیا۔

### ۱۲۱۷۶ ام عمر انصاریہ \*

عمر بن خلدہ کی والدہ ہیں۔ ابن ابوعاصم \* نے موسیٰ بن عبیدہ کے طریق سے بحوالہ سند بن جہیم، انہوں نے عمر بن خلدہ سے، انہوں نے اپنی والدہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا وہ منیٰ میں اعلان کر رہے تھے کہ یہ کھانے، پینے اور عیش کے دن ہیں۔

### ۱۲۱۷۷ ام عمرو بنت سفیان بن عبد اسد مخزومیہ

ابن سعد \* نے ان کا ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں: ان کی والدہ بنت عبدعزیٰ بن ابوقیس ہیں جو بنو عامر بن لوی سے ہیں۔ حویطب بن عبدعزیٰ ان کے ماموں ہیں، ہشام بن کلثوم نے کتاب مثالب میں ان کا ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں: وہ حجۃ الوداع کی رات نکلیں اور قافلے کے اترنے کی جگہ گئیں، اور ان کا ڈول لے لیا، لوگوں نے انہیں پکڑ کر باندھ دیا، پھر نبی کریم ﷺ کے پاس انہیں

\* اسد الغابۃ (۷۵۴۲) تجرید (۳۳۰/۲) \* سورة احزاب (۳۵)

\* ترمذی کتاب تفسیر القرآن (۳۲۱۱) \* اسد الغابۃ (۷۵۴۴) تجرید (۳۳۰/۲)

\* الاحاد والمثنائی (۲۳۷۶/۶) \* الطبقات (۱۵۳/۸)

## الْأَكْبَلِيْنَ فِي مَقْبَلَةِ الْإِسْلَامِ (جلد ۵۰۰)

لائے، پھر ان کے ہاتھ کاٹنے کا قصہ ذکر کیا۔ اس کے آخر میں فرمایا: عبداللہ بن سفیان کی بہن ہیں، اور یہ شعر پڑھا: ”ابن سلمیٰ جعدہ کے بیٹے کی بیٹی، قافلوں کے تھیلے چرانے والی، وہ رات بھر اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے کپڑے جمع کرنے لگی یہاں تک کہ اس کی حالت یوں ہو گئی کہ اس کے پورے نہ رہے (ہاتھ کٹ گئے)۔“

### ۱۳۱۷۸ ام عمرو بنت سلامہ بن وقش

بن زغبہ بن زعمراء بن عبد اشمل انصاریہ اشہلیہ۔ ابن سعدؒ نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں: ان کی والدہ سلمیٰ بنت سلمہ بن خالد ہیں، جو سلمہ بن سلامہ بن وقش کی بہن ہیں، عقبہ اور بدر میں حاضر تھیں۔ محمد بن سلمہ سے ان کا نکاح ہوا، جس سے اولاد ہوئی۔

### ۱۳۱۷۹ ام عمرو بنت عمرو بن حدیدہ

بن عمرو بن سوار بن غنم، ابن سعدؒ نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں: ان سے قطبہ بن عامر بن حدیدہ نے نکاح کیا، سلیمان بن عمرو بن حدیدہ کی سگی بہن ہیں۔

### ۱۳۱۸۰ ام عمرو بنت عمرو

بن حرام انصاریہ خزرجیہ۔ ابن سعدؒ نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں: ان سے ابویسر بن کعب نے نکاح کیا۔

### ۱۳۱۸۱ ام عمرو بنت محمود

بن مسلمہ بن سلمہ بن خالد بن عدی بن محمد بن حارثہ انصاریہ، ان کے والد اور چچا محمد بن مسلمہ کے سوانح میں ان کا نسب گزر چکا ہے۔ ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح ابن سعدؒ کا قول ہے، فرماتے ہیں: ان کی والدہ امامہ بنت بشر بن وقش ہیں، فرماتے ہیں: ان سے عبداللہ بن محمد بن مسلمہ نے نکاح کیا، اس سے حمید اور عمر کی ولادت ہوئی، اس کے بعد زید بن سعد بن زید بن مالک سے نکاح ہوا۔

### ۱۳۱۸۲ ام عمرو بنت مقرر

بن عبد المطلب ہاشمیہ، ان کی والدہ فلانہ بنت عمرو بن جعوفہ ہیں، ان سے مسعود بن معتب ثقفی نے نکاح کیا، ان سے عبداللہ بن مسعود کی ولادت ہوئی، اس کے بعد ابوسفیان بن حارث بن عبد المطلب نے ان سے نکاح کیا، جس سے عاتکہ کی ولادت ہوئی، یہ ابن سعد سے مروی ہے۔

اسد الغابۃ (۷۵۴۷) تجرید (۳۳۰/۲) طبقات الکبریٰ (۲۳۵/۸) تجرید (۳۳۰/۲)

طبقات الکبریٰ (۲۸۸/۸) تجرید (۳۳۰/۲) طبقات الکبریٰ (۲۹۹/۸)

اسد الغابۃ (۷۵۴۹) (۳۸۷/۶) طبقات الکبریٰ (۲۴۳/۸)

## ۱۲۱۸۳ ام عمرو

حریث بن عمرو بن عثمان مخزومی کی زوجہ ہیں، یحییٰ بن یمان کے طریق سے بحوالہ عمرو بن حریث ان کی حدیث منقول ہے۔ فرماتے ہیں: مجھے میری والدہ نبی کریم ﷺ کے پاس لے گئیں، آپ ﷺ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے رزق کی دعا کی۔ \*

## ۱۲۱۸۴ ام عمرو بنت سلیم

زرقی، یزید بن ہادی نے ان کی حدیث بحوالہ والدہ عمرو بن سلیم زرقی روایت کی ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو منیٰ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ پکارتے ہوئے سنا کہ یہ کھانے، پینے اور عیش کے دن ہیں۔ \*

## ۱۲۱۸۵ ام عیسیٰ بنت مسلمہ انصاریہ

محمد بن مسلمہ کی بہن اور ام عمرو کی پھوپھی ہیں، جن کا ذکر اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ رافع بن خدیج کی زوجہ ہیں۔ بعض کا قول ہے یہ آیت ﴿وَإِنْ أَمْرًا فَخَافَتْ مِنْ بَعْثِهَا نَشُوْرًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ \* ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ ابن حبیب نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ ام عیسیٰ کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، مجھے معلوم نہیں کہ لفظی غلطی کی وجہ سے یہ ایک ہیں یا دو۔

## ۱۲۱۸۶ ام عیاش (خادم النبی ﷺ)

بعض کا قول ہے: نبی کریم ﷺ کی صاحبزادی کی باندی ہیں۔ ابن ماجہ رحمہ اللہ نے عبد الکریم بن روح بن عنبسہ بن سعید بن ابو عیاش کے طریق سے بحوالہ ام عیاش روایت کیا ہے، وہ رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادی رقیہ کی باندی تھیں، فرماتی ہیں: میں رسول اللہ ﷺ کو کھڑے ہو کر وضو کراتی تھی، اور آپ ﷺ بیٹھے ہوتے۔ \*

ابن مندہ کی کتاب معرفہ میں ہمیں یہ حدیث عالی سند سے ملی ہے، فرماتے ہیں اور اپنی سند سے بیان کیا ہے، میں نے رسول اللہ ﷺ کو مونچھیں کم کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسی سند سے ہے: میں نے رسول اللہ ﷺ کو کبھی خضاب لگاتے ہوئے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ آپ ﷺ کی وفات ہوئی۔ ابو نعیم نے اس اسناد سے روایت کیا ہے، فرماتی ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ”حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ام کلثوم سے آسمان کی وحی سے نکاح کیا۔“

ابو عمر کا قول ہے: یہ سند منقطع ہے، عبد الکریم بن روح ضعیف راوی ہے۔

میں کہتا ہوں: ابن ابو عاصم \* نے ان کی ایک اور حدیث روایت کی اور ابو نعیم نے اپنے طریق سے نقل کی ہے، فرماتے

\* اسد الغابۃ (۷۵۴۵) تجرید (۳۳۰/۲)

\* مسند ابویعلیٰ (۱۴۵۶/۳) الاحاد والمثنائی (۷۱۷/۲) مجمع الزوائد (۴۰۵/۹)

\* اسد الغابۃ (۷۵۴۸) تجرید (۳۳۰/۲) \* جامع المسانید والسنن (۴۸۶/۱۶) اسد الغابۃ (۴۷۷/۵)

\* اسد الغابۃ (۷۵۴۹) تجرید (۳۳۰/۲) \* سورة النساء الآیۃ (۱۲۸) \* اسد الغابۃ (۷۵۵۱) تجرید (۳۳۱/۲)

\* ابن ماجہ (۳۹۲) المعجم الكبير (۲۳۴/۲۵) \* الاحاد والمثنائی (۳۴۷۲/۶)

## الاصطلاح فی تفسیر الصحاح (۵۰۲)

ہیں: ہم سے بد بے نے بحوالہ ام عیاش روایت کیا اور وہ نبی کریم ﷺ کی خادمہ تھیں، انہیں اپنی بیٹی کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا، فرماتی ہیں: میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے صبح کے وقت دودھ بلوتی تھی، جسے وہ شام کے وقت پی لیتے تھے، اور شام کے وقت نبیزد بناتی تھی جسے وہ صبح کے وقت پی لیتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے ایک دن پوچھا: ”کیا تم اس میں کوئی چیز ملاتی ہو؟“ میں نے کہا: جی ہاں۔ انہوں نے کہا: ”دوبارہ ایسا نہ کرنا۔“

### ۱۲۱۸۷ ام عیسیٰ بنت جزار

انہیں شرف صحابیت حاصل ہے اور عبدالرحمن بن جبلة کے طریق سے بحوالہ ام فروہ بنت مزاحم عصریہ، وہ اپنی والدہ ام عیسیٰ بنت جزار، وہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتی ہیں، یہ ابن ماکولا کا قول ہے۔

### فصل

صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں کتابیں لکھنے والے لوگوں نے کئیوں میں ایک جماعت کا ذکر کیا ہے، اور اس بات کا ارادہ نہیں کیا کہ اس خاتون کے لیے یہ کنیت وضع کی گئی ہے۔ جب ان سے حدیث مروی ہو یا کسی اور حدیث میں یہ ذکر ہو کہ ان کا ایک بیٹا ہے جس کا فلاں نام ہے تو وہ ان کا ذکر ام فلاں سے کرتے ہیں، چاہے تو یہ کہ ام فلاں کے بجائے فلاں کی والدہ لکھیں، سوائے اس کے کہ ان کی کنیت ہی وہی ہو۔ میں نے کئیوں کے ساتھ ان کے ناموں کا بھی ذکر کر دیا ہے، لیکن ہر ایک کے سوانح میں اس پر تنبیہ کر دی ہے، جس سے وضاحت کی کہ ان کا نام ہے، میں نے اس میں تنبیہ کر دی ہے۔ جس کے بارے میں مذکور ہے کہ اس کی کنیت اس کے ساتھ خاص ہے، تو میں نے قسم غلط میں اس کا ذکر کر دیا ہے۔ واللہ المستعان!

نوٹ: قسم ثانی اور قسم ثالث دونوں خالی ہیں۔

### القسم الرابع

### ۱۲۱۸۳ ام عبداللہ

بنت عامر بن ربیعہ، ابو موسیٰ نے اپنے استدراک میں ان کا ذکر کیا ہے، یہ ام عبداللہ بنت ابویضیمہ ہیں۔ ابن مندہ نے ان کا ذکر کیا ہے، انہیں استدراک میں ذکر کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔

### ۱۲۱۸۹ ام عبداللہ بنت عمر

بن خطاب، ابو موسیٰ نے اپنے استدراک میں ان کا ذکر کیا ہے۔ ان کی کنیت ام عبداللہ نہیں، اگرچہ ان کے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، وہ اپنے نام اور نسب سے مشہور ہیں، وہ نہ نب بنت مظعون تھیں، عثمان اور قدامہ کی بہن ہیں جو مظعون کے بیٹے ہیں، اسلئے میں صحیح گزر چکا ہے۔

اسد الغابۃ (۷۵۵۲) تجرید (۳۳۱/۲) الإكمال (۱۸۰/۲)

اسد الغابۃ (۷۵۱۱) تجرید (۳۲۷/۲) اسد الغابۃ (۷۵۱۲) تجرید (۳۲۷/۲)

## حرف غین معجم

### القسم الاول

#### ۱۲۱۹۰ ام غادیہ

ابوغادیہ کے سوانح میں ان کا ذکر گزر چکا ہے، ابن مندہ اور خطیب نے مؤتلف میں تمام بن بزیج کے طریق سے بحوالہ ام غادیہ روایت کیا، فرماتی ہیں: میں اپنے قبیلے کے ساتھ نبی کریم ﷺ کے پاس گئی، جب میں واپس آنے لگی تو میں نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! مجھے وصیت کیجئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”بری باتوں سے بچو۔“ ❀

#### ۱۲۱۹۱ ام غطیف ہذلیہ ❀ حرف عین میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

### القسم الثانی

خالی ہے۔

### القسم الثالث

#### ۱۲۱۹۲ ام غیلان دوسیہ

جاہلیت میں ان کا ذکر ہے، انہوں نے اسلام کا زمانہ پایا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی۔ ابن کلبی، واقدی، اور زبیر بن بکار نے ان کا قصہ ذکر کیا ہے، قبیلہ دوس، مطیر کے حلیف تھے، ہشام بن مغیرہ جو حلیف تھا، انہوں نے ابوازیہر دوسی کو قتل کر دیا، وہ ابوسفیان بن حرب کا حلیف تھا۔ دونوں فریقوں کے درمیان فساد پھیل گیا۔ انہوں نے ابوازیہر دوسی کے خون کا بدلہ لینا چاہا، تو ابوسفیان نے انہیں منع کیا، تاکہ مسلمان خوش نہ ہوں۔ یہ ہجرت کے بعد کی بات ہے۔ جب اسلام آیا تو ابوازیہر کا خون باطل ہو گیا۔ اس پر اتفاق ہے کہ قریش کے لوگ دوس کی سرزمین کی طرف نکلے، انہیں دوس کے لوگوں نے دیکھا، انہوں نے ابوازیہر کے بدلے انہیں قتل کرنے کا ارادہ کیا، انہیں قبیلہ دوس کی ایک عورت نے جو عورتوں کا بناؤ سنگھار کرتی تھی، پناہ دی۔ اسے ام غیلان کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ اس کی پناہ میں چلے گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو وہ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں اور کہنے لگیں: میرا آپ پر احسان ہے، میں نے آپ کے بھائی کو پناہ دی یعنی ضرار بن خطاب فہری کو۔ یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں انہوں نے پناہ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: وہ میرے حقیقی بھائی نہیں بلکہ اسلامی بھائی ہیں، پھر ان کی عزت کی۔

ابوسعبدہ نے یہ قصہ ذکر کیا ہے، لیکن فرمایا: ام جمیل ہیں۔

### القسم الرابع

خالی ہے۔

## حرف فاء مہملہ

www.KitaboSunnat.com

القسم الاول

۱۲۱۹۳ ام فروہ بنت ابوقحافہ تیمیہ \*

ابوبکر صدیق کی بہن ہیں، دارقطنی نے کتاب اخوة میں ان کا ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں: ان سے ان کے بھائی اشعث بن قیس نے نکاح کیا، اسی طرح ابن سکین نے ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں: اس سے ان کے ہاں محمد، اسحاق، وغیرہ پیدا ہوئے ہوئے۔ میں کہتا ہوں: تاریخ کی کتابوں میں ان کے نکاح کا قصہ مشہور ہے۔ ابن سعد رحمہ اللہ کا قول ہے: ان کی والدہ ہند بنت نفیل بن بجیر بن عبد بن قصی ہیں، فتح مکہ کے واقعے میں ان کا ذکر ہے، جب ان کا ہارگم ہو گیا تھا، ان سے ان کے بھائی نے ان سے فرمایا: آج امانت لوگوں میں کم ہو گئی ہے۔

ابن اسحاق نے اس کا ذکر کیا ہے، لیکن ان کا نام نہیں لیا، میرا خیال ہے یہ ام فردہ کے علاوہ ہیں، کیونکہ وہ اس قصے کے وقت کم عمر تھیں، اور اشعث سے ان کا نکاح فتح کے تین یا چار برس بعد ہوا۔ قریبہ بنت ابوقحافہ کا ذکر گزر چکا ہے۔

بعض کا قول ہے: یہ وہی ہیں جنہوں نے اول وقت میں نماز کی فضیلت کے بارے میں حدیث روایت کی۔ \* یہ ابن سکین کا ظاہر فعل ہے، ابن عبدالبر نے اسی کو ترجیح دی ہے، اس میں تردد ہے، رائج یہ ہے کہ یہ اس کے علاوہ ہیں۔ ابن مندہ نے اس کا یقین کیا ہے کہ بنت ابوقحافہ کا ذکر ہے لیکن حدیث مروی نہیں، حدیث صلاۃ کی روایت کرنے والی انصار یہ ہیں۔ حدیث کا مدار قاسم بن غنام پر ہے، یہ ان کی دادی یا پھوپھی ہیں، یا ان کی والدہ ہیں، یا ان کے گھر والوں میں سے ہیں۔ اس بارے میں ان سے مروی حدیث میں راویوں کے اختلاف سے معلوم ہوا کہ کسی طرح بھی یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بہن نہیں، یہ ابن اشیر رحمہ اللہ کا قول ہے۔

میں کہتا ہوں: بخاری میں ابوعمر نے اخت ابوبکر کا ذکر کیا ہے، جب انہوں نے حج و پکار کی، کتاب حدود میں اسی طرح تعلیقاً ان کا ذکر کیا ہے۔ اسحاق بن راہویہ نے اپنی مسند میں سعید بن مسیب کے طریق سے موصولاً ان کا ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں: جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو لوگ روئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہشام بن ولید سے فرمایا: کھڑے ہو اور عورتوں کو باہر نکالو..... (الحدیث) اس میں ہے: تو وہ ایک ایک کر کے خواتین کو باہر بھیجے لگے، یہاں تک کہ ام فروہ باہر نکلیں، باقی طرق ہشام بن

\* اسد الغابۃ (۷۵۵۷) تجرید (۳۳۱/۲) \* طبقات کبریٰ (۸۱/۸)

\* مسند احمد (۳۷۵/۴) سنن دارقطنی (۲۴۸/۱) مستدرک حاکم (۱۹۰/۱)

\* اسد الغابۃ (۴۸۱/۵)

ولید کے سوانح میں گزر چکے ہیں۔

### ۱۲۱۹۳ ام فروہ انصاریہ \*

قاسم بن غنام کی پھوپھی ہیں، ابن سعد \* کا قول ہے: ابوداؤد، ترمذی نے عبداللہ عمری مکمر ضعیف کے طریق سے بحوالہ ام فروہ روایت کیا، یہ روایت ابوداؤد کی ہے، ان کی ایک اور روایت ان کی پھوپھی سے مروی ہے، جنہیں ام فروہ کہا جاتا ہے۔ ترمذی کی روایت میں بحوالہ ان کی پھوپھی ام فروہ سے مروی ہے، انہوں نے نبی کریم ﷺ سے بیعت کی، ترمذی کا قول ہے: حدیث عمری کے علاوہ ان سے حدیث مروی نہیں۔ اس حدیث میں اضطراب ہے۔

مسند احمد \* میں بحوالہ ام فروہ مروی ہے، فرماتی ہیں: نبی کریم ﷺ سے پوچھا گیا کہ کون سائل سب سے افضل ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اول وقت نماز پڑھنا“۔ اسے ابن سکین نے عبید اللہ بن عمیر ثقہ کے طریق سے بحوالہ ام فروہ روایت کیا ہے۔ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی۔ فرماتی ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا.... پھر ان کا ذکر کیا۔ ابن سکین کا قول ہے: ان دونوں سے اسناد میں اختلاف ہے۔ یہ ترمذی کے اطلاق پر رد ہے۔ دارقطنی، حاکم نے عبید اللہ مصغر کے اسی سے نقل کیا ہے۔ قاسم کے بارے میں فرماتے ہیں: ان کی دادی دنیا کے حوالے سے انہوں نے اپنی دادی ام فروہ سے روایت کیا ہے۔ ابن سکین کا کلام عمرین کے الگ ذکر کرنے میں قاسم کے حوالے سے وہم میں ڈالتا ہے۔ ابن ابوفندیک کی روایت سے بحوالہ قاسم اس پر رد ہوتا ہے، لیکن فرمایا: بحوالہ بیعت کرنے والیوں میں سے ایک خاتون، اور ان کا نام نہیں لیا، اسے طبرانی \* نے نقل کیا ہے۔

### ۱۲۱۹۵ ام فزارہ \*

ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تجرید میں ان کا ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں: زید بن حارثہ نے جذام کے لوگوں کو گرفتار کیا تو ان میں یہ بھی تھیں۔

### ۱۲۱۹۶ ام فضل \*

عباس بن عبدالمطلب کی زوجہ ہیں، ان کا نام لبابہ بنت حارث ہلالیہ ہے، یہ لبابہ کبریٰ ہیں، ان کی بہن لبابہ صغریٰ میں ان کا نسب گزر چکا ہے۔ ایک قول کے مطابق ہجرت سے قبل اسلام لائیں، بعض نے کہا: اس کے بعد اسلام لائیں۔ ابن سعد \* کا قول ہے: ام فضل پہلی خاتون ہیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد اسلام لائیں، اور نبی کریم ﷺ سے روایت کی، ان کے بیٹے عبداللہ، تمام اور عمیر بن حارث، ان کے مولیٰ، ان کے بیٹے کے مولیٰ کریب نے اور حضرت عبداللہ بن عباس نے اور عبداللہ بن حارث بن نوفل اور دوسرے لوگوں نے روایت کی۔

\* اسد الغابہ (۷۵۵۶) تجرید (۳۳۱/۲) \* طبقات کبریٰ (۲۲۲/۸)

\* مسند احمد (۳۷۴/۶) \* المعجم الکبیر (۲۱۱/۲۵) \* تجرید (۳۳۱/۲)

\* اسد الغابہ (۷۵۵۸) تجرید (۳۳۱/۲) \* طبقات کبریٰ (۲۰۲/۸)



حضرت میمونہ ام المؤمنین اور ام فضل کی سگی بہن ہیں۔ رہیں اسماء اور سلمیٰ تو وہ ان کی باپ شریک بہنیں اور عجمیہ کی بیٹیاں ہیں۔

ابن سعد نے جید سند سے بحوالہ ساک بن حرب نقل کیا ہے کہ ام فضل نے کہا: یا رسول اللہ! میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے اعضاء میں سے ایک عضو میرے گھر ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”فاطمہ کے ہاں لڑکا ہوگا تم اسے تم کے دودھ کے ساتھ دودھ پلاؤ گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں حسین پیدا ہوئے، میں نے انہیں اٹھالیا، ایک دفعہ آپ انہیں چوم رہے تھے کہ انہوں نے پیشاب کر دیا۔ میں نے چٹکی لگائی تو رو پڑے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میرے بیٹے کی وجہ سے تم نے مجھے تکلیف دی۔ پھر پانی منگوا لیا اور اچھی طرح بہا دیا۔

قابوس بن مخارق کے طریق سے اسی طرح مردی ہے، اس میں ہے: انہوں نے دودھ پلایا یہاں تک کہ وہ چلنے پھرنے لگا، وہ انہیں لے کر نبی کریم ﷺ کے پاس آئیں اور انہیں آپ ﷺ کی گود مبارک بٹھا دیا، انہوں نے پیشاب کر دیا تو انہوں نے ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مارا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم نے میرے بیٹے کے بارے میں مجھے تکلیف میں ڈالا، اللہ تم پر رحم کرے۔۔۔“ (الحدیث)

ام فضل مکے بارے میں کہا جاتا تھا، حشریہ بوڑھی، معزز دامادوں والی ہے۔ حضرت میمونہ نبی کریم ﷺ کی زوجہ، عباس نے ان کی سگی بہن لبابہ سے نکاح کیا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ان کی بہن سلمیٰ سے نکاح کیا، جعفر بن ابوطالب نے ان کی سگی بہن اسماء سے نکاح کیا، پھر ان سے بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا۔ ابوعمر کا قول ہے: نیک بخت خواتین میں سے تھیں۔

نبی کریم ﷺ ان کی ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے۔ صبح میں ہے کہ عرفہ کے دن لوگ نبی کریم ﷺ کے روزے کے بارے میں غمک میں تھے، ام فضل نے ایک پیالہ دودھ کا بھیجا، آپ ﷺ نے موقف میں اسے پیا، تو لوگوں نے ان لیا کہ آپ ﷺ روزے سے نہیں۔

ابن حبان کا قول ہے: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں اپنے شوہر حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے پہلے وفات پا گئیں۔

۱۲۱۹۷ ام فضل بنت حمزه \*

بن عبدالمطلب بن ہاشم، ابو عمر کا قول ہے: ان سے عبد اللہ بن شداد نے روایت کی کہ وہ فرماتی ہیں: ہمارا مولیٰ فوت ہو گیا،

اس نے ایک بیٹی اور ایک بہن چھوڑی۔ وہ دونوں نبی کریم ﷺ کے پاس آئیں۔ آپ ﷺ نے نصف بیٹی کو اور نصف بہن کو دیا، اسی طرح ایک قول ہے۔

ابن مندہ نے دو طریق سے حدیث نقل کی ہے۔ بحوالہ حارث بن یزید جعفی جو ضعیف راوی ہیں، بحوالہ ام فضل بنت حمزہ، فرماتی ہیں: ان کا ایک آزاد کردہ غلام فوت ہو گیا، اس نے ایک بیٹی کو چھوڑا، نبی کریم ﷺ نے اس کی میراث ام فضل اور اس کی بیٹی کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر دی۔

### ۱۲۱۹۸ ام فضل بنت عباس

بن عبدالمطلب ہاشمیہ، مستغفری نے بحوالہ بخاری ذکر کیا ہے کہ انہوں نے بنو ہاشم کی خواتین میں سے نبی کریم ﷺ سے روایت کرنے والوں میں ان کا ذکر کیا ہے۔ ابوموسیٰ نے جائز قرار دیا ہے کہ وہ ام فضل حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہیں، جن کا ذکر گزر چکا ہے۔

نوٹ: قسم ثانی اور قسم ثالث دونوں خالی ہیں۔

### القسم الرابع

### ۱۲۱۹۹ ام فروہ

نبی کریم ﷺ کو دودھ پلایا، مستغفری نے اس کا ذکر کیا ہے اور اسحاق بن ابواسرائیل کے طریق سے بحوالہ ام فروہ روایت کیا ہے، انہوں نے نبی کریم ﷺ سے روایت کیا۔ فرماتی ہیں: مجھ سے نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جب تم بستر پر آؤ تو یہ پڑھو ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾“ یہ شرک سے براءت ہے۔ ابوموسیٰ کا قول ہے: اس حدیث کے راوی کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کا قول ہے: فروہ، بعض نے کہا: ابوفروہ، کسی نے کہا: نوفل، یہ قول یعنی ام فروہ، یہ سب سے غریب قول ہے۔

میں کہتا ہوں: بلکہ وہ محض غلط ہے، وہ ابوفروہ ہیں۔ گویا بعض راویوں نے جب دیکھا بحوالہ ابوفروہ نبی کریم ﷺ کے رضاعی والد تو انہوں نے اسے غلط سمجھا۔ صحیح یہ ہے کہ ام فروہ ہیں، انہوں نے اپنے گمان کے مطابق اسے روایت کیا ہے تو انہوں نے خطا کر دی۔ ظنر کا لفظ دودھ پلانے والی عورت کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اس کے شوہر پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اسے اصحاب سنن ثلاثہ نے کئی طریق سے بحوالہ فروہ بن نوفل انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا ہے۔ ان میں سے بعض کا قول ہے: بحوالہ ان کے والد، بعض نے کہا: بحوالہ ابواسحاق، انہوں نے ابوفروہ سے روایت کیا ہے، صحیح یہ ہے: بحوالہ فروہ، انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ابوداؤد، نسائی نے زہیر بن معاویہ کی روایت سے ترمذی، نسائی نے بھی اسرائیل کی روایت سے اسے نقل کیا ہے، دونوں نے بحوالہ ابواسحاق حرفوں میں نقل کیا ہے، اس میں ابواسحاق پر اختلاف ہے، یہی قول قابل اعتماد ہے۔

اسد الغابۃ (۷۵۶۰) تجرید (۳۳۱/۲)

اسد الغابۃ (۷۵۵۵) تجرید (۳۳۱/۲)

سورة الكافرون الآية (۱)

## حرف القاف

### القسم الاول

#### ۱۲۲۰۰ ام قاسم بنت ذی الجناحین

جعفر بن ابوطالب ہاشمیہ، بغوی نے اپنی مسند سے جسے وہ ام نعمان بنت جمح بن یزید انصاریہ تک لے گئے ہیں، ان کا ذکر کیا ہے۔ فرماتی ہیں: مجھے جمح بن یزید نے بتایا، فرماتے ہیں: جب ام قاسم بنت ذی الجناحین حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی زوجہ بیوہ ہوئیں، تو انہوں نے ابوبکر بن عبدالرحمن اور قاسم بن محمد اور یزید کے بیٹوں عبدالرحمن اور جمح قریش کے دو مردوں اور انصار کے دو مردوں کو بلایا، اور انہیں کہنے لگیں: میں بیوہ ہو گئی ہوں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، مجھے وارثوں سے خدشہ ہے کہ وہ میرا نکاح اس شخص سے کر دیں جسے میں پسند نہیں کرتی، میں تم لوگوں کو گواہ بناتی ہوں کہ جس سے میرا نکاح میری اجازت کے بغیر کر دیا، میں اس پر حرام ہوں اور میں اس کی بیوی نہیں۔

تو ان سے عبدالرحمن اور جمح نے ان سے کہا: اگر انہوں نے ایسا کیا تو تمہارے لیے جائز نہیں، حالانکہ خضاء بنت خدام کا نکاح ان کے والد نے ان کی مرضی کے خلاف کر دیا تھا۔ وہ نبی کریم ﷺ کے پاس آئیں تو رسول اللہ ﷺ نے ان کے والد کا کیا ہوا نکاح رد کر دیا، وہ شیبہ تھیں، جہاں تک ہمیں معلوم ہے۔

میں کہتا ہوں: مجم بغوی میں جمح بن یزید کے سوانح میں، میں نے اسی طرح لکھا پایا اور حمزہ کا نسب بیان نہیں کیا، مجھے خدشہ ہے کہ فاطمہ بنت قاسم بن محمد بن جعفر کی کنیت ام قاسم ہے، اس روایت میں وہ اپنے جد اعلیٰ جعفر بن ابوطالب کی طرف منسوب ہیں، یہ خیال اس لیے مستند ہے کہ زبیر بن بکار قریش کے نسب جاننے میں سب سے مقدم ہیں۔ انہوں نے جعفر بن ابوطالب کی اولاد میں بیٹی کا ذکر نہیں کیا، جسے ام قاسم کہا جاتا ہو، انہوں نے عبداللہ بن جعفر کی اولاد میں فاطمہ بنت قاسم بن محمد بن جعفر کا ذکر کیا، وہ حمزہ بن عبداللہ بن جعفر کی زوجہ تھیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان ام کلثوم کو اپنے بیٹے یزید کے لیے نکاح کا پیغام دیا، انہوں نے اپنا معاملہ حسین بن علی کے سپرد کر دیا، انہوں نے ان کے چچا زاد قاسم بن محمد بن جعفر سے ان کا نکاح کر دیا، جس سے فاطمہ کی ولادت ہوئی، ان سے حمزہ بن عبداللہ بن زبیر نے اپنے والد کی خلافت میں ان سے نکاح کیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ان فاطمہ کی حمزہ بن عبداللہ اور باقی اولاد سے نسل چلی۔ میں نے اسے احتمال کی وجہ سے لکھ دیا ہے۔ واللہ اعلم!

#### ۱۲۲۰۱ ام قرہ

عموم کی زوجہ ہیں، ابن مندہ کا قول ہے ان کا ذکر ہے۔ \* ان کی حدیث گزر چکی ہے۔

### ۱۲۲۰۲ ام قحطم

فاطمہ بنت علقمہ ہیں، اسماء میں ان کا نام گزر چکا ہے۔

### ۱۲۲۰۳ ام قیس بنت عبید

بن زیاد بن ثعلبہ بن غصاء بن مبذول، بنو مازن بن نجار سے ہیں۔ ابن سعد نے ان کا ذکر کیا ہے۔\* فرمایا: ان کی والدہ ام عبد اللہ بنت شہیل بن حارث بن عوف ہیں، ان سے ابوسلیط بن ابوحارث نے نکاح کیا، جس سے ابوسلیط اور فاطمہ پیدا ہوئے۔ فرماتے ہیں: ام قیس اسلام لائیں اور خیبر وغیرہ میں حاضر ہوئیں۔

### ۱۲۲۰۴ ام قیس بنت قیس\*

انصاریہ۔ بعض کا قول ہے: عدویہ، بعض نے کہا: ان کا نام سلمیٰ ہے۔ تجرید میں ہے کہ انہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی۔

### ۱۲۲۰۵ ام قیس بنت محسن\*

اسدیہ۔ عکاشہ بن محسن کی بہن ہیں، اسماء الرجال میں عکاشہ کے سوانح میں ان کا نسب گزر چکا ہے۔ مکہ میں ابتدائی دور میں اسلام لانے والوں میں سے تھیں۔ بیعت ہوئیں اور ہجرت کی۔ بعض کا قول ہے: ان کا نام امیہ ہے، اسے ابو قاسم جوہری نے مسند موطا میں بیان کیا ہے۔ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے روایت کی۔ ان سے عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ نے روایت کی کہ وہ اپنے چھوٹے بیٹے کو جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا، لے کر آئیں..... (الحدیث)\*

بخاری و مسلم دونوں نے اسے صحیحین میں نقل کیا ہے، ان سے مروی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو لے کر آئیں جن کے گلے میں انہوں نے تعویذ لٹکایا ہوا تھا۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: تم عورتیں! اپنے بچوں کے بارے میں کیوں خوفزدہ رہتی ہو؟ (الحدیث) ان سے وابصہ بن معبد نے بھی روایت کی، اور ان کے مولیٰ عدی بن دینار اور ان کے مولیٰ ابوصحن نے، ابو عبیدہ بن عبد اللہ بن زمعہ، عمروہ حضرت نافع مولیٰ حمزہ کی بہن وغیرہ نے روایت کی۔

نسائی نے لیث کے طریق سے بحوالہ ام قیس روایت کیا ہے۔ فرماتی ہیں: میرا بیٹا فوت ہو گیا، میں جزع فزع کرنے لگی، اور غسل دینے والے سے کہا: میرے بیٹے کو ٹھنڈے پانی سے غسل نہ دو تم اسے مار دو گے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ سے اس کا ذکر کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اسے کیا ہوا؟ اس کی عمر لمبی ہو“۔ فرماتے ہیں: معلوم نہیں کہ جتنی لمبی ان کی عمر ہوئی، اتنی کسی اور کی عمر ہو۔

\* طبقات الکبریٰ (۳۰۶/۸) \* تجرید (۳۳۲/۲)

\* اسد الغابۃ (۷۵۶۳) تجرید (۳۳۲/۲) \* ترمذی (۷۱)

## ۱۲۲۰۶ ام قیس

بعض کا قول ہے: ام ہانی انصاریہ، عقیلی نے ان کا ذکر کیا ہے اور ابن لہیعہ کے طریق سے بحوالہ درہ بنت معاذ نقل کیا ہے کہ انہوں نے ان کو بحوالہ ام قیس انصاریہ بتایا کہ وہ نبی کریم ﷺ کے پاس آئیں، کہنے لگیں: جب ہم مرجائیں کیا ہم آپس میں ملاقات کریں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: روح پرندے کی شکل میں جنت میں بسیرا کرتی ہے۔ ”جب قیامت کا دن ہوگا، تو ہر روح اپنے جسم میں داخل کی جائے گی۔“ اسے ابن ابوشیمہ نے ابن لہیعہ کے طریق سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: ام ہانی، ان کا ذکر آگے آئے گا۔

## ۱۲۲۰۷ ام قیس (بے نسبت)

ابن مندہ اور ابونعیم نے اسماعیل بن عصام بن یزید کے طریق سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: میں نے اپنے دادا یزید جنہیں حمر کہا جاتا تھا، کی کتاب میں پایا، ہم سے سفیان بن اعمش نے بحوالہ ابن مسعود روایت کیا ہے، فرماتے ہیں: ہمارے خاندان کے ایک شخص نے ام قیس نامی خاتون کو نکاح کا پیغام دیا، انہوں نے نکاح کرنے سے انکار کیا، یہاں تک کہ ہجرت کریں، انہوں نے ہجرت کی اور ان سے نکاح کیا، ہم انہیں مہاجر ام قیس کہا کرتے تھے۔

ابن مسعود کا قول ہے: جس نے کسی چیز کے لیے ہجرت کی تو وہ اسی کے لیے ہے۔ ابونعیم کا قول ہے: عبدالملک زمار نے بحوالہ سفیان اس کی پیروی کی ہے۔

اس سے ابوموسیٰ کے اس اشارہ کی تردید ہوتی ہے کہ وہ حمر کے ایک فرد ہیں۔

## ۱۲۲۰۸ ام قیس ہذلیہ

ابوموسیٰ کا قول ہے: جعفر نے ان کا ذکر کیا ہے، ان سے کوئی حدیث روایت نہیں کی۔

میں کہتا ہوں: مجھے خدشہ ہے کہ یہ پہلے والی ہوں، کیونکہ ابن مسعود مہاجر ام قیس کے بارے میں فرماتے ہیں: ہم میں سے ایک شخص ہیں اور ابن مسعود ہذلی ہیں، گویا ام قیس جنہیں نکاح کا پیغام دیا گیا تھا وہ بھی ہذلیہ ہیں۔

خالی ہے۔

## القسم الثاني

## القسم الثالث

## ۱۲۲۰۹ ام قرفہ ام سلمیٰ میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

## القسم الرابع

## ۱۲۲۱۰ ام قرثع ام زفر میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

اسد الغابۃ (۷۵۶۴) تجرید (۳۳۲/۲) \* اسد الغابۃ (۴۸۳/۵)

اسد الغابۃ (۷۵۶۵) تجرید (۳۳۲/۲) \* اسد الغابۃ (۴۸۳/۵)

اسد الغابۃ (۷۵۶۱) تجرید (۳۳۱/۲)

## حرف کاف

### القسم الاول

#### ۱۲۲۱۱ ام کبشہ قضاغیہ

ابن ابوعاصم \* نے وحدان میں ان کا ذکر کیا ہے۔ ابوبکر بن ابوشیبہ، مطین، طبرانی وغیرہ نے ان کی حدیث نقل کی ہے۔ بطریق اسود بن قیس، بحوالہ سعید بن عمرو قرشی کہ ام کبشہ قضاغیہ کی ایک خاتون ہیں، فرماتی ہیں: یا رسول اللہ ﷺ! مجھے فلاں فلاں لشکر کے ساتھ نکلنے کی اجازت دیجئے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”نہیں“۔ کہنے لگیں: میں جہاد میں شرکت نہیں کرنا چاہتی بلکہ میں زخموں اور مریضوں کا علاج اور پانی پلانا چاہتی ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر یہ سنت نہ ہو جاتی اور لوگ کہنے لگتے کہ فلاں جہاد میں نکلی تو میں تمہیں اجازت دے دیتا، تم گھر میں قرار پکڑو“۔

اسے ابن سعد \* نے بحوالہ ابن ابوشیبہ روایت کیا ہے، اس کے آخر میں ہے: ”گھر میں ٹھہری رہو، لوگ یہ نہ کہنے لگیں کہ محمد عورت کو ساتھ لے جا کر جہاد کرتے ہیں“۔ اس روایت اور جوام سنن اسلمیہ کے سوانح میں گزری، ان دونوں کو جمع کرنا ممکن ہے کہ یہ اس روایت کے لیے ناخ ہے، کیونکہ یہ خیبر کا قصہ ہے۔ اس سے پہلے احد میں یہ قصہ گزر چکا ہے جو کہ بروایت براء بن عازب صحیح میں مذکور ہے۔ یہ فتح کے بعد کا قصہ ہے۔

#### ۱۲۲۱۲ ام کثیر بنت زید انصاریہ

ابو نعیم نے ان کا ذکر کیا ہے اور احمد بن سہیل وراق کے طریق سے بحوالہ ام کثیر بنت زید انصاریہ نقل کیا ہے۔ فرماتی ہیں: میں اور میری بہن نبی کریم ﷺ کے پاس گئے، میں نے ان سے کہا: میری بہن آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہے وہ پوچھنے میں حیا کرتی ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اسے پوچھنا چاہیے، کیونکہ علم حاصل کرنا فرض ہے“۔ فرماتی ہیں: میں نے آپ ﷺ سے پوچھایا آپ ﷺ سے میری بہن نے پوچھا کہ میرا ایک بیٹا ہے جو حمام میں کھیلتا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ منافقوں کا کھیلنا ہے“۔ \*

#### ۱۲۲۱۳ ام کجہ انصاریہ

واقدی نے بحوالہ کلبی اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے، بحوالہ ابوصالح، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ اوس بن ثابت

\* اسد الغابۃ (۷۵۶۶) تجرید (۳۳۲/۲) \* الأحاد والمثنائی (۳۲۷۳/۶)

\* طبقات الکبریٰ (۲۲۶/۸) \* اسد الغابۃ (۷۵۶۷) تجرید (۳۳۲/۲)

\* جامع المسانید والسنن (۵۱۶/۱۶) اسد الغابۃ (۴۸۴/۵)

\* اسد الغابۃ (۷۵۶۸) تجرید (۳۳۲/۲)

انصاری وفات پا گئے اور تین بیٹیاں اور ایک بیوی ام کجہ چھوڑی، اس شخص کے دو چچا زاد سید اور عرفہ نے اس کے مال پر قبضہ کر لیا اور اس کی بیوی اور بیٹیوں کو کچھ نہ دیا، تو ام کجہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئیں، اور آپ ﷺ سے اس کا ذکر کیا، اس پر میراث کی آیت نازل ہوئی۔ \* یہ روایت طویل مروی ہے اور یہ اس کی تلخیص ہے۔ اختلاف کا بیان ان کے دونوں چچا زادوں کے ناموں میں، اور بن ثابت کے سواخ میں گزر چکا ہے۔

ابونعیم اور ابوموسیٰ نے اپنے طریق سے پھر سفیان کی روایت سے بحوالہ جابر نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: ام کجہ نبی کریم ﷺ کے پاس آئیں اور کہنے لگیں: یا رسول اللہ ﷺ! میری دو بیٹیاں ہیں، ان کا باپ فوت ہو چکا ہے، اس کی کوئی چیز نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: ﴿مردوں کے لیے اس ترکے میں سے حصہ ہے جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ مر میں اور عورتوں کے لیے اس ترکے میں سے حصہ ہے، جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ مر میں﴾۔ \* پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا: ﴿اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں (وراثت کا) یہ حکم دیا ہے کہ مرد کے لیے عورت سے دو گنا حصہ ہے﴾۔ \*

ابوموسیٰ کا قول ہے، ان کے پاس کوئی شے نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ انہیں ان کے والد کی میراث سے کوئی چیز نہیں ملی۔ میں کہتا ہوں: سفیان سے روایت ضعیف ہے، وہ ابراہیم بن ہراسہ ہیں، بشر بن مفضل نے بحوالہ جابر ان کی مخالفت کی ہے۔ اسے ابوداؤد \* نے اپنے طریق سے نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں: ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ باہر نکلے، یہاں تک کہ بازار میں ہم انصار کی ایک خاتون کے پاس پہنچے۔ وہ اپنی دو بیٹیوں کو لے آئیں اور کہنے لگی: یا رسول اللہ ﷺ! یہ دونوں ثابت بن قیس کی بیٹیاں ہیں جو احد کے دن آپ ﷺ کے ساتھ شریک تھے اور شہید ہوئے، ان کے چچا نے اس کا سارا مال لے لیا ہے، اور ان کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ یا رسول اللہ ﷺ! آپ کی کیا رائے ہے؟ اللہ کی قسم! ان سے کوئی نکاح نہ کرے گا جب تک ان کے پاس مال نہ ہو۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ اس بارے میں فیصلہ کرے گا۔“

راوی فرماتے ہیں: یہ آیت نازل ہوئی: ﴿اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں وصیت کرتا ہے.....﴾۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میرے پاس اس عورت اور اس کے رشتہ دار کو بلاؤ۔“ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ان دونوں کو دو تہائی دو اور ان کی والدہ کو آٹھواں حصہ دو، اس کے علاوہ باقی تمہارا ہے۔“ ابوداؤد نے فرمایا: یہ خطا ہے، کیونکہ وہ دونوں سعد بن ربیع کی بیٹیاں ہیں۔ رہے ثابت بن قیس تو وہ یمامہ میں شہید ہوئے، پھر اسے ابن وہب کے طریق سے نقل کیا ہے، مجھے اہل علم میں سے داؤد بن قیس وغیرہ نے بحوالہ جابر بتایا کہ حضرت سعد بن ربیع کی زوجہ کہنے لگیں: یا رسول اللہ ﷺ! سعد وفات پا چکے ہیں، اور دو بیٹیاں چھوڑی ہیں..... پھر اسی طرح نقل کیا۔

اسے ترمذی اور حاکم نے عبید اللہ بن عمرو رقی کے طریق سے بحوالہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کیا، فرماتے ہیں: حضرت سعد بن ربیع کی زوجہ ان کی دو بیٹیوں کو لے کر آئی..... پھر اسی طرح ذکر کیا۔ ابوداؤد نے اس کے غلط ہونے پر بھروسہ ظاہر کیا ہے۔ اور اسی کا محدثین کے قواعد احتمال کے ساتھ تقاضا کرتے ہیں۔ فوت ہونے والے شخص کے نام میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا: ثابت بن قیس،

\* تفسیر ابن کثیر (۱۹۱/۲) اسد الغابۃ (۵/۴۸۵) \* سورة النساء الآیۃ (۷)

\* سورة النساء الآیۃ (۱۱) \* ابوداؤد (۲۸۹۱)

بعض کا قول ہے: اوس بن ثابت جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ بعض کا قول ہے: اوس بن مالک، جس شخص نے مال جمع کیا تھا، اس کے نام میں بھی اختلاف ہے، جیسا کہ اوس بن ثابت کے سوانح میں گزر چکا ہے۔ جو اختلاف پہلے نہیں گزرا وہ یہی ہے کہ طبری نے بطریق ابن جریج بحوالہ عکرمہ نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: یہ ام کجہ اور بنت ام کجہ، ثعلبہ، اوس بن ثابت کے بارے میں نازل ہوئی، وہ انصار میں سے ہیں، ان دونوں میں سے ایک ان کا شوہر ہے اور دوسرا ان کی اولاد کا چچا ہے۔ فرماتی ہیں: یا رسول اللہ ﷺ! میرا شوہر فوت ہو گیا، ہمیں اس حال میں چھوڑا کہ ہم کسی چیز کے وارث نہیں۔ تو اس کے بچوں کے چچا نے کہا: یہ نہ گھوڑے پر سوار ہوگی، نہ کسی کی امداد کرے گی اور نہ دشمن کا دفاع کرے گی۔

یہ روایت ابن ابی حاتم نے بطریق محمد بن ثور بواسطہ ابن جریج بحوالہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نقل کی ہے کہ ام کلثوم، بنت کجہ، ثعلبہ بن اوس اور سوید کے بارے آیت نازل ہوئی پھر اس کا مفہوم ذکر کیا۔ اور بطریق اسباط بحوالہ السدی مروی ہے کہ اہل جاہلیت لڑکیوں اور کمزور مردوں کو وارث نہیں بناتے تھے۔ حضرت عبدالرحمن جو حضرت حسان شاعر کے بھائی تھے ان کا انتقال ہوا تو ان کے ورثاء میں ان کی بیوی ام کجہ اور پانچ لڑکیاں تھیں۔ ان کے رشتہ دار آئے اور سارا مال لے گئے۔ ام کجہ نے رسول اللہ ﷺ سے اس کی شکایت کر دی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: ﴿اگر ورثاء میں دو سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں تر کے کا دو تہائی دیا جائے﴾۔\*  
رہی عورت تو اس کے متعلق کسی کا اختلاف نہیں، وہ ام کجہ ہی ہیں، صرف ابو موسیٰ نے بحوالہ مستغفری ام کحلہ اور جو پہلے ابن جریج کی دونوں روایتوں میں بنت کجہ گزرا ہے۔ لہذا احتمال ہے کہ ان کی کنیت ان کے والد کے نام یا ان کی بیٹی کے نام جیسی ہے۔ ابن جریج کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ام کلثوم ہیں۔

### ۱۲۳۱۳ ام کرام سلمیہ \*

بقول ابو عمر نبی ﷺ سے عورتوں کے لیے سونا پہننے کی کراہت والی حدیث نقل کی ہے، ان سے حکم بن نحل نے روایت کی ہے، ان کی حدیث کی سند مضبوط نہیں۔

### ۱۲۳۱۵ ام کرز خزاعیہ \*

نم کعبیہ۔ بقول ابن سعد: \* مکہ۔ حدیبیہ کے روز اس وقت مسلمان ہوئیں جب نبی ﷺ اپنے جانوروں کا گوشت تقسیم کر رہے تھے۔ عقیقہ کے بارے میں ان کی حدیث ہے جسے سنن اربعہ کے مصنفین نے نقل کیا ہے۔ \* ان سے ابن عباس، عطاء، طاؤس، مجاہد، سباع بن ثابت، عروہ وغیرہ روایت کرتے ہیں۔ عطا سے آگے ان کی حدیث میں اختلاف ہے، کسی نے قتادہ سے بواسطہ ان کے، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بحوالہ ان کے اور کسی نے ابن جریج اور محمد بن اسحاق اور احمد بن دینار سے بواسطہ عطاء انہوں نے حبیبہ بنت میسرہ بن ابی حبیب بحوالہ ان کے، بقول بعض حجاج بن ارطاة عن عطاء عن عبید بن عمیر، بحوالہ ان کے اور بقول بعض حجاج،

\* سورة النساء (۱۱) اسد الغابة (۷۵/۷۹) تجرید (۳۳۲/۲)

\* اسد الغابة (۷۵۷۰) تجرید (۳۳۲/۲) طبقات الکبریٰ (۲۱۵/۸)

\* ابوداؤد کتاب الاضاحی (۲۸۳۶) (۲۸۳۵) ابن ماجہ (۳۱۶۲) مسند احمد (۴۲۲/۶) (۳۸۱/۶) مستدرک (۲۳۷/۴)



محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نے فرمایا: ”یہ اللہ کے بارے میں قسمیں کھانے والی کون ہے؟“ میں نے کہا: اللہ کے رسول ﷺ میری والدہ ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تمہیں کیا معلوم شاید کعب نے کبھی کوئی لائینی بات کی ہو اور کوئی معمولی چیز روک لی ہو۔“

### ۱۲۲۱۸ ام کلثوم بنت سید البشر

رسول اللہ ﷺ اس میں اختلاف ہے، آیا یہ چھوٹی ہیں یا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کی بہن رقیہ کی اپنے ہاں وفات کے بعد ان سے شادی کی تھی۔ بقول ابو عمر بعثت سے پہلے عتبہ بن ابی لہب نے ام کلثوم سے شادی کی تھی۔ نبی علیہ السلام کے مبعوث ہونے تک رخصتی نہیں ہوئی تھی تو اس کے والد نے اسے طلاق کا حکم دے دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ۳ ہجری میں ان سے شادی کی تھی اور انتقال ۹ ہجری میں بغیر اولاد کے ہوا تھا۔ ام عطیہ انہی کے غسل و کفن میں شریک تھیں جسے وہ روایت کرتی ہیں۔

میں کہتا ہوں: اس کے متعلق ان کی حدیث میں نے فتح الباری میں بیان کی ہے، محفوظ یہ ہے کہ ام عطیہ کا واقعہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے بارے میں ہے جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے، یہ بھی احتمال ہے کہ دونوں کے کفن و غسل میں شریک ہوئی ہوں۔ ابن سعد کا قول ہے: جب نبی ﷺ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سمیت اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کی تو ام کلثوم اپنی بہن کے ساتھ نکلیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کی بہن رقیہ کی وفات کے بعد ربیع الاول ۳ ہجری ان سے نکاح کیا اور شعبان ۹ ہجری بغیر اولاد کے ان کے ہاں فوت ہو گئیں۔

پھر اپنی سند سے بحوالہ اسماء بنت عمیس روایت کی ہے، فرماتی ہیں: میں نے اور صفیہ بنت عبدالمطلب نے ام کلثوم کو غسل دیا، اور بطریق عرو مروی ہے کہ ان کی عورتوں نے انہیں غسل دیا جن میں ام عطیہ بھی شامل تھیں۔ صحیح بخاری اور طبقات ابن سعد میں بحوالہ حضرت انس مروی ہے، میں نے رسول اللہ ﷺ کو ان کی قبر کے پاس دیکھا کہ آپ کی آنکھیں اشکبار تھیں، اور آپ فرمانے لگے: ”تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے آج ہمبستری نہ کی ہو؟“ تو ابو طلحہ نے عرض کی: میں ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: قبر میں اترو۔

واقعی اپنی سند سے فرماتے ہیں: ان کی قبر میں، حضرت علی، فضل اور اسامہ بن زید اترے تھے۔ عتبہ اور عتیہ جو ابولہب کے بیٹے تھے، دونوں نے رقیہ اور ام کلثوم بنت رسول اللہ ﷺ سے شادی کی تھی، جب یہ آیت نازل ہوئی: ”ابولہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ ہو جائے“ تو ابولہب اپنے بیٹوں سے کہنے لگا: جب تک تم دونوں محمد (ﷺ) کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دے دیتے، میرا تمہارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا حرام ہے۔ اور ان دونوں سے ان کی ماں جو ایندھن چنتی تھی، کہنے لگی: رقیہ اور ام کلثوم بے دین ہو چکی ہیں، اس لیے انہیں طلاق دے دو۔ چنانچہ رخصتی سے پہلے ہی انہوں نے طلاق دے دی۔

میں کہتا ہوں: یہ روایت ابو عمر کی اس روایت سے بہتر ہے جو انہوں نے ابن سعد کی متابعت میں نقل کی ہے کہ ابولہب کے دونوں بیٹیوں نے بعثت سے پہلے رقیہ اور ام کلثوم سے شادی کی تھی۔ اس میں تاثر ہے۔ کیونکہ ابو عمر نے اس پر اتفاق نقل کیا ہے کہ آپ کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا تھیں۔ اور ان کے حالات میں بیان ہوا ہے کہ وہ بعثت سے دس سال پہلے پیدا ہوئی

تھیں۔ تو جو بخت سے پہلے دس کی عمر کی تھیں ان سے پہلے چھوٹیوں کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں! اگر یہ ثابت ہو جائے تو عقد نکاح رخصتی عمل میں آنے تک تھا، پھر اس سے پہلے جدائی ہو گئی۔

ابن مندہ فرماتے ہیں: عتبہ ام کلثوم سے شب ناشی کرنے سے پہلے مر گیا تھا، سلیمان بلال عن یحییٰ بن سعید عن ابن شہاب عن انس روایت کرتے ہیں، انہوں نے ان کلثوم بنت رسول اللہ ﷺ کی بیٹی ام کلثوم کو دھاری دھار ریشمی کپڑے میں دیکھا۔ اسے ابن مندہ نے نقل کیا، اس کی اصل صحیح میں ہے اور ام عیاش مولاء رقیہ کے حالات میں بیان ہو چکا ہے۔ فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا: عثمان نے ام کلثوم سے شادی وحی کے مطابق کی۔ ابن مندہ فرماتے ہیں: غریب ہے، صرف اسی سند سے پہچانی جاتی ہے۔ ابن مندہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ مرفوع نقل کرتے ہیں: اللہ کے رسول ﷺ کے پاس جبرائیل آ کر کہنے لگے: اللہ حکم دے رہا ہے کہ عثمان کا رقیہ کے مہر حق صحبت کی وجہ سے نکاح کر دو۔\* فرماتے ہیں: غریب ہے جس میں محمد بن عثمان بن خالد عثمانی منفرد ہے۔

### ۱۲۴۱۹ ام کلثوم بنت زمعه قرشیہ

عامریہ، حضرت سودہ جوام المؤمنین ہیں ان کی بہن ہیں، حوطب بن عبد العزیٰ کی زوجہ ہیں، جس سے ابو حکم بن حوطب پیدا ہوئے۔ زیر بن بکار نے ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۲۴۲۰ ام کلثوم بنت ابوسلمہ\*

بن عبد اسد بن عبد عزیٰ مخزومیہ، رسول اللہ ﷺ کی پرورش میں تھیں، انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا نبی کریم ﷺ کی زوجہ سے روایت کی۔ ان سے ام موسیٰ بن عقبہ نے روایت کی۔ ابو عمر کا قول ہے: ان کی حدیث موسیٰ بن عقبہ کے پاس بحوالہ ان کی والدہ ہے۔ انہوں نے ام کلثوم بنت ابوسلمہ سے روایت کیا ہے۔

میں کہتا ہوں: اسے ابن ابوعاصم\* نے وحدان میں نقل کیا ہے۔ ہم سے صلت بن مسعود نے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے مسلم بن خالد نے بحوالہ موسیٰ بن عقبہ، انہوں نے اپنی والدہ سے، انہوں نے ام کلثوم بنت ابوسلمہ سے روایت کیا ہے، فرماتی ہیں: جب نبی کریم ﷺ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو ان سے فرمایا: ”میں نے نجاشی کو ہدیہ بھیجا ہے، میرے خیال میں وہ ہمارے پاس واپس آئے گا۔ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں نجاشی فوت ہو گیا ہے، اگر وہ واپس آئے تو تمہارا ہے۔“ آپ ﷺ نے اسے حلہ اور کچھ اوقیہ مشک بھیجا تھا، فرماتی ہیں: ایسا ہی ہوا، جو آپ نے فرمایا تھا، ہدیہ واپس آ گیا۔ آپ ﷺ نے اپنی زوجہ کے پاس ایک اوقیہ مشک بھیجا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو حلہ عطا فرمایا۔ اسے مسدّد نے بحوالہ مسلم بن خالد روایت کیا ہے، لیکن ان کا نسب بیان نہیں کیا۔ اسے ابن مندہ نے اپنے طریق سے نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں: ام کلثوم، بے نسبت، اور اسے ہشام بن عمار نے بحوالہ مسلم بن خالد روایت کیا ہے، اپنی روایت میں فرماتے ہیں: بحوالہ ان کی والدہ، انہوں نے ام کلثوم سے، انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے،

\* المعجم الكبير (۱۰/۶۳/۲۲) الاحاد والمثنائی (۲۹۸۲/۵)

\* اسد الغابة (۷۵۷۴) تجرید (۳۳/۲) الاحاد والمثنائی (۳۴۵۹/۶)

اسے ابن حبان نے اپنی صحیح میں اپنے طریق سے نقل کیا ہے، اور وہ محفوظ ہے، اس کے سیاق سے پتہ چلتا ہے کہ ”ہی لك“ سے مراد حلہ ہے، ہدیہ نہیں۔ اس سے اس اشکال کا جواب مل جاتا ہے کہ ”ہی لك“ سے کیا مراد ہے۔ پھر مشک کو اپنی ازواج میں تقسیم کر دیا۔

### ۱۲۲۲۱) ام کلثوم بنت سہیل

بن عمرو قرشیہ عامریہ، ابو جندل کی بہن ہیں۔ ابن اسحاقؒ نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر ابوسبرہ بن ابورہم کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی، ابن سعدؒ کا قول ہے: ان کی والدہ فاخہ بنت عامر بن نوفل بن عبد مناف ہیں، مکہ میں ابتدائی دور میں اسلام لائیں، بیعت کی اور حبشہ کی طرف دوسری مرتبہ ہجرت کی، ابوسبرہ سے ان کے ہاں محمد اور عبداللہ پیدا ہوئے۔

### ۱۲۲۲۲) ام کلثوم بنت عتبہ

بن ربیعہ بن عبد شمس عثمینیہ، معاویہ بن ابوسفیان کی خالہ ہیں، عبدالرحمن بن عوف کی زوجہ تھیں، اس سے سالم اکبر کی ولادت ہوئی جو اسلام سے قبل فوت ہو گیا، ابن سعدؒ نے ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۲۲۲۳) ام کلثوم بنت عقبہ

بن ابومعیط امویہ، ان کے بھائی ولید بن عقبہ کے سواخ میں ان کا نسب گزر چکا ہے۔ ان دونوں کی والدہ اروئی بنت کریم بن ربیعہ بن حبیب بن عبد شمس ہیں، جو عثمان کی والدہ ہیں، ام کلثوم ابتدائی دور میں اسلام لانے والوں میں سے تھیں، بیعت کی اور مدینہ کی طرف پیدل ہجرت کی، ان کے دونوں بھائی ان کے پیچھے گئے تاکہ انہیں واپس لائیں لیکن وہ واپس نہیں آئیں۔ ابن اسحاقؒ نے مغازی میں نقل کیا ہے، مجھ سے زہری اور عبداللہ بن ابوبکر بن حزم نے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں: ام کلثوم بنت عقبہ نے حدیبیہ کے سال ہجرت کی، ان کے بھائی عمارہ اور فلاں جو عقبہ کے بیٹے ہیں، انہیں تلاش کرتے ہوئے آئے تو نبی کریم ﷺ نے انہیں واپس لوٹانے سے انکار کیا، وہ ہجرت سے قبل غیر شادی شدہ تھیں، جب مدینہ آئیں تو ان سے زید بن حارثہ نے نکاح کیا، حضرت زید کے شہید ہونے کے بعد ان سے حضرت زبیر بن عوام نے نکاح کیا، جس سے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی ولادت ہوئی، انہوں نے ان سے جدائی اختیار کر لی۔ پھر ان سے حضرت عبدالرحمن بن عوف نے نکاح کیا، جس سے ابراہیم اور حمید پیدا ہوئے۔ ان کی وفات کے بعد حضرت عمرو بن عاص نے ان سے نکاح کیا، وہ ان کے پاس ایک ماہ رہیں اور وفات پا گئیں۔ ان سے ان کے دونوں بیٹوں حمید بن عبدالرحمن اور ابراہیم نے نکاح کیا، صحیحین اور سنن ثلاثہ میں ان کی حدیث ہے، فرماتی ہیں: میں نے نبی کریم ﷺ سے خود نہیں سنا کہ آپ ﷺ لوگوں کو گفتگو میں رخصت دیتے ہیں، تین باتیں جھوٹ نہیں.....

بعض نے اسے مختصر کیا ہے، نسائی نے کبریٰ میں ان کی دوسری حدیث ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ کی فضیلت کے بارے میں روایت کی ہے۔

اسد الغابہ (۷۵۷۵) تجرید (۳۳۳/۲) السیر والمغازی (۲۲۵) طبقات کبریٰ (۱۹۹/۸)

تجرید (۳۳۳/۲) طبقات کبریٰ (۱۹۹/۸) اسد الغابہ (۷۵۷۷) تجرید (۳۳۳/۲)

سیرۃ نبویہ (۲۵۳/۳) ترمذی (۱۹۳۸)

ابن مندہ نے مجمع بن جاریہ کے طریق سے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ام کلثوم بنت عقبہ جو عبد الرحمن بن عوف کی زوجہ ہیں، فرمایا: کیا تمہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے سردار عبد الرحمن بن عوف سے نکاح کرو؟ کہنے لگیں: جی ہاں! حضرت ابن سعد کا قول ہے، نبی کریم ﷺ کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والی پہلی خاتون ہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ کسی قریشیہ عورت نے سوائے ام کلثوم کے اپنے والدین کو چھوڑ کر اسلام لانے کے بعد اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف ہجرت کی ہو، وہ مکہ سے تنہا روانہ ہوئیں، اور خزاعہ کے ایک آدمی کے ساتھ سفر کرتی ہوئی ہمدن پہنچیں۔ ان کے پیچھے ان کے بھائی چل پڑے اور ان کے پیچھے کے دوسرے دن وہ آئے، انہوں نے کہا: یا محمد (ﷺ)! ہماری شرط پوری کیجئے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کہنے لگیں: یا رسول اللہ ﷺ! میں عورت ہوں اور عورت کمزور ہوتی ہے، مجھے خوف ہے کہ میرے دین کے بارے میں وہ مجھے آزمائش میں ڈالیں گے اور میں صبر نہ کر سکوں گی، تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں عہد ختم کر دیا، اور آیت امتحان نازل کی، اور اس بارے میں حکم نازل فرمایا جس سے سب راضی ہو گئے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کا اور ان کے بعد دوسری عورتوں کا امتحان لیا کہ ”تم نے اللہ، اس کے رسول اور اسلام کے لیے ہجرت کی ہے، اپنے شوہر اور مال کے لیے نہیں کی“۔ جب وہ یہ کہہ لیتیں تو واپس نہیں لوٹائی جاتی تھیں۔

فرماتے ہیں: مکہ میں ان کا کوئی شوہر نہیں تھا، پھر ان سے زید نے، ان کے بعد زبیر نے، ان کے بعد عبد الرحمن بن عوف نے، ان کے بعد حضرت عمرو بن عاص نے نکاح کیا، وہ ان کے پاس وفات پا گئیں۔

**۱۲۲۲۲) ام کلثوم (بے نسبت) بنت ابوامیہ میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔**

**۱۲۲۲۵) ام کلثوم (بے نسبت)**

ہو سکتا ہے، ان خواتین میں ان کا ذکر ہو، جن کی کنیت ام کلثوم ہے۔ رجال کے اسماء میں حرف شین میں حدیث شہاب بن مالک میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

**۱۲۲۲۶) ام کلثوم بنت عمرو**

بن جردل خزاعیہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زوجہ تھیں۔ عبید اللہ بن عمر کی والدہ ہیں۔ بخاری میں نام لیے بغیر ان کا تذکرہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں طلاق دے دی تھی، جب یہ آیت نازل ہوئی ﴿تم کافر عورتوں کو روک کر نہ رکھو﴾۔ طبرانی نے ان کا نام لیا ہے، فرماتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے طلاق دینے کے بعد ان سے ابوجہم بن حذافہ نے نکاح کیا۔

**۱۲۲۲۷) ام کلثوم (بے نسبت)**

یہ دوسری خاتون ہیں، ام عطیہ کی حدیث جو نوحدہ ترک کرنے پر بیعت کے بارے میں ہے، ان کا ذکر ہے، فرمانی ہیں: اسے میرے سوا اور کسی نے پورا نہیں کیا، ام کلثوم کا ان میں ذکر ہے۔

## ۱۲۲۲۸ ام کلثوم (بے نسبت)

نسائی میں حضرت فاطمہ بنت قیس کے قصہ میں ان کا ذکر ہے۔ ام شریک کے بجائے یہ ہے، ام کلثوم کے ہاں عدت گزارو، یہ لکھ لیا جائے۔

نوٹ: قسم ثانی اور قسم ثالث دونوں خالی ہیں۔

## القسم الرابع

## ۱۲۲۲۹ ام کلثوم بنت علیؑ

بن ابوطالب ہاشمیہ، ان کی والدہ فاطمہ بنت رسول اللہ ﷺ ہیں، نبی کریم ﷺ کے زمانے میں پیدا ہوئیں، ابو عمر کا قول ہے: نبی کریم ﷺ کی وفات سے قبل پیدا ہوئیں، ابن ابوعمر مقدسی کا قول ہے، مجھ سے سفیان نے بحوالہ محمد بن علی نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف ان کی بیٹی ام کلثوم کے لیے پیغام بھیجا، انہوں نے ان کی کم عمری کا ذکر کیا، ان سے کہا گیا، انہوں نے آپ کو لونٹا دیا ہے۔ دوبارہ ان کی طرف جاؤ۔ ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں اسے آپ کے پاس بھیجتا ہوں، اگر وہ راضی ہوگی تو آپ کی زوجہ ہے۔ پھر انہیں بھیجا، انہوں نے ان کی پنڈلی کھولی تو کہنے لگی: رک جائیں! اگر آپ امیر المؤمنین نہ ہوتے تو میں آپ کی آنکھ پھوڑ دیتی۔

ابن وہب نے بحوالہ عبدالرحمن بن زید بن اسلم، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا سے روایت کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ام کلثوم سے چالیس ہزار مہر پر نکاح کیا۔ زبیر کا قول ہے: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ان سے دو بچے زید اور رقیہ پیدا ہوئے۔ ام کلثوم اور ان کا بیٹا ایک ہی دن میں فوت ہوئے۔ زید، بنو عدی کے درمیان لڑائی کی صلح کرانے کے لیے نکلے تو اندھیرے میں کسی نے انہیں زخمی کر دیا، کئی دن زندہ رہے، ان کی والدہ بیمار تھیں، دونوں ایک ہی دن فوت ہوئے۔

ابو بشر دولاہی نے ذریت طاہرہ میں ابواسحاق کے طرق سے بحوالہ حسن بن حسین بن علی روایت کیا ہے، فرماتے ہیں: جب ام کلثوم بنت علی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد بیوہ ہو گئیں تو ان کے پاس ان کے بھائی حسن اور حسین آئے اور ان سے کہا۔

اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے حمد و ثناء کی، فرمایا: اے بیٹی! اللہ تعالیٰ نے تمہارا معاملہ تمہارے ہاتھ میں رکھا ہے، کیا تم پسند کرتی ہو کہ اپنا معاملہ میرے سر پر کرو؟ انہوں نے کہا: ابا جان! مجھے بھی دوسری عورتوں کی طرح (جوان آدمی سے) نکاح کرنے کی رغبت ہے۔ آپ نے فرمایا: یہ ان دونوں کی کارستانی ہے۔ پھر آپ غصے سے کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے: میں ان دونوں میں سے اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک تم ہاں نہیں کر لیتی، وہ دونوں پھر ان کے پاس آ کر پوچھنے لگے۔

انہوں نے ایسا ہی کیا، پھر ان سے عوف بن جعفر بن ابوطالب نے نکاح کیا۔ دارقطنی رحمہ اللہ نے کتاب اخوة میں ان کا ذکر کیا ہے کہ عوف انہیں چھوڑ کر وفات پا گئے۔ پھر ان سے ان کے بھائی محمد نے نکاح کیا۔ وہ بھی انہیں چھوڑ کر وفات پا گئے تو ان سے ان

## الْاَكْبَرُ فِي تَرْغِيبِ الصَّالِحِينَ وَتَنْهِيهِ الْمُنْكَرِ (جلد ۸) ۵۲۰

کے بھائی عبداللہ بن جعفر نے نکاح کیا، وہ ان کے پاس وفات پا گئیں، ابن سعد نے اسی طرح ذکر کیا ہے، اس کے آخر میں فرمایا، وہ کہا کرتی تھیں: مجھے اسماء بنت عمیس سے حیا آتی ہے۔ ان کے دو بیٹے میرے پاس فوت ہوئے، مجھے تیسرے کے بارے میں بھی خوف ہے۔

فرماتے ہیں: وہ ان کے پاس وفات پا گئیں، ان میں سے کسی سے اولاد نہیں ہوئی۔ ابن سعد نے بحوالہ جعفر بن محمد، انہوں نے ان کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ام کلثوم کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا، انہوں نے کہا: میں نے بنو جعفر کے لیے اپنی بیٹیوں کو روکا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا: اس کا نکاح مجھ سے کر دیجئے، اللہ کی قسم! زمین پر کوئی آدمی ایسا نہیں جو اس کی عزت کا ایسا منظر ہو جیسا میں ہوں۔ انہوں نے کہا: میں نے کر دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مہاجرین کے پاس آئے، اور کہا: مجھے شادی کی مبارک باد دو۔ انہوں نے مبارک باد دی۔ انہوں نے پوچھا: آپ نے کس سے نکاح کیا؟ انہوں نے کہا: بنت علی سے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”ہر نسب اور تعلق قیامت کے دن ختم ہو جائے گا۔ سوائے میرے نسب اور میرے تعلق کے“۔ میں نبی کریم ﷺ کا سر ہوں، مجھے یہ بھی پسند ہے۔

عطاء خراسانی کے طریق سے ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں چالیس ہزار مہر دیا تھا، اور صحیح سند سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ام کلثوم اور ان کے بیٹے زید کی نماز جنازہ پڑھی۔ انہیں اپنے قریب رکھا اور چار تکبیریں کہیں۔ اور دوسری سند سے نقل کیا ہے کہ حضرت سعید بن العاص نے ان دونوں کی نماز جنازہ پڑھی۔

### ۱۲۳۰ ام کلثوم بنت عباس

بن عبدالمطلب ہاشمیہ، ابن مندہ کا قول ہے: انہوں نے نبی کریم ﷺ کا زمانہ پایا، پھر دروردی کے طریق سے بحوالہ ام کلثوم بنت عباس نقل کیا ہے، فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب اللہ کے خوف سے بندے کے روٹکے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کی خطائیں معاف ہوتی ہیں“۔

یہ سہوہ کی روایت سے جسے ضرار بن صرد نے ان سے نقل کیا ہے، اسے طبرانی نے بحوالہ ضرار اس سند سے بحوالہ عباس نقل کیا ہے، جو صحیح ہے۔ ابو نعیم کا قول ہے سند ابن مندہ سے عباس کا نام ساقط ہو گیا۔

میں کہتا ہوں: اسی طرح ثابت نے دلائل میں لیث بن سعد کے طریق سے بحوالہ ام کلثوم بنت عباس، انہوں نے ان سے روایت کیا ہے۔

تتبعہ: ابن اثیر نے اس سے پہلے والے حالات میں نقل کیا ہے کہ ان کی والدہ بنت حمیہ بن جزز بیدی ہیں، اور وہ حسن بن علی کی زوجہ تھیں، ان سے محمد اور جعفر کی ولادت ہوئی، انہوں نے ان سے جدائی اختیار کر لی، تو ابو موسیٰ اشعری نے ان سے نکاح کیا، جس سے موسیٰ کی ولادت ہوئی، وہ انہیں چھوڑ کر وفات پا گئے تو ان سے عمران بن طلحہ نے نکاح کیا، انہوں نے ان سے جدائی اختیار



کر لی تو وہ دار ابو موسیٰ لوٹ آئیں، وہیں وفات پائی اور کوفہ کے میدان میں دفن ہوئیں۔  
میں کہتا ہوں: یہ سارا قصہ ام کلثوم بنت فضل بن عباس بن عبدالمطلب کا ہے، اور صحیح مسلم میں فضل بنت حمیہ کے نکاح کا قصہ ثابت ہے، اور طبقات ابن سعد میں ابو موسیٰ ام کلثوم بنت فضل بن عباس کے نکاح کا قصہ ثابت ہے۔

### ۱۲۳۱) ام کلثوم بنت ابوبکر صدیق تیمیہ

تابعیہ ہیں، ان کی ولادت سے قبل ان کے والد وفات پا چکے تھے۔ یہ بعد میں پیدا ہوئیں۔ موطا وغیرہ میں ان کا قصہ صحیح روایت میں ہے۔ انہوں نے حدیث مرسل نقل کی ہے۔ اس وجہ سے ابن سکین اور ابن مندہ نے صحابہ رضی اللہ عنہم میں ان کا ذکر کیا ہے۔  
ابراہیم بن طہمان کے طریق سے بحوالہ ام کلثوم بنت ابوبکر نقل کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے عورتوں کو مارنے سے منع فرمایا ہے۔۔۔۔۔ (الحدیث) \*

پھر فرمایا: اسے لیٹ نے بحوالہ یحییٰ اسی طرح روایت کیا ہے اور اسے ثوری نے یحییٰ بن حمید کے حوالے سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: بحوالہ زینب بنت ابوسلمہ۔

میں کہتا ہوں: حسن بن سفیان نے لیٹ کی حدیث کو دوسرے الفاظ میں بغیر قصہ کے نقل کیا ہے۔  
میں کہتا ہوں: ام کلثوم بنت ابوبکر کی دوسری روایت بحوالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا صحیح مسلم میں مروی ہے، ان سے جابر بن عبد اللہ انصاری صحابی نے روایت کی، اور ان کی والدہ حبیبہ بنت خارجہ، جنہوں نے ابوبکر کی موت کے بعد ان کو جنا، ان سے اسی طرح جبر بن حبیب، طلحہ بن یحییٰ اور مغیرہ بن حکیم وغیرہ نے روایت کی۔



\* اسد الغابۃ (۷۵۷۲) تجرید (۲/۲۳۳)

\* جامع المسانید والسنن (۵۲۷/۱۶) اسد الغابۃ (۵/۴۸۶)



## حرف لام

### القسم الاول

#### ۱۲۲۳۲ ام لیلیٰ بنت رواحہ انصاریہ \*

ابولیلیٰ کی زوجہ اور عبدالرحمن بن ابولیلیٰ کی والدہ ہیں، ابو عمر کا قول ہے، بیعت کرنے والی صحابیات میں سے ہیں۔ اہل کوفہ میں ان کی حدیث ان کے گھر والوں کے پاس ہے۔

میں کہتا ہوں: اسے ابن مندہ نے محمد بن عمران بن محمد بن ابولیلیٰ کے طریق سے بحوالہ ان کی پھوپھی حمادہ بنت محمد بن ابولیلیٰ، انہوں نے ان کی دادی ام لیلیٰ سے روایت کیا ہے، فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ نے ہم سے بیعت لی، جو ہم سے عہد لیا وہ یہ ہے: ”ہم اچھی طرح مہندی لگائیں اور شہد سے بال سنواریں، اپنے ہاتھوں کو مہندی سے خالی نہ رکھیں“۔ \*

اور اس اسناد سے ہے، مردوں سے مشابہت اختیار نہیں کرو گی، اور حازم بن محمد غفاری کے طریق سے بحوالہ ان کی والدہ حمادہ بنت محمد بن عبدالرحمن بن ابولیلیٰ روایت ہے، وہ محمد کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ میں نے اپنی پھوپھی کو فرماتے ہوئے سنا، میں نے ام لیلیٰ کا زمانہ پایا، وہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو مہندی سے رنگ رہی تھیں، اور کہہ رہی تھیں: ہم نے اس بات پر رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی..... (المحدث)

طبرانی رحمہ اللہ نے پہلی حدیث اوسط میں نقل کی ہے، فرماتے ہیں: ام لیلیٰ کے حوالے سے اس اسناد سے روایت کی جاتی ہے، محمد بن عمران اس کے روایت کرنے میں منفرد ہیں۔

میں کہتا ہوں: ابن مندہ کی روایت کردہ حدیث اس پر رد ہوگی۔  
نوٹ: قسم ثانی، ثالث اور رابع خالی ہیں۔

## حرف میم

### القسم الاول

#### ۱۲۲۳۳ ام مالك بنت ابى

بن مالك الانصاريه خزرجيه، عبدالله بن ابى بن سلول کی بہن ہیں۔ ابن سعد \* نے ان کا ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں: اسلام لائیں اور بیعت کی، ان کی والدہ سلمیٰ بنت مطروف بن حارث بن زید اوسیہ ہیں، ام مالک نے رافع بن مالک بن عجلان سے نکاح کیا۔

#### ۱۲۲۳۴ ام مالك انصاريه

ابن ابوعاصم \* نے وحدان میں اور ابن ابوشیثمہ نے عطاء بن سائب کے طریق سے بحوالہ یحییٰ بن جودہ، انہوں نے ایک آدمی سے جنہوں نے ان سے روایت کیا کہ ام مالک الانصاریہ فرماتی ہیں: میں نبی کریم ﷺ کے پاس ایک کچی گھی لے کر آئی، رسول اللہ ﷺ نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ اس کو نچوڑ لیں، پھر اسے واپس کر دیا تو وہ بھری ہوئی تھی، وہ آئیں اور کہنے لگیں: کیا میرے بارے میں کوئی حکم نازل ہوا ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کیا حکم؟ انہوں نے کہا: آپ نے میرا ہدیہ واپس کر دیا ہے۔ تو آپ ﷺ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے پوچھا، انہوں نے کہا: اس ذات کی قسم! جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے اسے اتنا نچوڑا کہ مجھے شرم آنے لگی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تمہیں خوشخبری ہو، اے ام مالک! یہ برکت ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جلد اس کا ثواب دے دیا۔“ پھر انہیں سکھایا کہ وہ ہر نماز کے بعد کہیں: ”سبحان اللہ دس بار، الحمد للہ دس بار، اللہ اکبر دس بار۔“ یہ ابن ابوعاصم کے الفاظ ہیں۔ ابن ابوشیثمہ نے اس دوسرے پر اکتفا کیا ہے، حرف زاء میں ام سلیم کا اس سے ملتا جلتا قصہ گزر چکا ہے۔

#### ۱۲۲۳۵ ام مالك انصاريه

مسلم نے اپنی صحیح میں معقل کے طریق سے بحوالہ جابر نقل کیا ہے کہ ام مالک الانصاریہ نے نبی کریم ﷺ کے لیے ایک کچی کا ہدیہ بھیجا کرتی تھیں۔ ان کے بیٹے آتے اور گھی مانگتے، ان کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا، تو وہ اس کچی میں دیکھتیں جس میں وہ نبی ﷺ کے پاس گھی بھیجا کرتی تھیں، اس میں گھی ہوتا، بہت عرصہ تک اس میں سے گھی کھاتے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے اسے نچوڑ لیا۔ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے اس کا ذکر کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اگر تم اسے اسی طرح چھوڑ دیتی تو اسی طرح گھی کھاتے رہتے۔“

تجريد (۳۳۴/۲)

طبقات كبرى (۲۷۸/۸)

اسد الغابة (۷۵۸۰) تجريد (۳۳۴/۲)

الاحاد والمثنائى (۳۴۰۵/۶)

استیعاب کے ذیل میں فرماتے ہیں: مجھے معلوم نہیں یہ وہی ہیں، ابو عمر نے ان کا ذکر کیا ہے یا اس کے علاوہ ہیں؟ میں نے کہا: ابن مندہ کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک ہیں، کہ انہوں نے فرمایا: ان سے جابر اور عبدالرحمن بن سابط اور عیاض بن عبداللہ بن ابوسرح نے روایت کیا، پھر عمرو بن مرہ کے طریق سے بحوالہ ام مالک انصاریہ روایت کیا، فرماتی ہیں: میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آئی، بخارہ سے میرے جزے کا پ رہے تھے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے ام مالک! تمہیں کیا ہوا؟“ انہوں نے کہا: مجھے بخارہ ہے، اللہ اس کا برا کرے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اسے برا بھلا نہ کہو، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہ کم کرتا ہے، جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔“ ❊

### ۱۲۲۳۶ ام مالک البہزیہ ❊

ابو عمر کا قول ہے، ان سے طاؤس نے بحوالہ ام مبشر، مجاہد کی حدیث کی طرح روایت کی۔ میں کہتا ہوں: اسے ترمذی ❊ نے محمد بن مجاہد کے طریق سے بحوالہ ام مالک بہزیہ روایت کیا ہے، فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فتنے کا ذکر کیا اور اسے قریب کر کے بیان کیا، میں نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! اس وقت لوگوں میں سب سے بہتر کون ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ آدمی جو اپنے جانوروں کی زکوٰۃ دیتا ہو اور اپنے رب کی عبادت کرتا ہو، اور ایسا آدمی جو اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے ہو وہ دشمنوں کو ڈرائے اور دشمن اس کو ڈرائیں۔“

ترمذی کا قول ہے: اس طریق سے یہ غریب ہے اسے لیث بن ابوسلمہ نے بحوالہ مالک روایت کیا ہے۔ میں کہتا ہوں: لیث کی روایت کو طبرانی نے عبدالواحد بن زیاد کے طریق سے ان کے حوالے سے نقل کیا ہے، ابن مندہ نے بھی اسی طرح نقل کیا ہے، فرمایا: اسے جریر نے آخرین میں لیث کے حوالے سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: اسے محمد بن مجاہد نے ایک شخص کے حوالے سے بعض کا قول ہے کہ وہ لیث ہے، نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں: نعمان بن منذر نے بحوالہ ام مالک روایت کیا ہے۔ میں کہتا ہوں: طبرانی کی مسند شامی میں نعمان کی یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اس میں ہے: بحوالہ ام مالک بہزیہ، فرماتی ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا: لوگوں میں سب سے زیادہ اجر والا کون ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ شخص جو اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے دشمن کے سامنے ہو، وہ ان کو ڈرائے اور وہ اس کو ڈرائیں۔“

### ۱۲۲۳۷ ام مالک

شجاع بن حارث سدوسی کی زوجہ ہیں، شجاع کے سوانح میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

### ۱۲۲۳۸ ام مبشر بنت براء ❊

بن معرور انصاریہ، ان کے والد کے سوانح میں ان کا نسب گزر چکا ہے۔ ام مبشر بنت براء میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔ ابن اسحاق نے بحوالہ ام بشر بنت براء بن معرور روایت کیا ہے، فرماتی ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ”کیا میں تمہیں

❊ جامع المسانید والسنن (۵۳۰/۱۶) اسد الغابۃ (۴۹۱/۵) ❊ اسد الغابۃ (۷۵۸۱) تجرید (۳۳۴/۲)

❊ ترمذی (۲۱۷۷) ❊ اسد الغابۃ (۷۵۸۲) تجرید (۳۳۴/۲)

لوگوں میں سب سے بہتر شخص کے بارے میں بتاؤں؟“ کہنے لگے: کیوں نہیں! یا رسول اللہ ﷺ! آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ شخص جو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، وہ لوگوں کے شر سے بچ گیا۔“ ❀

دوسری حدیث میں ان کا ذکر ہے، اسے ابو داؤد نے زہری کے طریق سے بحوالہ ابن کعب بن مالک، انہوں نے اپنے والد سے نقل کیا ہے کہ ام بشر نبی کریم ﷺ کی مرض وفات میں آپ ﷺ کے پاس آئیں اور کہنے لگیں: یا رسول اللہ ﷺ! قتل کی تہمت کس پر ہے؟ میں اپنے والد کے قتل کی تہمت اس زہر زدہ بکری پر لگاتی ہوں جو انہوں نے آپ کے ساتھ کھائی.....۔ (الحدیث) اسے دوسرے طریق سے بحوالہ عبد الرحمن بن عبد اللہ بن کعب بن مالک، انہوں نے اپنے والد سے نقل کیا ہے۔

انہوں نے نبی ﷺ سے روایت کی، ان سے جابر بن عبد اللہ انصاری نے روایت کی، مسلم اور نسائی نے جاج بن محمد کے طریق سے بحوالہ ام بشر ان کی حدیث روایت کی کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کو حضرت حصہ رضی اللہ عنہ کے ہاں فرماتے ہوئے سنا: ”ان شاء اللہ! بیعت رضوان کے شرکاء میں سے کوئی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔“۔ (الحدیث)

اسے ابن ماجہ نے ابومعاویہ کے طریق سے بحوالہ حصہ رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے، اور عبد اللہ بن ادریس نے اس کی مخالفت کی ہے، فرماتے ہیں: بحوالہ ام بشر کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کو حضرت حصہ رضی اللہ عنہ کے گھر فرماتے ہوئے سنا.....۔ اسے احمد رحمہ اللہ نے ان کے حوالے سے نقل کیا ہے، اور ان کے لیے یہ عنوان قائم کیا ہے: ام بشر انصاریہ زوجہ زید بن حارثہ، ان کی ایک اور حدیث ہے جسے مسلم نے بھی بحوالہ ام بشر روایت کیا ہے، یہ عمار بن محمد کی روایت ہے۔ اسی طرح ابومعاویہ کی روایت میں ہے، ابو کریب کی روایت میں ان سے مروی ہے، اسحاق رحمہ اللہ ان کے حوالے سے فرماتے ہیں: کبھی کبھار وہ فرماتے ہیں: بحوالہ ام بشر اور کبھی ایسا نہیں فرماتے۔ ابن فضیل نے اپنی روایت میں فرمایا: بحوالہ زوجہ زید بن حارثہ اور ان کا نام نہیں لیا۔

اسے بحوالہ اعمش بھی نقل کیا ہے، لیکن ام بشر کا ذکر نہیں کیا۔ اسی طرح اسے ابن جریر کی روایت سے بحوالہ جابر انہوں نے نبی کریم ﷺ سے روایت کیا، اور لیث کے طریق سے بحوالہ جابر کہ نبی کریم ﷺ ام بشر کے ہاں ان کے کھجوروں کے باغ میں تشریف لائے اور پوچھا: ”یہ کھجوروں کا باغ مسلمان نے لگایا ہے یا کافر نے؟“ انہوں نے کہا: بلکہ مسلمان نے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”مسلمان جو بھی درخت لگاتا ہے.....۔“۔ (الحدیث) ❀

ان کی ایک اور حدیث ہے جسے احمد نے بحوالہ ام بشر نقل کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ میرے ہاں تشریف لائے اور میں انصار کے باغ میں تھی.....۔ حدیث عذاب قبر کے بارے میں ہے۔

### ۱۲۳۹) ام مبشر انصاریہ

دوسری خاتون ہیں، وہ براء بن معرور کی زوجہ ہیں اور پہلے والی کی والدہ ہیں۔ مبشر بن براء مذکور کی والدہ ہیں۔ حمیدی نے اپنی مسند میں فرمایا: ہم سے سفیان نے بحوالہ ابن کعب بن مالک، انہوں نے اپنے والد سے نقل کیا ہے کہ وہ ان کے پاس وفات کے

وقت تھیں، تو ان سے ام بشار نے کہا: بشر کو میری طرف سے سلام کہو۔ انہوں نے کہا: اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مومن کی روح سبز پرندے میں جنت کے پھل کھاتی ہے۔“

وہ اس سے پہلے یا بعد زید بن حارثہ کے پاس تھیں، انہوں نے روایت بھی کی۔

۱۲۲۳۰ ام محجن \*

یہ وہی ہیں جو مسجد میں جھاڑ دیا کرتی تھیں، مجنہ میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

۱۲۲۳۱ ام محمد انصاریہ \*

ان سے حدیث مروی ہے جسے ابوسوی نے حفص بن البوداؤد کے طریق سے اور وہ حفص بن سلیمان قاری ہیں جو حدیث کے ایک ضعیف راوی ہیں، بحوالہ ام محمد انصاریہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ”جو اپنے کھانے اور پینے کے وقت یہ پڑھے:

بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الارض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء لم يضره ما أكل و شرب.\*

۱۲۲۳۲ ام محمد \*

حاطب بن حارث کی زوجہ ہیں، وہ ام جمیل ہیں، حرف جیم میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

۱۲۲۳۳ ام محمد \*

یہ خولہ بنت قیس ہیں، حرف خاء میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

۱۲۲۳۴ ام مَرثَدُ أُسْلَمِيَّة \*

بعض کا قول ہے: غنویہ، ابو عمر کا قول ہے، فتح کے دن اسلام لائیں اور نبی ﷺ سے بیعت کی، ان سے ام خارجہ نے جوزیلہ بن ثابت کی زوجہ ہیں، روایت کی۔

میں کہتا ہوں: ام حارثہ کے سوانح میں ان کی حدیث گزر چکی ہے۔

۱۲۲۳۵ ام مسطح قرشيہ تيميه \*

بعض کا قول ہے: مطلبیہ، یہ ابورہم کی بیٹی ہیں، انیس بن عبدالمطلب بن عبدمناف، بعض کا قول ہے: بنت صخر بن عامر بن

اسد الغابۃ (۷۵۸۴) تجرید (۳۳۴/۲) \* اسد الغابۃ (۷۵۸۵) تجرید (۳۳۴/۲)

جامع المسانید والسنن (۵۳۸/۱۶) اسد الغابۃ (۴۹۳/۵) \* اسد الغابۃ (۷۵۷۶) تجرید (۳۳۴/۲)

اسد الغابۃ (۷۵۸۷) تجرید (۳۳۵/۲) \* اسد الغابۃ (۷۵۸۸) تجرید (۳۳۵/۲)

اسد الغابۃ (۷۵۸۹) تجرید (۳۳۵/۲) \*

کعب بن تیم بن مرہ۔

میں کہتا ہوں: اسی طرح ابو موسیٰ نے بیان کیا ہے، اور وہ غلط ہے۔ یہ سلمیٰ ام خیر کا نسب ہے جو ابو بکر کی والدہ ہیں، وہ بنت صخر ہیں، پھر اس کے آخر تک بیان کیا، دوسرے راویوں کا قول ہے: وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خالہ کی بیٹی ہیں، ان کا نام راطہ بنت صخر ہے..... الخ۔ اسی طرح ابن سعد کا قول ہے، بعض کا قول ہے: ان کا نام سلمیٰ ہے، بعض کا قول ہے: ریطہ ہے۔ اسے ابن امین نے ابن بشکوال کے حوالے سے روایت کیا ہے۔ ابن حزم نے جمہرہ میں اس پر یقین کیا ہے، وہ اپنی کنیت سے مشہور ہیں۔

صحیحین میں قصہ اہلک میں ان کا ذکر ثابت ہے، جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے نکلیں، ان کا پاؤں لڑکھرایا، انہوں نے کہا: مسطح ہلاک ہو، ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: کیا تم بدر میں شریک شخص کو برا بھلا کہہ رہی ہو؟ انہوں نے کہا: کیا تمہیں معلوم نہیں جو اس نے کہا ہے؟ پھر اہلک کا قصہ ذکر کیا، مسطح ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اس بارے میں بات کی، ان کے سواخ میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

ابن سعد کا قول ہے: ام مسطح اسلام لائیں، اس کا اسلام سنو رگیا، وہ سب لوگوں سے زیادہ مسطح کے خلاف ہو گئی تھیں جب انہوں نے تہمت لگانے والوں کی ہاں میں ہاں ملائی۔

#### ۱۲۲۳۶ ام مسعود انصاریہ

حکم بن ربیع بن عامر زرقی کی زوجہ ہیں۔ بعض کا قول ہے: ان کا نام اسماء ہے، بعض کا قول ہے: حبیبہ بنت شریق ہیں۔ ان سے ان کے بیٹے مسعود بن حکم نے روایت کی، نسائی نے ابن اسحاق کے طریق سے بحوالہ مسعود بن حکم کی والدہ ان کی حدیث نقل کی ہے کہ انہوں نے روایت کیا: گویا میں نے علی بن ابوطالب کو رسول اللہ ﷺ کے سفید خچر پر انصار کی گھائی میں دیکھا، وہ کہہ رہے تھے: ”اے لوگو! یہ کھانے پینے کے دن ہیں“ یعنی منیٰ کے ایام۔

#### ۱۲۲۳۷ ام مسلم اشجعیہ

انہیں شرف صحابیت حاصل ہے، اہل کوفہ کے ہاں ان کی حدیث ہے۔ اسے ثوری نے روایت کیا ہے، یہ ابو عمر کا قول ہے۔ میں کہتا ہوں: اسے ابن سکین نے ثوری کے طریق سے بحوالہ ام مسلم اشجعیہ روایت کیا ہے، فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ میرے پاس تشریف لائے، میں چڑے کے ایک قبے میں تھا: ”یہ اچھا ہے اگر اس میں مردار نہ ہو“۔ اسے ابن مندہ نے دو طریق سے نقل کیا ہے، ان میں سے ایک عالی سند سے ثوری تک پہنچتا ہے۔ فرماتے ہیں: اسے قیس بن ربیع نے اسے بحوالہ ام مسلم اشجعیہ سے روایت کیا ہے، اسے ابن سعد نے بحوالہ ثوری روایت کیا ہے۔

#### ۱۲۲۳۸ ام مسلم

حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی خادمہ ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم میں ان کا ذکر ہے۔ ان کا صحابیہ ہونا معروف نہیں، یہ ابن مندہ کا قول ہے۔

اسد الغابۃ (۷۵۹۰) تجرید اسماء الصحابة (۳۳۵/۲) \* اسد الغابۃ (۷۵۹۰) تجرید (۳۳۵/۲) \* الاحاد والمہانی (۳۴۴۵/۶)

اسد الغابۃ (۷۵۹۱) تجرید (۳۳۵/۲) \* مسند احمد (۴۳۷/۶) \* اسد الغابۃ (۴۹۵/۵)

### ۱۲۲۳۹) ام مسیب انصاریہ

حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بخار اور اسے برا بھلا کہنے کے بارے میں ان کی حدیث روایت کی ہے۔ ام سائب میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

### ۱۲۲۵۰) ام مطاع اسلمیہ

ابو عمر کا قول ہے، مدنیہ ہیں، عطاء بن ابومروان کے پاس بحوالہ ان کے والد ان سے مروی حدیث ہے، ان سے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ خیبر میں حاضر تھیں، آپ ﷺ نے ان کے لیے ایک مرد کے برابر حصہ مقرر کیا، اس میں تردد ہے، خیبر میں ان کا شریک ہونا صحیح ہے۔

ابن مندہ نے اپنے قول ”ام مطاع“ پر اضافہ نہیں کیا۔ عطاء بن ابومروان نے بحوالہ ان کے والد ان کی حدیث روایت کی ہے۔

### ۱۲۲۵۱) ام معاذ (بے نسبت)

ابو بشر دولابی نے کئیوں میں ان کی حدیث روایت کی ہے۔ بطریق یحییٰ بن معقل اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، فرماتے ہیں: مجھے ام معاذ نے نبی کریم ﷺ کے پاس بھیجا، میں نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ! مجھے ام معاذ نے بھیجا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کریں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے اللہ! ام معاذ اور معاذ کی مغفرت فرما“۔ آپ ﷺ نے یہ تین مرتبہ فرمایا، مجھے یہ حدیث عالی سند سے ابن صاعد کی چھٹی حدیث میں ابودقت کے طریق سے ملی ہے۔

### ۱۲۲۵۲) ام معاذ انصاریہ

حدیث ام عطیہ میں جو نوے کی ممانعت پر بیعت کے بارے میں ہے، ان کا ذکر ہے، فرماتی ہیں: ہم میں سے ام سلیم، ام علاء اور ام معاذ کے علاوہ کوئی فوت نہیں ہوئی، مستغفری نے اسی طرح نقل کیا ہے، اور وہ ابن سعد کے ہاں ایوب کی روایت سے بحوالہ ام عطیہ مروی ہے۔

صحیح میں ایوب کے طریق سے بحوالہ ام عطیہ مروی ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں: ام سلیم اور ام علاء اور ابوسبرہ کی بیٹی جو معاذ کی زوجہ ہے..... (الحدیث)

### ۱۲۲۵۳) ام معاذ انصاریہ

ابن مندہ کا قول ہے، محمد بن اسحاق نے بحوالہ سالم ابونضر ان کی حدیث روایت کی ہے، فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ اپنے بعض

فوت شدہ اصحاب کے پاس گئے، تو انصار کی ام معاذ نامی خاتون کہنے لگیں: اے ابوسائب! تمہیں جنت کی خوشخبری ہو..... (الحديث) \* اس میں ارسال ہے۔

ام علاء کے لیے یہ قصہ معروف ہے، جیسا کہ گزر چکا ہے، یہ صحیح میں ان کی حدیث سے موصول ہے، ابوسائب عثمان بن مظعون ہیں، شاید یہ کہنے والی زیادہ ہیں یا ان کی دو کنیتیں ہیں۔

### ۱۳۲۵۴ ام معاذ بنت عبد اللہ \*

بن عمرو بن حرام انصاری، جابر بن عبد اللہ کی بہن ہیں۔ ابن سعد \* نے بحوالہ واقدی ذکر کیا ہے کہ وہ اسلام لائیں اور بیعت کی۔

### ۱۳۲۵۵ ام معبد خزاعیہ \*

یہ وہی ہیں جن کے ہاں نبی کریم ﷺ نے ہجرت کر کے پڑاؤ کیا، یہ اپنی کنیت سے مشہور ہیں۔ ان کا نام عاتکہ بنت خالد ہے، ان کے بھائی حمیس بن خالد کے سوانح میں حرف خاء میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔ وہ نبی کریم ﷺ کی مدینہ ہجرت کے بعد ان کے پاس ٹھہرنے کا قصہ بیان کرنے والے ایک راوی ہیں، ان کے سوانح میں اس کی طرف اشارہ گزر چکا ہے، اسے ابو عمر نے بحوالہ عبدالوارث بن سفیان نقل کیا ہے کہ انہوں نے ان کو لکھوایا، فرماتے ہیں کہ ہم سے قاسم بن اسبغ نے بحوالہ ابوہشام محمد بن سلیمان بن حکم انہوں نے میرے دادا ایوب بن حکم سے، انہوں نے حزام بن ہشام سے، انہوں نے اپنے والد حمیس بن خالد جو رسول اللہ ﷺ کے صحابی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، آپ ﷺ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے غلام عامر بن عامر بن فہیرہ تھے۔ ان کو راستہ دکھانے والے عبد اللہ بن اریقہ تھے۔ وہ ام معبد خزاعیہ کے خیمے کے پاس سے گزرے، وہ بڑے ذیل ڈول والی تھیں، وہ کعبہ کے صحن میں کھانا کھلاتی اور پانی پلاتی تھیں۔ انہوں نے ان سے گوشت اور کھجور خریدنا چاہا، لیکن اس کے پاس کچھ نہ تھا۔

وہ لوگ بھوکے تھے، خیمہ کے کونے میں بکری تھی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے ام معبد! کیا اس کا دودھ ہے؟“ وہ کہنے لگیں: یہ بھوکی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا میں اس کا دودھ دوہ لوں؟“ انہوں نے کہا: ہاں جی! اگر اس میں آپ کو دودھ ملتا ہے۔ آپ ﷺ نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا، بسم اللہ پڑھی اور ان کی بکری کے لیے دعا کی تو اس کے تھن دودھ سے بھر گئے، اور وہ جگالی کرنے لگی۔ آپ ﷺ نے برتن منگوایا جس میں دودھ دوہا یہاں تک کہ اس کے اوپر جھاگ چڑھ آیا۔ پھر ام معبد کو پلایا تو وہ سیر ہو گئیں۔ پھر اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو پلایا، وہ بھی سیر ہو گئے، آخر میں خود پیا۔ پھر اسی برتن میں دوبارہ دودھ دوہا اور وہ دودھ ان کے پاس چھوڑ دیا اور وہ بکری ان سے خرید لی۔ اور یہ لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ پھر لمبی حدیث ذکر کی۔

ابن سکین نے خود ام معبد کے حوالے سے حدیث نقل کی ہے، اسے ابن اشعث حفص بن یحییٰ کے طریق سے نقل کیا ہے کہ

\* المعجم الكبير (۳۵۲/۲۵) مجمع الزوائد (۱۹/۳) جامع المسانيد والسنن (۵۴۲/۱۶)

\* تجرید (۴۱۱/۲) \* طبقات کبریٰ (۲۸۸/۸) \* اسد الغابۃ (۷۵۹۷) تجرید (۳۳۵/۲)



ہم سے حزام بن ہشام نے بحوالہ تخیس روایت کیا، فرماتے ہیں: میں نے اپنے والد کو بحوالہ ام معبد بنت خالد جو ان کی پھوپھی ہیں، حدیث نقل کرتے ہوئے سنا کہ نبی کریم ﷺ اور ابوبکر ان کے ہاں اترے، وہ دونوں ایک سواری پر تھے، جب آپ ﷺ مدینے کی طرف روانہ ہوئے، ام معبد نے ان کی طرف ایک بکری بھیجی۔ آپ ﷺ نے قریب کر کے اس کے تھنوں کو دیکھا اور فرمایا: ”اللہ کی قسم! اس بکری کے دودھ ہے۔“ فرماتے ہیں: وہ بیٹھی ہوئی اپنا چبوترہ ٹھیک کر رہی تھیں، عرض کرنے لگیں: بکری واپس کر دیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”نہیں! ایسی بکری بھیجو جس کے دودھ نہ ہو۔“ فرماتی ہیں: میں نے ایک جوان مینی بھیج دی، جسے آپ ﷺ نے قبول کر لیا۔ آپ ﷺ نے جب بکری کو دیکھا تو فرمایا: مجھے لگتا ہے یہ بکری ہمیں اور ہماری جماعت کے سالن کے لیے کافی ہوگی۔

پھر بطریق ابوالنضر بحوالہ ام معبد روایت کی ہے کہ نبی کریم ﷺ ان کے ہاں فروکش ہوئے، انہوں نے ہدیۃ ایک بکری خدمت میں بھیجی۔ آپ ﷺ نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا جو ان کے لیے بڑا شاق تھا۔ لوگوں نے کہا: آپ ﷺ نے یہ بکری اس لیے واپس کر دی ہے کیونکہ یہ دودھیا تھی۔ تو انہوں نے ایک مینہ بھیجا جسے آپ ﷺ نے قبول کر لیا۔

واقدی نے ام معبد کے واقعہ میں اس بکری کا واقعہ نقل کیا جس کے تھنوں پر رسول اللہ ﷺ نے دست مبارک پھیرا تھا کہ وہ بکری یوم الرمادہ قحط کا مشہور سال تک زندہ رہی۔ فرماتی ہیں: ہم صبح و شام اس کا دودھ دھوتے جبکہ آس پاس میں کہیں دودھ نہ ملتا تھا۔

ابن سعد بحوالہ بحواقدی وہ حزام بن ہشام سے اس کا مفہوم روایت کرتے ہیں جس میں یہ اضافہ ہے، ام معبد ان دنوں مسلمان تھیں۔ واقدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ان کے علاوہ کا قول ہے: وہ اس کے بعد آئیں، مسلمان ہوئیں اور بیعت کی۔ پھر واقدی ہی کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ اہل مکہ کو معلوم نہ ہو سکا کہ رسول اللہ ﷺ کس طرف گئے ہیں، یہاں تک کہ انہیں مکہ کے بالائی حصہ میں بچوں اور غلاموں کی آواز سنا دی جو آپ کے پیچھے جا رہے تھے اور آپ کی شخصیت نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ جو تمام لوگوں کا رب ہے، اپنا بہترین بدلہ ان دودھستوں کو عطا فرمائے، جنہوں نے ام معبد کے خیمے میں آرام کیا۔ بنو کعب کی عورت کا مکان کس قدر مبارک ہے اور اس کے ٹھننے کی جگہ مسلمانوں کے لیے گھات ہے۔

عمر بن شبر نے کتاب مکہ میں لکھا ہے کہ ام معبد بنت اشعر آئیں، ان کا سراقہ بن جعشم کے ساتھ پیش آمدہ واقعہ ذکر کیا۔

### ۱۲۲۵۶ ام معبد بنت عبد اللہ

بن عمر بن حرام انصاریہ، جابر بن عبد اللہ کی بہن ہیں۔ واقدی نے ان کا ذکر کیا ہے۔

### ۱۲۲۵۷ ام معبد (قرظ کی مولاہ ہیں)

بن کعب انصاریہ۔ ابن مندہ کا قول ہے: ان کے صحابی ہونے میں اختلاف ہے۔ موسیٰ بن محمد انصاری نے بحوالہ ام معبد قرظ کی مولاہ روایت کیا ہے، فرماتی ہیں: میں رسول اللہ ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو مکہ کی کانیز پلائی تھیں، جن میں معاذ بن جبل بھی تھے، کسی نے ان سے کہا کہ تارکول ملا برتن کانیز جس کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ کہاں تھا؟ انہوں نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ کو حرام

سمجھنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس کے حرام کردہ کو حلال سمجھنے والا۔ رہا ذبا تو وہ کدو ہے، اور حنتم تو وہ مکے ہیں جو عجم کی زمین میں ہوتے ہیں اور تھیر وہ بھجوروں کی جڑیں ہیں، ان سے نبی علیہ السلام نے روکا تھا۔ ابن سکین کو تردد ہے آیا یہ ام معبد وہی ہیں جو دعا کی حدیث روایت کرتی ہیں، جن کا عنقریب ذکر ہو گا یا کوئی اور ہیں۔

### ۱۲۲۵۸ ام معبد زوجہ کعب

بن مالک، محمد بن اسحاق نے بحوالہ معبد بن کعب بن مالک انہوں نے اپنی والدہ سے حدیث روایت کی ہے، انہوں نے دونوں قبول کی طرف نماز پڑھی۔ فرماتی ہیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”بھجور اور کشمش کی اکٹھی نبیذ نہ بناؤ، ہر ایک کی علیحدہ نبیذ بناؤ۔“ اسے احمد، طبرانی اور ابن مندہ نے نقل کیا ہے۔

### ۱۲۲۵۹ ام معبد (بے نسبت)

بعض کا قول ہے: انصاریہ ہیں، عبدالرحمن بن زیاد بن انعم نے بحوالہ ام معبد ان کی حدیث روایت کی ہے کہ نبی کریم ﷺ دعا کر رہے تھے: ”اے اللہ! میرے دل کو نفاق سے، میرے عمل کو ریا کاری سے، میری زبان کو جھوٹ سے، میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے، تو آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، اور جو کچھ دلوں میں مخفی ہے۔“

اسے ابو نعیم نے نقل کیا ہے اور خزاعیہ سے علیحدہ اس کا ذکر کیا ہے۔ ابو موسیٰ نے اس کی پیروی کی ہے، رہے ابن سکین تو انہوں نے اسماء میں عاتکہ میں خزاعیہ کے سوانح میں حدیث کا ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں: ام معبد کے مولیٰ نے ام معبد سے دعا کے بارے میں حدیث ذکر کی، پھر کنتوں میں فرمایا: ام معبد انصاریہ، دو خیموں والی یعنی خزاعیہ نہیں، پھر اسی سند اور متن سے دوسرے شیخ سے حدیث بیان کی۔ پھر فرمایا: ان ام معبد کی اس حدیث کے علاوہ مجھے کوئی اور روایت نہیں کی۔ اس کی اسناد میں تردد ہے، ایسا ہی ہے جیسا کہ انہوں نے کہا، وہ فرق بن فضالہ کی روایت بحوالہ ابن انعم ہے، وہ دونوں ضعیف راوی ہیں، پھر فرمایا: بحوالہ ابن حارث، انہوں نے ام معبد مولاۃ قرظہ سے ظروف کے بارے میں حدیث روایت کی، مجھے معلوم نہیں کہ یہ وہی ہیں یا اس کے علاوہ ہیں۔ باوجودیکہ وہ مضبوط حافظے والے ہیں لیکن اس سلسلے میں ان کی بات قابل اعتراض ہے۔

### ۱۲۲۶۰ ام معبد ام مغیث میں ان کا ذکر آئے گا۔

### ۱۲۲۶۱ ام معقل اسدیہ

ابو معقل کی زوجہ ہیں، بعض کا قول ہے: اٹھجیہ ہیں، بعض نے کہا: انصاریہ ہیں۔ اصحاب سنن ثلاثہ میں ان کی حدیث مروی ہے۔

اسد الغابۃ (۷۵۹۹) تجرید (۲/۳۳۵)

مسند احمد (۱۸۱۶) المفجم الكبير (۲۵/۳۵۴) جامع المسانید والسنن (۱۶/۳۵۴)

اسد الغابۃ (۷۶۰۰) تجرید (۲/۳۳۶)

جامع المسانید والسنن (۱۶/۵۴۵) اسد الغابۃ (۵/۴۹۷)

اسد الغابۃ (۷۶۰۱) تجرید (۲/۳۳۷)

اس کا مفصل بیان رجال کی کشتیوں میں ان کے شوہر کے سوانح میں گزر چکا ہے، ان کی حدیث کی سند میں اختلاف کا ذکر ہے۔ ”رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے“۔ بعض کا قول ہے: صحیح میں حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما میں جن خاتون کا ذکر ہے، ان سے مراد یہی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے انصار کی ایک خاتون سے فرمایا: ”تمہیں ہمارے ساتھ حج کرنے سے کس نے روکا؟“ فرماتی ہیں: ہمارا ایک اونٹ تھا، اس پر ابوہریرا اور ان کے شوہر کی بیٹی اور ان کا بیٹا سوار ہوئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جب رمضان کا مہینہ آئے تو عمرہ کرو، کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے“۔

لیکن مسلم میں ثابت ہے کہ یہ ام سنان ہیں، اگرچہ ان کی کثیت میں اختلاف ہو یا بہت سے قصے ہوں، وہ زیادہ مناسب ہے۔

### ۱۲۶۶۲ ام مغیث

ابن مندہ کا قول ہے: انہیں شرف صحابیت حاصل ہے۔ پھر سعید بن ابومریم کے طریق سے بحوالہ ام مغیث حدیث روایت کی ہے کہ نبی کریم ﷺ کو انہوں نے دو شریکوں سے منع فرمایا ہے۔

میں کہتا ہوں: فرماتے ہیں: وہ کھجور اور کشمش ہیں، طبرانی نے اضافہ کیا ہے کہ ام مغیث ربیعہ بن ابوعبدالرحمن کی دادی ہیں، انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی۔ ابوعمر کا قول ہے، اہل مدینہ میں ان کا شمار ہے۔ عبداللہ بن یوسف کے ہاں بحوالہ ان کے والد، ان سے مروی حدیث ہے، دو شریکوں اور نشہ آور چیز کے حرام ہونے کے بارے میں، بعض کا قول ہے یہ ام ابن ابوعبدالرحمن کی والدہ ہیں، انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی۔ ابن فرضی نے ذکر کیا ہے کہ ابن وہب نے مذکورہ حدیث روایت کی کہ محمد بن وضاح نے اس کا تعاقب کیا ہے۔ پھر اسے بحوالہ حرمہ بیان کیا ہے کہ ابن وہب نے اس میں خطا کی، فرماتے ہیں: ام مغیث، وہ ام معبد ہیں۔

میں کہتا ہوں: گویا اس دعوے پر مجبور کرنے والی چیز متن کا اتحاد ہے۔ اس کا وصف یہ ہے کہ انہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی، اس میں تردد ہے، کیونکہ دونوں حدیثوں کا مخرج مختلف ہے۔ ایک ہی حدیث کی روایت پر دونوں صحابہ رضی اللہ عنہما کا اتفاق ہے۔ ان کا ایک ہی صفت پر اجتماع بعید نہیں، ابن وہب پر اس کے حفظ کے ساتھ وسعت روایت کا حکم مردود ہے۔ اگر یہ ابومغیث کے قول کے ساتھ متفرد ہے تو وہ متفرد نہیں، بلکہ سعید بن ابومریم نے اس سے موافقت کی، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ابن عبدالبر نے ام معبد کے سوانح ام مغیث کے بعد نقل کیے ہیں، فرماتے ہیں: دو شریکوں کے بارے میں روایت کی۔ ان سے معبد بن کعب نے روایت کی، پھر میں نے خطیب کی مؤلف میں پایا، ام مغیث، پھر ابن عبدالحکم کے طریق سے بحوالہ ابن وہب پوری حدیث روایت کی، پھر خطیب نے فرمایا: پھر میں نے حدیث کو دوسرے طریق سے پایا، فرماتے ہیں کہ اس میں ام معتب ہیں، پھر اسے بکر بن یونس بن بکر کے طریق سے بحوالہ عبد الجبار اسے روایت کیا۔

میں کہتا ہوں: یہ اس کی تحریر میں تیسرا اختلاف ہے، اور اسحاق بن ابوفروہ بہت ضعیف ہیں۔

### ۱۲۲۶۳ ام مغیرہ بنت نوفل ❁

بن حارث بن عبدالمطلب ہاشمیہ، کنیتوں میں تمیم داری کے مولیٰ ابو براء کے سوانح میں ان کا ذکر گزر چکا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے تمیم سے ان کے والد کی اجازت سے ان کا نکاح کرادیا، تجرید میں اس کی اصل کی اتباع میں لکھا ہے، ام مغیرہ بن نوفل، بحوالہ ابوموسیٰ نقل کیا ہے۔ وہ لفظی غلطی ہے، صحیح یہ ہے: بنت نوفل جیسا کہ میں نے ذکر کیا، اسی طرح ابوموسیٰ کے ذیل میں ہے۔

### ۱۲۲۶۴ ام مکتوم ❁

فاکبی کی کتاب اخبار مکہ کی جلد ثانی کے آخر میں اس کا ذکر ہے، عطاء کی روایت میں بحوالہ فاطمہ بنت قیس ان کا ذکر ہے۔

### ۱۲۲۶۵ ام منذر بنت قیس ❁

بن عمرو بن عبید بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار انصاریہ نجاریہ۔ طبرانی کا قول ہے: ان کا نام سلمیٰ بنت قیس ہے۔ سلیط بن قیس کی بہن ہیں، بنو مازن بن نجار سے ہیں۔

میرے نزدیک وہ اس کے علاوہ ہیں، سلمیٰ بنت قیس کی حدیث بیعت میں گزر چکی ہے، ام منذر کی حدیث کو ابوداؤد ❁ اور ترمذی، ابن سعد، ابن ماجہ نے فلیح بن سلیمان کے طریق سے بحوالہ ام منذر بنت قیس انصاریہ نقل کیا ہے، فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ میرے پاس آئے اور آپ ﷺ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بیمار تھے، ان کے پاس کھجوروں کے خوشے لگے ہوئے تھے۔

رسول اللہ ﷺ کھانے لگے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے علی! رک جاؤ، تم بیمار ہو“۔ یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رک گئے۔ فرماتی ہیں: میں نے آپ کے لیے جو چند تیار کئے تھے وہ لے کر آئی، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے علی! اس میں سے کھاؤ، یہ تمہارے لیے اچھا ہے“۔

الفاظ ابوداؤد کے ہیں، ترمذی کا قول ہے: حسن غریب ہے، ہم اسے حدیث فلیح کے علاوہ نہیں جانتے۔ اس بات کا تعاقب کیا ہے کہ وہ ابن ابوفدیح کے طریق سے بحوالہ یعقوب اسی طرح مروی ہے۔

میں کہتا ہوں: فلیح بن سلیمان اسلمی، ان کی کنیت ابویحییٰ اور ابن محمد ہے، جو بخاری کے رجال میں سے ہیں اور ابن ابوفدیح، ان کے ساتھیوں میں سے ہیں، گویا انہوں نے ان کے حوالے سے اسے محمول کیا ہے، ان کے بیٹے کا نام کم سنی کی وجہ سے صاف نہیں لیا۔ محمد بن اسحاق کا قول ہے: محمد بن ابویحییٰ جو ابراہیم شافعی رضی اللہ عنہ کے شیخ کے والد ہیں کے ساتھ مل گیا، وہ ان سے ملے نہیں، بلکہ فلیح کی طرف خبر راجع ہوگی، جیسا کہ ترمذی کا قول ہے۔ ابن سعد رضی اللہ عنہ ❁ کا قول ہے، ان کی والدہ رغیہ بنت زرارہ بن عبید بن عدس نجاریہ ہیں، ان سے قیس بن مصعب بن وہب نے نکاح کیا۔

❁ اسد الغابۃ (۷۶، ۳) تجرید (۳۳۶/۲) ❁ اسد الغابۃ (۷۶، ۴) تجرید (۳۳۶/۲)

❁ ابوداؤد (۳۸۵۶) ❁ طبقات الکبریٰ (۳۰۸/۸)

### ۱۲۲۶۶ ام منظور بنت محمد

بن سلمہ انصاریہ، ان کے والد کے سوانح میں ان کا نسب گزر چکا ہے۔ ابن اثیر \* نے ان کا ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں: انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے بیعت کی، یہ ابن حبیب کا قول ہے۔

### ۱۲۲۶۷ ام منظور بنت محمود

بن سلمہ انصاریہ، ان کے والد کے سوانح میں ان کا نسب گزر چکا ہے۔ یہ ہند کی سگی بہن ہیں، جن کا ذکر گزر چکا ہے۔ ابن سعد رحمہ اللہ نے نبی کریم ﷺ سے بیعت کرنے والوں میں ان کا ذکر کیا ہے، پہلی والی میں ان کا ذکر نہیں کیا، فرماتے ہیں: ان سے لبید فقیہ کی ولادت ہوئی، انہوں نے اس کا نام اپنے والد کے نام پر رکھا، اسی طرح ان سے منظور بن لبید کی ولادت ہوئی جس پر ان کی کنیت ہے، وہ محمود سے بڑے ہیں۔

### ۱۲۲۶۸ ام منیع، شہاب کی والدہ

بعض کا قول ہے: یہ اسماء بنت عمرو ہیں، حرف الف میں جن کا ذکر گزر چکا ہے۔ ابن سعد \* نے واقدی کے حوالے سے اپنی مسند سے جسے وہ ام عمارہ تک لے گئے ہیں، نقل کیا ہے۔ فرماتی ہیں: بیعت عقبہ کی رات مرد رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ جب میں اور ام منیع باقی رہ گئیں تو میرے شوہر غزیہ بن عمرو نے پکارا: یا رسول اللہ ﷺ! یہ دو عورتیں ہمارے ساتھ آپ ﷺ سے بیعت کرنے حاضر ہوئی ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں نے تم دونوں سے بیعت لے لی، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔“

ابن سعد رحمہ اللہ نے اسی طرح فرمایا: ان کی والدہ اپنے شوہر خدیج بن سلامہ کے ساتھ عقبہ میں اور خیبر میں بھی حاضر تھیں۔

القسم الثاني خالی ہے۔

القسم الثالث

### ۱۲۲۶۹ ام منہال

مالک بن نویرہ تمیمی کی زوجہ ہیں، ان کے شوہر کے سوانح میں ان کا ذکر ہے۔

### ۱۲۲۷۰ ام مہاجر رومیہ

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام لائیں، بخاری رحمہ اللہ ادب المفرد میں فرمایا: ہم سے موسیٰ نے بیان کیا، وہ فرماتے

\* اسد الغابہ (۶۷۰/۵) \* اسد الغابہ (۶۹۸/۵) \* تجرید (۳۳۶/۲)

\* اسد الغابہ (۷۶۰/۶) \* تجرید (۳۳۶/۲) \* طبقات الکبریٰ (۲۹۸/۸)

ہیں کہ ہم سے عبدالواحد نے وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے ایک بوڑھی خاتون ثوبیہ جو علی بن غراب کی دادی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے ام مہاجر نے روایت کی، فرماتی ہیں کہ میں اور چند رومی لڑکیاں قیدی بنائی گئیں، ان پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسلام پیش کیا۔ میرے اور ایک اور لڑکی کے علاوہ کسی نے اسلام قبول نہیں کیا۔ انہوں نے کہا: ان دونوں کا ختنہ کرو اور انہیں پاک کرو۔ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت کرتی تھی۔

#### ۱۲۲۶۱ ام موسیٰ لخمیہ

نصیر لخمی کی زوجہ ہیں، جو موسیٰ بن نصیر کے والد ہیں۔ یہ مشہور امیر ہیں جنہوں نے اُندلس فتح کیا، انہوں نے نبوت کا زمانہ پایا۔ رشاطی نے ذکر کیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ یرموک میں حاضر تھے تو انہوں نے اس وقت ایک کافر کو قتل کیا اور اس کا سامان اتار لیا، عبدالعزیز بن مروان ان سے یہ واقعہ سنتے تو وہ ان سے بیان کرتیں، کہتیں: ہم عورتوں کی جماعت میں تھیں، اچانک مردوں نے حملہ کیا تو مجھے ایک کافر کسی مسلمان کو گھسیٹتے ہوئے نظر آیا۔ میں نے جلدی سے خیمے کا کھونٹا لے کر قریب ہو کر اس کا سر پھیل دیا اور اس کا سامان لینے لگی تو وہ بھی مسلمان مرد میری مدد کرنے لگا۔

#### القسم الرابع

#### ۱۲۲۶۲ ام محمد بن حاطب

یہ ام جمیل ہیں، جس نے ام محمد کے استدراک میں ان کا ذکر کیا ہے، اسے وہم ہوا ہے کیونکہ ان کا ایک بیٹا ہے جس کا نام محمد ہے، حرف عین کے آخر میں، میں نے اس کے فساد کا ذکر کر دیا ہے۔

#### ۱۲۲۶۳ ام معبد

قسم اول میں ان کے بارے میں قول گزر چکا ہے۔

#### ۱۲۲۶۴ ام معتب

ابن وضاح کے دعوے کے شروع میں گزر چکا ہے کہ ابن وہب نے ان کے بارے میں لفظی غلطی کی ہے۔



## حرف نون

### القسم الاول

۱۲۲۵۵ ام نبیط

ابن اثیر کا قول ہے، ان کے نام میں اختلاف ہے۔

میں کہتا ہوں: میں نے فاطمہ بنت مخبی کے سامنے بحوالہ سلیمان بن حمزہ اور ابو نصر بن شیرازی پڑھا۔ عبیط بن جابر اپنی دادی ام عبیط سے روایت کرتے ہیں، فرماتی ہیں کہ ہم نے بنو نجار کی ایک لڑکی کو تیار کر کے اس کے خاوند کی طرف رخصت کیا، میں بنو نجار کی عورتوں کے ساتھ تھی، میرے ساتھ دفلی تھی جسے بجا کر میں کہہ رہی تھی:

”ہم تمہارے پاس آئے، ہم تمہارے پاس آئے، تم ہمیں سلام کرو، ہم تمہیں سلام کرتے ہیں، اگر سرخ سونا نہ ہوتا تو یہ تمہاری دادی میں نہ اترتی۔“

فرماتی ہیں رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس کھڑے ہو کر فرمانے لگے: ”ام عبیط یہ کیا کہہ ہے؟“ میں نے عرض کی: میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، اللہ کے نبی ﷺ ہمارے بنی نجار کی ایک لڑکی کی رخصتی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم کیا کہہ رہی تھی؟“ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”یوں کہو! اگر سفید گندم نہ ہوتی تو تمہاری لڑکیاں موٹی نہ ہوتیں۔“

میں کہتا ہوں: یہ حدیث غریب ہے، اسے ابن مندہ نے بحوالہ ..... اسے ابن اثیر نے بحوالہ ابو قاسم بن ابو علاء نقل کیا ہے، گویا ہمارے شیخ نے ان سے سنا، ابو نعیم کا قول ہے: ان کے سوانح میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

میں کہتا ہوں: ابو نعیم نے ذکر کیا ہے کہ ان کا نام ناملہ بنت حساس ہے، میں نے اسے حرف نون میں ذکر کیا ہے، یہ ان کی شرط کے مطابق ہے پھر بھی انہوں نے ان کا ذکر چھوڑ دیا۔

۱۲۲۵۶ ام نصر محاریبہ

ابن اسحاق نے ان کی حدیث بحوالہ ابو نصر محاریبہ نقل کیا ہے، فرماتی ہیں: ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے پالتو گدھوں کے گوشت کے بارے میں سوال کیا، فرماتے ہیں: ”کیا وہ چارہ اور درخت کے پتے نہیں کھاتے؟“ انہوں نے کہا: جی ہاں! آپ ﷺ نے فرمایا: ”تو ان کا گوشت کھاؤ۔“ اسے طبرانی اور ابن مندہ نے نقل کیا ہے۔ ابو عمر کا قول ہے: ابراہیم بن مختار رازی بحوالہ محمد بن اسحاق ان کے ذکر میں تنہا ہیں، یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جن کی حدیث بطور دلیل لی جاتی ہے۔

اسد الغابۃ (۷۶۰۸) تجرید (۳۳۶/۲) اسد الغابۃ (۴۹۹/۵) بیاض فی الأصل

اسد الغابۃ (۷۶۰۹) تجرید (۳۳۶/۲) المعجم الکبیر (۳۹۰/۲۵)

### ۱۳۲۷۷ ام نعمان بنت رواحہ

یہ عمرہ ہیں، صحیح ابوعوانہ میں اس حدیث میں ان کی کنیت ہے جسے مسلم نے ان کے نام سے نقل کیا ہے۔

### ۱۳۲۷۸ ام نہشل بنت عبیدہ

ابن سعید بن العاص بن امیہ، ان کے والد بدر میں قتل ہوئے۔ وہ مکہ میں تھیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں سیلاب سے غرق ہوئیں۔ یہ اس کتاب کی شرط کے مطابق ہیں، جبکہ حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ میں کوئی ایسا موجود نہ تھا جو اسلام نہ لایا ہو۔ فاکہی نے کتاب مکہ میں فرمایا: اسلام کے زمانے میں مکہ میں جو سیلاب آیا وہ سیلاب ام نہشل تھا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آیا۔ مکہ کے بلند حصے سے آیا یہاں تک کہ مسجد حرام میں داخل ہو گیا۔ اس کا بہاؤ دو حویلیوں کے درمیان تھا۔ ام نہشل بنت عبیدہ بن سعید بن العاص بن امیہ اس میں بہہ گئیں۔ پھر مکہ کے زیریں حصے سے انہیں نکالا گیا، اس سیلاب کا نام سیلاب ام نہشل رکھا گیا۔

### ۱۳۲۷۹ ام نیار بنت زید

بن مالک بن عدی بن کعب بن عبد شہل انصاریہ، پھر اشہلیہ جو سعد بن زید کی بہن ہیں، واقدی نے بیعت کرنے والی صحابیات میں ان کا ذکر کیا ہے۔ ابن سعد کا قول ہے: ہمیں انصار کے نسب میں ان کا ذکر نہیں ملا۔  
نوٹ: قسم ثانی، ثالث اور رابع خالی ہیں۔





## حرف الہاء

### القسم الاول

۱۳۲۸۰ ام ہاشم

ام ہشام میں ان کا ذکر آئے گا۔ ابن عبدالبر \* کا قول ہے، ان سے خیب بن عبدالرحمن بن یساف نے روایت کی ہے۔ ابن فتحون نے ان کا تعاقب کیا ہے کہ خیب نے ان کے واسطے سے روایت کی ہے، ایسا ہی ہے جو انہوں نے کہا۔

۱۳۲۸۱ ام ہانی بنت ابوطالب \*

بن عبدالمطلب بن ہاشم ہاشمیہ، نبی کریم ﷺ کی چچا زاد ہیں، بعض نے کہا: ان کا نام فاختہ ہے، ایک قول ہے کہ ان کا نام فاطمہ ہے۔ ایک قول کے مطابق ان کا نام ہند ہے۔ پہلا قول زیادہ مشہور ہے۔ ہمیرہ بن عمرو بن عائد بن عمر بن عمران مخزومی کی زوجہ ہیں۔

ابن کلبی رحمہ اللہ نے بحوالہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں: نبی کریم ﷺ نے ابوطالب کے پاس ام ہانی کے نکاح کا پیغام بھیجا، اور ہمیرہ نے بھی نکاح کا پیغام دیا، انہوں نے ہمیرہ سے ان کا نکاح کر دیا۔ تو نبی کریم ﷺ نے ان سے عتاب کیا، تو ابوطالب کہنے لگے: اے میرے بھتیجے! ہم نے انہیں رشتہ دیا ہے، شریف آدمی، شریف آدمی کو بدلہ دیتا ہے۔

پھر اسلام نے ام ہانی اور ہمیرہ کے درمیان تفریق کرادی تو نبی کریم ﷺ نے انہیں نکاح کا پیغام دیا۔ وہ کہنے لگیں: اللہ کی قسم! میں آپ سے جاہلیت میں محبت رکھتی تھی اب اسلام میں کیسے نہ رکھوں! لیکن میں ایک مصیبت زدہ عورت ہوں، مجھے ناپسند ہے کہ آپ کو ایذا پہنچاؤں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”عورتوں میں سے بہتر عورتیں، اونٹوں پر سوار ہونے والی قریش کی عورتیں ہیں، اولاد پر شفقت کرتی ہیں.....“۔ (الحدیث) \*

ابن سعد رحمہ اللہ نے صحیح سند سے بحوالہ شععی نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: نبی کریم ﷺ نے حضرت ام ہانی کو نکاح کا پیغام دیا، انہوں نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ میں اپنی آنکھ اور کان سے زیادہ آپ کو محبوب رکھتی ہوں۔ شوہر کا حق بہت بڑا ہے، مجھے یہ خوف ہے کہ شوہر کا حق ادا نہ کر سکوں..... پھر حدیث ذکر کی۔

ابوفل بن ابوعقرب کے طریق سے ہے۔ فرماتے ہیں: ان کو نکاح کا پیغام دیا تو آپ نے اپنے سامنے موجود دونوں بچوں سے کہا: ”دودھ پینے کے لیے یہ کافی ہے اور ساتھ لیٹنے کے لیے یہ کافی ہے“۔ پھر حدیث ذکر کی۔ یہ دونوں مرسل ہیں۔

\* الاستیعاب (۳۶۵۴) \* الاستیعاب (۱۹۶۳/۴) \* اسد الغابۃ (۷۶۱۲) الاستیعاب (۳۶۵۴) تجرید (۳۳۷/۲)

\* بخاری (۵۳۶۵) مسلم (۶۴۰۳) مسند (۲۶۹/۲)

سدی کے طریق سے بحوالہ ابوصالح مولیٰ ام ہانی مروی ہے، فرماتے ہیں: نبی کریم ﷺ نے ام ہانی کو نکاح کا پیغام دیا، تو وہ کہنے لگیں: میں عیال دار ہوں۔

جب ان کے بیٹے بڑے ہو گئے تو انہوں نے اپنے نفس کو آپ ﷺ پر بہہ کر دیا، تو کہا: اب ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ آیت اتاری: ﴿آپ کی پھوپھی زاد اور آپ کی ماموں زاد اور آپ کی خالہ زاد اور جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی﴾۔

ابوعمر کا قول ہے: جب مکہ فتح ہوا تو ہمیرہ نجران کی طرف بھاگ گیا، اس بارے میں شعر کہے اور اپنے فرار کے بارے میں معذرت کی، جب اسے یہ معلوم ہوا کہ ام ہانی اسلام لے آئی ہیں تو ان کے بارے میں شعر کہے، اس کا ان سے ایک بیٹا عمرو جس پر اس کی کنیت تھی، اور ہمیرہ اور ان دونوں کے علاوہ.... ام ہانی نے نبی کریم ﷺ سے احادیث روایت کیں، جو کتب ستہ وغیرہ میں ہیں۔ ان سے ان کے بیٹے جعدہ، ان کے بیٹے یحییٰ اور ان کے پوتے ہارون نے روایت کی، ان کے موالی ابومرہ، ابوصالح، ان کے چچا زاد عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن حارث بن نوفل ہاشمی، ان کے بیٹے عبداللہ، عبدالرحمن بن ابولیلی، مجاہد، عروہ، اور دوسرے لوگوں نے روایت کی، ترمذی وغیرہ کا قول ہے: حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد زندہ رہیں۔

### ۱۲۲۸۲ ام ہانی انصاریہ

ابوعمر کا قول ہے: ابن لہیعہ کے پاس ان کی روایت بحوالہ ابواسود مروی ہے کہ انہوں نے درہ بنت معاذ سے بحوالہ ام ہانی انصاریہ حدیث روایت کرتے ہوئے سنا کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا، فرمانے لگیں: جب ہم مرجائیں کیا ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے اور ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”روح پرندے میں درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ حتیٰ کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ہر روح اپنے جسم میں داخل ہو جائے گی۔“

اسے ابوبکر بن ابوشیبہ اور ابن سعد، ابن ابوشیثمہ نے بحوالہ اشعث روایت کیا ہے۔ اسی طرح حسن بن سفیان نے بحوالہ حسن اسے نقل کیا ہے۔ ابوعمر کا قول ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کا قول ہے: بحوالہ ام ہانی اور بعض فرماتے ہیں: ام قیس۔ میں کہتا ہوں: ام قیس میں گزر چکا ہے کہ عقلی نے حدیث کو انہی الفاظ میں ابن لہیعہ کے طریق سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں: بحوالہ ام قیس ابوقیس نے ان کا ذکر کیا ہے، ابوموسیٰ نے ان کی پیروی ضعیف حدیث سے کی ہے، بروایت حسن بن ابوجعفر بحوالہ ام ہانی کہ رسول اللہ ﷺ کسی زمین میں تشریف لے گئے تو چرواہے کو کپڑوں کے بغیر دیکھا۔ تو فرمایا: ”اے فلاں! کوئی جگہ دیکھو، اور وہاں یہ بکریاں چھوڑ دو، اپنی مزدوری پوری لے کر اپنے گھر چلے جاؤ۔“ وہ کہنے لگا: اللہ کے رسول ﷺ! کیا میں جائیداد کا نظام و انصرام اچھے طریقے سے نہیں کر سکتا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیوں نہیں! ہمیں ایسے شخص کی ضرورت نہیں جسے تنہائی میں بھی اللہ سے حیا نہ ہو۔“

سورة الاحزاب الآية (۵۰) \* اسد الغابۃ (۷۶۱۱) الاستیعاب (۳۶۸۵) تجرید (۳۳۷/۲)

مسند احمد (۴۲۵/۶) مجمع الزوائد (۳۲۹/۲) اتحاف السادة المتقين (۳۸۷/۱۰) کنز لاعمال (۳۲۵۴)

الاستیعاب (۱۹۶۴/۴) \* جامع المسانید والسنن (۵۸۹/۱۶) اسد الغابۃ (۵۰۳/۵)

ذہبی کا قول ہے: حدیث مرسل ہے، اس کی اسناد ضعیف ہیں۔

میں کہتا ہوں: رہی اس کی ضعیف سند تو وہ واضح ہے، کیونکہ لیث ضعیف ہے اور حسن متروک ہیں۔ مسلم اور ان کی والدہ دونوں مجہول ہیں، کیونکہ ابو نعیم کے شیخ اور ان کے شیخ کے شیخ میں اختلاف ہے۔ رہا مرسل ہونا تو اگر اہرام ہذیل، حفصہ بنت سیرین ہیں تو اس کا احتمال ہے، لیکن اس کے ارادے میں ان کا کلام واضح نہیں، اگر وہ اس کے علاوہ ہیں تو گویا اس پر تنبیہ ہونی چاہیے۔

### ۱۲۲۸۴ ام ابوہریرہ\*

ان کا نام امینہ ہے، ان کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔

### ۱۲۲۸۵ ام ہشام بنت حارثہ\*

بن نعمان انصاریہ۔ ان کے والد کے سوانح میں ان کا نسب گزر چکا ہے۔ ابو عمر کا قول ہے، ام ہاشم، بعض نے کہا: ام ہشام، احمد بن زہیر نے فرمایا: میں نے اپنے والد کو بحوالہ ام ہشام بنت حارثہ فرماتے ہوئے سنا، میں نے بیعت رضوان میں بیعت کی، مسلم نے حبیب بن عبد الرحمن کے طریق سے بحوالہ حارثہ نقل کیا ہے، فرماتی ہیں: ہمارا اور رسول اللہ ﷺ کا نور ایک تھا، میں نے سورۃ ﴿ق وَالْقُرْآنَ الْمَجِيدُ﴾ رسول اللہ ﷺ سے سن کر یاد کی..... (الحدیث)\*  
اسے اصحاب سنن نے دوسرے طریق سے بحوالہ ام ہشام بنت حارثہ بن نعمان نقل کیا ہے۔ ان میں سے بعض نے دوسرے قصے کو مختصر کیا ہے۔

ام ہاشم کے حالات میں گزر چکا ہے جو کچھ ابن عبد البر نے اس بارے میں لکھا، ابن سعد کا قول ہے: ام ہشام بنت حارثہ، بنو مالک بن نجار سے ہیں، ان کی والدہ ام خالدہ بنت خالد بن یحیش بن قیس بن زید مناة ہیں، ان سے عمارہ بن حجاب بن سعد بن قیس نے نکاح کیا، اسلام لائیں اور بیعت کی، اور حدیث سنو، بحوالہ واقدی ان کی سند سے جو ان تک پہنچتی ہے روایت کی ہے، اور ابن اسحاق کے طریق سے طویل حدیث اپنی سند سے جو یحییٰ بن عبد اللہ تک پہنچتی ہے ان کے حوالے سے نقل کی ہے۔

### ۱۲۲۸۶ ام ابوہشیم بن تیہان انصاری\* مسند بزار میں ان کا ذکر آیا ہے۔

نوٹ: قسم ثانی اور قسم ثالث دونوں خالی ہیں۔

### القسم الرابع

### ۱۲۲۸۷ ام ہلال بنت بلال\*

ابن مندہ نے ان کا ذکر کیا ہے، اور مسلم کے لیے نقل کیا ہے، ابو نعیم نے اس پر عیب لگایا ہے۔ پھر فرمایا، صحیح یہ ہے: ام ہلال

بنت بلال۔

\* اسد الغابۃ (۷۶۱۴) تجرید (۳۳۷/۲) \* اسد الغابۃ (۷۶۱۵) تجرید (۳۳۷/۲) \* تجرید (۳۳۷/۲)

\* سورۃ ق الآیۃ (۱) \* مسلم (۲۰۱۲) ابوداؤد (۱۱۰۰) نسائی (۹۴۸) \* اسد الغابۃ (۷۶۱۶) تجرید (۳۳۷/۲)

## حرف واو

### القسم الاول

۱۲۲۸۸ ام وائل بنت معمر جمحیہ

جیل بن معمر کی بہن ہیں، بعض کا قول ہے: انہیں شرف صحابیت حاصل ہے۔

۱۲۲۸۹ ام ورقہ بنت حمزہ

بن عبد المطلب، ابو موسیٰ نے بحوالہ مستغفری ان کا ذکر کیا ہے۔ اور بحوالہ ابن حبان نقل کیا ہے کہ انہوں نے ان کے نام میں اختلاف کیا ہے۔ بعض کا قول ہے: امامہ۔ بعض نے کہا: اس کے علاوہ ہیں، اور ان کی کنیت ام ورقہ کا ذکر نہیں کیا۔

۱۲۲۹۰ ام ورقہ بنت عبد اللہ

بن حارث بن عویم بن نوفل انصاریہ، بعض کا قول ہے: ام ورقہ بنت نوفل ان کے جد اعلیٰ کی طرف ان کی نسبت کی گئی۔ ابو داؤد نے کعب کے طریق سے بحوالہ ام ورقہ بنت نوفل حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب بدر میں جہاد کیا تو انہوں نے آپ ﷺ سے فرمایا: مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کے ساتھ آؤں، میں مریضوں کی دوا کروں گی، ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے شہادت عطا فرمائیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اپنے گھر میں قرار پکڑو، اللہ تمہیں شہادت دے گا۔“ اس لیے انہیں شہیدہ کہا جاتا تھا۔ انہوں نے قرآن پڑھ لیا تھا اور نبی کریم ﷺ سے اجازت مانگی کہ اپنے گھر میں اذان دینے کے لیے مؤذن رکھیں۔ آپ ﷺ نے انہیں اجازت دے دی۔ انہوں نے اپنے ایک غلام اور لونڈی کو مدبر بنایا ہوا تھا۔ ایک رات وہ دونوں ان کے پاس آئے، اور ان کا گلا گھونٹ کر قتل کر دیا۔ وہ فوت ہو گئیں تو یہ دونوں چلے گئے۔ صبح کے وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں سے خطاب کر کے کہنے لگے، کسے ان دونوں کے بارے میں علم ہے؟ یا جس نے انہیں دیکھا ہے وہ انہیں لے آئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دونوں کو سولی دینے کا حکم دیا، وہ مدینہ میں سب سے پہلے سولی دیئے گئے۔

محمد بن فضیل کے طریق سے بحوالہ ام ورقہ بنت عبد اللہ بن حارث یہ نقل کیا گیا ہے، پہلی روایت زیادہ مکمل ہے۔ اسے ابن سکین نے محمد بن فضیل کے طریق سے نقل کیا ہے، اس کے الفاظ ہیں، انہوں نے فرمایا: یا رسول اللہ ﷺ! اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے ساتھ جہاد کروں، میں مریضوں کا علاج اور زخموں کو دوا دوں گی، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے شہادت عطا فرمائیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے ام ورقہ! اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں گھر میں شہادت عطا فرمائے گا۔“ رسول اللہ ﷺ

اسد الغابۃ (۷۶۱۷) تجرید (۳۲۷/۲) اسد الغابۃ (۷۶۱۸) الاستیعاب (۳۶۸۶) تجرید (۳۳۷/۲)

ابوداؤد (۵۹۱) الاستیعاب (۱۹۶۵/۴)

ان کے گھر تشریف لائے، اور آپ کے لیے ایک مؤذن مقرر کر دیا تھا۔ فرماتے ہیں: ان کا ایک غلام اور لونڈی تھی، انہوں نے ان دونوں کو مدبر بنایا تھا۔ ایک رات وہ دونوں اٹھے اور ان کا گلا گھونٹ کر انہیں قتل کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ کی قسم! میں نے اپنی خالہ ام ورقہ کی رات کو قراءت نہیں سنی۔ وہ گھر میں داخل ہوئے تو کچھ نہ تھا۔ وہ اندر گئے تو وہ چادر لپٹی ہوئی گھر کی ایک جانب پڑی تھیں۔ کہنے لگے: اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے سچ کہا، پھر منبر پر چڑھ گئے۔ پھر اس بات کا ذکر کیا اور کہا: ان دونوں کو میرے پاس لے آؤ۔ ان دونوں کو لایا گیا، آپ نے ان سے پوچھا، ان دونوں نے اقرار کیا کہ انہوں نے انہیں قتل کیا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں سولی چڑھانے کا حکم دے دیا۔

ولید کی دادی کے متعلق بعض کا قول ہے کہ ان کا نام لیلیٰ ہے، ان کے اور ام ورقہ کے درمیان واسطہ ہے۔ اسے ابن سکین نے عبد اللہ بن داؤد کے طریق سے بحوالہ ام ورقہ نقل کیا ہے۔ وہ ابن مندہ کے ہاں عالی سند سے بحوالہ عبد اللہ بن داؤد مروی ہے۔ اسی طرح بعض نے کہا کہ عبد الرحمن بن خلاد اور ام ورقہ کے درمیان واسطہ ہے۔ اسے ابو نعیم نے ابو نعیم کی روایت سے بحوالہ ام ورقہ نقل کیا ہے اور کعب کی روایت کی طرح حدیث نقل کی ہے۔

### ۱۲۲۹۱ ام الولید بنت عمر بن خطاب

دارقطنی نے اخوہ میں ان کا ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں: طراکی نے ان کی حدیث روایت کی ہے۔ اس میں تردد ہے۔ میں کہتا ہوں: ان کی حدیث ہے کہ وہ فرماتی ہیں، ایک رات رسول اللہ ﷺ ہمارے ہاں تشریف لائے اور کہنے لگے: ”اے لوگو! تم حیا نہیں کرتے؟“ انہوں نے کہا: کس سے یا رسول اللہ ﷺ؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم جمع کرتے ہو جو کھاتے نہیں اور عمارتیں بناتے ہو جنہیں آباد نہیں کرتے اور ایسی امیدیں رکھتے ہو جنہیں حاصل نہیں کر سکتے۔“

طبرانی نے اسے عثمان بن عبد الرحمن طراکی کی روایت سے بحوالہ سالم بن عبد اللہ بن عمران سے روایت کیا ہے۔ ابن مندہ کا قول ہے اسے سعید بن عبد الحمید بن جعفر بن علی بن ثابت نے بحوالہ وازع بن نافع اسی طرح نقل کیا ہے۔ میں کہتا ہوں: دونوں طریق ضعیف ہیں۔

### ۱۲۲۹۲ ام وہب بنت ابوامیہ

بن قیس، عیاطلہ میں سے ہیں، اسماء میں عاتکہ بنت ولید مخزومیہ کے سوانح میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

## حرف یاء

### التسم الاول

www.KitaboSunnat.com

۱۲۲۹۳ ام یحییٰ

اسید بن خضیر کی زوجہ ابن منہ کا قول ہے: حدیث قراءۃ اسید بن خضیر میں ان کا ذکر ہے، ان سے کوئی روایت مروی نہیں۔  
میں کہتا ہوں: یعنی رات کے وقت سورۃ کہف کی تلاوت کی وجہ نور کی قندیل اتری، اصل قصہ بخاری میں یحییٰ کی والدہ کے ذکر کے بغیر ہے۔ بعض طرق حدیث میں ان کا ذکر ہے۔ ابن ابوشیبہ نے محمد بن عمر کے طریق سے بحوالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کیا، فرماتی ہیں: ہم حج یا عمرہ سے واپس آئے لوگ ہم سے ملے اور اسید بن خضیر کو ان کی اہلیہ کی وفات کی خبر سنائی تو وہ منہ ڈھانپ کے رونے لگے۔

۱۲۲۹۴ ام یحییٰ بنت ابواہاب

صحیح بخاری میں حدیث عقبہ بن حارث نوفلی میں ان کا ذکر ہے کہ انہوں نے ام یحییٰ بنت ابواہاب سے نکاح کیا، ایک حبشی لونڈی آئی کہنے لگی: میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ وہ نبی کریم ﷺ کے پاس آئے اور آپ سے اس کا ذکر کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تم اکٹھے کیسے رہ سکتے ہو، جبکہ ایسا کہہ دیا گیا۔“

۱۲۲۹۵ ام یحییٰ بنت یعلیٰ

بن امیہ تمیمہ، قاضی ابواحمد عسال نے اپنی تاریخ میں ان کا ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں: فتح مکہ کے دن میں نبی کریم ﷺ کے پاس آیا، یہ سعد بن حلت کا قول ہے، دوسرے راویوں نے اس کی مخالفت کی ہے۔ ابو نعیم نے اس کا ذکر کیا ہے۔ ابوموسیٰ کا قول ہے: ابن منہ نے اپنی تاریخ میں ان کا ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں: انہوں نے نبی کریم ﷺ کا زمانہ پایا۔

۱۲۲۹۶ ام یحییٰ

مہمات میں ہے، ان کی حدیث یحییٰ بن حصین سے بحوالہ ان کی والدہ ہے۔ بعض کا قول ہے: بحوالہ ان کی دادی۔ فرماتی ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ”حکم سنو اور اطاعت کرو اگرچہ تم پر غلام کو امیر بنا دیا جائے“..... (الحدیث)

اسد الغابۃ (۷۶۲۱) تجرید (۳۳۸/۲) \* اسد الغابۃ (۷۶۲۲) الاستیعاب (۳۶۸۸) تجرید (۳۳۸/۲)

بخاری (۵۱۰۴) \* اسد الغابۃ (۷۶۲۴) تجرید (۳۳۸/۲) \* اسد الغابۃ (۷۶۲۳) تجرید (۳۳۸/۲)

بخاری (۵۱۰۴) (۶۹۶) ابن ماجہ (۲۸۶۰) مسند احمد (۱۱۴/۳)

۱۲۲۹۷ ام یزید

مہمات میں بھی ان کا ذکر ہے، حجاج بن ارطاة بحوالہ یزید بن حارث، ان کی والدہ سے ان کا ذکر ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ”اے لوگو! تم پر اطمینان اور وقار لازمی ہے“۔ بعض نے کہا: بحوالہ ام جندب ازویہ، حرف جمیم میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

۱۲۲۹۸ ام یقظہ بنت علقمہ

سلیط بن عمرو کی زوجہ ہیں، انہوں نے حبشہ کی طرف اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کرنے والوں میں ان کا ذکر کیا ہے۔ ان سے سلیط پیدا ہوئے، رجال میں حرف سین میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔

۱۲۲۹۹ ام یوسف

جنہوں نے نبی کریم ﷺ کا پیشاب پیا۔ خواتین کے ناموں میں حرف بابرکتہ میں ان کا ذکر گزر چکا ہے۔  
نوٹ: قسم ثانی اور قسم ثالث دونوں خالی ہیں۔

### القسم الرابع

۱۲۳۰۰ ام یحییٰ

ابوموسیٰ نے اپنے استدراک میں ان کا ذکر کیا ہے۔ ہم نے زیدہ یا زائدہ کے سوانح میں جو عمر رضی اللہ عنہ کی باندی ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے یہاں کوئی ایسی بات ذکر نہیں کی جو اس پر دلالت کرے کہ انہیں شرف صحابیت حاصل ہے۔ ان کی ایک حدیث بحوالہ عائشہ رضی اللہ عنہا مروی ہے، بعض کا قول ہے: بحوالہ ام یحییٰ، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے، بعض کا قول ہے: بحوالہ ام یحییٰ۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔ وباللہ التوفیق

اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس صابہ کا آخری حصہ ختم ہوا، اسی سے کتاب کا اختتام ہوا۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔  
الحمد لله! آج ۲۰ محرم ۱۴۳۳ مطابق 15/12/2011 الاصابہ فی تمییز الصحابہ کی آخری جلد پایہ تکمیل تک پہنچی، اس سلسلہ میں جس قدر محنت و مشقت برداشت کرنا پڑی وہ ان عظیم حضرات کی مساعی جلیلہ کے مقابلہ میں سچ ہے جنہوں نے اپنے مال، اولاد حتیٰ کہ جان کی پروا کیے بغیر اس دین متین کی حفاظت میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا، بلکہ سابقہ امتوں کو بتا دیا کہ دین کی حفاظت اس طرح ہوتی ہے۔ اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے اپنے کارناموں کو مشعل راہ بنا کر انہیں اس پر گامزن رہنے کی عملی دعوت دی۔ یہ جلد جو نساء کے حالات پر مشتمل ہے مکمل میری اہلیہ کے قلم سے مصنفہ شہود پر آئی۔ محترمہ نے اپنے قلم سے آخری کلمات لکھنے سے گریز کیا جو ان کی فروتنی کی بین دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ مترجم اور اس کے معاونین خصوصاً اہلیہ سے راضی ہو اور انہیں مزید حدیث سے متعلقہ علمی اور بابرکت کاموں کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین! ابورجب عامر شہزاد علوی فاضل دارالعلوم کراچی

